MCQs

اسلامیات

ایڈوانسڈ

نیا ایڈیشن بمعہ اضافہ



محمد امتیاز شاہد
عطیہ بانو

Advanced AP Publishers

اسلامیات MCQs

ایڈوانسڈ

نیا ایڈیشن بمعہ اضافہ

فیڈرل پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن،
خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن، بلوچستان پبلک سروس کمیشن،
آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن، تمام یونیورسٹیوں، این ٹی ایس کے
سلیبس کے مطابق

برائے
لیکچرار، اسسٹنٹ پروفیسر، سبجیکٹ سپیشلسٹ
سی ایس ایس، پی سی ایس، پی ایم ایس، ایم اے،
یونیورسٹی انٹری ٹیسٹ، این ٹی ایس، او ٹی ایس، پی ٹی ایس،
یو ٹی ایس، ایس ٹی ایس، اے ٹی ایس، سی ٹی ایس، ایم ٹی ایس، پی،
اور تمام متعلقہ امتحانات

محمد امتیاز شاہد
عطیہ بانو

Advanced Publishers

فہرست

مذاہب عالم

1. ظہور اسلام سے قبل عرب کا اکثریتی مذہب۔
(A) بدھ مت (B) یہودیت
(C) بت پرستی (D) عیسائیت

2. اسلام سے قبل عرب میں جس مذہب میں توحید کا تصور پایا جاتا تھا۔
(A) بدھ مت (B) ہندومت
(C) عیسائیت (D) حنفیت

3. مذہب کو بالعموم..................
(A) 3 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے
(B) 2 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے
(C) 4 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے
(D) 6 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے

4. پہلا مذہبی گروپ کہلاتا ہے۔
(A) سامی مذاہب (B) منگول مذاہب
(C) آریائی مذاہب (D) کوئی نہیں

5. دوسرا مذہبی گروپ کہلاتا ہے۔
(A) ساحلی گروپ (B) سامی مذاہب
(C) آریائی مذاہب (D) کوئی نہیں

6. سامی نامی گروپ میں شامل ہے۔
(A) اسلام (B) عیسائیت
(C) یہودیت (D) تمام

7. کنفیوشس، تاؤازم، شنتوازم، بدھ ازم اور اسلاف پرست شامل ہیں۔
(A) سامی گروپ (B) آریائی گروپ
(C) منگولی گروپ (D) حنفی گروپ

8. آریائی مذاہب کے گروپ میں مذہب شامل ہے۔
(A) ہندو (B) جین ازم
(C) سکھ اور زرتشتی (D) تمام

9. ہندو جس جانور کو مقدس مانتے ہیں۔
(A) کتا (B) گائے
(C) بکری (D) بھینس

10. ہندوستان میں ہندوازم کا آغاز ______
(A) 1700 قبل از مسیح سے ہوا
(B) 1800 قبل از مسیح سے ہوا
(C) 1900 قبل از مسیح سے ہوا
(D) 2000 قبل از مسیح سے ہوا

11. ہندوستان میں ہندو کس علاقے سے آئے؟
(A) جنوبی امریکہ (B) شمالی امریکہ
(C) جنوبی روس (D) شمالی روس

12. ہندوؤں کی مقدس کتاب/ کتب کون سی ہے/ ہیں؟
(A) رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروید
(B) مانوسمارتی (C) گیتا
(D) تمام

13. ہندو مذہب کی چار مقدس کتابوں کو مجموعی طور پر کہا جاتا ہے۔
(A) چار وید (B) گیتا
(C) انجیل (D) چہار وید

14. ویدیں تحریر کی گئیں۔
(A) 1000 قبل از مسیح (B) 1200 قبل از مسیح
(C) 1400 قبل از مسیح (D) 1700 قبل از مسیح

15. ہندو تین دیوتاؤں (براہمہ، وشنو اور شیوا) کو مانتے ہیں۔ براہما کا مطلب کیا ہے؟
(A) خوراک دینے والا (B) پیدا کرنے والا
(C) موت دینے والا
(D) موت کے بعد زندہ کرنے والا

16. وشنو سے کیا مراد ہے؟
(A) مارنے والا (B) زندہ رکھنے والا
(C) رزق دینے والا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

17. ہندوؤں کے عقائد کے مطابق شیوا کا کیا کام ہے؟
(A) رزق پہنچانا (B) موت دینا
(C) تباہی پھیلانا (D) زندگی دینا

18. ہندو مذہب کے پیروکار برہمن، کھشتری، ویش اور ______ میں تقسیم ہیں۔
(A) شودر (B) شہوت
(C) شاہی (D) ھنتوش

19. ہندوؤں کے مطابق برہموں کو براہما نے اپنے جس حصے سے پیدا کیا۔
(A) ماتھا (B) سر
(C) ہاتھ (D) سینہ

20. ہندو مذہب کے مطابق براہما کون ہے؟
(A) انسان بنانے والا (B) زمین بنانے والا
(C) آسمان بنانے والا (D) کائنات بنانے والا

21. وید کے مطابق برہموں کا کیا مقصد حیات ہے؟
(A) تعلیم حاصل کرنا (B) عبادت کرنا
(C) تبلیغ کرنا (D) تمام

22. ویدوں کے مطابق حکومتی امور سرانجام دینا کن کی ذمہ داری ہے؟
(A) کھشتری (B) شودر
(C) ویش (D) برہمن

23. ویدوں کی تعلیمات کے مطابق کاروبار چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟
(A) شودر (B) کھشتری
(C) ویش (D) برہمن

24. ویدوں کی تعلیمات کے مطابق شودر کا کیا مقام ہے؟
(A) حکومت سنبھالنا (B) پوجا پاٹ کرنا
(C) صفائی کرنا (D) تکالیف برداشت کرنا

25. ویدوں کے علاوہ ہندوؤں کی وہ کون سی مقدس کتاب ہے جو کہ 800 قبل از مسیح میں تحریر کی گئی تھی؟
(A) سوناتری (B) پریشت
(C) پران (D) اپنشد

26. اپنشد کے مطابق کس کی ذات واحد ہر کام کے پیچھے کارفرما ہے؟
(A) براہما (B) وشنو
(C) شیوا (D) شامی

27. ہندومت کے مطابق یہ کائنات پیدا کی۔
(A) براہما نے (B) وشنو نے
(C) ایران نے (D) کوئی نہیں

28. ہندو مذہب کے مطابق دنیا میں اتحاد اور زندگی کا دیوتا کون ہے؟
(A) شیوا (B) براہما
(C) وشنو (D) کوئی بھی نہیں

29. ہندو مذہب کے مطابق کائنات میں زندگی کا اختتام کس کی ذمہ داری ہے؟
(A) براہما (B) پران
(C) وشنو (D) شیوا

30. ہندو مذہب کے مطابق عقیدہ تناسخ کیا ہے؟
(A) مرنے کے بعد روح اچھائی یا برائی کی بنیاد پر دوسرے جانداروں میں ظاہر ہوتی ہے۔
(B) مرنے کے بعد روح زمین پر رہتی ہے
(C) مرنے کے بعد روح آسمان پر چلی جاتی ہے۔
(D) کوئی نہیں

31. سنسکرت میں نظریہ تناسخ کو کس اور نام سے موسوم کیا جاتا ہے؟

(A) آواگون (B) جونی چکر
(C) دونوں a اور b (D) دونوں ہی نہیں

32. ہندو مذہب کے مطابق چور کی کیا سزا ہے؟
(A) موت (B) ہاتھ کاٹنا
(C) چوہے کے روپ میں دوبارہ پیدائش
(D) سماجی بائیکاٹ

33. ہندو مذہب میں قانون کا ماخذ کون سی کتاب / کتب ہے / ہیں؟
(A) دھرم ستر (B) دھرم شاستر
(C) دونوں (D) دونوں ہی نہیں

34. ہندو پیروکاروں میں جب ویدک دھرم کی گرفت کمزور پڑ گئی تو انہوں نے برہما، شیوا اور وشنو نامی دیوتاؤں کو ماننا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے اس عقیدے کو کیا نام دیا گیا ہے؟
(A) تثلیث (B) تری مورتی
(C) تین اشکال (D) تمام

35. ہندو مذہب کے مطابق وشنو کی وہ کون سی بیوی ہے جسے وہ دولت اور قسمت کی علامت قرار دیتے ہیں؟
(A) کشمن (B) لچھمی
(C) نرائن (D) لکشمی

36. ہندوؤں کی کون سی کتاب / کتب منظوم انداز میں ہے / ہیں؟
(A) رامائن (B) مہابھارت
(C) دونوں (D) کوئی بھی نہیں

37. ''پران'' کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟
(P.C.S.Executive1999)
(A) بدھ مت (B) زرتشت
(C) ہندومت (D) یہودیت

38. وہ کون سا قدیم مذہب ہے جس کا مقصد انسان کو عمل تناسخ سے بچانا اور دکھوں سے نجات دلاتا ہے؟
(A) عیسائیت (B) ہندومت
(C) بدھ ازم (D) یہودیت

39. بدھ ازم میں ''نروان'' کا کیا مطلب ہے؟
(A) خوشی حاصل کرنا
(B) دکھوں سے نجات کا حصول
(C) غلامی کی زنجیریں توڑنا (D) تناسخ سے فرار

40. بدھ مت کے عقائد کے مطابق اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟
(A) بدھ ازم (B) ہیشگی
(C) مروان (D) آہنسا

41. کون سا مذہب اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے؟
(A) بدھ ازم (B) ہندوازم
(C) جین مت (D) یہ تمام

42. مہاتما بدھ بانی تھا۔
(A) بدھ ازم کا (B) کنفیوشش ازم کا
(C) عیسائیت کا (D) مجوسیت کا

43. مہاتما بدھ کا اصل نام کیا تھا؟
(A) شاکیہ منی (B) سدھارتھا
(C) دونوں اے اور بی (D) دونوں ہی نہیں

44. بدھ مت کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کی وجہ سے کسے بدھ ثانی کہا جاتا ہے؟
(A) مہاراجہ نانک (B) مہاراجہ کپل واستو
(C) مہاراجہ اشوک (D) سکندر اعظم

45. بدھ ازم کے پیروکاروں کے صحیح عقیدے کی نشاندہی کیجئے؟
(P.C.S.Executive1999)
(A) فرشتے ہی خدا ہیں (B) حیات بعد الموت نہیں
(C) نظریہ تناسخ غلط ہے (D) روح خدا ہے

46. مہاتما بدھ نے اپنے پیروکاروں کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

47. بدھ مت کے پیروکاروں کے ایک گروپ کا کام تھا۔
(A) سیاسی معاملات چلانا
(B) اقتصادی معاملات چلانا
(C) فلاحی معاملات چلانا
(D) تمام دنیاوی معاملات

48. بدھ مت کے پیروکاروں کے دوسرے گروپ کے افراد کو کیا کہا جاتا ہے؟
(A) راہب (B) پارس
(C) بھکشو (D) راہب

49. بدھ مت کے پیروکاروں کے دوسرے گروپ کا کام تھا۔
(A) مذہبی امور چلانا (B) صفائی کرنا
(C) غریبوں کی مدد کرنا (D) کوئی نہیں

50. بدھ ازم کی مقدس کتاب کون سی ہے؟
(A) ونایاپتاکا (B) ستاپتاکا
(C) ابھی دھماپتاکا (D) یہ تمام

51. جین مت کے پیروکاروں کا درست عقیدہ ان میں سے کون سا ہے؟(P.C.S.Executive1999)
(A) فرشتوں کی عبادت (B) کئی خداؤں کی عبادت
(C) عقیدہ توحید (D) فرشتوں کی عبادت

52. جین مت کے پیروکار ان میں سے کون سے نظریے کے قائل ہیں؟
(A) عقیدہ تناسخ (B) کائنات ہی حقیقت ہے
(C) روح لافانی ہے اور یہ متعدد ہیں اور خود مختار ہیں
(D) یہ تمام

53. جین مت کے مطابق درست اعمال کی بنیاد کیا ہے؟
(A) آہنسا اور ستیام (B) برہمن چار
(C) اپری اور گراہا (D) یہ تمام

54. کس مذہب کو اختیار کرنے سے قبل یہ حلف لینا ضروری ہے کہ "میں کسی کی جان نہیں لوں گا اور میں شادی نہیں کروں گا؟"
(A) جین مت (B) ہندومت
(C) عیسائیت (D) زرتشت

55. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بہت پہلے چین میں کس نے نیا مذہب شروع کیا تھا؟
(A) اکساچیان (B) اشوک
(C) ہائی کنگ (D) کنفیوشس

56. کنفیوشس کب صوبہ لو میں شولان کے گھر پیدا ہوا؟
(A) 550 قبل از مسیح (B) 551 قبل از مسیح
(C) 552 قبل از مسیح (D) 553 قبل از مسیح

57. کنفیوشس کی پیدائش کا صوبہ لو کس ملک کا صوبہ ہے؟
(A) جاپان (B) کوریا
(C) چین (D) فلپائن

58. کنفیوشس ازم کے صحیح عقیدہ کی نشاندہی کریں؟
(A) مشرک تھے (B) بیلوں کی قربانی فرض تھی
(C) وحدانیت کے قائل تھے
(D) حیات بعدالموت کا واضح تصور نہ رکھتے تھے

59. کنفیوشس ازم کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟
(A) تناسخ (B) اخلاقیات
(C) وحدانیت (D) تمام پر

60. معاشرے کے سدھار کے لیے کنفیوشس نے کتنے اصول وضع کیا
(A) تین (B) پانچ
(C) چھ (D) آٹھ

61. کنفیوشس کس مذہب کا بانی تھا؟
(A) کنفیوشزم (B) بدھ مت
(C) جین مت (D) پارسی

62. کنفیوشس کے شاگردوں کی تحریر کردہ کتب
(A) شوکنگ اور شی کنگ (B) چی اور ہائی کنگ
(C) چوچن (D) تمام

63. کس کتاب کے بارے میں کنفیوشس نے کہا تھا کہ "اگر میری زندگی اجازت دے تو میں اس کتاب کو پڑھنے میں پچاس سال صرف کر دوں"؟
(A) چوچن (B) لی چی
(C) یائی کنگ (D) شی کنگ

64. سکھ مذہب کی بنیاد کس نے رکھی؟
(A) باباصاحب (B) باباگرونانک
(C) رنجیت سنگھ (D) گرنیش سنگھ

65. باباگرونانک پاکستانی صوبے ضلع شیخوپورہ کے کس علاقے میں پیدا ہوئے؟
(A) تلونڈی (ننکانہ) (B) ملونڈی
(C) مردان (D) کوئی نہیں

66. باباگرونانک کب پیدا ہوا؟
(A) 15 اپریل 1469ء (B) 15 مئی 1469ء
(C) 15 جون 1469ء (D) 15 جولائی 1469ء

67. اسلام سے قبل ایرانیوں کا مذہب کون سا تھا؟
(A) جین ازم (B) زرتشت
(C) عیسائی (D) بدھ ازم

68. زرتشت کس کی پوجا کرتے تھے؟
(A) چاند (B) چانداور ستارے
(C) پتھر (D) آگ

69. زرتشت مذہب کا بانی تھا۔
(A) زورروسٹ (Zoroast)
(B) نارائن
(C) کنفیوشش
(D) کوئی نہیں

70. زرتشت مذہب بعد میں کس مذہب میں مدغم ہو گیا؟
(A) پارسی (B) عیسائیت
(C) بدھ ازم (D) ہندومت

71. اس مذہب کی نشاندہی کریں جس میں شراب کی ممانعت نہیں ہے؟
(A) زرتشت (B) عیسائیت
(C) یہودیت (D) تمام

72. زرتشت مذہب کے اچھائی کے دیوتا کا نام ہے۔
(A) زورروسٹ (B) ہرمز
(C) نارائن (D) کوئی نہیں

73. زرتشت مذہب کے برائی کے دیوتا کا کیا نام ہے؟
(A) گنیش (B) اہرمن
(C) شیوا (D) براہما

74. مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) زرتشت مذہب میں ہرمز دیوتا کی علامت روشنی ہے
(B) زرتشت مذہب میں اہرمن دیوتا کی علامت اندھیرا ہے
(C) دونوں اے اور بی (D) اے نہ بی

75. پارسیوں کا خصوصی تہوار کون سا ہے؟
(A) نوروز (B) ٹی آن
(C) ختی (D) فارس

76. زرتشت مذہب کے پیروکار اپنے مردوں کے اجسام کا کیا کرتے ہیں؟
(A) دفن کر دیتے ہیں (B) جلا دیتے ہیں
(C) دریا میں پھینک دیتے ہیں تا کہ مچھلیاں انہیں کھالیں
(D) کسی بلند مقام پر رکھ دیتے ہیں تا کہ پرندے ان کا گوشت کھالیں

77. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ -------
(A) وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین قوم ہے
(B) وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں
(C) ان کا مذہب آخری ہے
(D) وہ دنیا پر حکمرانی کے لئے بھیجے گئے ہیں

78. عبرانی لفظ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟
(A) اللہ کا پسندیدہ ترین (B) اللہ کا بندہ
(C) اللہ کے نزدیک ترین (D) اللہ کی اولاد

79. حضرت یعقوب کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جن کی اولاد یہودی ہیں

[illegible]؟

(A) حضرت اسحاق (B) حضرت ابراہیم

(C) [illegible] (D) حضرت عیسیٰ

80. وہ کون سا مذہب ہے جس میں اسلام کے بعد توحید کا تصور سب سے زیادہ پایا جاتا ہے؟

(A) عیسائیت (B) زرتشت

(C) [illegible] (D) یہودیت

81. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسلام کی تعلیمات پھیلانے کا کہاں تک حکم دیا تھا جس بنا پر انہیں بہتر قوم قرار دیا گیا؟

(A) پوری دنیا (B) عراق

(C) فلسطین (D) افریقہ

82. حضرت یعقوبؑ کے عہد میں بنی اسرائیل کہاں قیام پذیر ہو کر دعوت حق کے فرض سے غافل ہو گئے؟

(A) فلسطین (B) شام

(C) عراق (D) مصر

83. فریضۂ حق سے غفلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے درمیان اپنا کون سا نبی بھیجا؟

(A) حضرت یوسفؑ (B) حضرت موسیٰؑ

(C) حضرت ہارونؑ (D) حضرت عیسیٰؑ

84. فریضہ دعوت حق سے غافل ہونے کے بعد یہودی غلام ہو گئے۔

(A) عیسائیوں کے (B) قبطیوں کے

(C) رومیوں کے (D) بازنطینیوں کے

85. یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

86. وہ کون سا فرشتہ ہے جسے یہودی اپنا دشمن گردانتے ہیں؟

(A) حضرت میکائیل (B) حضرت اسرافیل

(C) حضرت جبرائیل (D) کسی کو بھی نہیں

87. کون سے مذہب کے پیروکار حضرت عیسیٰؑ کو نہیں مانتے؟

(A) اسلام (B) یہودیت

(C) عیسائیت (D) تمام

88. کون سا بیان درست ہے؟

(A) دنیا میں عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے

(B) عیسائی حضرت عیسیٰؑ کے پیروکار ہیں

(C) دونوں اے اور بی (D) [illegible]

89. حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟

(A) 8 (B) 10

(C) 12 (D) 14

90. حضرت عیسیٰؑ کی جائے پیدائش کون سی ہے؟

(A) یروشلم (B) مصر

(C) شام (D) عرب

91. حضرت عیسیٰؑ پر اتاری جانے والی کتاب ہے۔

(A) زبور (B) توریت

(C) انجیل (D) بائبل

92. بائبل میں حضرت عیسیٰؑ کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟

(A) یسوع (B) یشوع

(C) دونوں (D) کوئی بھی نہیں

93. حضرت عیسیٰؑ کو کس اور نام سے پکارا جاتا ہے؟

(A) لوکا (B) مصلی

(C) مقدس باپ (D) مسیح

94. مقدس کتاب انجیل مشتمل ہے۔۔۔۔۔۔

(A) انجیل مرقس اور انجیل متی (B) انجیل لوقا اور انجیل یوحنا

(C) اے اور بی (D) کوئی بھی نہیں

95. انجیل چار کتابوں پر مشتمل ہے لہٰذا اسے کہتے ہیں۔۔۔۔۔

(A) انجیل کامل (B) انجیل جامع

(C) انجیل رابعہ (D) اناجیل اربعہ

96. جس وقت حضرت عیسیٰؑ کو نبوت عطا کی گئی اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟

(A) 25 سال (B) 30 سال

(C) 40 سال (D) 35 سال

97. جدید عیسائیت کے اس بانی کا نام کیا ہے جو شروع میں تو عیسائیت کا مخالف تھا لیکن بعد ازاں اس کا بہت بڑا مبلغ بن گیا؟

(A) جان پوپ اول (B) جان بشپ

(C) سینٹ پال (D) سینٹ پال دوم

98. کون سے مذہب کے پیروکار عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں؟

(A) ہندومت (B) زرتشت

(C) یہودیت (D) عیسائیت

99. عقیدہ تثلیث سے مراد ہے کہ تین خدا ہیں: یعنی کہ باپ' بیٹا اور......

(A) مقدس ماں (B) مقدس روح

(C) براہما (D) فرشتے

100. اوستا کن کی مذہبی کتاب ہے؟

(A) زرتشت ازم (B) عیسائیت

(C) بدھ مت (D) ہندومت

101. "نوروز" زرتشتوں اور فارسیوں میں منایا جاتا ہے کیونکہ۔

(A) ان کی مذہبی کتاب اس دن نازل ہوئی۔

(B) ان کا پیشوا اس دن پیدا ہوا۔

(C) ان کے بادشاہ جمشید نے کچھ کرشمات اس دن دکھائے تھے۔

(D) ان کے پیشوا کی شادی اس دن ہوئی تھی۔

102. بھکشو کے لیے کس رنگ کے کپڑے پہننا لازم ہیں؟

(A) سفید (B) سرخ

(C) زرد (D) سیاہ

103. ہندوازم کے مشہور فلسفہ یوگ کا بانی کون تھا؟

(A) گوتم (B) مہامتی کپلا

(C) جے منی (D) پتانجلی

104. عیسائیوں کا مذہبی رہنما پوپ کس جگہ رہتا ہے؟

(A) نیویارک (B) غرناطہ

(C) ایتھنز (D) ویٹی کن سٹی

105. یہ کس نے کہا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے؟

(A) آئن سٹائن (B) علامہ اقبال

(C) نطشے (D) گبن

106. اہل کتاب کے ذبیحے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟

(A) حلال (B) اضطرار

(C) حرام (D) ان میں سے کوئی نہیں

107. یہودی عبادت گاہ کو نام دیا جاتا ہے۔

(A) مندر (B) گھوڑا

(C) سنیاگاگ (D) سیاہ

108 سے 140 تک اضافی ایم سی کیوز ہیں

108. گاتھا کس مذہب کی کتاب ہے؟

(A) یہودیت (B) ہندومت

(C) مجوسیت (D) مسیحیت

109. عقیدہ زروان کس کا عقیدہ ہے؟

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام (B) حضرت یحییٰ علیہ السلام

(C) گوتم بدھ (D) رام

110. انجیل کی روایت کے مطابق حضرت مریم کے منگیتر کا نام تھا؟

(A) یوحنا (B) یوسف علیہ السلام

(C) مرقس (D) یوسف نجار

111. 325ء میں نیقیاوی کونسل میں جس انجیل پر پابندی لگی اس کا نام تھا۔

(A) متی (B) توما

(C) برناباس (D) لوقا

112. یہودی عبادت گاہ کو نام دیا جاتا ہے۔

(A) مندر (B) گھوڑا

(C) سنیاگاگ (ساہنا گاگ) (D) سیاہ

113. بدھ مت میں مدفن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔

(A) قبر (B) مڑھی

(C) اسٹوپا (D) یادگار

114. پروٹسٹنٹ فرقہ کے بانی کا نام تھا۔

(A) ہیگل (B) مالتھس

(C) مارٹن لوتھر (D) ٹالسٹائی

115. زرتشت کا تعلق تھا۔

(A) شام (B) اردن

(C) ایران (D) مصر

116. پولوس نے نئے مذہبی عقائد کی بنیاد رکھی تھی؟

(A) مجوسیت میں (B) کنفیوشش ازم میں

(C) مسیحیت میں (D) بدھ مت میں

117. "سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ" سے کون لوگ مراد ہیں؟

(A) یہودی (B) عیسائی
(C) منافقین (D) ہندو

118. رہبانیت کی ابتدا کس نے کی؟
(A) یہود (B) مجوسی
(C) سابئی (D) عیسائی

119. عیسائیوں کی بڑی عید کیا کہلاتی ہے؟
(A) کرسمس (B) ایسٹر
(C) اسٹوپا (D) بپتسمہ

120. کنفیوشش کے بیان کردہ رابطوں کی تعداد کتنی ہے؟
(A) 2 (B) 5
(C) 10 (D) 20

121. اپنشد کے مطابق کائنات میں کس کو برتر حیثیت حاصل ہے؟
(A) کرشن (B) رام
(C) برہما (D) وشنو

122. بھکشو کے لیے کس رنگ کے کپڑے پہننا لازم ہیں؟
(A) سفید (B) سرخ
(C) زرد (D) سیاہ

123. اپنشد کے مطابق کائنات میں برتر حیثیت کس کو حاصل ہے؟
(A) کرشن (B) وشنو
(C) براہمہ (D) شو

124. ہندوازم کے مشہور فلسفہ یوگ کا بانی کون تھا؟
(A) گوتم (B) مہاتمی کپلا
(C) جے منی (D) پتانجلی

125. بھکشو کے لیے کس رنگ کے کپڑے پہننا لازم ہیں؟
(A) سیاہ (B) زرد
(C) سرخ (D) سفید

126. تالمود کس زبان کا لفظ ہے؟
(A) عبرانی (B) سریانی
(C) لاطینی (D) عربی

127. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت کب سے کب تک تھا؟
(A) 103ھ تا 105ھ (B) 99ھ تا 101ھ
(C) 95ھ تا 97ھ (D) 90ھ تا 92ھ

128. فسطائیت کا آغاز کس ملک سے ہوا؟
(A) امریکہ (B) انگلینڈ
(C) اٹلی (D) روس

129. کون سا مذہب انسان کو پیدائشی طور پر گناہگار ٹھہراتا ہے؟
(A) بدھ مت (B) عیسائیت
(C) ہندومت (D) یہودیت

130. تیسری صلیبی جنگ میں عیسائی فوجیوں کی سربراہی کون کر رہا تھا؟
(A) سٹیفن (B) آرنلڈ
(C) چرچل (D) رچرڈ

131. اہل کتاب کے ذبیحے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟
(A) حلال (B) اضطرار
(C) حرام (D) ان میں سے کوئی نہیں

132. سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟
(A) امرتسر (B) برصغیر پاک و ہند
(C) ننکانہ صاحب (تلونڈی) (D) دہلی

133. رہبانیت کی ابتداء کس نے کی؟
(A) یہود (B) مجوسی
(C) سابئی (D) عیسائی

134. زرتشت کا تعلق تھا۔
(A) شام (B) اردن
(C) ایران (D) مصر

135. احکام عشرہ کا تعلق کس مذہب سے تعلق ہے؟
(A) اسلام (B) عیسائیت
(C) یہودیت (D) دین ابراہیمی

136. اسلام اور عیسائیت کس مذہب کی شاخیں ہیں؟
(A) تبلیغی (B) سامی
(C) غیر سامی (D) الہامی

137. وید میں کس مذہب کی تعلیمات ہیں؟

(A) زرتشت (B) سکھ

(C) ہندو (D) کنفوشس

138. برھما، وشنو اور شیوا کیا جاتا ہے؟

(A) خدا کو (B) بھگوان کو

(C) آقا کو (D) تریمورتی کو

139. اوستا کس مذہب کی کتاب ہے؟

(A) زرتشت (B) ہندومت

(C) بدھ مت (D) جین مت

140. اناجیل کی کتنی اقسام ہیں؟

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 5

جوابات

1. (C)	2. (D)	3. (A)	4. (B)	5. (C)	6. (D)	7. (C)	8. (D)
9. (B)	10. (A)	11. (C)	12. (D)	13. (A)	14. (D)	15. (B)	16. (B)
17. (C)	18. (A)	19. (B)	20. (D)	21. (D)	22. (A)	23. (C)	24. (D)
25. (D)	26. (A)	27. (A)	28. (C)	29. (D)	30. (A)	31. (C)	32. (C)
33. (C)	34. (D)	35. (D)	36. (C)	37. (C)	38. (C)	39. (B)	40. (D)
41. (D)	42. (A)	43. (C)	44. (C)	45. (D)	46. (B)	47. (B)	48. (C)
49. (A)	50. (D)	51. (C)	52. (D)	53. (D)	54. (A)	55. (D)	56. (B)
57. (C)	58. (B)	59. (B)	60. (B)	61. (A)	62. (D)	63. (C)	64. (B)
65. (A)	66. (A)	67. (B)	68. (D)	69. (A)	70. (A)	71. (A)	72. (B)
73. (B)	74. (C)	75. (A)	76. (D)	77. (A)	78. (B)	79. (C)	80. (D)
81. (A)	82 (D)	83. (B)	84. (B)	85. (B)	86 (C)	87. (B)	88. (C)
89. (C)	90. (A)	91. (D)	92. (C)	93. (D)	94. (C)	95. (D)	96. (B)
97. (C)	98. (D)	99. (B)	100. (A)	101. (A)	102. (C)	103. (D)	104. (D)
105. (A)	106. (A)	107. (C)	108. (C)	109. (C)	110. (D)	111. (C)	112. (C)
113. (C)	114. (C)	115. (C)	116. (C)	117. (A)	118. (D)	119. (A)	120. (B)
121. (C)	122. (C)	123. (C)	124. (D)	125. (B)	126. (A)	127. (B)	128. (C)
129. (B)	130. (D)	131. (A)	132. (A)	133. (D)	134. (C)	135. (C)	136. (D)
137. (C)	138. (D)	139. (A)	140. (C)				

انبیائے کرام علیہم السلام

1. اللہ کی پہلی تخلیق کون سی شخصیت تھیں؟

(A) حضرت حوّا (B) حضرت محمدؐ
(C) حضرت مریمؑ (D) حضرت آدمؑ

2. پہلے نبی تھے۔

(A) حضرت موسیٰؑ (B) حضرت یعقوبؑ
(C) حضرت آدمؑ (D) حضرت ابراہیمؑ

3. آدم کس زبان کا لفظ ہے؟

(A) یونانی (B) عربی
(C) لاطینی (D) عبرانی

4. اللہ تعالیٰ نے آدم کو کس چیز سے بنایا؟

(A) آگ (B) پانی
(C) ہوا (D) مٹی

5. انسان کی تخلیق پر سرکشی اختیار کی۔

(A) جنات نے (B) ابلیس نے
(C) شیطان نے (D) اماں حوا نے

6. شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن کون سا تھا؟

(A) زمین (B) آسمان
(C) جنت (D) پانی

7. حضرت آدمؑ کا ذکر سب سے زیادہ جس سورۃ میں آیا ہے۔

(A) سورۃ النور (B) سورۃ زخرف
(C) سورۃ الاعراف (D) سورۃ البقرۃ

8. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ممنوعہ پھل کھانے کی ترغیب دی۔

(A) فرشتوں نے (B) ابلیس نے
(C) جنوں نے (D) کسی نے بھی نہیں

9. حضرت آدمؑ کو کس دن تخلیق کیا گیا؟

(A) ہفتہ (B) بدھ
(C) جمعہ (D) اتوار

10. آدم کی چوٹی جہاں حضرت آدمؑ اترے کہاں واقع ہے؟

(A) سری لنکا (B) ایران
(C) عراق (D) برازیل

11. حضرت آدمؑ کی قبر کہاں ہے؟

(A) ایران (B) فلسطین
(C) عراق (D) سعودی عرب

12. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آزادی دی ہوئی ہے۔

(A) انسان کو (B) فرشتوں کو
(C) جنات کو (D) ابلیس کو

13. ''ابوالبشر'' کہا جاتا ہے۔

(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(B) حضرت داؤد علیہ السلام
(C) حضرت آدم علیہ السلام (D) حضرت محمد ﷺ

14. ''صفی اللہ'' سے کون سے نبی مراد ہیں؟

(A) حضرت ادریس علیہ السلام
(B) حضرت یعقوب علیہ السلام
(C) حضرت آدم علیہ السلام
(D) حضرت موسیٰ علیہ السلام

15. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟

(A) ابوالانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔
(B) ابوالانبیاء حضرت محمد ﷺ کا لقب ہے۔

پرانے ایڈیشن میں یہاں پر حضرت شیث [illegible]

(C) ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے

(D) ابوالانبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے

16. حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔

(A) اماں حوا (B) ابلیس

(C) جنات (D) چاند ستارے

17. زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلایا۔

(A) حضرت شیث علیہ السلام

(B) حضرت آدم علیہ السلام

(C) حضرت یعقوب علیہ السلام

(D) حضرت سلیمان علیہ السلام

18. حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے جو کہ دنیا میں پہلی خاتون بھی تھیں؟

(A) حضرت مریم علیہا السلام (B) حضرت حوا علیہا السلام

(C) حضرت حلیمہ علیہا السلام (D) حضرت میمونہ علیہا السلام

19. آدم کے معنی ہیں۔

(A) سفید رنگ والا (B) گندمی رنگت والا

(C) سیاہ رنگت والا (D) لال رنگت والا

20. قرآن مجید میں حضرت آدم کا ذکر۔

(A) 20 بار آیا ہے (B) 25 بار آیا ہے

(C) 30 بار آیا ہے (D) 40 بار آیا ہے

21. ''کوہ آدم'' کس ملک میں واقع ہے؟

(A) سعودی عرب (B) فلسطین

(C) شام (D) سری لنکا

22. دوسرے نبی کا کیا نام ہے؟

(A) حضرت شیث علیہ السلام

(B) حضرت یعقوب علیہ السلام

(C) حضرت عیسیٰ علیہ السلام

(D) حضرت سلیمان علیہ السلام

23. اس نبی کا نام بتائیں جو کہ قابیل کے ہاتھوں ہابیل کے قتل کے بعد پیدا ہوئے؟

(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام

(B) حضرت شیث علیہ السلام

(C) حضرت نوح علیہ السلام

(D) حضرت لوط علیہ السلام

24. حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جنہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔

(A) حضرت اسماعیل علیہ السلام

(B) حضرت اسحاق علیہ السلام

(C) حضرت یعقوب علیہ السلام

(D) حضرت شیث علیہ السلام

25. شیث کے لغوی معنی ہیں۔

(A) عطیہ خداوندی (B) رحمت والا

(C) نوازا گیا (D) اعلیٰ مرتبہ

26. حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟

(A) 130 سال (B) 100 سال

(C) 80 سال (D) 50 سال

27. کون حضرت شیث علیہ السلام کو مقدس رہنما قرار دیتے ہیں؟

(A) گنوسٹکس (B) یہودی

(C) عیسائی (D) زرتشی

28. گنوسٹکس (GNOSTICS) سے کیا مراد ہے؟

(A) حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکار

(B) حضرت شیث کے پیروکار

(C) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار

(D) حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیروکار

29. حضرت شیث کی امت آباد تھی۔

(A) شام (B) فلسطین

(C) عراق (D) مصر

30. پہلا مقدس صحیفہ کس نبی پر نازل کیا گیا ہے؟
(A) حضرت شیث علیہ السلام
(B) حضرت آدم علیہ السلام
(C) حضرت سلیمان علیہ السلام
(D) حضرت یعقوب علیہ السلام

31. حضرت شیث علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟
(A) 912 سال (B) 800 سال
(C) 700 سال (D) 1000 سال

32. حضرت شیث کی قوم گنوسٹکس (Gnootics) کو راہ راست پر لانے کے لیے کس نبی کو بھیجا گیا؟
(A) حضرت داؤد علیہ السلام
(B) حضرت ادریس علیہ السلام
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام
(D) حضرت موسیٰ علیہ السلام

33. نبی جنہوں نے 180 بستیاں آباد کیں۔
(A) حضرت سلمان علیہ السلام
(B) حضرت یعقوب علیہ السلام
(C) حضرت نوح علیہ السلام
(D) حضرت ادریس علیہ السلام

34. حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی۔
(A) چاند کی (B) ستاروں کی
(C) آگ کی (D) بتوں کی

35. حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا۔
(A) شراب سے (B) چوری سے
(C) غیبت سے (D) لڑائی جھگڑے سے

36. پہلی مرتبہ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا؟
(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(B) حضرت ادریس علیہ السلام
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام
(D) حضرت نوح علیہ السلام

37. حضرت ادریس علیہ السلام نے ہجرت کی اور آباد ہوئے۔
(A) عراق میں دریائے فرات کے کنارے
(B) مصر میں دریائے نیل کے کنارے
(C) دریائے دجلہ کے کنارے
(D) نیل اور فرات کے سنگم پر

38. کس نبی نے پہلی مرتبہ "تحریر" شروع کی؟
(A) حضرت آدم علیہ السلام
(B) حضرت شیث علیہ السلام
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام
(D) حضرت ادریس علیہ السلام

39. کس نبی نے علم فلکیات کی ابتداء کی؟
(A) حضرت شیث علیہ السلام
(B) حضرت ادریس علیہ السلام
(C) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(D) حضرت نوح علیہ السلام

40. کس نبی نے علم الحساب کا آغاز کیا؟
(Assistant Director I.B.2002)
(A) حضرت داؤد علیہ السلام
(B) حضرت سلیمان علیہ السلام
(C) حضرت ادریس علیہ السلام
(D) حضرت شیث علیہ السلام

41. کس پیغمبر پر تین صحائف نازل کیے گئے؟ (P.c.s.2000)
(A) حضرت ادریس علیہ السلام
(B) حضرت شیث علیہ السلام
(C) حضرت یوسف علیہ السلام
(D) حضرت اسماعیل علیہ السلام

42. "کس پیغمبر کو "آدم ثانی" کہا جاتا ہے؟
(A) حضرت نوح علیہ السلام
(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(C) حضرت یوسف علیہ السلام
(D) حضرت نوح علیہ السلام

43. کس پیغمبر کو زندہ جنت میں اٹھایا گیا؟
(A) حضرت نوح علیہ السلام
(B) حضرت ادریس علیہ السلام
(C) حضرت شیث علیہ السلام
(D) حضرت نوح علیہ السلام

44. پیغمبر جو جنت کے ایک فرشتہ کے خصوصی دوست تھے۔
(A) حضرت ادریس علیہ السلام
(B) حضرت آدم علیہ السلام
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام
(D) حضرت موسیٰ علیہ السلام

45. حضرت ادریس علیہ السلام کی رحلت کہاں واقع ہوئی؟
(A) چوتھے آسمان پر (B) نیل کے کنارے
(C) فرشتے کے پروں میں (D) وہ فوت ہی نہیں ہوئے

46. آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟
(A) 365 سال (B) 300 سال
(C) 400 سال (D) 465 سال

47. زمین کی تلاش میں کبوتر بھیجا۔
(A) حضرت آدم علیہ السلام
(B) حضرت نوح علیہ السلام
(C) حضرت ادریس علیہ السلام
(D) حضرت ابراہیم علیہ السلام

48. دوسرے رسول تھے۔
(A) حضرت نوح (B) حضرت عزیز
(C) حضرت آدم (D) حضرت زکریا

49. کون حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی۔
(A) حام (B) سام
(C) یافث (D) تینوں

50. حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔
(A) عراق (B) شام
(C) عرب (D) مصر

51. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس بت / کن بتوں کی عبادت کرتی تھی؟
(A) یغوث (B) وداورسواعا
(C) یعوق اور نسر (D) تمام

52. حضرت نوح کی بیوی جو طوفان میں بیٹے کے ساتھ ڈوب گئی۔
(A) وائلہ (B) نائلہ
(C) شائلہ (D) نما

53. کس عمر میں حضرت نوح کو نبوت ملی؟
(A) 30 سال (B) 40 سال
(C) 50 سال (D) 60 سال

54. حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے کتنے عرصہ کے بعد طوفان نوح وقوع پذیر ہوا؟
(A) 2242 سال (B) 3242 سال
(C) 3000 سال (D) 300 سال

55. ”شیخ الانبیاء“ کس پیغمبر کا لقب ہے؟
(A) حضرت ادریس علیہ السلام
(B) حضرت نوح علیہ السلام
(C) حضرت آدم علیہ السلام
(D) حضرت اسماعیل علیہ السلام

56. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا طوفان جاری رہا۔
(A) 8 ماہ (B) 9 ماہ
(C) 6 ماہ (D) ایک سال

57. ”آرک“ (ARDK) کیا چیز تھی؟
(A) حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی
(B) حضرت نوح علیہ السلام کی رہائش گاہ
(C) حضرت نوح علیہ السلام کی شکارگاہ
(D) حضرت نوح علیہ السلام کی سواری

58. پیغمبر جن کو نے ایک بہت بڑی کشتی بنانے اور اس میں تمام

جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم دیا گیا۔
(A) حضرت شیث علیہ السلام
(B) حضرت یعقوب علیہ السلام
(C) حضرت آدم علیہ السلام
(D) حضرت نوح علیہ السلام

59. طوفان کے بعد کشتی نوح علیہ السلام جا کر رکی۔
(A) کوہ جبل (B) کوہ موسیٰ
(C) کوہ جودی (D) کوہ صفا

60. کوہ جودی واقع ہے۔
(A) افغانستان (B) ترکی
(C) مصر (D) عراق

61. حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا بیٹا منکر تھا۔
(A) کنعان (B) قطرانا
(C) عاص (D) یافت

62. طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد ہوئی۔
(A) وادیٔ فرات میں (B) وادیٔ دجلہ میں
(C) دونوں a اور b (D) عراق میں

63. "نجی اللہ" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔
(A) حضرت یحییٰ علیہ السلام
(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(C) حضرت نوح علیہ السلام
(D) حضرت ادریس علیہ السلام

64. قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر باقی تمام سورتوں سے زیادہ ہے؟
(A) سورۃ الانبیاء (B) سورۃ ھود
(C) سورۃ الفتح (D) سورۃ البقرہ

65. حضرت نوح علیہ السلام سال زندہ رہے۔
(A) 1000 سال (B) 950 سال
(C) 800 سال (D) 750 سال

66. حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی ______
(A) 300 گز (B) 200 گز
(C) 400 گز (D) 500 گز

67. حضرت نوح کی کشتی کی چوڑائی ______
(A) 100 گز (B) 150 گز
(C) 175 گز (D) 200 گز

68. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی گمراہ قوم پر عذاب الٰہی کیلئے کتنی مرتبہ دعا کی تھی؟
(A) 3 مرتبہ (B) 4
(C) 8 (D) 10

69. بنی عاد کس کی اولاد میں سے تھے؟
(A) سام (B) عاد
(C) عریش (D) ایش

70. بنی عاد میں جو پیغمبر بھیجے گئے۔
(A) حضرت الیاس علیہ السلام
(B) حضرت ہود علیہ السلام
(C) حضرت سلیمان علیہ السلام
(D) حضرت سلیمان علیہ السلام

71. قوم جو حام کی اولاد سے لڑنے کے بعد بابلون چھوڑ گئی۔
(A) بنی عاد (B) بنی ثمود
(C) دونوں (D) بنی اسرائیل

72. بابلون چھوڑنے کے بعد بنی عاد قیام پذیر ہوئے۔
(A) مصر (B) فلسطین
(C) حضرموت (D) ترکی

73. بنی عاد پوجا کرتی تھی۔
(A) ستاروں کی (B) دیوتاؤں کی
(C) a اور b (D) a نہ b

74. بنی عاد کا اہم بت تھا۔
(A) سلیمہ (B) رازقہ

(C) حافرون (D) یہ تمام

75. شداد کس قوم کا بادشاہ تھا؟

(A) بنی اسرائیل (B) بنی ثمود

(C) بنی ہود (D) بنی عاد

76. شداد نے اپنا عظیم الشان محل بنایا تھا۔

(A) بابل کے قریب (B) ترکی کے قریب

(C) عراق کے قریب (D) عدن کے قریب

77. شداد کے عظیم الشان باغ کا نام تھا۔

(A) باغ عدن (B) باغ عاد

(C) باغ ارم (D) باغ شداد

78. شداد کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔

(A) شام تک (B) ترکی تک

(C) عراق تک (D) فلسطین تک

79. کس قوم پر ایک شدید طوفان عذاب الٰہی کے طور پر نازل ہوا؟

(A) بنی عاد (B) بنی ثمود

(C) بنی ہود (D) بنی اسرائیل

80. بنی عاد پر نازل ہونے والا طوفان جاری رہا۔

(A) 8 دن 8 راتیں (B) 7 دن اور 8 راتیں

(C) 9 دن 9 راتیں (D) 10 دن اور 11 راتیں

81. حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام تھا۔

(A) ابر (B) آرلیش

(C) عاد (D) آختا

82. حضرت ہود علیہ السلام مدفون ہیں۔

(A) یمن (B) اومان

(C) حضر موت (D) بغداد

83. حضر موت واقع ہے۔

(A) جنوبی عرب میں (B) شمالی عرب میں

(C) مشرقی عرب میں (D) مغربی عرب میں

84. نجیب اللہ کہا جاتا ہے۔

(A) حضرت سلیمانؑ (B) حضرت خضر

(C) حضرت ہودؑ (D) حضرت نوحؑ

85. اچھی بانسری بجانے والے نبی تھے۔

(A) حضرت ہودؑ (B) حضرت موسیٰؑ

(C) حضرت عیسیٰؑ (D) حضرت زکریاؑ

86. کس مہینے عرب لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے مزار پر جاتے ہیں؟

(A) رمضان (B) رجب

(C) شعبان (D) ذی الحج

87. حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی بچ جانے والی قوم کہاں جا کر آباد ہوئی؟

(A) یمن (B) حضر موت

(C) حجاز (D) ایران

88. حضرت صالح علیہ السلام کس قوم میں بھیجے گئے؟

(A) بنی عاد (B) بنی اسرائیل

(C) بنی ثمود (D) تمام میں

89. ثمود کس کا پوتا تھا؟

(A) حضرت ادریس علیہ السلام (B) عاد

(C) سام (D) حضرت ابراہیم علیہ السلام

90. بنی ثمود کا مسکن کون سا علاقہ تھا؟

(A) وادی قریٰ (B) وادی الحجر

(C) a اور b (D) وادی ایمن

91. شام اور حجاز کے درمیان واقع علاقہ ہے۔

(A) وادی قریٰ (B) وادی الحجر

(C) a اور b (D) وادی ایمن

92. صابن بنایا ________

(A) حضرت موسیٰؑ نے (B) حضرت ادریسؑ نے

(C) حضرت ہودؑ نے (D) حضرت صالحؑ نے

93. نبی جس نے ساری عمر مکان تعمیر نہ کیا۔

(A) حضرت صالحؑ (B) حضرت ابراہیمؑ

(C) حضرت یعقوبؑ (D) حضرت شیث

94. اونٹنی کا معجزہ کس نبی سے روایت ہے؟
(A) حضرت نوح علیہ السلام
(B) حضرت شیث علیہ السلام
(C) حضرت لوط علیہ السلام
(D) حضرت صالح علیہ السلام

95. حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں کون سے جانور کی پہاڑ میں سے آمد اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی؟
(A) اونٹنی (B) بکری
(C) گھوڑا (D) خچر

96. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا۔
(A) بنی اسرائیل (B) بنی صالح علیہ السلام
(C) بنی ثمود (D) بنی عاد

97. بنی ثمود پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟
(A) بادلوں کی کڑک (B) آتش فشاں کا پھٹنا
(C) دونوں a اور b (D) سیلاب

98. اصحاب الحجر کن کو کہا جاتا ہے؟
(A) بنی ثمود (B) بنی عاد
(C) بنی اسرائیل (D) بنی لوط

99. حضرت لوط علیہ السلام ہم عصر تھے۔
(A) حضرت اسماعیل علیہ السلام
(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(C) حضرت نوح علیہ السلام
(D) حضرت یعقوب علیہ السلام

100. حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ تھا۔
(A) قاہرہ (B) ترکی
(C) عرب (D) ار

101. نبی جو اللہ سے ہم کلام ہوئے۔
(A) حضرت محمدؐ (B) حضرت موسیٰ
(C) حضرت عیسیٰؑ (d) کوئی نہیں

102. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ار سے کہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا؟
(A) سوڈوم (B) گوموراہ
(C) دونوں جگہ (D) نہ a نہ b

103. سوڈوم اور گوموراہ کے لوگوں میں جو برائی پائی جاتی تھی۔
(A) شراب نوشی (B) زناکاری
(C) ہم جنس پرستی (D) قتل و غارت

104. کس علاقے کے لوگ ایک بھیانک زلزلے کی سزا کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے؟
(A) سوڈوم (B) گوموراہ
(C) دونوں a اور b (D) نہ a نہ b

105. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔
(A) فرشتوں نے ان کے گھروں کو اٹھا کر پھینکا
(B) فرشتوں نے ان کے گھروں پر پتھروں اور کنکروں کی بارش کی
(C) دونوں a اور b
(D) کوئی بھی نہیں

106. حضرت لوط علیہ السلام نے وفات پائی۔
(A) عراق میں (B) یمن میں
(C) فلسطین میں (D) شام میں

107. حضرت لوط علیہ السلام مدفون ہیں۔
(A) قاہرہ میں (B) حجاز میں
(C) سویق میں (D) حبرون میں

108. "خلیل اللہ" کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔
(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(B) حضرت یونس علیہ السلام
(C) حضرت ادریس علیہ السلام
(D) حضرت یعقوب علیہ السلام

109. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔

(A) قاہرہ میں (B) مکہ میں
(C) حجاز میں (D) ار میں

110. نبی جو دریائے فرات کے کنارے واقع علاقے ار میں پیدا ہوئے۔

(A) حضرت نوح علیہ السلام
(B) حضرت ادریس علیہ السلام
(C) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(D) حضرت شیث علیہ السلام

111. حضرت ابراہیم علیہ السلام کس علاقے میں قیام پذیر رہے؟

(A) فلسطین (B) میسوپوٹیمیا
(C) عمان (D) ایران

112. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں میسوپوٹیمیا کے لوگ عبادت کرتے تھے۔

(A) چاند (B) سورج
(C) ستارے (D) a اور b اور c

113. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں میسوپوٹیمیا کا وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟

(A) نمرود (B) شداد
(C) جالوت (D) فرعون

114. پہلی مرتبہ جس پیغمبر نے بت توڑے۔

(A) حضرت اسماعیل علیہ السلام
(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(C) حضرت لوط علیہ السلام
(D) حضرت شیث علیہ السلام

115. اللہ کا پیغام دینے پر لوگوں نے حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

(A) ایمان لے آئے
(B) ان کو آگ میں ڈال دیا
(C) انہیں ہلاک کر دیا (D) انہیں اپنا بادشاہ بنالیا

116. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کہاں ہجرت کا کہا؟

(A) حجاز (B) فلسطین
(C) مکہ (D) مدینہ

117. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر کا اصل نام تھا۔

(A) تارح (B) قروانہ
(C) یوحنا (D) ان میں سے کوئی نہیں

118. کنگھی کس کی ایجاد ہے؟

(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت نوحؑ
(C) حضرت ابراہیمؑ (D) کوئی نہیں

119. حضرت ابراہیمؑ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ______

(A) اپنے آپ کو مختون کیا (B) اپنے بیٹے کو مختون کیا
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

120. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں۔

(A) حضرت سارہ (B) حضرت جویریہ
(C) حضرت قطورہ (D) حضرت آسیہ

121. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام کیا تھا؟

(A) حضرت سارہ (B) حضرت آسیہ
(C) حضرت قطورہ (D) حضرت ہاجرہ

122. قطورہ تھیں۔

(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی
(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمشیرہ
(C) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی
(D) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوتیلی ہمشیرہ

123. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کہاں رہائش پذیر تھیں؟

(A) فلسطین (B) مصر
(C) شام (D) عرب

124. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کا نام جو کہ ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے تھی۔

116 نمبر MCQ برائے ایڈیشن میں (A) کے آپشن پر

(A) حضرت اسحاق علیہ السلام
(B) حضرت یوسف علیہ السلام
(C) حضرت اسماعیل علیہ السلام
(D) حضرت داؤد علیہ السلام

125. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی۔
(A) 86 سال (B) 68 سال
(C) 60 سال (D) 90 سال

126. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
(A) عراق (B) فلسطین
(C) یمن (D) حجاز

127. حضرت ابراہیم پر صحائف نازل کیے گئے۔
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

128. حضرت ابراہیمؑ کی بیوی سارہ بہن تھیں۔
(A) حضرت عیسیٰؑ کی (B) حضرت موسیٰؑ کی
(C) حضرت یحییٰؑ کی (D) حضرت لوطؑ کی

129. "وہی کرو جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ آپ مجھے راضی پائیں گے" حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ الفاظ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس وقت کہے؟
(A) ہجرت کے وقت
(B) کعبہ کی تعمیر کے وقت
(C) اپنی قربانی کے وقت
(D) کفار سے جنگ کے وقت

130. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصد کیا۔
(A) 10 ذوالحج (B) 10 محرم
(C) 10 شعبان (D) 13 ذوالحج

131. جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔
(A) مزدلفہ (B) منیٰ
(C) صفا (D) مروہ

132. اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کس جانور کو تبدیل کر دیا گیا۔
(A) بکری (B) اونٹ
(C) گائے (D) بچھڑا

133. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے قصد کے انعام کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس بچے سے نوازا؟
(A) حضرت اسحاق علیہ السلام
(B) حضرت یعقوب علیہ السلام
(C) حضرت یحییٰ علیہ السلام
(D) حضرت سلیمان علیہ السلام

134. حضرت اسماعیل کے کتنے بیٹے تھے؟
(A) 10 (B) 12
(C) 15 (D) 17

135. حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا۔
(A) حضرت آسیہ
(B) حضرت حاجرہ
(C) حضرت سارہ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

136. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔
(A) شوہا اور مدان (B) مدائن اور زمران
(C) یقشان اور شیاق (D) یہ تمام

137. حضرت اسحاقؑ کی پیدائش کی خوشخبری کے وقت حضرت سارہؑ کی عمر تھی۔
(A) 80 سال (B) 70 سال
(C) 90 سال (D) 60 سال

138. حضرت اسحاقؑ کی پیدائش کی خوشخبری کے وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر تھی۔

(A) 105 سال (B) 100 سال

(C) 120 سال (D) 90 سال

139. حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے تھے۔

(A) شوہا اور مدان (B) مداتن اور زمران

(C) یقشان اور شیاق (D) تمام

140. حضرت یوسفؑ کے والد تھے۔

(A) حضرت یعقوبؑ (B) حضرت ابراہیمؑ

(C) حضرت اسماعیلؑ (D) حضرت اسحاقؑ

141. حضرت یعقوبؑ کے والد حضرت ابراہیمؑ کے ________

(A) بھائی تھے (B) چچا تھے

(C) بھتیجے (D) فرزند تھے

142. حضرت یعقوبؑ کے والد تھے۔

(A) حضرت اسحاقؑ (B) حضرت اسماعیلؑ

(C) حضرت مدائن (D) حضرت شوہا

143. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کی نسل سے کس کو نبوت عطا کی گئی۔

(A) حضرت داؤد علیہ السلام

(B) حضرت یعقوب علیہ السلام

(C) حضرت شعیب علیہ السلام

(D) حضرت شیث علیہ السلام

144. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نبی بھتیجے کا نام بتائیں جس کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہی ہوئی؟

(A) حضرت یونس علیہ السلام (B) حضرت لوط علیہ السلام

(C) حضرت صالح علیہ السلام (D) حضرت یونس علیہ السلام

145. حج فرض ہوا۔

(A) حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں

(B) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں

(C) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں

(D) حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں

146. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔

(A) امت اور امام الناس (B) حنیف اور مسلم

(C) a اور b (D) a نہ b

147. کون سا بیان درست ہے؟

(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی سچائی کی گواہی خود اللہ نے دی۔

(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سب سے نزدیکی پیغمبر ہیں

(C) حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے طویل العمر پیغمبر ہیں

(D) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی

148. قرآن پاک کی جس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تین مرتبہ ذکر آیا ہے۔

(A) سورۃ آل عمران (B) سورۃ فاتحہ

(C) سورۃ الانبیاء (D) سورۃ بقرہ

149. قرآن پاک کی وہ سورت جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔

(A) سورۃ ابراہیم (B) سورۃ آل عمران

(C) سورۃ بقرہ (D) سورۃ فاتحہ

150. سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟

(A) 20 (B) 18

(C) 15 (D) 10

151. سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیمؑ کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟

(A) 1 (B) 4

(C) 6 (D) 7

152. اولوالعزم انبیاء و مرسلین کون ہیں؟

(A) حضرت محمد ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام

(B) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام

(C) حضرت ابراہیم علیہ السلام

(D) یہ تمام

153. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد خاندان نبوت تقسیم ہو۔

(A) حضرت اسحاق علیہ السلام
(B) حضرت اسماعیل علیہ السلام
(C) دونوں سے
(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

154. مقام ابراہیم واقع ہے۔

(A) مدینہ (B) مکہ
(C) فلسطین (D) کوفہ

155. رحلت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی۔

(A) 100 سال (B) 150 سال
(C) 175 سال (D) 200 سال

156. حضرت ابراہیمؑ کا انتقال ہوا۔

(A) حبرون میں (B) مکہ معظمہ میں
(C) کنعان میں (D) کوئی نہیں

157. حبرون واقع ہے۔

(A) بیت المقدس میں (B) مصر میں
(C) عراق میں (D) شام میں

158. پتھروں کی صورت میں عذاب الٰہی کس پیغمبر کی قوم پر نازل ہوا؟

(A) حضرت نوح علیہ السلام
(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(C) حضرت یونس علیہ السلام
(D) حضرت خضر علیہ السلام

159. "ابو العرب" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

(A) حضرت اسماعیل علیہ السلام
(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(C) حضرت لوط علیہ السلام
(D) حضرت محمد ﷺ

160. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خاندان سمیت ہجرت کرنے کا حکم دیا۔

(A) [illegible] (B) [illegible]
(C) [illegible] (D) [illegible]

161. بکہ کس علاقے کا پرانا نام ہے؟

(A) مکہ (B) مدینہ
(C) کوفہ (D) کربلا

162. صفا مروہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگائے۔

(A) حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
(B) حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ نے
(C) حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت قطورہ نے
(D) کسی نے بھی نہیں

163. زمزم کا مطلب ہے

(A) صحت (B) رک جا
(C) [illegible] (D) نعمت خداوندی

164. حضرت اسماعیلؑ کس قوم کے پیغمبر قرار دیے گئے؟

(A) یہودی (B) عیسائی
(C) مسلمان (D) تمام

165. کس پیغمبر کی آمد سے قبل مکہ غیر آباد تھا اور یہاں پانی کا نام تک نہ تھا؟

(A) حضرت نوح علیہ السلام
(B) حضرت اسماعیل علیہ السلام
(C) حضرت محمد ﷺ
(D) حضرت خضر علیہ السلام

166. حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگائے۔

(A) 8 (B) 10
(C) 7 (D) 5

167. خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقدس پتھر دیا تھا۔

(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
(B) حضرت میکائیل علیہ السلام نے
(C) حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
(D) حضرت اسرائیل علیہ السلام نے

168. خانہ کعبہ کے قریب جو پیغمبر آباد ہوئے۔

(A) حضرت یعقوب علیہ السلام
(B) حضرت اسماعیل علیہ السلام
(C) حضرت نوح علیہ السلام
(D) حضرت سلیمان علیہ السلام

169. کون سا قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھا؟

(A) قریش (B) بنو عباس
(C) بنوامیہ (D) بنو عاد

170. ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟

(A) 300 (B) 305
(C) 313 (D) 315

171. ابوالعرب کہتے ہیں۔

(A) حضرت اسماعیلؑ کو (B) حضرت موسیٰؑ کو
(C) حضرت خضرؑ کو (D) حضرت عیسیٰؑ کو

172. ذبیح اللہ سے کس پیغمبر کا خیال ذہن میں آتا ہے؟

(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(B) حضرت یوسف علیہ السلام
(C) حضرت عیسیٰ علیہ السلام
(D) حضرت اسماعیل علیہ السلام

17[3]. مسجد الاقصیٰ کے گرد چاردیواری تعمیر کی۔

(A) حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
(C) حضرت اسحاق علیہ السلام نے
(D) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

174. حضرت اسحاق علیہ السلام کس قوم کے پیغمبر ہیں؟

(A) عیسائی (B) یہودی
(C) مسلمان (D) مشرکین

175. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی۔

(A) حضرت جبرائیل علیہ السلام
(B) حضرت قطبیہ
(C) حضرت اسرافیل
(D) حضرت میکائیل

176. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔

(A) حضرت اسماعیل علیہ السلام
(B) حضرت اسحاق علیہ السلام
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

177. حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی تھیں۔

(A) ربیکہ (B) امیہ
(C) ریانہ (D) ربیعہ

178. پیغمبر جن کی بینائی ان کی ادھیڑ عمری میں جاتی رہی۔

(A) حضرت سلیمان علیہ السلام
(B) حضرت نوح علیہ السلام
(C) حضرت اسحاق علیہ السلام
(D) حضرت لوط علیہ السلام

179. کس عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جڑواں بیٹوں سے نوازا؟

(A) 60 سال (B) 65 سال
(C) 70 سال (D) 75 سال

180. حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر تھے۔

(A) بنی عاد کے (B) بنی ثمود کے
(C) بنی آر کے (D) بنی اسرائیل کے

181. حضرت اسحاق علیہ السلام والد تھے۔
(A) حضرت یعقوب علیہ السلام
(B) حضرت عیص علیہ السلام
(C) دونوں کے
(D) دونوں میں سے کسی کے نہیں

182. حضرت اسحاق علیہ السلام دفن ہیں۔
(A) مکہ میں (B) مدینہ میں
(C) قاہرہ میں (D) حبرون میں

183. حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند جو حضرت ایوب علیہ السلام کے دادا سسر تھے۔
(A) حضرت یعقوب علیہ السلام
(B) حضرت نوح علیہ السلام
(C) حضرت خضر علیہ السلام
(D) حضرت یوسف علیہ السلام

184. حضرت یعقوبؑ کی جائے پیدائش ہے۔
(A) عراق (B) فلسطین
(C) شام (D) کوفہ

185. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جڑواں بھائی تھے۔
(A) حضرت یوسف علیہ السلام (B) حضرت یونس علیہ السلام
(C) حضرت سلیمان علیہ السلام (D) حضرت عیص

186. کس پیغمبر نے راحیل سے شادی کی؟
(A) حضرت اسحاق علیہ السلام
(B) حضرت یونس علیہ السلام
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام
(D) حضرت یوسف علیہ السلام

187. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد نے راحیل کے والد کی نوکری کی۔
(A) 9 سال (B) 7 سال
(C) 2 سال (D) 10 سال

188. حضرت یعقوبؑ کی اپنے بیٹے حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔
(A) 30 سال بعد (B) 40 سال بعد
(C) 35 سال بعد (D) 45 سال بعد

189. پہاڑیوں کو توڑنے کا معجزہ ہے۔
(A) حضرت یعقوبؑ کا (B) حضرت یوسفؑ کا
(C) حضرت موسیٰؑ کا (D) حضرت عیسیٰؑ کا

190. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کون سا تھا؟
(A) سیف (B) صفی اللہ
(C) اسرائیل (D) عاد

191. جیکب (Jacob) سے مراد ہے۔
(A) حضرت اسحاق علیہ السلام
(B) حضرت یعقوب علیہ السلام
(C) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(D) حضرت عیسیٰ علیہ السلام

192. جوزف (Joseph) سے مراد ہے۔
(A) حضرت یوسف علیہ السلام
(B) حضرت یعقوب علیہ السلام
(C) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(D) حضرت عیسیٰ علیہ السلام

193. حضرت یوسف علیہ السلام قیام پذیر تھے۔
(A) شام میں (B) مصر میں
(C) فلسطین میں (D) مکہ میں

194. حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنوئیں میں پھینکا تھا۔
(A) ان کے چچازاد بھائیوں نے
(B) ان کے دوستوں نے
(C) ان کے بھائیوں نے
(D) یہودیوں نے

195. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام۔
(A) حضرت اسحاق علیہ السلام
(B) حضرت اسماعیل علیہ السلام
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام
(D) حضرت موسیٰ علیہ السلام

196. حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور غلام فروخت کیا گیا۔
(A) شام میں (B) فلسطین میں
(C) ایران میں (D) مصر میں

197. شاہِ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب سونپا تھا۔
(A) گورنر مصر کا (B) وزیر دربار کا
(C) سٹور انچارج کا (D) وزیر خاص کا

198. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں علاقہ قحط کا شکار ہوا۔
(A) بغداد (B) کربلا
(C) فلسطین (D) مصر

199. مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) حضرت یوسف علیہ السلام دس بھائی تھے۔
(B) حضرت یوسف علیہ السلام گیارہ بھائی تھے۔
(C) حضرت یوسف علیہ السلام بارہ بھائی تھے۔
(D) حضرت یوسف علیہ السلام تیرہ بھائی تھے۔

200. حضرت یوسفؑ کنویں میں رہے۔
(A) 1 دن (B) 2 دن
(C) 3 دن (D) 4 دن

201. حضرت یوسفؑ نبوت سرانجام دیتے رہے۔
(A) 22 سال (B) 24 سال
(C) 26 سال (D) 28 سال

202. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟
(A) جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب پایا۔
(B) جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو چھوا
(C) جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ان کی آنکھوں سے لگایا گیا۔
(D) جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آواز سنی۔

203. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔
(A) راحیل (B) ایشہ
(C) آسیہ (D) حضرت مریمؑ

204. ''بنی اسرائیل'' کس نبی کے خاندان کو کہا جاتا ہے؟
(A) حضرت یوسف علیہ السلام
(B) حضرت یونس علیہ السلام
(C) حضرت ہود علیہ السلام
(D) حضرت لوط علیہ السلام

205. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ وہی اس کے کھوئے ہوئے بھائی ہیں۔
(A) حضرت دانیال علیہ السلام
(B) حضرت لقمان علیہ السلام
(C) حضرت بنیامین علیہ السلام
(D) حضرت ذوالقرنین علیہ السلام

206. حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی نسلوں میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا؟
(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

207. حسن مشہور ہے۔
(A) حضرت یوسفؑ کا (B) حضرت موسیٰؑ کا
(C) حضرت عیسیٰؑ کا (D) حضرت خضرؑ کا

208. ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کے ماموں تھے۔
(A) حضرت اسماعیل علیہ السلام
(B) حضرت اسحاق علیہ السلام
(C) حضرت ہود علیہ السلام
(D) حضرت لوط علیہ السلام

209. حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے۔
(A) خطیب الانبیاء (B) جدالانبیاء
(C) صفی الانبیاء (D) تمام

210. حضرت شعیب علیہ السلام دفن ہیں۔
(A) حضر موت (B) ار
(C) قاہرہ (D) شبان

211. عذاب الٰہی کے نتیجہ میں اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام آباد ہوئے۔

(A) حضرموت (B) یمن
(C) قاہرہ (D) شام

212. برائی جس میں حضرت شعیبؑ کی امت مبتلا تھی۔

(A) بدکاری (B) ناپ تول میں کمی
(C) ملاوٹ (D) کوئی نہیں

213. اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی۔

(A) حضرت نوح علیہ السلام کو
(B) حضرت داؤد علیہ السلام کو
(C) حضرت یونس علیہ السلام کو
(D) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو

214. حضرت داؤدؑ کے مشہور شاگرد ہیں۔

(A) حضرت لوط علیہ السلام
(B) حضرت حکیم لقمان
(C) حضرت یونس علیہ السلام
(D) حضرت سلیمان علیہ السلام

215. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کو "خلیفۃ الارض" کا لقب دیا گیا۔

(A) حضرت سلیمان علیہ السلام
(B) حضرت یونس علیہ السلام
(C) حضرت ادریس علیہ السلام
(D) حضرت داؤد علیہ السلام

216. کس پیغمبر کی آواز بہت خوبصورت تھی؟

(A) حضرت ابراہیمؑ (B) حضرت اسحاقؑ
(C) حضرت داؤدؑ (D) حضرت یعقوبؑ

217. حضرت داؤد علیہ السلام نے کس کی فوج میں بحیثیت سپاہی خدمات سرانجام دیں؟

(A) طالوت (B) جالوت
(C) نمرود (D) شداد

218. حضرت داؤد علیہ السلام کی رہائش تھی۔

(A) مصر میں (B) بیت اللحم میں
(C) شام میں (D) بغداد میں

219. "بیت اللحم" واقع ہے۔

(A) شام (B) فلسطین
(C) یمن (D) بیت المقدس

220. حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔

(A) لوہے کو آسانی ٹیڑھا کر دینا
(B) پرواز کرنا
(C) حشرات الارض کی بولیاں سمجھنا
(D) پرندوں سے باتیں کرنا

221. حضرت داؤدؑ کے دور میں جالوت ________

(A) اسرائیلی فوج کا کمانڈر تھا
(B) فلسطینی فوج کا کمانڈر تھا
(C) یمنی فوج کا کمانڈر تھا
(D) یونانی کا کمانڈر تھا

222. حضرات داؤدؑ کے دور میں جالوت کی فوج پر سرپیکار تھی۔

(A) بنی عاد سے (B) بنی اسرائیل سے
(C) بنی ثمود سے (D) تمام

223. جالوت کو موت کے گھاٹ اتارا۔

(A) طالوت نے
(B) حضرت داؤد علیہ السلام نے
(C) حضرت ادریس علیہ السلام نے
(D) حضرت نوح علیہ السلام نے

224. حضرت داؤدؑ کی فوج کے سپہ سالار تھے۔

(A) جالوت (B) حضرت داؤدؑ
(C) طالوت (D) کوئی نہیں

225. طالوت کو کس اور نام سے جانا جاتا تھا؟

(A) سام (B) ساؤل
(C) میش (D) لاط

226. حضرت داؤد علیہ السلام کو متفقہ طور پر اپنا بادشاہ تسلیم کرتی تھی۔
(A) بنی عاد (B) بنی اسرائیل
(C) بنی ثمود (D) بنی طالوت

227. زرہ ایجاد ہے۔
(A) حضرت یونس علیہ السلام کی
(B) حضرت سلیمان علیہ السلام کی
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام کی
(D) حضرت داؤد علیہ السلام کی

228. پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔
(A) حضرت لقمان علیہ السلام (B) حضرت نوح علیہ السلام
(C) حضرت داؤد علیہ السلام (D) حضرت موسیٰ علیہ السلام

229. حضرت داؤد علیہ السلام دفن ہیں۔
(A) دمشق میں (B) بیت المقدس میں
(C) حجاز میں (D) قاہرہ میں

230. ڈیوڈ (DAVID) سے مراد ہیں۔
(A) حضرت داؤد علیہ السلام
(B) حضرت یعقوب علیہ السلام
(C) حضرت عیسیٰ علیہ السلام
(D) حضرت موسیٰ علیہ السلام

231. حضرت داؤد علیہ السلام کا اصل نام۔
(A) عبار (B) عمیر
(C) آزار (D) لاط

232. قرآن پاک میں "خلیفہ" کہا گیا ہے۔
(A) حضرت سلیمان علیہ السلام کو
(B) حضرت داؤد علیہ السلام کو
(C) حضرت محمد ﷺ کو
(D) حضرت نوح علیہ السلام کو

۲۳۳ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔
(A) انجیل (B) توریت
(C) زبور (D) کوئی بھی نہیں

234. حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں۔
(A) حضرت ایوب علیہ السلام
(B) حضرت یعقوب علیہ السلام
(C) حضرت سلیمان علیہ السلام
(D) حضرت یونس علیہ السلام

235. ملکہ سبا تھیں۔
(A) حضرت سلیمانؑ کی بیوی
(B) حضرت سلیمانؑ کی بہن
(C) حضرت سلیمانؑ کی والدہ
(D) حضرت سلیمانؑ کی کزن

236. ملکہ سبا کا اصلی نام تھا۔
(A) سارہ (B) بلقیس
(C) حاجرہ (D) حبیبہ

237. سبا نامی شہر جس ملک میں تھا۔
(A) یمن (B) مصر
(C) شام (D) فلسطین

238. کس پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی عظیم الشان مملکت کے بارے میں بتایا تھا؟
(A) چڑیا (B) طوطا
(C) کبوتر (D) ہدہد

239. ملکہ سبا کے دورِ حکومت میں یمن کے لوگ پوجا کرتے تھے۔
(A) سورج (B) چاند
(C) b اور a (D) b نہ a

240. یمن کی ملکہ سبا نے مذہب قبول کیا۔
(A) یہودیوں کا (B) اللہ کا
(C) مشرکوں کا (D) کافروں کا

241. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی گئی۔
(A) یہودیہ کی (B) یمن کی
(C) شام کی (D) عراق کی

242. حضرت سلیمان علیہ السلام کا مطیع تھا/تھی۔
(A) آگ (B) ہوا
(C) پانی (D) مٹی

243. نبی جو کہ زنبیلیں بنا کر گزارا کرتے تھے۔
(A) حضرت سلیمانؑ (B) حضرت الیاسؑ
(C) حضرت یونسؑ (D) حضرت ہارونؑ

244. آنکھ جھپکنے میں طویل سفر طے کر لیتے تھے۔
(A) حضرت ایوب علیہ السلام
(B) حضرت یونس علیہ السلام
(C) حضرت سلیمان علیہ السلام
(D) حضرت الیاس علیہ السلام

245. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس/کن کی بولیاں سمجھنے کا معجزہ عطا کیا گیا تھا؟
(A) جانور (B) پرندے
(C) حشرات الارض (D) یہ تمام

246. اللہ تعالیٰ نے جنات پر قابو پانے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔
(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
(B) حضرت عیسیٰ علیہ ا
(C) حضرت سلیمان علیہ السلام کو
(D) حضرت محمد ﷺ کو

247. بیت المقدس کو............
(A) مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے
(B) مسجد نبوی بھی کہا جاتا ہے
(C) مسجد حرا بھی کہا جاتا ہے
(D) کوئی نہیں

248. بیت المقدس کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کام کیا۔
(A) جنات نے (B) پرندوں نے
(C) ہاتھیوں نے (D) فرشتوں نے

249. سولومن (SOLOMON) سے مراد ہیں۔
(A) حضرت سلیمان علیہ السلام
(B) حضرت عیسیٰ علیہ السلام
(C) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(D) حضرت ہارون علیہ السلام

250. بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی۔
(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں
(B) حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں
(C) حضرت محمد ﷺ کے دور میں
(D) حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں

251. مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا آغاز کیا۔
(A) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
(B) حضرت داؤد علیہ السلام نے
(C) حضرت یونس علیہ السلام نے
(D) حضرت سلیمان علیہ السلام نے

252. عرب شدید قحط کا شکار ہوا۔
(A) حضرت سلیمانؑ کے دور میں
(B) حضرت داؤدؑ کے دور میں
(C) حضرت الیاسؑ کے دور میں
(D) حضرت ہارونؑ کے دور میں

253. حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کس بت کی پوجا کرتی تھی؟
(A) ماروت (B) بعل
(C) قطرہ (D) یقطا

254. پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔
(A) حضرت نوح علیہ السلام
(B) حضرت لوط علیہ السلام
(C) حضرت یونس علیہ السلام
(D) حضرت الیاسؑ علیہ السلام

255. حضرت الیاس کو مبعوث کیا گیا۔

(A) مصر میں (B) شام میں
(C) فلسطین میں (D) عراق میں

256. بیل کو ذبح کر کے دس لکڑیاں رکھنے کے بعد آگ کا آسمان سے اتر کر اس کو جلا دینے کا معجزہ ہے۔
(A) حضرت الیاسؑ کا (B) حضرت موسیٰؑ کا
(C) حضرت زکریاؑ کا (D) حضرت سلیمانؑ کا

257. موسس (MOSES) کہا جاتا ہے۔
(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
(B) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
(C) حضرت ہارون علیہ السلام کو
(D) حضرت یعقوب علیہ السلام کو

258. حضرت موسیٰؑ کا لقب تھا۔
(A) خلیل اللہ (B) ذبیح اللہ
(C) حبیب اللہ (D) کلیم اللہ

259. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد تھے۔
(A) حضرت یعقوب علیہ السلام
(B) حضرت شعیب علیہ السلام
(C) حضرت ہارون علیہ السلام (D) حضرت نوح علیہ السلام

260. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون بادشاہ تھا۔
(A) شام کا (B) فلسطین کا
(C) مصر کا (D) عراق کا

261. PHARAOH مراد ہے۔
(A) فیروز (B) فرعون
(C) نمرود (D) فارقلیط

262. جس نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰؑ کی پرورش کی۔
(A) سارہ (B) آسیہ
(C) حاجرہ (D) قدسیہ

263. بادشاہ جس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو جان سے مار دیا جائے۔
(A) نمرود (B) شداد
(C) فرعون (D) قارون

264. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وادی میں نبوت کی بشارت ہوئی۔
(A) طور (B) طویٰ
(C) باتھا (D) حنین

265. حضرت موسیٰؑ کے واحد اور بڑے بھائی تھے۔
(A) حضرت ہارون علیہ السلام
(B) حضرت شعیب علیہ السلام
(C) حضرت نوح علیہ السلام
(D) حضرت یعقوب علیہ السلام

266. کوہ طور پر جانے سے قبل حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم حوالے کی تھی۔
(A) حضرت یوسف علیہ السلام کے
(B) حضرت ہارون علیہ السلام کے
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام کے
(D) حضرت یونس علیہ السلام کے

267. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غلطی سے مارا گیا۔
(A) ایک شامی (B) ایک قبطی
(C) ایک ترکی (D) ایک عربی

268. قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے۔
(A) حضرت موسیٰؑ کا (B) حضرت عیسیٰؑ کا
(C) حضرت ہارونؑ کا (D) حضرت ہودؑ کا

269. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے؟
(A) 100 (B) 120
(C) 136 (D) 96

270. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے درمیان کیا رشتہ تھا؟
(A) بھائی (B) دوست
(C) چچازاد (D) کوئی بھی نہیں

271. سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 251 اور 264 میں ایک جنگجو اور بہادر

سالار کا ذکر کیا گیا ہے' اہل ایمان نے بارگاہ الٰہی میں کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح اور کامیابی کی دعا مانگی' اس جنگجو سالار کا کیا نام تھا؟ (P.c.s Exceutive 1999)

(A) طالوت (B) جالوت
(C) طاغوت (D) مالوت

272. پیغمبر جو عصا کو سانپ میں بدلنے کا معجزہ رکھتے تھے۔

(A) حضرت ہارون علیہ السلام
(B) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام
(D) حضرت عیسیٰ علیہ السلام

273. زبان میں لکنت رکھنے والے پیغمبر تھے۔

(A) حضرت موسیٰؑ (B) حضرت عیسیٰؑ
(C) حضرت داؤدؑ (D) حضرت یسوعؑ

274. دس خدائی فرمان (TEN COMMANDMANTS) نازل کیے گئے۔

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
(B) حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
(C) حضرت یعقوب علیہ ا[illegible] پر
(D) حضرت سلیمان علیہ ا[illegible]لام پر

275. کس پیغمبر کے پیروکاروں نے ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی؟

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام (B) حضرت نوح علیہ السلام
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام (D) حضرت لوط علیہ السلام

276. بنی اسرائیل کس پیغمبر کی قوم تھی؟

(A) حضرت عیسیٰ علیہ السلام
(B) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام
(D) حضرت ایوب علیہ السلام

277. وہ کون سے پیغمبر تھے جو بغل میں ہاتھ دے کر نکالتے تو ان کے ہاتھ سے نور نکلتا تھا؟

(A) حضرت یعقوب علیہ السلام
(B) حضرت سلیمان علیہ السلام
(C) حضرت یوسف علیہ السلام
(D) حضرت موسیٰ علیہ السلام

278. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟

(A) بیٹا (B) داماد
(C) بھائی (D) چچازاد

279. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی؟

(A) کوہ سینا پر (B) کوہ طور پر
(C) وادی سینا پر (D) کوہ ثور پر

280. کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے والے پیغمبر تھے۔

(A) حضرت عیسیٰ علیہ السلام
(B) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(C) حضرت محمدؐ
(D) حضرت ابراہیم علیہ السلام

281. ایک دور میں ایک ساتھ دو پیغمبر بھیجے گئے' ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے' دوسرے پیغمبر کون تھے؟

(A) حضرت شعیب علیہ السلام
(B) حضرت ہارون علیہ السلام
(C) حضرت یعقوب علیہ السلام
(D) حضرت اسماعیل علیہ السلام

282. حضرت ہارون علیہ السلام کو جس سال نبوت عطا کی گئی۔

(A) 1200 قبل از مسیح (B) 1240 قبل از مسیح
(C) 1250 قبل از مسیح (D) 1260 قبل از مسیح

283. خوش بیانی اور فصاحت کے حوالے سے مشہور پیغمبر ہیں؟

(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(B) حضرت ہارون علیہ السلام
(C) حضرت عیسیٰ علیہ السلام
(D) حضرت یعقوب علیہ السلام

284. حضرت ہارون دفن ہیں۔
(A) قاہرہ (B) کلہ
(C) تیہ (D) یمن

285. ایرون جس پیغمبر کو کہا جاتا ہے۔
(A) حضرت ہارونؑ (B) حضرت یحییٰؑ
(C) حضرت عیسیٰؑ (D) حضرت موسیٰؑ

286. جوب (Job) سے مراد ہے۔
(A) حضرت یعقوبؑ (B) حضرت ایوبؑ
(C) حضرت ہارونؑ (D) ان میں سے کوئی نہیں

287. حضرت ایوبؑ داماد تھے۔
(A) حضرت یوسفؑ کے (B) حضرت ہارونؑ کے
(C) حضرت یحییٰؑ کے (D) حضرت یونسؑ کے

288. حضرت ایوبؑ کی فرمانبردار بیوی کا نام تھا۔
(A) راحیل (B) سارہ
(C) رحیمہ (D) ہاجرہ

289. پیغمبر جو اپنے صبر اور انکسار کی وجہ سے مشہور ہیں۔
(A) حضرت یعقوبؑ (B) حضرت ایوبؑ
(C) حضرت یونسؑ (D) حضرت یحییٰؑ

290. حضرت ایوب جلد کی بیماری میں مبتلا رہے۔
(A) 20 سال (B) 18 سال
(C) 16 سال (D) 10 سال

291. پیغمبر جنہوں نے بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کیا لیکن کبھی حرف شکایت منہ سے نہ نکالا۔
(A) حضرت یعقوبؑ (B) حضرت ایوبؑ
(C) حضرت یونسؑ (D) حضرت یحییٰؑ

292. حضرت ایوبؑ کے پیغمبر بیٹے تھے۔
(A) حضرت ذوالکفل (B) حضرت یونسؑ
(C) حضرت عیسیٰؑ (D) حضرت موسیٰؑ

293. حضرت ذوالکفل کا اصلی نام تھا۔
(A) الیسع (B) حزقیل ابن ثوری
(C) عیساؤ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

294. جونا (Jonah) سے مراد ہے۔
(A) حضرت یونسؑ (B) حضرت یحییٰؑ
(C) حضرت یعقوبؑ (D) حضرت ایوبؑ

295. پیغمبر جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا جس بنا پر انہیں صاحب الحوت کہا جاتا ہے۔
(A) حضرت یعقوبؑ (B) حضرت یونسؑ
(C) حضرت یحییٰؑ (D) حضرت موسیٰؑ

296. کس پیغمبر کا ذوالنون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟
(A) حضرت یونسؑ (B) حضرت ذوالکفل
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

297. ذوالنون کا مطلب ہے۔
(A) مچھلیوں کا دوست (B) مچھلیوں کا ساتھی
(C) مچھلیوں کا فرمانروا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

298. حضرت یونسؑ کو تبلیغ کیلئے بھیجا گیا تھا۔
(A) کلہ میں (B) نینوا میں
(C) قاہرہ میں (D) سویق (Saweeq)

299. نینوا جس دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔
(A) نیل (B) فرات
(C) دجلہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

300. حضرت یونسؑ کو کشتی سے سمندر میں کیوں پھینکا گیا تھا؟
(A) دشمنی کی وجہ سے (B) رقابت کی وجہ سے
(C) کشتی کی حفاظت کی وجہ سے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

301. حضرت یونسؑ نے وفات پائی۔
(A) میسوپوٹیمیا میں (B) فلسطین میں۔
(C) نینوا میں (D) یمن میں

302. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا کس پیغمبر کی ہے؟
(A) حضرت یعقوبؑ (B) حضرت یونسؑ
(C) حضرت ایوبؑ (D) حضرت یوسفؑ

303. حضرت یونسؑ نے اللہ کے سامنے دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے الفاظ سے دعا کی۔
(A) جب انہیں سمندر میں پھینکا گیا
(B) جب انہیں مچھلی نے نگلا
(C) جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا چاہتے تھے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

304. حضرت مریمؑ کے سرپرست تھے۔
(A) حضرت یحییٰؑ (B) حضرت یونسؑ
(C) حضرت زکریاؑ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

305. میری (Mary) سے مراد ہے۔
(A) حضرت بلقیس (B) حضرت ہاجرہ
(C) حضرت سباؑ (D) حضرت مریمؑ

306. حضرت زکریاؑ متولی تھے۔
(A) ہیکل کے (B) ہارون کے
(C) شیس کے (D) جالوت کے

307. حضرت زکریاؑ کا پیشہ تھا۔
(A) بڑھئی (B) درزی
(C) موچی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

308. پیغمبر جنہوں نے اپنے آپ کو درخت کے کھوکھلے تنے میں چھپا لیا تھا۔
(A) حضرت زکریاؑ (B) حضرت یوسفؑ
(C) حضرت لوطؑ (D) حضرت یحییٰؑ

309. حضرت زکریاؑ کے متعلق کون سا بیان درست ہے؟
(A) درخت کے کھوکھلے تنے میں یہودیوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
(B) یہودیوں نے باہر نکال کر مار دیا
(C) یہودیوں نے انکو قید میں ڈال دیا
(D) ان میں سے کوئی نہیں

310. حضرت زکریاؑ کے علاوہ جس نبی کو آرے سے چیرا گیا۔
(A) حضرت ذوالکفل (B) حضرت یحییٰؑ
(C) حضرت جرجیسؑ (D) کوئی نہیں

311. حضرت زکریاؑ کے کون سے بیٹے پیغمبر تھے؟
(A) حضرت یحییٰؑ (B) حضرت عیسیٰؑ
(C) حضرت یونسؑ (D) حضرت ذوالکفل

312. حضرت مریمؑ کی پرورش جس گھر میں ہوئی۔
(A) حضرت یحییٰؑ کے (B) حضرت زکریاؑ کے
(C) حضرت یونسؑ کے (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

313. حضرت یحییٰؑ نے "اللہ کی تعلیمات" کی تبلیغ شروع کی۔
(A) شام سے (B) فلسطین سے
(C) اردن سے (D) مصر سے

314. حضرت یحییٰؑ دفن ہیں۔
(A) حجاز میں (B) ایران میں
(C) شام میں (D) عراق میں

315. حضرت یحییٰؑ پیش رو تھے۔
(A) حضرت عیسیٰؑ کے (B) حضرت موسیٰؑ کے
(C) حضرت زکریاؑ کے (D) ان میں سے کوئی نہیں

316. حضرت عیسیٰؑ کے خالہ زاد جو پیغمبر بھی تھے۔
(A) حضرت موسیٰؑ (B) حضرت لقمانؑ
(C) حضرت یحییٰؑ (D) حضرت زکریاؑ

317. حضرت یحییٰؑ کے ہم عصر پیغمبر تھے۔
(A) حضرت عیسیٰؑ (B) حضرت سلیمانؑ
(C) حضرت ہارونؑ (D) حضرت زکریاؑ

318. پیغمبر جن کو یسوع مسیح (Jesus Christi) بھی کہا جاتا ہے۔
(A) حضرت یحییٰؑ (B) حضرت زکریاؑ

(C) حضرت یونسؑ (D) حضرت عیسیٰؑ

319. حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش کے وقت فلسطین پر کس قوم کی بادشاہت تھی؟

(A) ایرانی (B) آریائی
(C) رومی (D) بازنطینی

320. حضرت عیسیٰؑ کی کنیت ابن مریم قرآن میں ------ جگہ استعمال ہوئی ہے۔

(A) 20 (B) 21
(C) 22 (D) 23

321. حضرت آدمؑ کے علاوہ جس پیغمبر کے والد نہیں تھے۔

(A) حضرت زکریاؑ (B) حضرت یحییٰؑ
(C) حضرت عیسیٰؑ (D) حضرت ادریسؑ

322. حضرت عیسیٰؑ کی جائے پیدائش ہے۔

(A) بیت المقدس (B) بیت اللہ
(C) مدینہ (D) بیت اللحم

323. حضرت عیسیٰؑ کی والدہ کا نام تھا۔

(A) حضرت زینبؓ (B) حضرت مریمؑ
(C) حضرت رقیہؓ (D) حضرت بلقیسؑ

324. حضرت مریمؑ حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش سے قبل رہائش پذیر تھیں۔

(A) ایران میں (B) ترکی میں
(C) انطاکیہ میں (D) شام میں

32. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریمؑ نے ہجرت کی۔

(A) مصر (B) شام
(C) یمن (D) اردن

326. کس پیغمبر نے چکنی مٹی اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے ایک پرندے کا مجسمہ تیار کیا اور اپنی سانس اس مٹی پر پھونکی اور اللہ کی رضا سے وہ مجسمہ حقیقت میں پروں آنکھوں اور ٹانگوں سمیت زندہ ہو گیا؟

(A) حضرت عیسیٰؑ (B) حضرت موسیٰؑ
(C) حضرت ادریسؑ (D) حضرت آدمؑ

327. درج ذیل میں سے معجزہ مسیح ہے۔

(A) چھڑی کا سانپ میں بدل جانا
(B) کوڑھ اور جذام کے مریض کا علاج
(C) ہوا میں اڑنا (D) جنات کو قابو کرنا

328. حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات سے سب سے زیادہ خوفزدہ تھے۔

(A) یہودی (B) رومی
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

329. حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے۔

(A) بیت اللحم میں (B) جودی میں
(C) قسطنطنیہ میں (D) کوئی نہیں

330. اس پہاڑ کا نام بتائیں جہاں سے حضرت عیسیٰؑ کو جنت میں لے جایا گیا؟

(A) کوہ جودی (B) کوہ طور
(C) کالوری (D) کوہ صفا

331. حضرت عیسیٰؑ کا لقب تھا۔

(A) خلیل اللہ (B) ذبیح اللہ
(C) روح اللہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

332. حضرت محمد ﷺ سے قبل آخری پیغمبر تھے۔

(A) حضرت عیسیٰؑ (B) حضرت موسیٰؑ
(C) حضرت ہارونؑ (D) حضرت زکریاؑ

333. اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینے والے پیغمبر تھے۔

(A) حضرت عیسیٰؑ (B) حضرت موسیٰؑ
(C) حضرت یعقوبؑ (D) حضرت یحییٰؑ

334. حضرت عیسیٰؑ نے اپنے بعد بطور آخری نبی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق خبر دی تھی۔ سورہ الصف کی کس آیت میں اس کا ذکر ہے؟

6 (A) | 7 (B)

8 (C) | 9 (D)

335. "میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں اس نے مجھے کتاب کے ساتھ نبوت عطا کی۔" یہ اس پیغمبر کے الفاظ ہیں جنہوں نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد اپنی نبوت کے متعلق بتایا۔ اس پیغمبر کا کیا نام تھا؟

(A) حضرت موسیٰ | (B) حضرت عیسیٰ

(C) حضرت ادریس | (D) حضرت یعقوب

336. حضرت عیسیٰ نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد جو تقریر کی اس میں ان کو کس حکم پر کن احکام کی بجا آوری کے متعلق حکم دیا گیا؟

(A) نماز | (B) زکوٰۃ

(C) دونوں

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

337. یروشلم کی تباہی سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر تک بنی اسرائیل کے راہنما تھے۔

(A) حضرت عزیرؑ | (B) حضرت یوسفؑ

(C) حضرت ذی الکفلؑ | (D) حضرت یونسؑ

338. پیغمبر جو شدید مایوسی کا شکار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سو سال کیلئے اٹھالیا۔

(A) حضرت ہارونؑ | (B) حضرت یحییٰؑ

(C) حضرت ذی الکفلؑ | (D) حضرت عزیرؑ

339. مسجد کا نام جس میں 70 پیغمبر مدفون ہیں۔

(A) مسجد نبوی | (B) مسجد اقصیٰ

(C) مسجد حرام | (D) مسجد الخیف

340. مسجد الخیف واقع ہے۔

(A) مزدلفہ | (B) صفا

(C) منیٰ | (D) مروہ

341. حضرت دانیالؑ نبی بنا کر بھیجے گئے۔

(A) بنی عبد | (B) بنی اسرائیل

(C) بنی ثمود

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

342. حضرت محمد ﷺ اللہ کے آخری نبی ہیں ان کا لقب ہے۔

(A) حبیب اللہ

(B) رسول اللہ

(C) نبی اللہ

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

343. پیغمبروں کے نام پر قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟

(D.z.o 2002)

(A) 3 | (B) 4

(C) 5 | (D) 6

1 یونس 2 ھود 3 ابراہیم 4 یوسف 5 محمد 6 نوح

344. قرآن میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟

(A) 14 | (B) 18

(C) 26 | (D) 30

345. پیغمبروں کی کل تعداد ہے۔

(A) 1,24,000 | (B) 2,24,000

(C) 3,24,000 | (D) 100000

346. جد الانبیاء حضرت ابراہیمؑ کے علاوہ جس نبی کی نسل کو نبوت عطا کی گئی۔

(A) حضرت اسحاقؑ | (B) حضرت یعقوبؑ

(C) حضرت یوسفؑ | (D) تمام

347. کس نبیؑ سے 30 سال کی عمر میں ایک قتل ہو گیا؟

(A) حضرت عیسیٰ | (B) حضرت موسیٰ

(C) حضرت یحییٰ | (D) حضرت ابراہیم

348. حضرت سلمانؑ نے بنیاد رکھی۔

(A) القرطبہ | (B) نیلی مسجد

(C) مسجد العقصیٰ | (D) کوئی نہیں

349. بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔

(A) حضرت عیسیٰؑ | (B) حضرت موسیٰؑ

(C) حضرت اسماعیلؑ | (D) حضرت عزیرؑ

350. پیغمبر جن کو اللہ نے سو سال کے لیے مردہ کر کے زندہ کر دیا تھا۔

(A) حضرت عیسیٰ
(B) حضرت ذوالکفلؑ
(C) حضرت عزیرؑ
(D) حضرت دانیالؑ

351. بیت المقدس کی تباہی کے وقت تورات کے بکھری ہوئی کاپیوں کو دوبارہ اکٹھا کیا۔

(A) حضرت عزیرؑ نے
(B) حضرت ذوالکفلؑ نے
(C) حضرت دانیالؑ نے
(D) حضرت شیثؑ نے

352. صابن کس کی ایجاد ہے؟

(A) حضرت الیاسؑ
(B) حضرت موسیٰؑ
(C) حضرت داؤدؑ
(D) حضرت صالحؑ

353. جبل سینا کا تعلق .... سے ہے۔

(A) حضرت نوحؑ
(B) حضرت زکریا
(C) حضرت یحییٰ
(D) حضرت موسیٰؑ

354. ''دعائے خلیل'' حضرت محمد مصطفےٰ کو کہتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ''نوید مسیحا'' کس کو کہتے ہیں۔

(A) حضرت عیسیٰ
(B) حضرت زکریا
(C) حضرت یحییٰ
(D) حضرت محمد ﷺ

355. کوہ سینا سے متعلق درست بیان ہے۔

(A) یہ کوہ طور کا دوسرا نام ہے
(B) یہ شام میں واقع ہے
(C) یہاں حضرت موسیٰؑ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے
(D) تمام

356. نبی جو کہ یونانی میں طرمیس اور عبرانی میں منوک کہلاتے ہیں۔

(A) حضرت الیاسؑ
(B) حضرت اسماعیلؑ
(C) حضرت یعقوبؑ
(D) حضرت ادریسؑ

357. سب سے پہلے کس پیغمبر نے انگور کی کاشت کی؟

(A) حضرت آدمؑ
(B) حضرت الیاسؑ
(C) حضرت ادریسؑ
(D) حضرت نوحؑ

358. حضرت نوحؑ پر کتنے افراد ایمان لائے؟

(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 40

359. حضرت یونسؑ کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

360. سب سے پہلے کس پیغمبر پر صحیفے اترے:

(A) حضرت ادریسؑ
(B) حضرت شیثؑ
(C) حضرت نوحؑ
(D) حضرت آدمؑ

361. حضرت صالحؑ کا ذکر قرآن میں ______ بار آیا ہے۔

(A) 2
(B) 5
(C) 9
(D) 11

362. سب سے پہلے جس پیغمبر کی قوم پر عذاب آیا۔

(A) حضرت آدمؑ
(B) حضرت شیثؑ
(C) حضرت نوحؑ
(D) حضرت ادریسؑ

363. حضرت شموئیلؑ کس قوم پر مبعوث ہوئے؟

(A) بنی اسرائیل
(B) بنی ثمود
(C) بنی عاد
(D) کوئی نہیں

364. جالوت کی وفات کے بعد کون سے نبی بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے؟

(A) حضرت شموئیلؑ
(B) حضرت ذوالکفلؑ
(C) حضرت داؤدؑ
(D) حضرت ادریسؑ

365. کس نبی نے ساری زندگی مکان تعمیر نہیں کیا؟

(A) حضرت صالحؑ
(B) حضرت آدمؑ
(C) حضرت موسیٰؑ
(D) حضرت عیسیٰؑ

366. نوح کے معنی ہیں۔

(A) عظیم
(B) آرام
(C) نیک
(D) راست باز

367. حضرت ہارونؑ کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟
(A) 15 (B) 18
(C) 20 (D) 22

368. قوم عاد کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟
(A) 2 (B) 4
(C) 6 (D) 7

369. سورۃ الصف کی آیت 6 میں ہے کہ میں (حضرت عیسیٰؑ) خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام ______ ہوگا۔
(A) احمد (B) محمود
(C) محمد (D) کوئی نہیں

370. کس نبی کی امت سے مسلط شدہ عذاب ان کی توبہ کے باعث ٹل گیا؟
(A) قوم موسیٰؑ (B) قوم لوطؑ
(C) قوم یونسؑ (D) قوم ثمودؑ

371. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟
(A) حضرت صالح علیہ السلام
(B) حضرت یحییٰ علیہ السلام
(C) حضرت شعیب علیہ السلام
(D) حضرت ابراہیم علیہ السلام

372. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا گیا اس کا نام تھا۔
(A) ہاسٹن (B) پیلاطس
(C) فریڈرک (D) ٹامسن

373. حضرت آدمؑ کے کتنے سال پہلے سے جنات دنیا میں آباد تھے؟
(A) ایک ہزار سال (B) دو ہزار سال
(C) تین ہزار سال (D) چار ہزار سال

374. حضرت آدمؑ کا پتلہ بنانے کے کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی؟
(A) 10 سال (B) 20 سال
(C) 30 سال (D) 40 سال

375. دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدمؑ نے سب سے پہلے گندم کھائی جو کہ ______ لیکر آئے تھے۔
(A) حضرت میکائیل (B) حضرت اسرافیل
(C) حضرت جبرائیل (D) کوئی نہیں

376. حضرت حواء حضرت آدمؑ کے بعد کتنا عرصہ حیات رہیں؟
(A) ایک سال (B) دو سال
(C) تین سال (D) چار سال

377. حضرت آدمؑ کے بیٹوں میں سے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی؟
(A) قابیل (B) ہابیل
(C) شیث (D) اسوہان

378. حضرت یوسفؑ کتنے دن کنویں میں رہے؟
(A) ایک دن (B) دو دن
(C) تین دن (D) چار دن

379. حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے آپ کو کتنے درھم میں بیچا؟
(A) 20 (B) 22
(C) 24 (D) 26

380. حضرت یعقوبؑ کو حضرت یوسفؑ کی قمیض کی خوشبو کتنی دور سے آگئی تھی؟
(A) 80 میل (B) 85 میل
(C) 90 میل (D) 95 میل

381. حضرت صالحؑ کی اونٹنی کو قتل کرنیوالے کا نام تھا ------
(A) قدار بن سالف (B) قدار بن عاکف
(C) قدار بن امر (D) قدار بن حمر

382. بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟
(A) حضرت محمدؐ (B) حضرت سلیمانؑ
(C) حضرت ادریسؑ (D) حضرت لقمانؑ

383. سب سے پہلے حضرت سلیمانؑ نے ------
(A) حمام اور زنبیل بنوائے
(B) سمندر سے موتی نکلوائے
(C) کبوتر پالا
(D) تمام

384. سب سے پہلے تانبے کے چشمے اللہ نے کس کے لئے ظاہر کئے؟
(A) حضرت سلیمانؑ (B) حضرت ابراہیمؑ
(C) حضرت اسماعیلؑ (D) حضرت اسحاقؑ

385. اشاع بنت فاقود کس نبی کی اہلیہ تھیں؟
(A) حضرت سلیمانؑ (B) حضرت ابراہیمؑ
(C) حضرت زکریاؑ (D) حضرت داؤدؑ

386. وہ کونسے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت سے سرفراز فرمایا؟
(A) حضرت یحییٰ (B) حضرت عیسیٰ
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

387. حضرت عیسیٰؑ کا لقب عبداللہ قرآن میں ایک مرتبہ اور لقب مسیح ------ مرتبہ مذکور ہے۔
(A) 9 (B) 10
(C) 11 (D) 12

388 سے لیکر 434 ایم سی کیوز نئے ایڈیشن میں اضافی طور پر ہیں

388. کہاں پر بنی اسرائیل کو من وسلویٰ عطا کیا گیا؟
(A) وادی سینا (B) مکہ
(C) قسطنطنیہ (D) مدینہ

389. بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد کیا تھی؟
(A) 15 (B) 10
(C) 12 (D) 14

390. جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟
(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(B) حضرت سلیمان علیہ السلام
(C) حضرت داؤد علیہ السلام
(D) حضرت یوسف علیہ السلام

391. کس نبی کی امت سے مسلط شدہ عذاب ان کی توبہ کے باعث ٹل گیا؟
(A) قوم موسیٰ (B) قوم لوط
(C) قوم یونس (D) قوم ثمود

392. حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟
(A) کنعان (B) یروشلم
(C) مدین (D) عراق

393. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟
(A) حضرت صالح علیہ السلام
(B) حضرت یحییٰ علیہ السلام
(C) حضرت شعیب علیہ السلام
(D) حضرت ابراہیم علیہ السلام

394. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا گیا اس کا نام تھا۔
(A) ٹالسٹن (B) پیلاطس
(C) فریڈرک (D) ٹامسن

395. قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟
(A) سیدنا ابراہیم علیہ السلام (B) سیدنا موسیٰ علیہ السلام
(C) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام (D) سیدنا نوح علیہ السلام

396. لفظ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟
(A) کاھن (B) یہودی
(C) عیسائی (D) عبداللہ

397. جد الانبیاء کس کا لقب ہے؟
(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت نوحؑ
(C) حضرت ابراہیمؑ (D) حضرت یعقوبؑ

398. قوم نوحؑ کتنے بتوں کی پرستش کرتی تھی؟
(A) 3 (B) 5

(C) 7　　(D) 9

399. حضرت نوحؑ کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟

(A) 45 مرتبہ　　(B) 45 مرتبہ

(C) 43 مرتبہ　　(D) 30 مرتبہ

400. ابوالانبیاء کن کو کہا جاتا ہے؟

(A) حضرت آدمؑ　　(B) حضرت موسیٰؑ

(C) حضرت اویسؑ　　(D) حضرت ابراہیمؑ

401. موسیٰ کا لفظی مطلب کیا ہے؟

(A) پانی سے نکلا ہوا　　(B) پاک

(C) کلام کرنے والا　　(D) معزز

402. نمرود نے کس پیغمبر سے محاجہ کیا؟

(A) حضرت یعقوبؑ　　(B) حضرت شعیبؑ

(C) حضرت ابراہیمؑ　　(D) حضرت اسماعیلؑ

403. قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟

(A) حضرت آدمؑ　　(B) حضرت شعیبؑ

(C) حضرت ابراہیمؑ　　(D) حضرت نوحؑ

404. جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟

(A) موسیٰؑ　　(B) عیسیٰؑ

(C) داؤدؑ　　(D) حضرت یوسفؑ

405. حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟

(A) کنعان　　(B) یروشلم

(C) مدین　　(D) عراق

406. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟

(A) حضرت صالحؑ　　(B) حضرت یحییٰؑ

(C) حضرت شعیبؑ　　(D) حضرت ابراہیمؑ

407. حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟

(A) تورات　　(B) انجیل

(C) زبور　　(D) کوئی بھی نہیں

40. خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟

(A) رسول اکرم ﷺ

(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام

(C) حضرت موسیٰ علیہ السلام

(D) حضرت شعیب علیہ السلام

409. ''ثانی آدم'' کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟

(A) حضرت ابراہیمؑ　　(B) حضرت اسحاقؑ

(C) حضرت موسیٰؑ　　(D) حضرت نوحؑ

410. حضرت موسیٰؑ کا حضرت ہارونؑ سے کیا رشتہ تھا؟

(A) باپ کا　　(B) بھائی کا

(C) چچا کا　　(D) کوئی رشتہ تھا

411. کس پیغمبر کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ چالیس دن مچھلی کے میں رہے؟

(A) حضرت یونسؑ　　(B) حضرت ہودؑ

(C) حضرت موسیٰؑ　　(D) حضرت ہارونؑ

412. عصا اور ید بیضاء کون سے نبی کے معجزات ہیں؟

(A) مکہ　　(B) حضرت یوسفؑ

(C) حضرت موسیٰؑ　　(D) حضرت یعقوبؑ

413. کلیم اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟

(A) حضرت عیسیٰؑ　　(B) حضرت اسماعیلؑ

(C) حضرت موسیٰؑ　　(D) حضرت محمد ﷺ

414. ''قرآن حکیم'' میں کل کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟

(A) 27　　(B) 21

(C) 25　　(D) 26

415. کس نبی کو ابوالبشر کہا جاتا ہے؟

(A) حضرت داؤدؑ　　(B) حضرت آدمؑ

(C) حضرت ابراہیمؑ　　(D) حضرت نوحؑ

416. ملکہ صبا (Queen Saba) کس نبی کی ہم عصر تھی؟

(A) حضرت یوسفؑ　　(B) حضرت سلیمانؑ

(C) حضرت عیسیٰؑ　　(D) حضرت ابراہیمؑ

417. حضرت داؤدؑ کا لقب کیا تھا؟

(A) خلیفۃ اللہ (B) رسول اللہ

(C) صفی اللہ (D) نجی اللہ

418. اندھوں کو بینائی عطا کرنا کس نبی کا معجزہ تھا؟

(A) حضرت یوسفؑ (B) حضرت عیسیٰؑ

(C) حضرت موسیٰؑ (D) حضرت داؤدؑ

419. خانہ کعبہ کو پہلی بار کس نے تعمیر کیا؟

(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت نوحؑ

(C) حضرت ابراہیمؑ (D) حضرت اسماعیلؑ

420. کس نبی نے جسمانی اور مالی مصائب پر صبر کی بہترین مثال پیش کی؟

(A) حضرت موسیٰؑ (B) حضرت یونسؑ

(C) حضرت ایوبؑ (D) حضرت یعقوبؑ

421. کاروباری بددیانتی کے باعث کس پیغمبر کی قوم پر عذاب اترا؟

(A) حضرت لوطؑ (B) حضرت نوحؑ

(C) حضرت ہودؑ (D) حضرت شعیبؑ

422. قرآن پاک میں ''اونٹنی کا معجزہ'' کس پیغمبرؑ سے منسوب ہے؟

(A) حضرت ہودؑ (B) حضرت نوحؑ

(C) حضرت صالحؑ (D) حضرت موسیٰؑ

423. قرآن پاک میں سب سے پہلے کس پیغمبرؑ کا ذکر آیا ہے؟

(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت موسیٰؑ

(C) حضرت عیسیٰؑ (D) حضرت نوحؑ

424. ''آب زم زم'' کا واقعہ کس پیغمبرؑ سے منسوب ہے؟

(A) حضرت اسحاقؑ (B) حضرت اسماعیلؑ

(C) حضرت ابراہیمؑ (D) حضرت یعقوبؑ

425. جد الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟

(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت موسیٰؑ

(C) حضرت ابراہیمؑ (D) حضرت عیسیٰؑ

426. حضرت خضر علیہ السلام کس بادشاہ کے ہم عصر سمجھے جاتے تھے؟

(A) ہارون (B) نمرود

(C) مامون (D) قارون

427. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟

(A) خلیل اللہ (B) صفی اللہ

(C) کلیم اللہ (D) نجی اللہ

428. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟

(A) خلیل اللہ (B) صفی اللہ

(C) کلیم اللہ (D) نجی اللہ

429. کون سے پیغمبر جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے؟

(A) حضرت ہارونؑ (B) حضرت سلیمانؑ

(C) حضرت ابراہیمؑ (D) حضرت نوحؑ

430. حضرت عیسیٰؑ کا پیشہ کیا تھا؟

(A) بڑھئی (B) لوہار

(C) چرواہے (D) کاشتکار

431. مچھروں کا عذاب کس قوم پر نازل ہوا؟

(A) حضرت ابراہیمؑ (B) حضرت اسحاقؑ

(C) حضرت داؤدؑ (D) حضرت عیسیٰؑ

432. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟

(A) 2 (B) 3

(C) 5 (D) 1

433. احکام عشر کس پر نازل ہوئے؟

(A) حضرت ابراہیمؑ (B) حضرت عیسیٰؑ

(C) حضرت موسیٰؑ (D) حضرت یعقوبؑ

434. حضرت داؤدؑ اور حکیم لقمان میں کیا رشتہ تھا؟

(A) باپ بیٹا (B) بھائی

(C) استاد شاگرد (D) ہم عصر

جوابات

1. (D)	2. (C)	3. (B)	4. (D)	5. (B)	6. (C)	7. (C)	8. (B)
9. (C)	10. (A)	11. (C)	12. (D)	13. (C)	14. (C)	15. (C)	16. (A)
17. (B)	18. (B)	19. (B)	20. (B)	21. (D)	22. (A)	23. (B)	24. (D)
25. (A)	26. (A)	27. (A)	28. (B)	29. (D)	30. (A)	31. (A)	32. (B)
33. (D)	34. (D)	35. (A)	36. (B)	37. (B)	38. (D)	39. (B)	40. (C)
41. (A)	42. (A)	43. (B)	44. (A)	45. (D)	46. (A)	47. (B)	48. (A)
49. (D)	50. (A)	51. (D)	52. (A)	53. (B)	54. (A)	55. (B)	56. (C)
57. (A)	58. (D)	59. (C)	60. (B)	61. (A)	62. (C)	63. (C)	64. (B)
65. (B)	66. (A/C)	67. (A)	68. (A)	69. (A)	70. (B)	71. (A)	72. (C)
73. (C)	74. (D)	75. (D)	76. (D)	77. (C)	78. (C)	79. (A)	80. (B)
81. (A)	82. (C)	83. (A)	84. (C)	85. (A)	86 (B)	87. (A)	88. (C)
89. (C)	90. (C)	91. (C)	92. (D)	93. (A)	94. (D)	95. (A)	96. (C)
97. (C)	98. (A)	99. (B)	100. (D)	101. (B)	102. (C)	103. (C)	104. (C)
105. (C)	106. (C)	107. (D)	108. (A)	109. (D)	110. (C)	111. (B)	112. (D)
113. (A)	114. (B)	115. (B)	116. (B)	117. (A)	118. (C)	119. (C)	120. (A)
121. (D)	122. (C)	123. (A)	124. (C)	125. (A)	126. (B)	127. (C)	128. (D)
129. (C)	130. (A)	131. (B)	132. (D)	133. (A)	134. (B)	135. (C)	136. (D)
137. (C)	138. (B)	139. (D)	140. (A)	141. (D)	142. (A)	143. (C)	144. (B)
145. (C)	146. (C)	147. (A)	148. (D)	149. (C)	150. (C)	151. (A)	152. (D)
153. (C)	154. (B)	155. (C)	156. (A)	157. (A)	158. (B)	159. (A)	160. (B)
161. (A)	162. (B)	163. (B)	164. (C)	165. (B)	166. (C)	167. (C)	168. (B)
169. (A)	170. (C)	171. (A)	172. (D)	173. (C)	174. (B)	175. (A)	176. (B)
177. (A)	178. (C)	179. (A)	180. (D)	181. (C)	182. (D)	183. (A)	184. (B)
185. (D)	186. (C)	187. (B)	188. (B)	189. (A)	190. (C)	191. (B)	192. (A)
193. (B)	194. (C)	195. (C)	196. (D)	197. (C)	198. (C)	199. (C)	200. (C)
201. (B)	202. (C)	203. (A)	204. (A)	205. (C)	206. (C)	207. (A)	208. (B)

209. (A)	210. (D)	211. (A)	212. (B)	213. (B)	214. (B)	215. (D)	216. (C)
217. (A)	218. (B)	219. (D)	220. (A)	221. (B)	222. (B)	223. (B)	224. (C)
225. (B)	226. (C)	227. (D)	228. (C)	229. (B)	230. (A)	231. (A)	232. (B)
233. (C)	234. (C)	235. (A)	236. (B)	237. (A)	238. (D)	239. (C)	240. (B)
241. (A)	242. (B)	243. (A)	244. (C)	245. (D)	246. (C)	247. (A)	248. (A)
249. (A)	250. (B)	251. (D)	252. (C)	253. (B)	254. (D)	255. (B)	256. (A)
257. (A)	258. (D)	259. (B)	260. (C)	261. (B)	262. (B)	263. (C)	264. (B)
265. (A)	266. (B)	267. (B)	268. (A)	269. (C)	270. (C)	271. (A)	272. (B)
273. (A)	274. (A)	275. (A)	276. (B)	277. (D)	278. (B)	279. (B)	280. (B)
281. (B)	282. (B)	283. (B)	284. (C)	285. (A)	286. (B)	287. (A)	288. (C)
289. (B)	290. (B)	291. (B)	292. (A)	293. (B)	294. (A)	295. (B)	296. (A)
297. (C)	298. (B)	299. (B)	300. (C)	301. (C)	302. (B)	303. (C)	304. (C)
305. (D)	306. (A)	307. (A)	308. (A)	309. (A)	310. (C)	311. (A)	312. (B)
313. (C)	314. (C)	315. (A)	316. (C)	317. (A)	318. (D)	319. (C)	320. (D)
321. (C)	322. (D)	323. (B)	324. (C)	325. (A)	326. (A)	327. (B)	328. (C)
329. (A)	330. (C)	331. (C)	332. (A)	333. (A)	334. (A)	335. (B)	336. (C)
337. (C)	338. (D)	339. (D)	340. (C)	341. (B)	342. (A)	343. (D)	344. (C)
345. (A)	346. (D)	347. (B)	348. (C)	349. (A)	350. (C)	351. (A)	352. (D)
353. (D)	354. (D)	355. (D)	356. (D)	357. (D)	358. (D)	359. (D)	360. (B)
361. (C)	362. (C)	363. (A)	364. (C)	365. (A)	366. (B)	367. (C)	368. (D)
369. (A)	370. (C)	371. (C)	372. (B)	373. (B)	374. (D)	375. (C)	376. (A)
377. (A)	378. (C)	379. (B)	380. (A)	381. (A)	382. (B)	383. (D)	384. (A)
385. (C)	386. (C)	387. (C)	388. (A)	389. (C)	390. (C)	391. (C)	392. (C)
393. (C)	394. (B)	395. (B)	396. (D)	397. (C)	398. (B)	399. (C)	400. (D)
401. (A)	402. (C)	403. (C)	404. (C)	405. (C)	406. (C)	407. (C)	408. (D)
409. (D)	410. (B)	411. (A)	412. (C)	413. (C)	414. (D)	415. (B)	416. (B)
417. (A)	418. (B)	419. (A)	420. (C)	421. (D)	422. (C)	423. (A)	424. (B)
425. (C)	426. (B)	427. (C)	428. (A)	429. (B)	430. (A)	431. (A)	432. (C)
433. (C)	434. (C)						

عرب قبل از اسلام

1. جزیرہ نما عرب کے مشرق میں حیرہ اور .... کے علاقے واقع تھے۔
(A) دریائے فرات (B) دجلہ
(C) خلیج فارس (D) تینوں درست ہیں

2. جزیرہ نما عرب کے شمال میں واقع تھا۔
(A) فلسطین کا صحرا (B) شام کا صحرا
(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

3. جزیرہ نما عرب کے ....
(A) جنوب میں بحیرۂ ہند واقع ہے
(B) مغرب میں بحیرۂ احمر واقع ہے
(C) دونوں (D) دونوں غلط ہیں

4. سب سے بڑے جزیرہ نما عرب کا کل رقبہ ہے۔
(A) 30 لاکھ مربع کلومیٹر (B) 20 لاکھ مربع کلومیٹر
(C) 15 لاکھ مربع کلومیٹر (D) 25 لاکھ مربع کلومیٹر

5. عرب کا لفظ عربہ سے نکلا ہے۔ عربہ کے معنی ہیں۔
(A) صحرا (B) ریت
(C) پہاڑ (D) دریا

6. جزیرہ نما عرب کا صحرا پر مشتمل کل حصہ ہے۔
(A) ایک چوتھائی (B) دو چوتھائی
(C) تین چوتھائی (D) چار چوتھائی

7. عرب کا سب سے بڑا صحرا جس کا ایک تہائی حصہ گھیرا ہوا ہے۔
(A) رہا وہران (B) رہائے نور
(C) صحرائے خالی
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

8. عرب میں پہاڑوں کا سلسلہ جنوب میں یمن سے شروع ہوا ہے۔ یہ شمال میں .... پھیلا ہوا ہے۔
(A) فلسطین تک (B) شام تک
(C) اسرائیل تک (D) اردن تک

9. جزیرہ نما عرب کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔
(A) جبل السراط (B) جبل القطاریک
(C) جبل العریض (D) ان میں سے کوئی نہیں

10. جبل السراط کے نیچے واقع عرب کا سب سے بڑا صوبہ۔
(A) مکہ (B) حجاز
(C) طائف
(D) ان میں سے کوئی نہیں

11. حجاز کا مشہور شہر۔
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) طائف (D) تینوں

12. جبل السراط کے سب سے بڑے پہاڑ کی اونچائی۔
(A) 12000 میٹر (B) 12871 میٹر
(C) 12889 میٹر (D) 12890 میٹر

13. جغرافیائی لحاظ سے عرب مشتمل ہے تہامہ، حجاز، نجد، یمن اور ....
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) عمان (D) عروض (Aarooz)

14. عرب کو جزیرۃ العرب اس صحرا کی وجہ سے کہا جاتا ہے جو اسے شمال سے علیحدہ کرتا ہے۔ اس صحرا کا نام۔
(A) العریض (B) النفوذ
(C) النجد (D) الحلیف

15. حجاز کس کے ساتھ واقع ہے؟
(A) قلزم اور احمر (B) ریاض
(C) شام (D) دمشق

16. آسمانی کتاب جس میں حجاز کو فاران کہا گیا ہے۔
(A) زبور (B) توریت
(C) قرآن (D) انجیل

17. حجاز کا زیادہ تر حصہ صحرا پر مشتمل ہے بحیرہ احمر کے ساحل پر حجاز کی بندرگاہ ہے۔
(A) جدہ (B) ینبوع
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

18. جدہ نامی بندرگاہ جس شہر کے قریب واقع ہے۔
(A) مکہ (B) ریاض
(C) طائف (D) بغداد

19. ینبوع بندرگاہ جس شہر کے نزدیک واقع ہے۔
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) کوفہ (D) بصرہ

20. نجد کا مطلب ہے۔
(A) ٹیلہ (B) میدان
(C) پہاڑ (D) صحرا

21. 12ویں صدی کے مشہور مذہبی لیڈر جن کا تعلق نجد سے تھا۔
(A) محمد بن عبدالوہاب (B) محمد بن قاسم
(C) محمد بن ہاشم (D) محمد بن عبداللہ

22. عرب کا گنجان اور زرخیز علاقہ جو کہ اسلام سے پہلے بھی بہت ترقی یافتہ تھا۔
(A) یمن (B) مصر
(C) شام (D) فلسطین

23. مقدس کتاب جس میں حمیری قبیلے کے بنے ہوئے سد مارب ڈیم کا ذکر ہے۔
(A) توریت (B) قرآن
(C) انجیل (D) زبور

24. یمن میں آباد سب سے مہذب قوم تھی۔
(A) سبا (B) حمیر
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

25. یمن کا ایرانی گورنر جس نے آنحضورؐ کے دور میں اسلام قبول کیا تھا۔
(A) باذان (B) قیس
(C) خسرو (D) عبس

26. یمن اور حجاز کے درمیان پھیلا تہامہ بحیرہ احمر کے ساحل سے لے کر کہاں تک واقع ہے؟
(A) کوہ سراۃ (B) ربع خالی
(C) بحیرہ اوقیانوس (D) ان میں سے کوئی نہیں

27. تہامہ کے معنی ہیں۔
(A) نشیبی زمین (B) بلند زمین
(C) چوڑی زمین (D) کھلی زمین

28. عروض کا مشہور علاقہ۔
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) کوفہ (D) یمامہ

29. عرب میں سبا کی قوم کی حکومت ختم کی تھی۔
(A) سریق نے (B) حمیر نے
(C) قریش نے (D) ان میں سے کوئی نہیں

30. عمان کے دارالحکومت کا نام ہے۔
(A) مسقط (B) بحرین
(C) قاہرہ (D) حجاز

31. یمن کا دارالحکومت ہے۔
(A) قاہرہ (B) صنعا
(C) حبشہ (D) طرپولی (Tripoli)

32. سرزمین عرب کا سمندری موتیوں کیلئے مشہور علاقہ ہے۔
(A) یمن (B) بحرین
(C) عمان (D) مسقط

33. ''ربع خالی'' میں قبل از اسلام جو مشہور قوم بستی تھی۔
(A) عاد (B) ثمود
(C) دونوں (D) دونوں ہی نہیں

34. طلوع اسلام کے وقت عرب کی کون سی بندرگاہ تھی جو یمن میں واقع ہے؟
(A) عریض (B) ربع
(C) صحارا (D) عدن

35. عرب کا سب سے زرخیز علاقہ ہے۔
(A) نجد (B) عریض
(C) تہامہ (D) یمن

36. عرب کے ساحل پر واقع علاقہ جو یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے۔
(A) حضرموت (B) نجد
(C) عریض (D) حجاز

37. عرب بائدہ اور عرب مستعربہ نامی قومیں آباد تھیں۔
(A) عرب میں (B) شام میں
(C) عراق میں (D) فلسطین میں

38. عرب مستعربہ جو حجاز میں آباد تھے وہ کس کی نسل سے تعلق رکھتے تھے؟
(A) حضرت شیثؑ (B) حضرت ادریسؑ
(C) حضرت اسماعیلؑ (D) حضرت ابراہیمؑ

39. عرب کا کون سا خاندان ہے جو عرب مستعربہ کی نسل سے تعلق رکھتا ہے؟
(A) بنو اسد (B) بنو عدی
(C) قریش (D) بنو تمیم

40. عرب مستعربہ کا دوسرا نام تھا۔
(A) عدنانی (B) مصری
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

41. عرب مستعربہ کو ______
(A) بنی عدنان بھی کہا جاتا ہے
(B) بنی عرفان بھی کہا جاتا ہے
(C) بنی قریش بھی کہا جاتا ہے
(D) بنی خزیمہ بھی کہا جاتا ہے

42. عدنان کا تعلق تھا۔
(A) حضرت اسماعیلؑ کی 38ویں نسل سے
(B) حضرت اسماعیلؑ کی 39ویں نسل سے
(C) حضرت اسماعیلؑ کی 40ویں نسل سے
(D) حضرت اسماعیلؑ کی 41ویں نسل سے

43. عرب میں جس خاندان کے بادشاہ کو ''طائع'' کہا جاتا ہے۔
(A) عرب عاربہ (B) عرب مستعربہ
(C) عرب بائدہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

44. عرب بائدہ کا مطلب ہے۔
(A) کامیاب عرب
(B) معدوم عرب/ہلاک شدہ عرب
(C) ماتم والے عرب (D) ان میں سے کوئی نہیں

45. عرب عاربہ جس علاقے میں آباد تھے۔
(A) بابل (B) ترکی
(C) قاہرہ (D) یمن

46. عرب بائدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟
(A) قحطانی (B) حمیری
(C) یمنی (D) تمام

47. جس قبیلے نے زرعی آبپاشی کیلئے ڈیم تعمیر کیا تھا۔
(A) قریش (B) حمیر
(C) عدی (D) ان میں سے کوئی نہیں

48. حمیری قبیلے نے 40 کلومیٹر لمبا ڈیم تعمیر کیا تھا' جس کا نام تھا۔
(A) حمیر (B) سد مارب
(C) منات (D) ان میں سے کوئی نہیں

49. معینی حکومت کا عرصہ حکومت تھا۔
(A) 650ق م سے 1100ق م تک

(B) 650ق م سے1200ق م تک
(C) 650ق م سے1300ق م تک
(D) 650ق م سے1400ق م تک

50. عرب میں خاندان سباء کا عرصہ حکومت تھا۔
(A) 115ق م سے980ق م تک
(B) 115ق م سے970ق م تک
(C) 115ق م سے960ق م تک
(D) 115ق م سے950ق م تک

51. اسلام سے پہلے غالب مذہب تھا۔
(A) ہندو (B) یہودیت
(C) عیسائیت (D) زرتشت

52. معینی حکومت نے جس علاقے پر حکومت کی؟
(A) یمن سے عمان (B) نجد
(C) نجران سے حضر موت (D) حضر موت

53. اسلام سے پہلے عرب پوجا کرتے تھے۔
(A) ستارے (B) چاند
(C) بت (D) ان میں سے کوئی نہیں

54. قبل از اسلام خانہ کعبہ کی چھت پر سب سے اونچا نصب شدہ بت تھا۔
(A) ہبل (B) ود
(C) منات (D) اُمی

55. قبیلہ بنوثقیف لات نامی بت کی پوجا کرتا تھا جو کہ نصب تھا۔
(A) مکہ میں (B) کعبہ میں
(C) مدینہ میں (D) طائف میں

56. منات کا بت مکہ اور مدینہ کے درمیان نصب تھا جس کی پوجا کرتا تھا۔
(A) اوس (B) خزرج
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

57. عزیٰ جس قبیلے کا بت تھا۔
(A) قریش (B) کنانہ
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

58. اسلام سے پہلے عرب جس بت کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی قرار دیتے تھے۔
(A) لات (B) منات
(C) عزیٰ (D) تمام

59. اسلام سے پہلے عرب جس بت کی پوجا کو لازمی فریضہ حج قرار دیتے تھے۔
(A) لات (B) منات
(C) ہبل (D) ود

60. کون سا قبیلہ ود (WOD) نامی بت کی پوجا کرتا تھا؟
(A) بنوثقیف (B) بنواسد
(C) بنوہشام (D) بنوکلب

61. کعبہ میں نصب بتوں کی کل تعداد تھی۔
(A) 300 (B) 360
(C) 400 (D) 460

62. اسلام سے قبل علم و دولت کے لحاظ سے بڑا مذہب تھا۔
(A) یہودیت (B) عیسائیت
(C) مجوسیت (D) کوئی نہیں

63. یہودی کس کو بد دیانت، بے وفا اور ظالم قرار دیتے تھے؟
(A) امی (B) یمنی
(C) مصری (D) ان میں سے کوئی نہیں

64. امی کا مطلب ناخواندہ ہے، یہودی کس کو امی کہتے تھے؟
(A) عرب (B) ہندو
(C) عیسائی (D) ان میں سے کوئی نہیں

65. عیسائیت عربوں تک پہنچی۔
(A) روم کی عیسائی حکومت کے ذریعے
(B) حبشہ کے ذریعے
(C) دونوں ذرائع سے
(D) ان میں سے کوئی نہیں

66. عرب جس کو صابی کہتے تھے۔
(A) چاند کی پوجا کرنے والا
(B) سورج کی پوجا کرنے والا
(C) ستاروں کی پوجا کرنے والا
(D) بتوں کی پوجا کرنے والا

67. قبل از اسلام میں کنان نامی قبیلہ۔
(A) چاند کی پوجا کرتا تھا (B) سورج کی پوجا کرتا تھا
(C) جانوروں کی پوجا کرتا تھا (D) پودوں کی پوجا کرتا تھا

68. زمین پر سب سے پہلا پھل دار درخت۔
(A) آم (B) سیب
(C) زیتون (D) کھجور

69. اسلام سے پہلے بنو تمیم کا مذہب تھا۔
(A) زرتشت (B) پارسی
(C) یہودیت (D) عیسائیت

70. عرب کا وہ شخص جو دین ابراہیمی کی تلاش میں شام گیا۔
(A) زید ابن عمرو (B) زید ابن عتبہ
(C) زید ابن حسن (D) زید ابن حکام

71. حضور اکرم کی بعثت سے قبل جس نے مشرکانہ تعلیمات کو جھٹلایا اور عقیدہ توحید کے قریب تک پہنچ گیا / گئے۔
(A) زید بن عمرو اور ورقہ ابن نوفل
(B) عبداللہ ابن جحش
(C) عثمان ابن حدث (D) یہ تمام

72. "بسوس" نامی بوڑھی عورت جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔
(A) قیس (B) قریش
(C) بنی بکر (D) اوس

73. بسوس کی پچاس سالہ جنگ جن قبائل کے درمیان لڑی گئی تھی۔
(A) بنی بکر اور قریش (B) بنی بکر اور بنی تغلب
(C) بنی بکر اور بنی قیس (D) بنی بکر اور بنی اسد

74. قبائل جن کے درمیان حرب قیس جسے داحس وغبرا بھی کہتے ہیں لڑی گئی۔
(A) تمیم اور ثقیف (B) عبس اور ذبیان
(C) قریش اور اسد (D) ان میں سے کوئی نہیں

75. حرب قیس نامی جنگ گھوڑوں کی دوڑ میں حمل ابن بدر کی بدولت کی وجہ سے لڑی گئی۔ داحس نام تھا۔
(A) حمل ابن بدر کے گھوڑا کا
(B) قیس ابن زہیر کے گھوڑے کا
(C) قیس ابن زہیر کی گھوڑی کا
(D) حمل ابن بدر کی گھوڑی کا

76. غبرا نام تھا۔
(A) حمل ابن بدر کا گھوڑا کا
(B) حمل ابن بدر کی گھوڑی کا
(C) قیس ابن زہیر کا گھوڑا کا
(D) قیس ابن زہیر کی گھوڑی کا

77. حرب قیس لڑی گئی۔
(A) 50 سال (B) 40 سال
(C) 30 سال (D) 20 سال

78. چار جنگوں پر محیط حرب فجار کو عرب جس نام سے یاد کرتے تھے۔
(A) ایام العرب (B) فجار العرب
(C) حرب العرب (D) ان میں سے کوئی نہیں

79. حرب فجار کی چار لڑائیوں میں سے تین لڑائیوں میں کس قبیلے نے حصہ لیا تھا؟
(A) بنی بکر (B) بنی اسد
(C) قریش (D) بنی تمیم

80. عرب محرم رجب اور ______ میں لڑائی حرام سمجھتے تھے۔
(A) ذی قعدہ (B) ذی الحج
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

81. کون سی جنگ مقدس مہینوں میں لڑی گئی؟

(A) حرب قیس (B) حرب بسوس

(C) حرب عبس (D) حرب فجار

82. ابرہہ نے کس جگہ چرچ تعمیر کر کے لوگوں کو اس کے طواف کا حکم دیا تھا؟

(A) صنعا (B) مکہ

(C) طوبیٰ (D) مدینہ

83. ابرہہ نے کعبہ پر کب حملہ کیا۔

(A) 570ء (B) 571ء

(C) 572ء (D) 573ء

84. ابرہہ کی فوج کو ختم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جنہوں نے پتھر پھینک کر ابرہہ کی فوج کو ختم کر دیا۔ قرآن کی کس سورت میں اس واقعہ کا ذکر ہے؟

(A) سورۃ الفیل (B) سورۃ الفلق

(C) سورۃ العلق (D) سورۃ الناس

85. ابرہہ اشرام کون تھا؟

(A) شام کا بادشاہ (B) عمان کا بادشاہ

(C) عراق کا بادشاہ (D) یمن کا بادشاہ

86. فیل کا مطلب ہے۔

(A) ہاتھی (B) اونٹ

(C) بکری (D) گھوڑا

87. مکہ کو جس اور نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(A) ام القریٰ (B) بلد الامین

(C) بکہ (D) تینوں

88. مکہ کی سیاسی زندگی کا آغاز جس شخصیت سے ہوا۔

(A) قصیٰ (B) عبس

(C) ذی بان (D) سبوس

89. قصیٰ کا تعلق جس قبیلے سے تھا۔

(A) بنی اسد (B) قریش

(C) تمیم (D) قیس

90. قصیٰ مکہ کا پہلا جمہوری حکمران تھا جس نے ______

(A) دارالندوہ قائم کیا (B) الآلوہ قائم کیا

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

91. دارالندوہ عربوں کا پہلا اسمبلی ہال کہلاتا ہے جہاں جن مسائل پر اجتماعی بحث ہوتی تھی۔

(A) سیاسی اور اجتماعی مسائل (B) سماجی اور مذہبی مسائل

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

92. جغرافیہ دانوں نے عرب کو ______

(A) 5 حصوں میں تقسیم کیا (B) 7 حصوں میں تقسیم کیا

(C) 9 حصوں میں تقسیم کیا (D) 12 حصوں میں تقسیم کیا

93. الآلوہ کیا تھا؟

(A) وزارت دفاع (B) وزارت خارجہ

(C) وزارت اطلاع (D) وزارت مذہبی امور

94. مکہ میں مختلف قبائل مختلف فرائض سرانجام دیتے تھے ان میں بنی ہاشم کا فرض تھا۔

(A) خانہ کعبہ کے امور سنبھالنا

(B) حجاج کرام کو خوراک کی فراہمی

(C) زم زم اور دوسرے چشموں کا کنٹرول

(D) تمام

95. بنی امیہ کا کام تھا۔

(A) جنگ میں فوج کی نمائندگی کرنا

(B) جنگ میں علم کو بلند رکھنا

(C) دونوں

(D) ان میں سے کوئی نہیں

96. بعثتِ نبوی کے وقت مکہ و مدینہ میں کون سا مذہب رو بہ عمل تھا؟

(A) یہودیت، عیسائیت (B) صابی و مشرکین

(C) حنفاء (D) تمام

97. حجاج کو پانی کی فراہمی ذمہ داری تھی۔

(A) عباس ابن عبدالمطلب کی

(B) حمزہ ابن عبدالمطلب کی
(C) طلحہ ابن عبدالمطلب کی
(D) طارق ابن عبدالمطلب کی

98. قبائل کو منظم رکھنے کا فریضہ کون سا قبیلہ سرانجام دیتا تھا؟
(A) بنی امیہ (B) بنی عدی
(C) بنی اسد (D) بنی نوفل

99. کون سا ادارہ بنی تمیم کے پاس تھا؟
(A) قومی کونسل (B) بیت المال
(C) دارالندوہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

100. فوج کے کیمپ کا قیام کس قبیلے کی ذمہ داری تھی؟
(A) بنی اسد (B) بنی تمیم
(C) بنی مخذوم (D) بنی نوفل

101. بنی اسد کی ذمہ داری تھی۔
(A) اجتماع بلانا (B) خانہ کعبہ کا انتظام
(C) قوانین بنانا (D) قومی کانفرنس کا انتظام

102. غریب حجاج کی دیکھ بھال جس قبیلے کے ذمہ تھی۔
(A) بنی اسد (B) بنی نوفل
(C) بنی عدی (D) بنی ہشام

103. اسلام سے پہلے عرب میں مذاہب تھے۔
(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

104. اسلام سے پہلے مدینہ میں یہودیوں کے قبیلے آباد تھے۔
(A) 2 (B) 10
(C) 3 (D) 8

105. اسلام سے قبل عرب میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے۔
(A) 8 (B) 12
(C) 15 (D) 20

106. زمانہ قبل از اسلام میں کن مواقع پر عرب لوگ اپنے گھروں میں دروازے سے داخل ہونے کے بجائے اپنے گھروں کی دیواروں کو پھلانگ کر یا کھڑکیوں کے ذریعے اندر داخل ہوتے تھے؟
(A) حج کا احرام پہننے کے بعد (B) سفر سے واپسی پر
(C) دونوں مواقع پر (D) جنگ کے دوران

107. عرب جن لوگوں کے اعضا کاٹ کر انہیں قتل کرتے تھے۔
(A) جنگی قیدی
(B) فرائض میں بددیانتی برتنے والے
(C) منافق
(D) بتوں کی پوجا کرنے والے

108. عرب قبائل کے سردار کا نام ہوتا تھا۔
(A) شیخ (B) امین
(C) امیر (D) آقا

109. صحرا میں رہنے والے عرب کہلاتے تھے۔
(A) بدو (B) شیخ
(C) حضری (D) ان میں سے کوئی نہیں

110. دیہاتوں میں رہائش پذیر عرب کہلاتے تھے۔
(A) حضری (B) بدو
(C) سہیل (D) ان میں سے کوئی نہیں

111. عرب کے قبائل کس نسل سے تعلق رکھتے تھے؟
(A) سامی (B) قحطانی
(C) حمیری (D) یمنی

112. اسلام سے پہلے عربوں کے منعقد کردہ میلے کہاں پر لگتے تھے؟
(A) عکاظ (B) مکہ
(C) طائف (D) قاہرہ

113. کون سا عرب امیر خیال کیا جاتا تھا؟
(A) تاجر (B) نخلستان کا مالک
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

114. قبل از اسلام کا عرب قبائلی نظام پر مشتمل تھا اور اس کے لوگ قبائل کے وفادار تھے کیونکہ:
(A) یہ ایک مستقل لڑائی کا ذریعہ تھے۔
(B) یہ ایک سیاسی ادارہ تھا۔
(C) یہ لوگوں کے لئے عزت و آبرو کا ذریعہ تھا۔
(D) کوئی نہیں۔

115. عرب قبل از اسلام طویل عرصے تک غیر ملکی غلبے سے آزاد رہا کیونکہ۔
(A) ان کے دیگر ممالک کے ساتھ دلی تعلقات تھے۔
(B) یہ ایک صحرا تھا۔
(C) عرب جنگجو تھے اور دیگر ممالک ان سے لڑنا نظر انداز کرتے تھے۔
(D) انہوں نے اپنے سفیر دیگر ممالک میں بھیجے تھے۔

116. عرب قبل از اسلام کے لوگ اقتصادی طور پر کمزور تھے، ان کا اہم ذریعہ آمدن تھا۔
(A) ملکی اور غیر ملکی کاروبار۔
(B) مویشیوں کو پالنا۔
(C) عشر کا نظام۔
(D) طیف، مدینہ اور یمن میں کاشتکاری۔

117. عرب قبل از اسلام میں "ربا" معاشی نظام میں ریڑھ کی ہڈی تھا، اس کی اہم شکلوں میں ایک یہ تھا کہ۔
(A) زمیندار لوگوں کو بھاری سود پر رقم دیتے تھے۔
(B) قرض خواہ قرض نہ ملنے پر قرض دار کی بیوی اور بچوں کو لے لیتے تھے۔
(C) قرض دار کو دو دن کی مہلت دی جاتی تھی۔
(D) کوئی نہیں۔

118. مکہ اور مدینہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟
(A) 100 کلومیٹر (B) 200 کلومیٹر
(C) 300 کلومیٹر (D) 450 کلومیٹر

119. حبشہ کی عرب میں مشہوری کی وجہ یہ تھی کہ وہ۔
(A) عرب سے متصل تھا۔
(B) اس کی دفاعی اہمیت بہت تھی۔
(C) یہ افریقہ میں بحیرہ احمر کو کراس کرنے کے بعد واقع تھا۔
(D) اس کے لوگ بہت محبت کرنے والے تھے۔

120. جغرافیائی لحاظ سے عراق عرب کا حصہ تھا۔ یہ اس وقت صوبہ تھا۔
(A) سلطنت فارس کا
(B) بے بی لونیا کا
(C) مسوپوٹیمیا کا
(D) وسط ایشیائی ریاستوں کا

121. قریش کا خطاب ملا ________
(A) فہر بن مالک کو (B) فہر بن ابراہیم کو
(C) فہر بن قیس کو (D) کوئی نہیں

122. ہاشم کے لغوی معنی ہیں۔
(A) جوڑنے والا (B) توڑنے والا
(C) زمین سے جڑا (D) آسمان سے قریب

123. قریش میں تولیت کعبہ سب سے پہلے ملی۔
(A) فہر کو (B) عبدالمطلب کو
(C) ابوطالب کو (D) قصیٰ کو

124. عبد مناف کے بعد قریش کی قیادت سنبھالی۔
(A) فہر بن مالک نے (B) قصیٰ نے
(C) ہاشم نے (D) کوئی نہیں

125. امیہ اولاد تھے۔
(A) عبدالشمس کی (B) قصیٰ کی
(C) مناف کی (D) کوئی نہیں

126. حرب فجار کے وقت آپ کی عمر مبارک تھی۔
(A) 13 سال (B) 14 سال
(C) 15 سال (D) 16 سال

127. قرآن مجید کے مطابق اصحاب کہف سوئے رہے۔
(A) 100 سال (B) 150 سال
(C) 280 سال (D) 309 سال

128. خانہ کعبہ کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ۔
(A) یہ ایک مکعب عمارت ہے
(B) یہ ایک تکونی عمارت ہے
(C) یہ ایک چوکور عمارت ہے
(D) کوئی نہیں

129. ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔
(A) 530ء (B) 550ء
(C) 570ء (D) 600ء

130. بغداد آباد ہوا۔
(A) 670ء (B) 671ء
(C) 672ء (D) 673ء

131. یاجوج ماجوج کو پس دیوار کس نے بند کیا؟
(A) سلیمان (B) ذوالقرنین
(C) سکندر (D) ان میں سے کوئی نہیں

132. مکہ میں بت پرستی کی ابتداء کس نے کی؟
(A) ابوجہل (B) عمرو بن لحی
(C) ابرھہ (D) کرز بن جابر

133. عرب خطرے کا اعلان کیسے کرتے تھے؟
(A) آگ لگا کر (B) تالیاں پیٹ کر
(C) یا صباحاہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

134. کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟
(A) الات (B) منات
(C) عزیٰ (D) ہبل

135. قریش کے سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟
(A) لات (B) منات
(C) ہبل (D) یعوق

136. وادی بطحاء کہاں واقع ہے؟
(A) اردن (B) مصر
(C) مدینہ منورہ (D) مکہ معظمہ

137. عربوں کا پسندیدہ مشروب ہے؟
(A) ستو (B) گنے کا رس
(C) کھجور کی نبیذ (D) انگور کا رس

131 سے 137 تک ایم سی کیوز اضافی ایم سی کیوز ہیں

جوابات

1. (D)	2. (C)	3. (C)	4. (A)	5. (A)	6. (C)	7. (C)	8. (B)
9. (A)	10. (B)	11. (D)	12. (A)	13. (D)	14. (B)	15. (A)	16. (D)
17. (C)	18. (A)	19. (B)	20. (A)	21. (A)	22. (C)	23. (B)	24. (C)
25. (A)	26. (A)	27. (A)	28. (D)	29. (B)	30. (A)	31. (B)	32. (B)
33. (C)	34. (D)	35. (D)	36. (D)	37. (A)	38. (C)	39. (C)	40. (C)
41. (A)	42. (C)	43. (B)	44. (B)	45. (A)	46. (D)	47. (B)	48. (B)
49. (C)	50. (B)	51. (B)	52. (C)	53. (C)	54. (A)	55. (D)	56. (C)
57. (C)	58. (C)	59. (C)	60. (D)	61. (B)	62. (A)	63. (A)	64. (A)
65. (C)	66. (C)	67. (A)	68. (D)	69. (B)	70. (A)	71. (D)	72. (C)
73. (B)	74. (B)	75. (B)	76. (B)	77. (B)	78. (A)	79. (C)	80. (C)
81. (D)	82. (A)	83. (B)	84. (A)	85. (D)	86 (A)	87. (D)	88. (A)
89. (B)	90. (C)	91. (C)	92. (C)	93. (A)	94. (D)	95. (C)	96. (D)
97. (A)	98. (B)	99. (B)	100. (C)	101. (D)	102. (B)	103. (C)	104. (C)
105. (C)	106. (C)	107. (A)	108. (A)	109. (A)	110. (B)	111. (A)	112. (A)
113. (C)	114. (A)	115. (C)	116. (B)	117. (A)	118. (D)	119. (A)	120. (A)
121. (A)	122. (B)	123. (D)	124. (C)	125. (A)	126. (C)	127. (D)	128. (A)
129. (C)	130. (A)	131. (B)	132. (B)	133. (C)	134. (D)	135. (C)	136. (D)
137. (A)							

مدینہ منورہ

1. حضورؐ کا قبا میں ورود ہوا۔
(A) 10 ستمبر 622ء (B) 15 ستمبر 622ء
(C) 20 ستمبر 622ء (D) 25 ستمبر 622ء

2. قبیلہ جہاں قبا میں قیام کیا۔
(A) بنو عمرو بن عوف (B) بنو نجار
(C) بنو اشہل (D) بنو عدی

3. بنو عمرو بن عوف کے سردار تھے۔
(A) ابو ایوبؓ (B) کلثومؓ
(C) ابو طلحہؓ (D) ابو دجانہؓ

4. حضورؐ قبا میں ٹھہرے۔
(A) 11 دن (B) 12 دن
(C) 13 دن (D) 14 دن

5. حضورؐ قبا سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔
(A) 4 اکتوبر 622ء (B) 6 اکتوبر 622ء
(C) 8 اکتوبر 622ء (D) 10 اکتوبر 622ء

6. مدینہ منورہ کی بندرگاہ کہلاتی ہے۔
(A) جدہ (B) ینبوع
(C) دمام (D) تبوک

7. ینبوع جس سمندر کے کنارے ہے۔
(A) خلیج عدن (B) خلیج فارس
(C) بحیرہ عرب (D) بحیرہ احمر

8. مدینہ منورہ سے بندرگاہ دور ہے۔
(A) 110 میل (B) 120 میل
(C) 130 میل (D) 140 میل

9. ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی آبادی تھی۔
(A) 500 (B) 1000
(C) 1500 (D) 2000

10. حضورؐ نے یثرب کے بخار کو منتقل ہو جانے کی دعا کی۔
(A) بدر (B) ابواء
(C) ینبوع (D) جحفہ

11. شہر جس کے کھانوں میں سب شہروں سے زیادہ برکت ہے۔
(A) مکہ مکرمہ (B) مدینہ منورہ
(C) بیت المقدس (D) طائف

12. سب شہروں سے زیادہ خوشبودار ہے مدینہ کی
(A) چنبیلی (B) کھجور
(C) آب و ہوا (D) مٹی

13. مرض جس کے لیے مدینہ منورہ کا غبار شفا ہے۔
(A) جذام (B) طاعون
(C) چیچک (D) ہیضہ

14. صحابہ کرام کی اکثریت کا مدفن ہے۔
(A) بیت المقدس (B) مکہ مکرمہ
(C) مدینہ منورہ (D) بدر

15. مکہ میں جتنے اہل مدینہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

16. اسلام میں سبقت حاصل کرنے والے جس قبیلہ سے تھے۔
(A) بنو قریظہ (B) بنو نظیر
(C) اوس (D) خزرج

17. بیعت عقبی اولیٰ سنہ نبوی میں ہوئی۔
(A) 10 نبوی (B) 11 نبوی
(C) 12 نبوی (D) 13 نبوی

18. بیعت عقبی اولیٰ میں اہل مدینہ شامل تھے۔
(A) 12 (B) 13
(C) 14 (D) 15

19. بیعت عقبی اولیٰ والے بارہ افراد میں سے نئے تھے۔
(A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

20. بیعت عقبی ثانی سنہ نبوی میں ہوئی۔
(A) 14 نبوی (B) 13 نبوی
(C) 12 نبوی (D) 11 نبوی

21. بیعت عقبی ثانی میں جتنے اہل مدینہ موجود تھے۔
(A) 71 (B) 72
(C) 73 (D) 74

22. مدینہ میں مبلغ اسلام کے میزبان ہے۔
(A) اسعدؓ بن زرارہ (B) سعدؓ بن معاذ
(C) سعدؓ بن عبادہ (D) ابوایوبؓ انصاری

23. مدینہ منورہ میں پہلا جمعہ قائم کیا۔
(A) ابوایوبؓ (B) سعدؓ بن معاذ
(C) سعدؓ بن عبادہ (D) سعدؓ بن زرارہ

24. ابتدائی جمعہ میں اسعدؓ بن زرارہ کے ساتھ مسلمان شامل تھے۔
(A) 30 (B) 40
(C) 50 (D) 60

25. مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔
(A) دارالامن (B) دارالسلام
(C) دارالاحسان (D) دارالقرار

26. شاہ تبع یمنی کا خط اور محل نسل در نسل جس شخصیت تک پہنچا۔
(A) ابوزرارہؓ (B) ابوایوبؓ
(C) ابوطلحہؓ (D) ابودجانہؓ

27. حضرت ابوایوبؓ کے گھر آپ ﷺ نے قیام کیا۔
(A) 5 ماہ (B) 6 ماہ
(C) 7 ماہ (D) 8 ماہ

28. ازواج مطہرات کے حجرے جس صحابی کی اراضی پر تعمیر ہوئے۔
(A) کلثوم بن ہدم (B) حارثہ بن نعمان
(C) اسعدؓ بن زرارہ (D) ابوطلحہؓ

29. امہات المومنین کے حجروں کا سائز تھا تقریباً
(A) 9' × 15' (B) 10' × 15'
(C) 11' × 15' (D) 12' × 15'

30. ام المومنین جن کے اور حضرت خدیجہؓ کے سوا باقی سب جنت البقیع میں مدفون ہیں۔
(A) حضرت سودہؓ (B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت میمونہؓ (D) حضرت جویریہؓ

31. جنت البقیع میں صحابہ کرامؓ مدفون ہیں۔
(A) 8 ہزار (B) 10 ہزار
(C) 12 ہزار (D) 14 ہزار

32. جنت البقیع سے اٹھنے والے مسلمان بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔
(A) 40 ہزار (B) 50 ہزار
(C) 60 ہزار (D) 70 ہزار

33. ام المومنین جو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔
(A) زینبؓ بنت خزیمہ (B) زینبؓ بنت جحش
(C) سودہؓ (D) حفصہؓ

34. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہونے والی ام المومنین تھیں۔
(A) ام حبیبہؓ (B) زینبؓ بنت خزیمہ
(C) زینبؓ بنت جحش (D) صفیہؓ

35. سب سے آخری جنت البقیع میں دفن ہونے والی ام المومنین کا نام

تھا۔

(A) میمونہؓ (B) صفیہؓ

(C) عائشہؓ (D) ام سلمہؓ

36. قدیم دور میں مکہ اور مدینہ کے درمیان پڑاؤ یا منزلیں تھیں۔

(A) 11 (B) 10

(C) 9 (D) 8

37. پہاڑ جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔

(A) ثور (B) حرا

(C) اُحد (D) طور

38. پہاڑ جو حضور ﷺ سے دشمنی کرتا ہے۔

(A) قیقعان (B) عیر

(C) ثبیر (D) حندی

39. پہاڑ جس سے تحفہ لانے کا حکم ہے۔

(A) نور (B) ثور

(C) طور (D) اُحد

40. جنت کے پہاڑ کہا گیا۔ اُحد، طور، لبنان اور

(A) ورقان (B) نور

(C) ثور (D) ابوقبیس

41. مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑ واقع ہے۔

(A) اُحد (B) حرا

(C) قیقعان (D) ورقان

42. خلیفہ جنہوں نے مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ کو دارالخلافہ مقرر کیا تھا۔

(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت علیؓ

(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت ابوبکرؓ

43. امام فقہ جو مدینہ میں پیدا اور فوت ہوئے۔

(A) امام احمدؒ (B) امام شافعیؒ

(C) امام مالکؒ (D) امام ابوحنیفہؒ

44. فقہ کے امام جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے۔

(A) امام مالکؒ (B) امام شافعیؒ

(C) امام ابوحنیفہؒ (D) امام احمد بن حنبلؒ

45. عہد نبوی میں مدینہ پاک میں مساجد تھیں۔

(A) 6 (B) 7

(C) 8 (D) 9

46. صحابہ کرامؓ کو جس ماہ ہجرت کی اجازت ملی تھی۔

(A) ربیع الاول (B) رمضان

(C) محرم الحرام (D) ذوالحج

47. مسجد جہاں نوافل پڑھنا عمرے کے برابر ثواب ہے۔

(A) مسجد الحرام (B) مسجد قبا

(C) مسجد عائشہ (D) مسجد نبوی

48. نبی اکرم ﷺ جس دن مسجد قبا کی زیارت کو جاتے تھے۔

(A) ہفتہ (B) سوموار

(C) جمعرات (D) جمعہ

49. حضور ﷺ کی معیت میں پہلی نماز جمعہ میں صحابہ تھے۔

(A) 40 (B) 60

(C) 80 (D) 100

50. مسجد جس جگہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عیدین کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

(A) مسجد قبلتین (B) مسجد غمامہ

(C) مسجد فتح (D) مسجد عائشہ

51. مسجد جہاں تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔

(A) مسجد الحرام (B) مسجد نبوی

(C) مسجد قبلتین (D) مسجد اقصیٰ

52. مسجد ذوالحلیفہ مسجد نبوی سے دُور ہے۔

(A) 9 کلومیٹر (B) 10 کلومیٹر

(C) 11 کلومیٹر (D) 12 کلومیٹر

53. ذوالحلیفہ کو آج کل کہتے ہیں۔

(A) بیئر ابوبکرؓ (B) بیئر عمرؓ

(C) بیرِ عثمانؓ (D) بیرِ علیؓ

54. بیرِ علی میقات ہے اہل

(A) عراق کا (B) یمن کا

(C) مدینہ کا (D) شام کا

55. تحویلِ قبلہ کا حکم نازل ہوا۔

(A) 1ھ (B) 2ھ

(C) 3ھ (D) 4ھ

56. جگہ جہاں آپ ﷺ تین دن فتح کے لیے دعا مانگتے رہے۔

(A) مسجدِ فتح (B) مسجد ذوالحلیفہ

(C) مسجدِ حمزہؓ (D) مسجدِ عریش

57. مسجدِ فتح جس پہاڑ پر واقع ہے۔

(A) حرا (B) اُحد

(C) سلع (D) ثور

58. خندق کی لمبائی تقریباً تھی۔

(A) 4 میل (B) 3 میل

(C) 2 میل (D) 1 میل

59. خندق جتنے دنوں میں تیار ہوئی۔

(A) 5 دن (B) 10 دن

(C) 15 دن (D) 20 دن

60. غزوہ خندق میں حضور ﷺ سمیت صحابہ کرامؓ کی نمازیں قضا ہوگئیں۔

(A) 4 (B) 3

(C) 2 (D) 1

جوابات

1. (C)	2. (A)	3. (B)	4. (D)	5. (A)	6. (B)	7. (D)	8. (C)
9. (A)	10. (D)	11. (B)	12. (C)	13. (A)	14. (C)	15. (B)	16. (D)
17. (C)	18. (A)	19. (D)	20. (B)	21. (C)	22. (A)	23. (D)	24. (B)
25. (D)	26. (B)	27. (C)	28. (B)	29. (A)	30. (C)	31. (B)	32. (D)
33. (A)	34. (C)	35. (D)	36. (A)	37. (C)	38. (B)	39. (D)	40. (A)
41. (D)	42. (B)	43. (C)	44. (A)	45. (D)	46. (C)	47. (B)	48. (A)
49. (D)	50. (B)	51. (C)	52. (A)	53. (D)	54. (C)	55. (B)	56. (A)
57. (C)	58. (B)	59. (D)	60. (A)				

حضرت محمد ﷺ ولادت با سعادت سے نبوت تک

1. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کے کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟
(A) بنی تیمم (B) بنو امیہ
(C) بنو اسد (D) بنو ہاشم

2. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟
(A) 20 اپریل (B) 21 اپریل
(C) 22 اپریل (D) 23 اپریل

3. کس کی رائے کے مطابق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے؟
(A) علامہ طبری (B) ابن خلدون
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

4. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز قبل کون سا واقعہ ظہور پذیر ہوا؟
(A) واقعہ فیل
(B) حلف الفضول
(C) خانہ کعبہ میں آتش زدگی
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

5. آپ ﷺ کس دن پیدا ہوئے؟
(A) پیر (B) منگل
(C) بدھ (D) جمعرات

6. مکہ کی اس گلی کا نام بتائیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی؟
(A) سوق الیل (B) سوق القریش
(C) سوق الفیل (D) سوق طبری

7. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ کا کیا نام تھا؟
(A) ثویبہ (B) شفا
(C) حلیمہ (D) سعدیہ

8. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے کتنے سال بعد آپ ﷺ پیدا ہوئے؟
(A) 500 سال (B) 570 سال
(C) 600 سال (D) 669 سال

9. کس پیغمبر کے دنیا سے جانے کے تین ہزار سال بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟
(A) حضرت اسماعیل (B) حضرت ابراہیم
(C) حضرت موسیٰ (D) حضرت عیسیٰ

10. حضرت عیسیٰ کی پیدائش ولادت کے درمیانی عرصہ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟
(A) عرصہ لیل (B) عرصہ مناف
(C) عرصہ سوق (D) عرصہ فترۃ

11. آپ ﷺ کے عبدالمطلب کون تھے؟
(A) ماموں (B) چچا
(C) والد (D) دادا

12. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام تھا؟
(A) عبدالعزیٰ (B) وہب ابن عبدالمناف
(C) امرا ابن عمرو (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

13. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر حضرت عبدالمطلب تک کس نے پہنچائی؟
(A) ام حبیبہ (B) ام ایمن

(C) ام جمیل (D) ام طارق

14. حضرت عبدالمطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیدائش کے بعد کہاں لے گئے؟

(A) مکہ (B) مدینہ

(C) کعبہ (D) شام

15. آپ ﷺ کے کس چچا نے آپ ﷺ کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا؟

(A) حضرت عباسؓ (B) حضرت حمزہؓ

(C) حضرت جعفرؓ (D) ابولہب

16. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا کیا نام تھا؟

(A) ام حبیبہ (B) ام کلثوم

(C) ام سعدیہ (D) ام علی

17. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ کا نام بتائیں؟

(A) حضرت حلیمہ (B) حضرت ثویبہ

(C) حضرت خولہ (D) تمام

18. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رضاعی والدہ کا کیا نام تھا؟

(A) حضرت حلیمہؓ (B) حضرت ثویبہؓ

(C) حضرت خولہؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

19. حضرت ثویبہؓ جنہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین یا چار ماہ تک دودھ پلایا کون تھیں؟

(A) حضرت علیؓ کی والدہ

(B) حضرت طلحہؓ کی والدہ

(C) حضرت حمزہؓ کی رضاعی والدہ

(D) حضرت طارقؓ کی والدہ

20. "اگرچہ یہ بچہ یتیم ہے لیکن پھر بھی مجھے قبول ہے" یہ الفاظ حضرت کس نے آپ ﷺ سے متعلق کہے؟

(A) ثویبہؓ (B) حضرت حلیمہ سعدیہؓ

(C) حضرت خولہؓ (D) کوئی نہیں

21. حضرت حلیمہ سعدیہ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کتنے عرصہ تک کی؟

(A) 6 سال (B) 7 سال

(C) 8 سال (D) 9 سال

22. حضرت حلیمہ سعدیہؓ کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟

(A) بنوہوازن (B) بنی اسد

(C) بنی تمیم (D) بنی ہاشم

23. عربوں کے دستور کے مطابق اچھے آداب سکھانے کیلئے عرب اپنے بچوں کو کس عمر میں دائی کے پاس بھیجتے تھے؟

(A) 7 دن (B) 8 دن

(C) 9 دن (D) 10 دن

24. آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے آٹھویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے حوالے کیا گیا؟

(A) حضرت حلیمہ سعدیہؓ (B) حضرت خولہؓ

(C) حضرت ثویبہؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

25. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد کا کیا نام تھا؟

(A) حارث ابن عبدالعزیٰ (B) حارث ابن خالد

(C) حارث ابن عتبہ (D) حارث ابن مخدوم

26. آپ ﷺ کی دادی کا نام کیا تھا؟

(A) عائشہ (B) خولہ

(C) حلیمہ (D) فاطمہ

27. حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کتنے عرصہ تک کی؟

(A) 10 سال (B) 8 سال

(C) 5 سال (D) 2 سال

28. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کون سے تھے؟

(A) حضرت زبیرؓ (B) حضرت ابوطالب

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

29. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کے کون سے چچا رحلت فرما گئے؟

(A) حضرت ابوطالب (B) حضرت زبیرؓ

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

30. آپ ﷺ کے والد ماجد کا نام ہے۔
(A) عبیداللہ (B) عبداللہ
(C) خالد (D) زبیر

31. آپ ﷺ کی والدہ کا نام ہے؟
(A) آمنہ (B) رقیہ
(C) ثوبیہ (D) حلیمہ

32. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد وفات پا گئے؟
(A) 5 ماہ (B) 6 ماہ
(C) 7 ماہ (D) 8 ماہ

33. ابواء کے مقام پر کون دفن ہے؟
(A) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد
(B) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ
(C) دونوں
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

34. ابواء کس مقام پر واقع ہے؟
(A) مکہ اور مدینہ کے درمیان
(B) مکہ اور طائف کے درمیان
(C) طائف اور مدینہ کے درمیان
(D) کوفہ اور مکہ کے درمیان

35. حضرت آمنہ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی پرورش کی ذمہ داری کس نے لی؟
(A) حضرت زبیر (B) حضرت عباس
(C) حضرت عبدالمطلب (D) کوئی نہیں

36. حضرت عبدالمطلب کب فوت ہوئے؟
(A) 580 عیسوی (B) 581 عیسوی
(C) 582 عیسوی (D) 583 عیسوی

37. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن کون تھیں؟
(A) امینہ (B) صدیقہ
(C) شیما (D) تمام

38. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی کا کیا نام تھا؟
(A) عبدالرحمن (B) عبداللہ
(C) اسداللہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

39. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ آپ کی کون سی رضاعی بہن بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئیں؟
(A) امینہ (B) شیما
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

40. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام (محمد) جس کا مطلب سب سے زیادہ تعریف والا ہے' کس نے تجویز کیا تھا؟
(A) حضرت آمنہؓ (B) حضرت عبداللہ
(C) حضرت عبدالمطلب (D) حضرت حمزہؓ

41. آپ ﷺ کا نام احمد کس نے تجویز کیا تھا؟
(A) ان کی والدہ (B) ان کے چچا
(C) ان کے دادا (D) ان کی داعیہ

42. احمد کے کیا معنی ہیں؟
(A) تعریف کرنے والا
(B) جس کی تعریف کی جائے
(C) محبت کرنے والا
(D) جو محبت کرنے والا ہو

43. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کون سا ہے؟
(A) الصادق (B) الامین
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

44. ''الصادق'' کے کیا معنی ہیں؟
(A) سچا (B) قابل بھروسہ
(C) سچائی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

45. ''الامین'' کا کیا مطلب ہے؟

(A) قابل بھروسہ　(B) سچا

(C) باعزت　(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

46. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟

(A) ابوالابراہیم　(B) ابوالقاسم

(C) ابوالطاہر　(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

47. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے عرصہ بعد حضرت آمنہؓ وفات پاگئیں؟

(A) 6 سال　(B) 7 سال

(C) 9 سال　(D) 10 سال

48. اس غلام عورت کا نام بتائیں جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملیں؟

(A) ام ایمنؓ　(B) حضرت حلیمہ سعدیہؓ

(C) حضرت ثویبہؓ　(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

49. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے تعلق رکھتے تھے؟

(A) حضرت موسیٰؑ　(B) حضرت عیسیٰؑ

(C) حضرت ہارونؑ　(D) حضرت اسماعیلؑ

50. حضرت اسماعیلؑ کے بارہ بیٹوں میں سے کون سے بیٹے نے حجاز میں سکونت اختیار کی؟

(A) قلب　(B) مرا

(C) کعب　(D) قیدار

51. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خالائیں تھیں؟

(A) 5　(B) 6

(C) 7　(D) 8

52. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر رسم عقیقہ کے وقت کتنی تھی؟

(A) 7 گھنٹے　(B) 7 دن

(C) 7 سال　(D) 7 ماہ

53. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام بتائیں جن کا اصل نام برہ تھا؟

(A) ام حبیبہ　(B) ام رقیہ

(C) ام حفصہ　(D) ام احمد

54. اس یہودی کا کیا نام تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دوسرے روز آپ کی نبوت کے بارے میں پیش گوئی کی تھی؟

(A) یوسف　(B) عدیل

(C) نوفل　(D) طارق

55. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کس نے قیصر و کسریٰ کے محلوں کو اپنے خواب میں دیکھا؟

(A) عبدالمطلبؓ　(B) حلیمہ سعدیہؓ

(C) ثویبہؓ　(D) حضرت آمنہؓ

56. کس مقدس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ''احمد'' کا ذکر ہے؟

(A) قرآن پاک　(B) انجیل

(C) دونوں　(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

57. کس کتاب میں آپ ﷺ کا نام ''فارقلیط'' درج ہے؟

(A) بائبل　(B) انجیل

(C) قرآن　(D) زبور

58. فارقلیط کا مطلب کیا ہے؟

(A) رہنمائی کرنے والا　(B) خوراک دینے والا

(C) آرام اور سکون دینے والا　(D) یقین دلانے والا

59. حضرت آمنہؓ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا؟

(A) حضرت حلیمہ سعدیہؓ　(B) حضرت ثویبہؓ

(C) حضرت خولہؓ　(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

60. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنا عرصہ قیام کیا؟

(A) 53 سال　(B) 60 سال

(C) 40 سال　(D) 45 سال

61. ابتدائی تعلیم کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا

ہے؟

(A) ان پڑھ (B) عالم

(C) طالب علم (D) امی

62. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے اسلام قبول کر لیا تھا؟

(A) حضرت عباسؓ (B) حضرت حمزہؓ

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

63. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا اسلام نہیں لائے؟

(A) ابولہب (B) ابوطالب

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

64. عام الفیل کا سال کب سے شروع ہوا؟

(A) 570ء (B) 575ء

(C) 580ء (D) 590ء

65. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کس بہن کی گود میں بچپن میں کھیلا کرتے تھے؟

(A) امینہ (B) شیما

(C) سعدیہ

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

66. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کون سا واقعہ ظہور پذیر ہوا؟

(A) شق الصدر (B) واقعہ فیل

(C) شق الراس (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

67. حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی پرورش کی ذمہ داری کس نے لی؟

(A) ابولہب (B) ابوطالب

(C) حضرت حمزہؓ (D) کوئی نہیں

68. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر میں اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ اپنے پہلے تجارتی سفر کی غرض سے شام گئے؟

(A) 12 سال (B) 15 سال

(C) 18 سال (D) 20 سال

69. شام کے پہلے سفر کے دوران آپ ﷺ کے چچا ابوطالب کی ملاقات کس شخص سے ہوئی جس نے ابوطالب سے کہا کہ نبی کی تمام علامات تمہارے بھتیجے میں پائی جاتی ہیں اسے بحفاظت واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرو

(A) بحیرہ (B) بسوسہ

(C) بلتان (D) ان میں سے کوئی نہیں

70. بحیرہ کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا؟

(A) یہودی (B) کافر

(C) مشرک (D) عیسائی

71. جب تم پہاڑ سے اتر رہے تھے تو تمام درخت اور پتھر اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ کس نے کس سے کہے تھے؟

(A) بحیرہ نے عبدالمطلب سے

(B) بحیرہ نے ابوطالب سے

(C) میسرہ نے بحیرہ سے

(D) میسرہ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

72. بحیرہ راہب تھا اس کا حقیقی نام کیا تھا؟

(A) جرجیس (B) جبلیس

(C) لیوس (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

73. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی میں کس جنگ میں حصہ لیا تھا؟

(A) حرب فجار (B) حرب قیس

(C) حرب بسوس (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

74. حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟

(A) 12 سال (B) 15 سال

(C) 18 سال (D) 20 سال

75. عکاظ میں کن قبائل کے درمیان حرب فجار لڑی گئی تھی؟

(A) قریش اور تمیم (B) قریش اور فجار

(C) قریش اور اسد (D) قریش اور قیس

76. حرب فجار کتنے سالوں تک جاری رہی؟

(A) ایک سال (B) دو سال

(C) تین سال (D) چار سال

77. حرب فجار میں قریش کی فوج کے اس سربراہ کا نام بتائیں جو ابوسفیان کے والد تھے؟

(A) جلیس ابن امیہ (B) عزیز ابن امیہ

(C) عباس ابن امیہ (D) حرب ابن امیہ

78. حرب فجار ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں قریش لڑائی کو حرام قرار دیتے تھے۔ اس لیے اس لڑائی کو حرب فجار کا نام دیا گیا ہے۔ جن میں شامل تھے۔

(A) ذی قعد (B) ذی الحج

(C) محرم (D) تمام

79. حرب فجار کے بعد کون سا معاہدہ ہوا؟

(A) حلف الفضول (B) حلف القریش

(C) حلف القیس (D) حلف النجار

80. معاہدہ حلف الفضول میں کیا لکھا گیا تھا؟

(A) ہم ہر معصوم اور بے گناہ شخص کی حفاظت کریں گے چاہے وہ مکہ کا رہائشی ہو یا نہ ہو' مکہ میں کوئی ظالم رہنے کا مجاز نہ ہوگا۔

(B) ہم بیواؤں اور یتیموں کی مدد اور دیکھ بھال کریں گے۔

(C) ہر جنگ سے پرہیز کریں گے۔

(D) یہ تمام باتیں

81. آپ ﷺ بھی حلف الفضول کے معاہدے میں شامل تھے۔ یہ معاہدہ کس کی کوششوں سے پایہ تکمیل تک پہنچا؟

(A) زبیر ابن عبدالمطلب (B) عباس ابن عبدالمطلب

(C) حسن ابن عبدالمطلب (D) حضرت محمد ﷺ

82. آپ ﷺ نے دوران نبوت کس معاہدے سے متعلق یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ "اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا اور اگر کوئی شخص آج بھی مجھے اس معاہدے کیلئے بلائے گا تو میں اس کی دعوت قبول کرلوں گا۔"

(A) صلح حدیبیہ (B) صلح فدک

(C) حلف الفضول (D) حلف القیس

83. حلف الفضول کا پہلا معاہدہ آپ ﷺ ....

(A) کی پیدائش سے قبل ہوا

(B) کی پیدائش سے 5 سال بعد ہوا

(C) کی پیدائش سے 7 سال بعد ہوا

(D) کوئی نہیں

84. حلف الفضول کے دوسرے معاہدہ کے وقت آپ ﷺ کی عمر کیا تھا؟

(A) 10 سال (B) 20 سال

(C) 30 سال (D) 40 سال

85. حلف الفضول کا دوسرا معاہدہ کس کے گھر میں پایہ تکمیل تک پہنچا؟

(A) عبداللہ ابن مطلب (B) عبداللہ جاوان

(C) عبداللہ خلیق (D) عبداللہ ابن عتبہ

86. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف اپنے دوسرے تجارتی سفر کے دوران کب روانہ ہوئے؟

(A) عام الفیل کے 12 ویں سال

(B) عام الفیل کے 15 ویں سال

(C) عام الفیل کے 20 ویں سال

(D) عام الفیل کے 24 ویں سال

87. آپ ﷺ شام کے دوسرے سفر میں کس کا سامان تجارت ساتھ لے گئے تھے؟

(A) حضرت خدیجہؓ (B) ابولہب

(C) ابوطالب (D) کوئی نہیں

88. شام کے دوسرے سفر میں حضرت خدیجہؓ کے کون سے غلام آپ کے ہمراہ تھے؟

(A) میسرہ (B) جلیس

(C) بسوس (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

89. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہؓ نے اپنی کس لونڈی کے ذریعے کو نکاح کا پیغام بھیجا۔

(A) نفیسہ (B) ناعمہ

(C) نیلما (D) ہارہ

90. آپ ﷺ نے کس سے مشورہ کے بعد حضرت خدیجہؓ کے پیغام نکاح کو قبول کر لیا؟

(A) عبدالمطلب (B) ابوطالب

(C) حضرت عباسؓ (D) کوئی نہیں

91. آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہؓ کا خطبہ نکاح کس نے پڑھوایا؟

(A) ابوطالب (B) حمزہ ابن مطلب

(C) عباس ابن مطلب (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

92. حضرت خدیجہؓ نے کتنا حق مہر وصول کیا؟

(A) 500 طلائی دینار (B) 600 طلائی دینار

(C) 700 طلائی دینار (D) 800 طلائی دینار

93. حضرت خدیجہؓ کے والد کا کیا نام تھا؟

(A) خویلد ابن یاسر (B) خذیفہ ابن یاسر

(C) اسامہ ابن یاسر (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

94. شام کے دوسرے سفر کے دوران آپ ﷺ کی ملاقات کس راہب سے ہوئی ہے جس نے آپ ﷺ کی نبوت کی پیش گوئی کی تھی؟

(A) نسطورہ (B) کسوئی

(C) بسوسہ (D) قیصر

95. مکہ میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب اور اس وجہ سے خانہ کعبہ سمیت کئی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟

(A) 25 سال (B) 30 سال

(C) 35 سال (D) 40 سال

96. سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے نئی عمارت بنانے کیلئے خانہ کعبہ کی تمام عمارت کو گرانا تھا۔ خانہ کعبہ کو گرانے کا کام پہلی دفعہ کس نے شروع کیا تھا؟

(A) ولید ابن ورقہ (B) ولید ابن مغیرہ

(C) ولید ابن نوفل (D) ولید ابن حسن

97. ولید ابن مغیرہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اپنے کس باز نطینی ... بھی بلایا۔

(A) یعقوبس (B) مرسس

(C) قسطیلہ (D) یہ تمام

98. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کس چیز کی تنصیب کا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟

(A) حجر اسود (B) روشن دان

(C) طاقچے (D) کوئی نہیں

99. کس قبیلے کے لوگوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کر حجر اسود نصب کرنے کا آپس میں معاہدہ کیا؟

(A) بنی عبدالدار (B) بنو عدی

(C) بنو سلیم (D) بنی مخزوم

100. کس قبیلے کے جانشینوں نے قسم کھائی کہ کوئی انہیں حجر اسود کی تنصیب کے اعزاز سے محروم نہیں رکھ سکتا؟

(A) عبدالدار (B) عدی

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

101. قبیلہ بنی عبدالدار کے کے معاہدے کو بعد ازاں کس نام سے ... گیا؟

(A) خون کے پیاسے (B) خون کے بھوکے

(C) خون کے بیوپاری (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

102. حجر اسود کو نصب کرنے کے مسئلہ پر کس نے کہا کہ "اب ... تمام لوگ یہاں پر جمع ہیں الصفہ کے گیٹ سے جو بھی سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کو حل کرے گا؟"

(A) ابو امیہ

(B) ابوصفہ
(C) ابومغیرہ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

103. ابوامیہ بیٹا تھا۔
(A) مغیرہ المخزومی کا (B) عبدمناف کا
(C) مغیر بن کلاب کا (D) قصیٰ کا

104. ''یہاں پر الامین سب سے پہلے آئے۔ ہم ان کے فیصلے سے متفق ہوں گے''۔ یہ تاریخی الفاظ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس کے بارے میں کہے گئے تھے؟
(A) ابوامیہ (B) ابومغیرہ
(C) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

105. حجر اسود کو نصب کرنے کیلئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر پر رکھ کر زمین پر بچھایا اور کہا کہ اب ہر قبیلے کا سربراہ اس چادر کا ایک کونہ پکڑے تمام لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس چادر کو پکڑا اور پتھر کو اس کے مقام تنصیب تک لے گئے۔ حجر اسود کو اس کے درست مقام پر کس نے نصب کیا؟
(A) ابوالمغیرہ (B) ولید ابن مغیرہ
(C) ابومعاویہ (D) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

106. نبوت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوستوں میں حضرت ابوبکرؓ کے علاوہ اور کون شامل تھا؟
(A) قیس ابن سائب مخزومی (B) حکیم ابن حزام
(C) خمار بن ثعلبہ (D) تمام

107. کتنی عمر میں آپ ﷺ کو ''امین'' کا لقب دیا گیا۔
(A) 30 (B) 32
(C) 35 (D) 40

108. آپ ﷺ کتنے سال کے تھے جب آپ ﷺ کے دادا عبدالمطلب کا انتقال ہوا؟
(A) 12 سال (B) 10 سال
(C) 6 سال (D) 8 سال

109. آپ کو صادق کا لقب کس عمر میں ملا؟
(A) 37 سال (B) 25 سال
(C) 22 سال (D) 40 سال

110. حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کا محافظ کون بنا؟
(A) ابوطالب (B) حضرت حمزہؓ
(C) حضرت عباسؓ (D) ولید ابن مغیرہؓ

111. حضرت آمنہؓ کی وفات کے بعد آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابواء سے مکہ کون لایا؟
(A) ام ایمنؓ (B) حلیمہ سعدیہؓ
(C) ابوطالب (D) حضرت حمزہؓ

112. حضرت آمنہؓ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟
(A) بنی زہرہ (B) بنی اسد
(C) بنی قریش (D) بنی تمیم

113. ام قبطہ کس کی کنیت تھی؟
(A) حضرت ثوبیہؓ (B) حضرت خولہؓ
(C) حضرت حلیمہ سعدیہؓ (D) حضرت شیماؓ

114. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس غار میں غور وفکر کیا کرتے تھے؟
(A) صفا (B) ثور
(C) مروہ (D) حرا

115. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سال پیدائش کو کیا کہا جاتا ہے؟
(A) عام الحضور (B) عام الفیل
(C) عام الکعبہ (D) عام المکہ

116. آپ ﷺ کی کتنی عمر تھی جب آپ ﷺ کی والدہ کا انتقال ہوا؟
(A) 3 سال (B) 4 سال
(C) 5 سال (D) 6 سال

117. عیسوی سن کے مطابق پہلی وحی کب نازل ہوئی؟

(A) 17 اگست 610
(B) 17 اکتوبر 611
(C) 17 نومبر 612
(D) 17 دسمبر 613

118. غار حرا کو اب کیا کہتے ہیں۔
(ا) جبل نور
(ب) کوہ نور
(ج) کوہ ثور
(د) کوہ مقدس

119. آپ ﷺ نے اپنی اونٹنی قصویٰ کس سے خریدی؟
(A) حضرت ابوبکرؓ
(B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ
(D) حضرت علیؓ

120. آپ ﷺ کے کون سے چچا آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟
(A) حضرت عباسؓ
(B) حضرت حمزہؓ
(C) ابولہب
(D) ابوطالب

121. آپ ﷺ کے چچازاد بھائی جو کہ مفسر قرآن تھے؟
(A) عبداللہ بن عباسؓ
(B) حمزہ بن عباسؓ
(C) اسداللہ بن عباسؓ
(D) خزیمہ بن عباسؓ

122. آپ ﷺ کی دعا سے کس صحابی کا باغ سال میں دو بار پھل دینے لگا؟
(A) حضرت انس بن مالکؓ
(B) حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ
(C) حضرت طلحہ بن زبیرؓ
(D) حضرت ابوبکر صدیقؓ

123. رسول اکرم ﷺ کے سب سے پہلے رضاعی بھائی کا نام کیا ہے؟
(A) خالد
(B) حمزہ
(C) مسروح
(D) عبداللہ

124. حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
(A) 15 برس
(B) 16 برس
(C) 18 برس
(D) 20 برس

125. حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
(A) 15 برس
(B) 16 برس
(C) 18 برس
(D) 20 برس

126. پہلی وحی کب نازل ہوئی؟
(A) 11 رمضان
(B) 14 رمضان
(C) 17 رمضان
(D) 21 رمضان

127. حضرت محمد ﷺ نے نبوت ملنے سے پہلے کس ملک کا سفر کیا تھا؟
(A) شام
(B) عراق
(C) کوفہ
(D) مصر

128. حضرت آمنہؓ کا انتقال کہاں ہوا؟
(A) مکہ مکرمہ
(B) مدینہ منورہ
(C) ابوا
(D) طائف

129. حلیمہ سعدیہ کس قبیلے سے تھیں؟
(A) بنوامیہ
(B) بنوسعد
(C) بنوتمیم
(D) بنواوس

130. قریش اور ہوازن قبیلوں کے درمیان ہونے والی جنگ "حرب الفجار" کے وقت حضرت محمد ﷺ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
(A) دس سال
(B) بارہ سال
(C) پندرہ سال
(D) سولہ سال

نئے ایڈیشن میں اضافی ایم سی کیو
123 سے 130 تک ایم سی کیو اضافی ایم سی کیو ہیں

جوابات

1. (D)	2 (C)	3. (C)	4. (A)	5. (A)	6. (A)	7. (B)	8. (B)
9. (B)	10. (D)	11. (D)	12. (B)	13. (B)	14. (C)	15. (D)	16. (A)
17.(D)	18. (B)	19. (C)	20. (B)	21. (A)	22. (A)	23. (B)	24. (A)
25.(A)	26. (D)	27. (B)	28. (C)	29. (B)	30. (B)	31. (A)	32 (B)
33.(B)	34. (A)	35. (C)	36. (A)	37. (C)	38. (B)	39. (B)	40 (C)
41.(A)	42. (B)	43. (C)	44. (A)	45. (A)	46. (B)	47. (A)	48 (A)
49.(D)	50. (D)	51. (B)	52. (B)	53. (A)	54. (A)	55. (D)	56 (C)
57.(B)	58. (C)	59. (B)	60. (A)	61. (D)	62. (C)	63. (C)	64 (A)
65.(B)	66. (A)	67. (B)	68. (A)	69. (A)	70. (D)	71. (B)	72 (A)
73.(A)	74. (B)	75. (D)	76. (D)	77. (D)	78. (D)	79. (A)	80 (D)
81.(A)	82. (C)	83. (A)	84. (B)	85. (B)	86. (D)	87. (A)	88 (A)
89.(A)	90. (B)	91. (A)	92. (A)	93. (A)	94. (A)	95. (C)	96 (B)
97. (A)	98. (A)	99. (A)	100. (C)	101. (C)	102. (A)	103. (A)	104.(C)
105. (D)	106. (D)	107. (C)	108. (D)	109. (C)	110. (A)	111. (A)	112.(A)
113. (C)	114. (D)	115. (B)	116. (D)	117. (A)	118. (A)	119. (A)	120.(D)
121. (A)	122. (A)	123. (B)	124. (A)	125. (A)	126. (C)	127. (A)	128.(C)
129. (B)	130. (C)						

حضرت محمد ﷺ نبوت سے ہجرت مدینہ تک

1. بعثت کے کیا معنی ہیں؟

(A) نبوت کا آغاز ہونا (B) نبوت کا دعویٰ کرنا

(C) نبوت حاصل کرنا (D) نبوت کا عطا ہونا

2. عہد نبوی میں حضرت حذیفہ بن یمانؓ ______

(A) سلطنت کے رازوں کے ذمہ دار تھے

(B) کھجوروں کی آمدن لکھنے پر مامور تھے

(C) دونوں

(D) کوئی نہیں

3. غار حرا کی لمبائی کتنی ہے؟

(A) 3 گز (B) 4 گز

(C) 5 گز (D) 7 گز

4. آج کل غار حرا کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟

(A) جبل نور (B) جبل مقدس

(C) جبل حرا (D) جبل ثور

5. کس عمر میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کو دیکھا ہوا خواب دن کی روشنی میں سچا ثابت ہونا شروع ہوا؟

(A) 30 سال (B) 31 سال

(C) 32 سال (D) 33 سال

6. نبوت کے وقت آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟

(A) 40 سال ایک دن (B) 40 سال

(C) 40 سال 10 دن (D) 41 سال

7. کس غار میں آپ ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی؟

(A) غار حرا (B) غار ثور

(C) غار مکرم (D) کوئی نہیں

8. اس سورۃ کا نام بتائیں جو پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی؟

(A) فلق (B) علق

(C) حشر (D) کوثر

9. سورہ علق کی کل 19 آیات میں سے پہلی وحی میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی آیات نازل ہوئیں؟

(A) 1 (B) 3

(C) 4 (D) 5

10. اس شخصیت کا نام بتائیں جس کو آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے متعلق بتایا؟

(A) حضرت ابوطالب (B) حضرت خدیجہؓ

(C) ورقہ بن نوفل (D) ان میں سے کوئی نہیں

11. حضرت خدیجہؓ پہلی وحی کا سن کر آپ ﷺ کو کس کے پاس لے گئیں؟

(A) چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل

(B) ماموں زاد بھائی ورقہ بن نوفل

(C) خالہ زاد بھائی ورقہ بن نوفل

(D) کوئی نہیں

12. پہلی وحی کا سن کر ورقہ بن نفل نے کیا کہا؟

(A) آپ ﷺ نبی ہیں

(B) یہ وہی مقدس فرشتہ ہے جو موسیٰ کی طرف بھیجا گیا

(C) یہ وہی مقدس فرشتہ ہے جو عیسیٰؑ کی طرف بھیجا گیا

(D) کوئی نہیں

13. ورقہ بن نوفل عیسائی تھا وہ کس آسمانی کتاب کا بڑا عالم تھا؟

(A) انجیل (B) توریت

(C) وید (D) انجیل اور توریت

14. "کاش میں اس وقت تک زندہ وتندرست رہ سکتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قوم نکال دے گی تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا۔" یہ الفاظ کس کے ہیں؟

(A) عبدالمطلب (B) حضرت عباس

(C) ورقہ بن نوفل (D) حارث بن عبدالمطلب

15. "اے لباس نبوت اوڑھنے والے اٹھو اور خبردار کرو۔ اپنے رب کی عظمت بیان کرو۔ اپنے آپ کو صاف رکھو۔ گندگی سے دور رہو۔ کوئی چیز اس لیے نہ دو کہ اس کے بدلے میں زیادہ چیز حاصل کرو۔ اپنے رب کی خاطر ہر چیز صبر سے برداشت کرو۔" یہ کس وحی کے الفاظ ہیں؟

(A) پہلی (B) دوسری

(C) تیسری (D) چوتھی

16. نبوت کے بعد پہلی عبادت جو لازمی فرض قرار دی گئی کیا تھی؟

(A) نماز (B) روزہ

(C) زکوٰۃ (D) حج

17. پہلی وحی کے بعد لوگوں کو جس بنیادی برائی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔

(A) منافقت (B) قتل

(C) شراب (D) شرک

18. پہلی اور دوسری وحی کے نزول میں وقفہ کتنا تھا؟

(A) دوماہ (B) تین ماہ

(C) چار ماہ (D) چھ ماہ

19. وحی کے درمیان طویل وقفہ جس میں وحی کا نزول رک گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟

(A) فترۃ الوحی (B) عقرۃ الوحی

(C) عشرۃ الوحی (D) ان میں سے کوئی نہیں

20. یہ الفاظ کس کے ہیں "اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے باپ سے مشورہ لیے بغیر تخلیق کیا۔ اب میں اللہ کی عبادت کیلئے اپنے باپ سے مشورہ کیوں لوں"؟

(A) حضرت ابوبکر صدیق (B) حضرت عثمانؓ

(C) حضرت زبیرؓ (D) حضرت علیؓ

21. حضرت ابوبکرؓ کی تبلیغ سے کن اہم شخصیات نے اسلام قبول کیا؟

(A) حضرت عثمانؓ ابن عفان اور زبیرؓ ابن عوام

(B) عبدالرحمٰنؓ ابن عوف اور طلحہؓ ابن عبداللہ

(C) سعدؓ ابن ابی وقاص (D) تمام

22. اسلام کی تبلیغ کی ابتداء پر غریب لوگوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟

(A) صہیب رومیؓ (B) بلال حبشیؓ

(C) یاسرؓ اپنے بیٹے عمار اور بیوی سمیہ کے ہمراہ

(D) تمام

23. اس صحابی کا نام بتائیں جن کا گھر مسلمانوں کیلئے سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنایا؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عثمانؓ

(C) حضرت ارقم مخزومیؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

24. نبوت کے کتنے سالوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے عام تبلیغ کا حکم دیا گیا؟

(A) ایک سال (B) دوسال

(C) تین سال (D) چارسال

25. اسلام کی کھلے عام تبلیغ کے حکم کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کیلئے دعوت کا اہتمام کیا اور ان کو اسلام قبول کرنے کیلئے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے؟

10 (A) 20 (B)

30 (C) 40 (D)

26. سورہ حجرات کی کس آیت میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے عام تبلیغ کا حکم دیا گیا؟

90 (A) 92 (B)

94 (C) 96 (D)

27. دوسری اور تیسری وحی کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟

(A) ایک سال (B) 2 سال

(C) 3 سال (D) 4 سال

کون سی سورہ تیسری وحی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی؟

(A) دخان (B) حشر

(C) ناس (D) علق

29. "قبیلہ قریش اگر میں تم سے کہوں کہ میں پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر دیکھ رہا ہوں۔ تو کیا تم میرا یقین کر لو گے۔" یہ الفاظ آپ ﷺ نے کس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہے؟

(A) الصفا (B) المروہ

(C) حرا (D) قبیس

30. الصفا کی پہاڑی پر آپ ﷺ کی تقریر سننے کے بعد کس نے کہا کہ تجھ پر ہلاکت ہو کیا تم نے ہمیں اس مقصد کیلئے اکٹھا کیا تھا؟

(A) ابوجہل (B) ابو عباس

(C) ابوحمزہ (D) ابولہب

31. کس نے کہا کہ "بھتیجے آگے بڑھو اور جو تم کہنا چاہتے ہو کہو۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کر کبھی دھوکہ نہیں دوں گا؟

(A) ابولہب (B) حضرت عباسؓ

(C) حضرت حمزہؓ (D) ابوطالب

32. ابولہب کے سوا کس قبیلے نے ابوطالب کے ساتھ مل کر آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش کے خلاف دفاع کیا؟

(A) بنو ہاشم (B) بنو المطلب

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

33. نبوت کے پہلے تین سالوں میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفیہ تبلیغ سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟

(A) 10 (B) 20

(C) 30 (D) 40

34. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟

(A) حضرت خدیجہؓ وہ پہلی ہستی تھیں جنہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی

(B) حضرت علیؓ وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی

(C) حضرت ابوبکرؓ وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔

(D) ان میں سے کوئی نہیں

35. حضرت طلحہؓ نے نبوت کے کس سال اسلام قبول کیا؟

(A) پہلے سال (B) دوسرے سال

(C) تیسرے سال (D) چوتھے سال

36. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہؓ کو کیا خطاب دیا؟

(A) صدیق (B) طیب

(C) فاروق (D) فیاض

37. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہؓ کو کس نام سے پکارتے تھے؟

(A) طلحہ خیر (B) طلحہ جود

(C) دونوں ناموں سے (D) ان میں سے کوئی نہیں

38. "میرے ساتھ اپنی ذات کا تحفظ بھی کرو اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔" یہ الفاظ کس شخصیت نے کس سے کہے؟

(A) ابوطالب نے ابولہب سے

(B) ابولہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

(C) ابوطالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

(D) حضرت عباسؓ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے

39. آپ ﷺ نے کس سے کہا کہ "وہ وقت قریب ہے جب تم کم ہنسو گے اور زیادہ روؤ گے۔"

(A) ابوطالب (B) ابوجہل

(C) ابوتراب (D) کوئی نہیں

40. کس شخص نے ابوجہل کے سر پر تیر مارا تھا؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عباسؓ
(C) حضرت حمزہؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

41. مکہ میں پہلے کاتب وحی کون تھے؟
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) شرجیل ابن حسنہ کندی (D) ان میں سے کوئی نہیں

42. ابولہب کی بد بخت بیوی کا کیا نام تھا جو آپ ﷺ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔
(A) ام ہندہ (B) ام حسانہ
(C) ام عقبہ (D) ام جمیل

43. کس نے آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت اونٹ کی اوجھڑی مع نجاست پھینکی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے؟
(A) عقبہ ابن مخدوم (B) عقبہ ابن ابی معیط
(C) عقبہ ابن ابی رجانہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

44. یہ الفاظ کس کے ہیں ''یہ ضروری نہیں کہ اسے پیغمبر، دیوانہ یا شاعر کہا جائے لیکن اس کی آیات کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ باپ کو بیٹے سے بھائی کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے، اور ایک شوہر کو اس کی بیوی سے جدا کر سکتی ہیں''؟
(A) ابوجہل (B) ابولہب
(C) ولید ابن مغیرہ (D) ابومعاویہ

45. ''محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا لیکن میں تمہارے کہے ہوئے الفاظ کو قبول نہیں کر سکتا۔'' یہ الفاظ کس کے ہیں؟
(A) ابولہب (B) ابوجہل
(C) ابوطالب (D) ابوعباس

41. جب قریش کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے کیا دعا کی؟
(A) تم بہتر جانتے ہو کہ کوئی بھی تمہارا دین قبول کرنے کو تیار نہیں
(B) اے خدا انہیں ختم کر دے
(C) اے خدا دشمنوں کیخلاف ہماری مدد کر
(D) ان میں سے کوئی نہیں

47. اے خدا ''اسلام کو ان لوگوں کے ذریعے طاقت دے'' یہ دعا آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے حق میں فرمائی؟
(A) عمر اور ابومعاویہ (B) عمر اور مغیرہ
(C) عمر اور ابوجہل (D) عمر اور ابولید ابن مغیرہ

48. ابوجہل کا اصلی نام کیا تھا؟
(A) حسن ابن مطلب (B) عمرو ابن ہشام
(C) علی ابن عبداللہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

49. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کیلئے قریش نے کیا ترغیب دی جسے سن کر حضرت عمرؓ آپ ﷺ کو قتل کرنے کے ارادے سے بڑھے؟
(A) 100 اونٹ (B) 100 گھوڑے
(C) تنظیم میں اعلیٰ مقام (D) تمام

50. جب حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کرنے کیلئے دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کس نے دروازہ کھولا تھا؟
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عثمانؓ
(D) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

51. حضرت عمرؓ فاروق نے کب اسلام قبول کیا؟
(A) 600 عیسوی (B) 608 عیسوی
(C) 612 عیسوی (D) 616 عیسوی

52. حضرت ابوبکرؓ نے کن شخصیات کو خرید کر آزاد کیا تھا؟
(A) بلالؓ حبشی اور لبینہؓ (B) زہرہؓ اور نہدیہؓ
(C) تمام (D) ان میں سے کوئی نہیں

53. قریش کے کس عظیم پہلوان نے تین دفعہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھائی تھی؟
(A) عقبہ (B) حکم
(C) رکانہ (D) دشد

54. قریش کے اس مشہور پہلوان کا نام بتائیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کی اور اسلام قبول نہیں کیا؟

(A) عبداللہ جمحی (B) ابولہب

(C) عبداللہ حسن (D) ابوجہل

55. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز ادا کررہے تھے تو وہ کون شخص تھا جو پتھر لے کر آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بڑھا لیکن جب وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا تو اسے ایک بہت بڑا اونٹ منہ کھولے اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ جس کے خوف سے پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا؟

(A) ابوجہل (B) ابوسفیان

(C) ابومغیرہ (D) ابوامیہ

56. کون سے صحابی نبوت کے ابتدائی دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب کہلاتے تھے؟

(A) حضرت زیدؓ ابن حارثہ (B) حضرت ابوبکرؓ صدیق

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت زبیرؓ ابن العوام

57. حضرت زبیرؓ ابن العوام کون تھے؟

(A) اسلام کے پہلے شہید

(B) اسلام کی راہ میں پہلے زخمی شخص

(C) پہلے شخص جنہوں نے اسلام کی خاطر تلوار اٹھائی

(D) پہلے شخص جنہوں نے اسلام کی خاطر ایک کافر کو قتل کیا

58. "کس نے آپ ﷺ سے کہا کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں قبیلہ قریش کی خوبصورت ترین عورت پیش کریں گے۔ اگر تم مرتبہ اور شہرت چاہتے ہو تو ہم تمہیں مہیا کریں گے۔"

(A) ابوسفیان (B) عقبہ ابن ربیعہ

(C) ابوجہل (D) ولید ابن مغیرہ

59. کسی نے اپنی عبا آپ ﷺ کی گردن مبارک میں عبا ڈال کر گھسیٹا؟

(A) عقبہ ابن ابی معیط (B) عقبہ ابن مغیرہ

(C) عقبہ ابن عتیق (D) عقبہ ابن عقبہ

60. گلے میں عبا ڈال کر گھسیٹنے والے شخص کو کس نے روکا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

61. وہ کون سے صحابی تھے جن کے گلے میں پھندا ڈال کر گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا وہ "احد احد" کے علاوہ کچھ نہیں پکارتے تھے؟

(A) حضرت بلالؓ (B) حضرت خبابؓ

(C) حضرت ابوبکرؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

62. اسلام کے ابتدائی دنوں میں جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟

(A) السابقون الاولون (B) الاولون

(C) عظیم صحابہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

63. 5 نبوی میں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہاں ہجرت کرنے کو کہا؟

(A) مدینہ (B) حبشہ

(C) کوفہ (D) بصرہ

64. حبشہ کی پہلی ہجرت میں کتنی عورتیں شامل تھیں؟

(A) ایک (B) دو

(C) تین (D) چار

65. حبشہ کی پہلی ہجرت میں کتنے مرد شامل تھے؟

10 (A) 12 (B)

14 (C) 16 (D)

66. مسلمان حبشہ میں کتنے عرصہ رہے؟

(A) ایک ماہ (B) دو ماہ

(C) تین ماہ (D) چار ماہ

67. قریش نے حبشہ کی مسلمانوں کی مدینہ واپسی کیلئے اپنا نمائندہ کس شخص کو بنا کر بھیجا تھا؟

(A) عبداللہ ابن ربیعہ (B) عمرو ابن العاص

(C) دونوں
(D) ان میں سے کوئی نہیں

68. پہلی ہجرت حبشہ کے بعد مسلمان کس خبر کو سن کر مکہ لوٹ آئے؟
(A) بنو ہاشم کا قبول اسلام
(B) بنو تمیم کا قبول اسلام
(C) بنوامیہ کا قبول اسلام
(D) بنو قریش کا قبول اسلام

69. دوسری ہجرت حبشہ 615 عیسوی میں ہوئی وہ کون سا سال نبوت تھا؟
(A) پانچویں نبوی
(B) چھٹی نبوی
(C) ساتویں نبوی
(D) آٹھویں نبوی

70. دوسری ہجرت حبشہ میں شامل تھے
(A) 83 آدمی اور 18 عورتیں
(B) 80 آدمی اور 20 عورتیں
(C) 70 آدمی اور 25 عورتیں
(D) 60 آدمی اور 30 عورتیں

71. کب قریش کے وفود دوسری دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کو واپس لینے گئے لیکن ناکام لوٹے؟
(A) چھ نبوی
(B) سات نبوی
(C) آٹھ نبوی
(D) نو نبوی

72. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟
(A) پانچویں نبوی
(B) چھٹی نبوی
(C) ساتویں نبوی
(D) آٹھویں نبوی

73. بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ کب واقع ہوا؟
(A) 8 نبوی
(B) 5 نبوی
(C) 6 نبوی
(D) 7 نبوی

74. شعب ابی طالب مکہ سے تین میل کے فاصلے پر کہاں واقع ہے؟
(A) جبل ثور
(B) جبل حرا
(C) جبل خندامہ
(D) جبل طالب

75. شعب کا کیا مطلب ہے؟
(A) میدان
(B) غار
(C) گھاٹی
(D) دریا

76. شعب ابی طالب کا مالک کون تھا؟
(A) حضرت عباسؓ
(B) حضرت ابوطالبؓ
(C) حضرت عبدالمطلبؓ
(D) ان میں سے کوئی نہیں

77. کس واقعہ کے بعد قریش کے مظالم مسلمانوں پر بڑھ گئے؟
(A) حبشہ میں وفد کی ناکامی کے بعد
(B) شعب ابی طالب
(C) ہجرت مدینہ کے بعد
(D) ان میں سے کوئی نہیں

78. قریش نے مسلمانوں کا کتنے سال معاشرتی بائیکاٹ کیا اور مسلمان شعب ابی طالب میں محصور رہے؟
(A) دو سال
(B) تین سال
(C) 4 سال
(D) ایک سال

79. قریش کے تمام قبائل نے مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کرنے کی غرض سے ایک معاہدے پر دستخط کیے وہ معاہدہ کہاں پر لٹکایا گیا؟
(A) کعبہ کی مشرقی دیوار پر
(B) کعبہ کی مغربی دیوار پر
(C) کعبہ کی شمالی دیوار پر
(D) کعبہ کی جنوبی دیوار پر

80. قریش کے معاشرتی بائیکاٹ کے دوران وہ کون سی شخصیت تھی جو اپنے اونٹ پر اشیائے خورد و نوش کا سامان لاد کر رات کی تاریکی میں مسلمانوں تک پہنچاتی تھی؟
(A) ہشام ابن عمرو
(B) ہاشم ابن ہاشم
(C) ہاشم ابن علی
(D) ہاشم ابن عبداللہ

81. شعب ابی طالب میں رہنے والے مسلمانوں کے مصائب دیکھ کر سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟
(A) زہیر ابن امیہ
(B) زبیر ابن علی
(C) زبیر ابن عبداللہ
(D) زبیر ابن مطلب

82. زہیر ابن امیہ کا ابوطالب سے کیا رشتہ تھا؟
(A) ابوطالب کے بیٹے تھے
(B) ابوطالب کے چچازاد
(C) ابوطالب کے بھانجے
(D) ان میں سے کوئی نہیں

83. زہیر ابن امیہ کی والدہ عاتکہ بیٹی تھیں۔
(A) عبدالمطلب کی
(B) ابولہب کی

(C) ابو طالب کی (D) کوئی نہیں

84. کس نے زہیر ابن امیہ کی مخالفت کی لیکن بعد میں براہ راست مخالفت سے بچنے کیلئے ہاں میں ہاں ملائی؟

(A) ابوسفیان (B) ابوطالب
(C) ابوجہل (D) ابوعباس

85. اس شخص کا کیا نام تھا جو معاہدہ شعب ابی طالب کو پھاڑنا چاہتا تھا لیکن وہ معاہدہ پہلے ہی دیمک کھا چکی تھی سوائے "بسم اللہ" کے الفاظ کے؟

(A) زمعہ (B) ابوالبختری
(C) زہیر (D) مطعم

86. شق القمر (چاند کا دو حصوں میں تقسیم ہونا) کا واقعہ کب پیش آیا؟

(A) پانچویں نبوی (B) چھٹی نبوی
(C) ساتویں نبوی (D) آٹھویں نبوی

87. وہ کون اہم شخص تھے جو دسویں نبوی ماہ رمضان میں وفات پا گئے؟

(A) ابوطالب (B) ابوعباس
(C) ابوحمزہ (D) ابوطالب

88. ابوطالب کی وفات کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہؓ کا بھی انتقال ہو گیا؟

(A) ایک دن (B) دو دن
(C) تین دن (D) چار دن

89. آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریش نے مجھے کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا..........کی وفات کے بعد پہنچایا.........

(A) حضرت خدیجہؓ (B) حضرت سمیہؓ
(C) حضرت ابوطالب (D) ان میں سے کوئی نہیں

90. قریش کے مصائب سے تنگ آ کر کب آپ ﷺ نے طائف جانے کا ارادہ کیا؟

(A) 9 نبوی (B) 10 نبوی
(C) 11 نبوی (D) 12 نبوی

91. طائف مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟

(A) 90 کلومیٹر (B) 92 کلومیٹر
(C) 93 کلومیٹر (D) 94 کلومیٹر

92. سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون تھے؟

(A) حضرت بلالؓ ابن رباح (B) حضرت زید بن حارث
(C) حضرت خبابؓ ابن ارت (D) حضرت عبداللہ ابن مسعود

93. طائف میں کون سے قبیلہ آباد تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے؟

(A) قریش (B) اوس
(C) خزرج (D) ثقیف

94. طائف میں جب آپ ﷺ پر پتھر پھینکے گئے تو آپ ﷺ نے کس کی دیوار کے سائے میں پناہ لی؟

(A) عتبہ (B) شیبہ
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

95. عتبہ اور شیبہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟

(A) تمیم (B) عدی
(C) اسد (D) قریش

96. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کہا کہ "اے اللہ! اپنی کمزوری اور طاقت کی کمی اور لوگوں کی نظروں میں ہیچ ہونے کی تیری طرف شکایت کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والے اے رب تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے؟"

(A) طائف سے واپسی پر (B) مکہ سے واپسی پر
(C) ہجرت کے موقع پر (D) ہجرت حبشہ کے وقت

97. سفر طائف سے واپسی پر عتبہ اور شیبہ نے اپنے کس عیسائی غلام کے ہاتھ کچھ انگور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے؟

(A) عدی (B) اسد
(C) جان (D) عداس

98. عداس نینوا کا رہائشی تھا نینوا میں کس نبی کو بھیجا گیا؟

(A) حضرت یوسف (B) حضرت یونس
(C) حضرت موسیٰ (D) حضرت عیسیٰ

99. جب آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور چکھنے سے پہلے بسم

اللہ پڑھی تو عداس نے کیا کہا؟

(A) یہ اس دنیا کے الفاظ نہیں ہیں
(B) تم جھوٹے ہو
(C) یہ وہ الفاظ نہیں جو یہاں کے باشندے عام طور پر بولتے ہیں
(D) ان میں سے کوئی نہیں

100. طائف کے لوگ کس بت کی پوجا کرتے تھے؟

(A) لات (B) منات
(C) ہبل (D) عزیٰ

101. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ابوجہل کا لقب کیا تھا؟

(A) ابوالحکم (B) ابوالعقبہ
(C) ابوالعتبہ (D) ابوالمغیرہ

102. 27 رجب 11/12 نبوی کو کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟

(A) ابوطالب کا قبول اسلام (B) معراج
(C) ہجرت مدینہ (D) دوسری ہجرت حبشہ

103. معراج کی رات آپ ﷺ کا قیام اپنی کس چچازاد بہن کے گھر تھا؟

(A) ام ہانی (B) ام علی
(C) ام طلحہ (D) کوئی نہیں

104. ام ہانی کس کی بیٹی تھیں؟

(A) حضرت حمزہؓ (B) حضرت ابوطالب
(C) حضرت عباسؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

105. معراج کے سفر میں آپ ﷺ کی پہلی منزل ____

(A) پہلا آسمان تھا (B) مسجد اقصیٰ تھی
(C) دوسرا آسمان تھا (D) کوئی نہیں

106. وہ کون سی شخصیت تھیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مت بتائیں وہ یقین نہ کریں گے؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت خدیجہؓ
(C) حضرت ام ہانی (D) ان میں سے کوئی نہیں

107. کون سی شخصیت نے صرف سن کر واقعہ معراج کی تصدیق کی؟

(A) ام ہانی (B) حضرت خدیجہؓ
(C) حضرت عائشہؓ (D) حضرت ابوبکر صدیق

108. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جانور کے ذریعے سفر معراج طے کیا؟

(A) اونٹ (B) گھوڑا
(C) براق (D) ان میں سے کوئی نہیں

109. معراج میں آپ ﷺ کی پہلی منزل تھی۔

(A) پہلا آسمان (B) مسجد اقصیٰ
(C) جنت (D) کوئی نہیں

110. معراج کے سفر میں مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے ہوئے آپ ﷺ کے ہمراہ کون تھا؟

(A) حضرت جبرائیلؑ (B) حضرت میکائیل
(C) حضرت اسرافیلؑ (D) کوئی نہیں

111. معراج کے سفر میں وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر حضرت جبرائیل نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے گئے؟

(A) سدرۃ المنتہیٰ (B) جنت معلیٰ
(C) وقوف اسریٰ (D) ان میں سے کوئی نہیں

112. سدرۃ المنتہیٰ کا مطلب کیا ہے؟

(A) نور کا درخت (B) نور کا گھر
(C) نور کی جگہ (D) مقام نور

113. ساتویں آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس ہستی سے ہوئی؟

(A) حضرت ابراہیمؑ (B) حضرت نوحؑ
(C) حضرت اسماعیل (D) حضرت یوسف

114. اس شخصیت کا نام بتائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آسمان پر ملے؟

(A) حضرت اسماعیلؑ (B) حضرت آدمؑ
(C) حضرت موسیٰؑ (D) حضرت عیسیٰؑ

115. پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟
(A) حضرت عیسیٰؑ (B) حضرت ادریسؑ
(C) حضرت شیثؑ (D) حضرت آدمؑ

116. واقعہ معراج کے دوران آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات پانچویں آسمان پر کس نبیؑ سے ہوئی تھی؟
(A) حضرت داؤدؑ (B) حضرت ادریسؑ
(C) حضرت عیسیٰؑ (D) حضرت ہارونؑ

117. معراج کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس فرشتے سے ہوئی جو صور سے منہ لگائے ہوئے تھے؟
(A) حضرت جبرائیلؑ (B) حضرت اسرافیلؑ
(C) حضرت میکائیلؑ (D) حضرت عزرائیلؑ

118. معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز کا تحفہ عطا کیا گیا؟
(A) 10 صلوٰۃ (B) 20 صلوٰۃ
(C) 40 صلوٰۃ (D) 50 صلوٰۃ

119. حضرت موسیٰؑ کے کہنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کی تعداد کم کروانے کیلئے خدا تعالیٰ کے پاس کتنی مرتبہ گئے یہاں تک کہ نمازوں کی تعداد صرف پانچ رہ گئی؟
(A) 5 مرتبہ (B) 6 مرتبہ
(C) 7 مرتبہ (D) 9 مرتبہ

120. واقعہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے فرشتوں کو بیت المعمور کا طواف کرتے دیکھا؟
(A) 50,000 (B) 60,000
(C) 70,000 (D) 80,000

121. واقعہ معراج کو ________ بھی کہتے ہیں۔
(A) واقعہ سدرۃ المنتہیٰ (B) واقعہ اسریٰ
(C) واقعہ معمور (D) کوئی نہیں

122. اسریٰ کے کیا معانی ہیں؟
(A) نبوت (B) سفر
(C) اوپر جانا (D) ہجرت

123. معراج کے دوران کس مقام پر تمام انبیائے کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی تھی؟
(A) مسجد اقصیٰ (B) مسجد نبوی
(C) مسجد حرام (D) مسجد قبا

124. مدینہ میں اسلام کس سال پھیلنا شروع ہوا؟
(A) 10 نبوی (B) 11 نبوی
(C) 12 نبوی (D) 13 نبوی

125. 11 نبوی میں مدینہ کے پہلے 6 انصار نے اسلام قبول کیا (جو) قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟
(A) بنواسد (B) بنوتمیم
(C) بنوخزرج (D) بنواوس

126. یثرب کے کچھ لوگوں کا گروہ مکہ قبول اسلام کے ارادے سے اور آپ ﷺ کو العقبہ کے مقام پر ملا اور کون سا معاہدہ کیا؟
(A) بیعت عقبہ اولیٰ (B) بیعت عقبہ ثانیہ
(C) بیعت عقبہ اول (D) بیعت عقبہ آخر

127. بیعت عقبہ اولیٰ کس سال ہوئی؟
(A) 11 نبوی (B) 12 نبوی
(C) 13 نبوی (D) 14 نبوی

128. بیعت عقبہ اولیٰ کے 12 اسلام قبول کرنے والوں میں سے۔
(A) 6 کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا
(B) 6 کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

129. بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس اور خزرج کے مسلمانوں کے ہمراہ اسلام کی تعلیمات کیلئے کس معلم بنا کر بھیجا؟

(A) مصعب بن عمیرؓ (B) عبداللہؓ ابن ام کلثوم
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

130. بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟
(A) 10 (B) 11
(C) 12 (D) 13

131. مدینہ میں پہلی صلوٰۃ جمعہ کے امام کون تھے؟
(A) اسعدؓ بن زرارہ (B) مالکؓ ابن انس
(C) طلحہؓ ابن عبیداللہ (D) عبداللہؓ ابن مسعود

132. مدینہ میں صلوٰۃ جمعہ کا آغاز کب ہوا؟
(A) 11 نبوی کے اختتام پر (B) 11 نبوی کے آغاز پر
(C) 12 نبوی کے اختتام پر (D) 12 نبوی کے آغاز پر

133. کب حضرت مصعب بن عمیرؓ کے ہمراہ لوگوں کا ایک گروہ حج کے لیے مدینہ سے مکہ آیا؟
(A) 11 نبوی (B) 12 نبوی
(C) 13 نبوی (D) 14 نبوی

134. حضرت مصعب بن عمیرؓ کے ہمراہ لوگوں کے اس گروہ میں دو خواتین اور ________؟
(A) 50 مرد تھے (B) 60 مرد تھے
(C) 73 مرد تھے (D) 83 مرد تھے

135. بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ کب پیش آیا؟
(A) نبوت کے 11 ویں سال
(B) نبوت کے 12 ویں سال
(C) نبوت کے 13 ویں سال
(D) نبوت کے 14 ویں سال

136. بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے افراد شامل تھے؟
(A) 70 (B) 71
(C) 72 (D) 75

137. رافع ابنؓ مالک کون تھے؟
(A) وہ انصاری جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ میں حصہ لیا
(B) وہ انصاری جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں حصہ لیا
(C) وہ انصاری جنہوں نے ان دونوں معاہدوں میں حصہ لیا
(D) وہ انصاری جنہوں نے کسی معاہدے میں حصہ نہیں لیا

138. عقبہ کس جگہ کے قریب واقع ہے؟
(A) مدینہ (B) مکہ
(C) کوفہ (D) یثرب

139. براءؓ ابن معرور کون تھے؟
(A) قبیلہ خزرج کے سردار (B) قبیلہ اوس کے سردار
(C) قبیلہ تمیم کے سردار (D) قبیلہ قریش کے سردار

140. بیعت عقبہ ثانیہ پر کس نے خدشہ ظاہر کیا کہ آپ ﷺ انہیں چھوڑ کر واپس اپنے لوگوں میں تو نہ چلے جائیں گے؟
(A) ابوالہاشم (B) ابوطیہان
(C) ابوالہاشم ابن طیہان (D) ان میں سے کوئی نہیں

141. عقبہ کے دوسرے معاہدے کے وقت قبیلہ اوس کے سردار کون تھے؟
(A) سعدؓ ابن معاذ (B) سعد ابن عبیدہ
(C) سعد ابن حسن (D) سعد ابن ولید

142. ابوجہل نے عقبہ کے معاہدے سے پریشان ہو کر قریش کے تمام سرکردہ افراد کو کہاں اکٹھا کیا لیکن اس معاہدے کا کوئی حل نہ نکال سکا؟
(A) خانہ کعبہ (B) دارالندوہ
(C) عقبہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

143. ابوقتادہؓ کون تھے؟
(A) پہلے صحابی جنہوں نے مدینہ ہجرت کی
(B) آخری صحابی جنہوں نے مدینہ ہجرت کی
(C) وہ صحابی جنہوں نے مدینہ ہجرت نہیں کی
(D) ان میں سے کوئی نہیں

144. نبوت کے کس سال سب سے زیادہ مسلمانوں نے ہجرت کی؟
(A) 11 (B) 12
(C) 13 (D) 14

145. نبوت کے کون سے سال حضرت عمرؓ نے کھلے عام مدینہ ہجرت کی لیکن کوئی آپ کو روک نہ سکا؟

(A) 11 (B) 12

(C) 13 (D) 14

146. ہجرت مدینہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ کتنے لوگ شامل تھے؟

(A) 10 (B) 12

(C) 15 (D) 20

147. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم سننے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخصیت کو یہ حکم سنایا اور ہجرت مدینہ میں انہیں اپنا ساتھی بنایا؟

(A) حضرت عمر فاروقؓ (B) حضرت ابوبکر صدیقؓ

(C) حضرت علی المرتضیٰؓ (D) حضرت عثمان غنیؓ

148. ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کو اپنی عبا پہننے اور اپنے بستر پر سونے کیلئے کہا؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت علیؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

149. مکہ کو چھوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے متعلق کون سے الفاظ کہے؟

(A) میری مدد کرو

(B) میں واپس آؤں گا

(C) تم مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو لیکن تمہارے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے

(D) تمہارے بیٹوں نے مجھے نکالا ہے

150. مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اونٹنی پر سفر کیا اس کا نام کیا تھا؟

(A) دلدل (B) عضبہ

(C) قصویٰ (D) ذوالفقار

151. مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کہاں پناہ لی تھی؟

(A) غار حرا (B) غار ثور

(C) وادی شعب (D) صفا کی پہاڑی

152. مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی جائے پناہ سے کون واقف تھے؟

(A) حضرت ابوبکرؓ کے بیٹے عبداللہ

(B) عائشہؓ اور اسماءؓ حضرت ابوبکرؓ کی بیٹیاں

(C) عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکرؓ کے غلام

(D) تمام

153. غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خوراک پہنچانا کس کی ذمہ داری تھی؟

(A) اسماءؓ بنت ابی بکرؓ (B) عائشہؓ بنت ابی بکرؓ

(C) عبداللہؓ بن ابی بکرؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

154. کون حضرت ابوبکرؓ کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور غار ثور کے قریب سے گزرتے ہوئے انہیں گوشت اور دودھ فراہم کرتے تھے؟

(A) عبداللہ ابن ابی بکر (B) عامر بن فہیرہ

(C) عمر ابن ابی بکر (D) ان میں سے کوئی نہیں

155. غار ثور سے متعلق وہ کون سے معجزات تھے جس کی وجہ سے قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیقؓ [illegible] نہ کر سکے؟

(A) مکڑی جس نے جالا بن کر غار کا دروازہ بند کر دیا

(B) دو کبوتر جنہوں نے اپنے گھونسلے بنا کر ان میں انڈے دیے

(C) درخت جس نے غار ثور کے دروازے پر اپنی شاخیں اس طرح پھیلائیں کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے

(D) تمام

156. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں چھپے ہوئے تھے قریش نے نوجوان کو کس لالچ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش اور ختم کرنے کیلئے بھیجا؟

(A) 50 سرخ اونٹ (B) 100 سرخ اونٹ

(C) 150 سرخ اونٹ (D) 200 سرخ اونٹ

157. قریش کے اس نوجوان کا نام بتائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا اس سمیت گر گیا۔ یہ واقعہ چار دفعہ رونما ہوا۔ اس پر اس نوجوان نے [illegible]

کیا کہ اس منصوبہ میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہے؟

(A) سراقہ ابن جعشم (B) سراقہ ابن عتبہ

(C) سراقہ بن ولید (D) سراقہ ابن حکام

158. سراقہ کو سونے کے کنگن پہنانے کی آپ ﷺ کی پیش گوئی کس کے دور خلافت میں پوری ہوئی؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عمر ابن خطابؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علی المرتضیٰؓ

159. عبداللہ ابن اریقط کون تھا؟ (PCS Judicial 2001)

(A) ہجرت مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی

(B) ہجرت مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہنما

(C) ہجرت مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاون و مددگار

(D) ان میں سے کوئی نہیں

160. نبوت کے کس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہؓ جو سید الشہداء بھی کہلاتے تھے نے اسلام قبول کیا؟

(A) 4 نبوی (B) 5 نبوی

(C) 6 نبوی (D) 7 نبوی

161. جنت معلّی کہاں پر واقع ہے؟

(A) مدینہ (B) مکہ

(C) طائف (D) کوفہ

162. قرآن پاک کا نزول کس رات کو ہوا تھا؟

(A) شب معراج (B) لیلۃ القدر

(C) لیلۃ العروس (D) شب برات

163. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کون سا ہے؟

(A) معراج (B) شق القمر

(C) قرآن پاک (D) تمام

164. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ قرآن پاک ہے یہ کس ماہ نازل ہوا؟

(A) محرم (B) صفر

(C) ذی الحج (D) رمضان

165. باغ فدک نبی پاکؐ کو بطور ______ عطا کیا گیا۔

(A) فے (B) مال غنیمت

(C) قرض (D) تحفہ

166. نبی پاکؐ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہ ہے۔

(A) عیدگاہ (B) بازار

(C) مسجد (D) گھر

167. حضور ﷺ کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہے۔

''رسول اللہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا''۔

(A) حضرت ابوہریرہ (B) حضرت عبداللہ بن مسعود

(C) حضرت عائشہ (D) حضرت ام سلمیٰ

168. عہد نبوی میں کل کاتب تھے۔

(A) 40 (B) 42

(C) 44 (D) 46

169. آپ ﷺ کے ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ پہنچنے پر مدینے کے بچے خوشی سے باہر نکل کر یہ گیت گا رہے تھے۔

طلع البدر علینا من ثنیات الوَداع

وَجَبَ الشُکر علینا مادعا اللہ داع

یہ بتائیں یہی گیت دوبارہ کس موقع پر گایا گیا۔

(A) غزوہ بدر سے واپسی پر (B) فتح مکہ سے واپسی پر

(C) صلح حدیبیہ سے واپسی پر

(D) جنگ تبوک سے واپسی پر

170. مسجد فتح واقع ہے۔

(A) مکہ میں (B) مدینہ میں

(C) طائف میں (D) ریاض میں

171. کوہ رحمت واقع ہے۔

(A) مکہ کے قریب (B) مدینہ کے قریب

(C) طائف کے قریب (D) ریاض کے قریب

172. ہجرت مدینہ کے وقت آپ ﷺ کے گائیڈ تھے۔

(A) عبداللہ بن اریقطؓ (B) عبداللہ بن سبائیؓ

(C) عبداللہ بن مخزومیؓ (D) عبداللہ بن عداسیؓ

173. آپ ﷺ نے کس کو مدینہ کا پہلا قاضی مقرر کیا؟

(A) عبداللہ بن نوفلؓ (B) ابوبکرؓ

(C) معاذ بن جبلؓ (D) عبدالرحمٰن بن عوفؓ

174. قیام امن کی ذمہ داری مدینہ میں کس کو سونپی گئی؟
(A) معوذ بن جبلؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) سعد بن قیسؓ (D) زبیر بن العوامؓ

175. عہد نبوی میں کاتب کون تھے؟
(A) جو دستاویزیں، یادداشتیں اور قرآن لکھتے
(B) جو آمدنی کا حساب رکھتے (C) دونوں
(D) کوئی نہیں

176. شق القمر کا واقعہ پیش آیا۔
(A) مزدلفہ میں (B) حرم میں
(C) منیٰ میں (D) کوئی نہیں

177. سفر ہجرت میں نبی کریم ﷺ نے کس شخص کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جانے کی خوشخبری سنائی؟
(A) سراقہ بن جعشم (B) سراقہ بن مالک
(C) حضرت ابوبکر صدیقؓ (D) حضرت عمرؓ

178. ابوجہل کا اصل نام کیا تھا؟
(A) عمرو بن احمد (B) عمرو بن ہشام
(C) حارث بن ہشام (D) ہاشم بن عمرو

179. اسلام کی خاطر پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام ہے۔
(A) حضرت زینبؓ (B) حضرت سمیہؓ
(C) حضرت ام کلثومؓ (D) حضرت صفیہؓ

180. سفر معراج میں رسول اکرم ﷺ ساتویں آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی؟
(A) سیدنا موسیٰ علیہ السلام (B) سیدنا آدم علیہ السلام
(C) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام (D) سیدنا ابراہیم علیہ السلام

181. شب معراج چوتھے آسمان پر آپ ﷺ کی کس نبی سے ملاقات ہوئی؟
(A) حضرت عیسیٰ (B) حضرت یوسف
(C) حضرت ادریس (D) حضرت ہارون

182. بیعت عقبہ اولیٰ میں کل کتنے افراد شریک ہوئے؟
6 (A) 8 (B)
12 (C) 15 (D)

183. یثرب میں پہلے پہل تبلیغ اسلام کے لیے کس صحابی کو بھیجا گیا؟
(A) حضرت عمرو بن العاصؓ
(B) حضرت اسعد بن زرارہؓ
(C) حضرت مصعب بن عمیرؓ
(D) ان میں سے کوئی نہیں

184. اسلام کی پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام کیا ہے؟
(A) لبینہؓ (B) سمیہؓ
(C) رقیہؓ (D) ام کلثومؓ

185. غار ثور کس شہر میں واقع ہے؟
(A) طائف (B) مکہ
(C) مدینہ (D) کوفہ

186. 'خدا کی قسم یہ کلام اور عیسیٰ کا کلام ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں' یہ الفاظ کس کے ہیں اور کس موقع پر کہے گے؟
(A) ورقہ بن نوفل کے واقعہ حرا کے موقعہ پر
(B) ہرقل کے حضور اکرم ﷺ کا تبلیغی خط وصول کرتے وقت
(C) نجاشی کے ہجرت حبشہ اول کے وقت
(D) نجاشی کے ہجرت حبشہ دوم کے وقت

187. بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے افراد شامل تھے؟
12 (A) 42 (B)
57 (C) 73 (D)

188. حضور ﷺ نے کتنے سال خفیہ تبلیغ کی؟
(A) ایک سال (B) دو سال
(C) تین سال (D) پانچ

189. پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے مرد شامل تھے؟
11 (A) 12 (B)
13 (C) 14 (D)

190. حبشہ کی ہجرت اولیٰ میں عورتوں کی تعداد کتنی تھی؟
5 (A) 6 (B)
10 (C) 4 (D)

191. 10 نبوی کو کیا کہتے ہیں؟
(A) عام الغم (B) عام الفرحت
(C) عام الحزن (D) عام السہولت

جوابات

1. (D)	2. (C)	3. (B)	4. (A)	5. (D)	6. (A)	7. (A)	8. (B)
9. (D)	10. (B)	11. (A)	12. (B)	13. (D)	14. (C)	15. (B)	16. (A)
17. (D)	18. (D)	19. (A)	20. (D)	21. (D)	22. (D)	23. (C)	24. (C)
25. (D)	26. (C)	27. (C)	28. (A)	29. (A)	30. (D)	31 (D)	32. (C)
33. (D)	34. (A)	35. (A)	36. (D)	37. (C)	38. (C)	39. (B)	40. (C)
41. (C)	42. (D)	43. (B)	44. (C)	45. (B)	46. (A)	47. (C)	48. (B)
49. (A)	50. (D)	51. (D)	52. (C)	53. (C)	54. (A)	55. (A)	56. (B)
57. (C)	58. (B)	59. (A)	60. (A)	61. (A)	62. (A)	63. (B)	64. (D)
65. (B)	66. (C)	67. (C)	68. (D)	69. (B)	70. (A)	71. (A)	72. (C)
73. (D)	74. (C)	75. (C)	76. (B)	77. (A)	78. (B)	79. (B)	80. (A)
81. (A)	82. (C)	83. (A)	84. (C)	85. (D)	86 (A)	87. (A)	88. (C)
89. (C)	90. (B)	91. (D)	92. (B)	93. (D)	94. (C)	95. (D)	96. (A)
97. (D)	98. (B)	99. (C)	100. (A)	101. (A)	102. (B)	103. (A)	104. (B)
105. (B)	106. (C)	107. (D)	108. (C)	109. (B)	110. (A)	111. (A)	112. (A)
113. (A)	114. (C)	115. (D)	116. (D)	117. (B)	118. (D)	119. (D)	120. (C)
121. (B)	122. (C)	123. (A)	124. (B)	125. (C)	126. (A)	127. (B)	128. (C)
129. (A)	130. (C)	131. (A)	132. (B)	133. (C)	134. (C)	135. (C)	136. (D)
137. (C)	138. (B)	139. (A)	140. (C)	141. (A)	142. (B)	143. (A)	144. (C)
145. (C)	146. (D)	147. (B)	148. (B)	149. (C)	150. (C)	151. (B)	152. (D)
153. (A)	154. (B)	155. (D)	156. (B)	157. (A)	158. (B)	159. (B)	160. (C)
161. (B)	162. (B)	163. (D)	164. (D)	165. (A)	166. (C)	167. (C)	168. (B)
169. (A)	170. (B)	171. (A)	172. (A)	173. (A)	174. (C)	175. (C)	176. (C)
177. (A)	178. (B)	179. (D)	180. (C)	181. (C)	182. (C)	183. (C)	184. (B)
185. (B)	186. (D)	187. (D)	188. (C)	189. (A)	190. (D)	191. (C)	

پہلی اسلامی سلطنت کا قیام تا وفات حضرت محمد ﷺ

1. ہجرت کے سال کا آغاز کب ہوا؟
(A) محرم 11 نبوی (B) صفر 12 نبوی
(C) محرم 13 نبوی (D) صفر 14 نبوی

2. حضرت محمد ﷺ مدینہ کب پہنچے؟
(A) 620 عیسوی (B) 621 عیسوی
(C) 622 عیسوی (D) 623 عیسوی

3. مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟
(A) حبشہ (B) میسوپوٹیما
(C) یثرب (D) کوفہ

4. کس وادی کو "فاران" کا نام دیا گیا ہے؟
(A) مکہ (B) حجاز
(C) طائف (D) یثرب

5 مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟
(A) 388 کلومیٹر (B) 390 کلومیٹر
(C) 440 کلومیٹر (D) 448 کلومیٹر

6. مدینہ کے قریب واقع اس وادی کا نام بتائیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ دنوں کے سفر کے بعد پہنچے؟
(A) کوفہ (B) قباء
(C) بصرہ (D) یثرب

7. قبا مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع ہے؟
(A) 1 میل (B) 2 میل
(C) 3 میل (D) 4 میل

8. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کب پہنچے؟
(A) 12 ربیع الاول، 13 نبوی، 1 A.H
(B) 13 ربیع الاول، 13 نبوی، 1 A.H
(C) 14 ربیع الاول، 13 نبوی، 1 A.H
(D) 15 ربیع الاول، 13 نبوی، 1 A.H

9. قباء میں آنحضور ﷺ نے کس کے گھر قیام کیا تھا؟
(A) کلثوم ابن الھدم (B) ابوایوبؓ انصاری
(C) سعدؓ ابن معاذ (D) سعدؓ بن عبادہ

10. اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟
(A) مسجد نبوی (B) مسجد حرام
(C) مسجد قبلتین (D) مسجد قباء

11. آنحضور ﷺ کے قباء داخل ہونے پر جن 500 لوگوں نے آپ ﷺ کا استقبال کیا ان میں سے اکثریت کس قبیلے کی تھی؟
(A) قبیلہ خزرج (B) قبیلہ اوس
(C) مہاجرین (D) تمام

12. قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنے دنوں پر مشتمل تھا؟
(A) 10 دن (B) 12 دن
(C) 13 دن (D) 14 دن

13 پہلی صلوۃ جمعہ مع خطبہ کہاں ادا کی گئی؟
(A) یثرب (B) مدینہ
(C) قباء (D) ان میں سے کوئی نہیں

14. کس روز آپ ﷺ قباء سے یثرب کی طرف روانہ ہوئے؟
(A) پیر (B) بدھ
(C) ہفتہ (D) جمعہ

15. یثرب میں آپ ﷺ کی اونٹنی کس کے گھر کے پاس رکی؟
(A) حضرت ابوایوب انصاریؓ (B) حضرت عبداللہ انصاریؓ
(C) عبدالرحمٰن بن عوفؓ (D) کوئی نہیں

16. قباء سے یثرب کی طرف جاتے ہوئے آپ ﷺ نے بنوسلیم کے محلے میں کتنے لوگوں نے اس صلوٰۃ میں حصہ لیا؟

(A) 100 (B) 110

(C) 120 (D) 130

17. حضرت ابوایوبؓ انصاری کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟

(A) بنوخزرج (B) بنواوس

(C) بنوتمیم (D) بنونجار

18. آنحضور ﷺ کے متعلق کون سا بیان درست ہے؟

(A) آپ ﷺ نے ابوایوب انصاریؓ کے گھر آٹھ ماہ قیام کیا۔

(B) آپ ﷺ نے ابوایوب انصاریؓ کے گھر نو ماہ تک قیام کیا۔

(C) آپ ﷺ نے ابوایوب انصاریؓ کے گھر دس ماہ تک قیام کیا۔

(D) آپ ﷺ نے ابوایوب انصاریؓ کے گھر 11 ماہ تک قیام کیا۔

19. ابوایوب انصاریؓ کے گھر کے سامنے آنحضور ﷺ کی اونٹنی جس زمین پر بیٹھی وہاں پر آنحضور ﷺ نے مسجد تعمیر کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ زمین کس کی ملکیت تھی؟

(A) سہل نامی یتیم بچہ (B) سہیل نامی یتیم بچہ

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

20. مدینہ میں پہلا مدرسہ کہاں قائم کیا گیا؟

(A) مسجد قباء (B) مسجد نبوی

(C) مسجد قبلتین (D) ان میں سے کوئی نہیں

21. مدینہ میں یہودیوں کا کون سا قبیلہ آباد تھا؟

(A) بنوقریظہ (B) بنوقینقاع

(C) بنونضیر (D) تمام

22. میثاق مدینہ کب ہوا؟

(A) ہجرت کے پہلے سال

(B) ہجرت کے دوسرے سال

(C) ہجرت کے تیسرے سال

(D) ہجرت کے چوتھے سال

23. میثاق مدینہ ہجرت مدینہ کے کتنے ماہ بعد ہوا؟

(A) 3 ماہ (B) 5 ماہ

(C) 7 ماہ (D) 9 ماہ

24. میثاق مدینہ کتنے نکات پر مشتمل تھا؟

(A) 6 (B) 7

(C) 9 (D) 10

25. آپ ﷺ نے کتنے غزوات میں حصہ لیا؟

(A) 20 (B) 25

(C) 27 (D) 30

26. آپ ﷺ کی زندگی کے 27 غزوات میں سے کتنے میں لڑائی ہوئی؟

(A) 7 (B) 9

(C) 11 (D) 15

27. آپ ﷺ کی زندگی کے جن 9 غزوات میں لڑائی ہوئی ان میں غزوہ احد، احزاب، بنوقریظہ، بنومصطلق، خیبر، حنین کے علاوہ اور کون سا شامل ہے؟

(A) طائف (B) فتح مکہ

(C) ذات الرقاع (D) ان میں سے کوئی نہیں

28. میثاق مدینہ کن کے درمیان طے پایا؟

(A) مسلمان اور یہودی (B) مسلمان اور غیر عرب

(C) مسلمان، یہودی اور دوسرے غیر مسلم

(D) ان میں سے کوئی نہیں

29. آنحضور ﷺ نے کس شخصیت کو حضرت فاطمہؓ، حضرت سودہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ام کلثومؓ، حضرت اسماءؓ اور حضرت ام ایمنؓ کو مدینہ لینے کیلئے بھیجا؟

(A) حضرت عبداللہؓ ابن ابی بکر (B) حضرت زیدؓ ابن حارثہ

(C) حضرت ابورافعؓ (D) تمام

30. پہلی ہجری کا وہ مہینہ بتائیں جب حضرت عائشہؓ آنحضور ﷺ کے نکاح میں آئیں؟

(A) رمضان (B) شوال

(C) محرم (D) ذی الحج

31. کہاں پر آپ ﷺ نے ہجری سال کا اعلان کیا؟
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) مسجد نبوی (D) طائف

32. کس کے دور خلافت میں ہجری سال منظم طریقے سے وجود میں آیا؟
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عمر فاروقؓ
(C) حضرت عثمان غنیؓ (D) حضرت علیؓ

33. رشتہ مواخات کا مطلب بھائی چارہ ہے یہ رشتہ کن کے درمیان استوار کیا گیا تھا؟
(A) مسلمان اور یہودی (B) مہاجرین اور مشرک
(C) مہاجرین اور انصاری (D) یہودی اور مشرک

34. رشتہ مواخات جن کے درمیان استوار کیا گیا تھا ان میں شامل تھے........
(A) 41 مہاجر اور 41 انصار (B) 43 مہاجر اور 43 انصار
(C) 44 مہاجر اور 44 انصار (D) 45 مہاجر اور 45 انصار

35. رشتہ مواخات میں آنحضور ﷺ نے کسے اپنا بھائی بنایا (جس کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا تم اس دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو؟
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عمر فاروقؓ
(C) حضرت عثمان غنیؓ (D) حضرت علیؓ

36. رشتہ مواخات میں حضرت مصعب بن عمیرؓ کے بھائی کون سے انصاری صحابی تھے؟
(A) حضرت ابوایوب انصاریؓ (B) حضرت حذیفہ انصاریؓ
(C) حضرت عبداللہ انصاریؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

37. آنحضور ﷺ نے کسے امین الامت کا خطاب دیا تھا؟
(PCS.J.2002)
(A) حضرت انسؓ ابن مالک
(B) حضرت کلثومؓ ابن الہدام
(C) حضرت زبیرؓ ابن عوام
(D) حضرت ابوعبیدہؓ ابن الجراح

38. اذان کا باقاعدہ آغاز کس ہجری سال میں ہوا؟
(A) پہلے (B) دوسرے
(C) تیسرے (D) چوتھے

39. کس شخصیت نے حضرت جبرائیلؑ سے اذان سیکھ کر حضرت بلال کو یہ الفاظ سکھائے؟
(A) حضرت انسؓ ابن مالک (B) حضرت زبیرؓ ابن عوام
(C) حضرت عبداللہؓ ابن زید (D) حضرت محمد ﷺ

40. ذیل میں کون سا بیان درست ہے؟
(A) آنحضور ﷺ اسلام کے پہلے موذن تھے۔
(B) حضرت ابوبکر صدیقؓ اسلام کے پہلے موذن تھے۔
(C) حضرت بلالؓ اسلام کے پہلے موذن تھے۔
(D) حضرت عمر فاروقؓ اسلام کے پہلے موذن تھے۔

41. "الصلوۃ خیر من النوم" کس خلیفہ نے نماز فجر کی اذان میں ان الفاظ کا اضافہ کیا؟
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عمر فاروقؓ
(C) حضرت عثمان غنیؓ (D) حضرت علیؓ

42. اس غیر عرب کا نام بتائیں جس نے ہجرت کے پانچ دن بعد اسلام قبول کیا اور آنحضور ﷺ نے اس صحابی کو اہل بیت میں شامل کر لیا؟
(A) حضرت انسؓ ابن مالک (B) حضرت زبیرؓ ابن عوام
(C) حضرت عبداللہؓ ابن اشرف (D) حضرت سلمان فارسیؓ

43. حضرت سلمان فارسیؓ کو آزاد کروانے کیلئے آنحضور ﷺ نے ان کے مالک کو کتنی ادائیگی کی؟
(A) 40 اوقیہ کے برابر رقم
(B) آپ ﷺ نے 300 پودے اپنے ہاتھوں سے باغ میں لگائے
(C) دونوں (D) سو درہم دیئے

44. آنحضور ﷺ نے اپنی فوجی مہمات کیلئے کس قبیلے کے ساتھ ہجرت کے پہلے سال معاہدہ کیا؟
(A) سعد (B) کنانہ
(C) اسد (D) تمیم

45. آنحضور ﷺ نے ہجرت کے پہلے سال کے دوران کتنے سرایا بھیجے؟

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

46. اسلام کے پہلے سریہ سیف البحر کو کس اور نام سے پکارا جاتا ہے؟
(A) سریا علیؓ (B) سریا حمزہؓ
(C) سریا عمرؓ (D) سریا انسؓ

47. حضرت حمزہؓ کو جو پہلا اسلامی جھنڈا دیا گیا تھا وہ کس رنگ کا تھا؟
(A) سفید (B) کالا
(C) سرخ (D) سبز

48. اس جگہ کا کیا نام ہے جہاں آپ ﷺ مدینہ آنے کے بعد پہلی دفعہ تشریف لے گئے؟
(A) ودان (B) وداع
(C) کوفہ (D) بصرہ

49. یہودیوں کے مذہبی رہنما عبداللہؓ ابن سلام نے کب اسلام قبول کیا؟
(A) 4 ہجری (B) 3 ہجری
(C) 2 ہجری (D) 1 ہجری

50. کون سے غزوات کے بعد یہودیوں کو جلاوطن کیا گیا تھا؟
(A) غزوہ خندق اور غزوہ خیبر
(B) غزوہ احد اور غزوہ خیبر
(C) غزوہ احد اور غزوہ خندق
(D) غزوہ خندق اور غزوہ طائف

51. کس کو آنحضور ﷺ نے ''مددگار رسول اللہ'' کا خطاب دیا تھا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت زبیرؓ ابن عوام (D) ان میں سے کوئی نہیں

52. نبی کریم ﷺ کی دعا کے بعد حضرت انسؓ بن مالک کا کھجوروں کا باغ سال میں کتنی مرتبہ پھل دیتا تھا؟
(A) دو دفعہ (B) تین دفعہ
(C) چار دفعہ (D) ایک دفعہ

53. کس کو آنحضور ﷺ نے اسے ''رئیس المنافقین'' کا خطاب دیا؟
(A) عبداللہ ابن حسن (B) عبداللہ ابن ابی عتبہ
(C) عبداللہ ابن ابی سلول (D) ان میں سے کوئی نہیں

54. دوسری ہجری میں کس چیز کو فرض قرار دیا گیا؟
(A) روزہ (B) زکوۃ
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

55. ہجرت مدینہ کے کتنا عرصہ بعد ''تبدیلی قبلہ'' کا حکم موصول ہوا؟
(A) 15 ماہ (B) 17 ماہ
(C) 19 ماہ (D) 20 ماہ

56. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) مسجد سلمہ میں تبدیلی قبلہ کا حکم موصول ہوا
(B) مسجد سلمہ بعد میں قبلتین کہلائی
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

57. مسجد سلمہ میں تبدیلی قبلہ کا حکم دو ہجری کے کس ماہ دیا گیا؟
(A) رمضان (B) شعبان
(C) محرم (D) صفر

58. قبلہ کی تبدیلی کے کتنا عرصہ بعد روزہ فرض قرار دیا گیا؟
(A) ایک ماہ (B) دو ماہ
(C) تین ماہ (D) چار ماہ

59. عیدالاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو کب واجب قرار دیا گیا؟
(A) پہلی ہجری (B) دوسری ہجری
(C) تیسری ہجری (D) چوتھی ہجری

60. عید سے کتنے دن پہلے ''فطرانہ'' کا حکم موصول ہوا؟
(A) پانچ دن (B) دس دن
(C) پندرہ دن (D) بیس دن

61. فطرانہ کا حکم کب دیا گیا؟
(A) پہلی ہجری (B) دوسری ہجری
(C) تیسری ہجری (D) چوتھی ہجری

62. درج ذیل میں سے کون سا حکم دو ہجری کو نازل ہوا؟
(A) جہاد

(B) آنحضور ﷺ پر درود پاک بھیجنا

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

63. دو ہجری کو کون سا واقعہ ظہور پذیر ہوا؟

(A) حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ ماہ شوال میں پیدا ہوئے۔

(B) ذی الحج میں حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کا نکاح ہوا۔

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

64. دو ہجری کے بارے میں ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟

(A) حضرت رقیہؓ کی وفات (B) حضرت خدیجہؓ کی وفات

(C) حضرت ابو طالب کی وفات (D) حضرت عباسؓ کی وفات

65. کس مشرک نے اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور کچھ جانوروں کو چوری کر کے اپنے ساتھ لے گیا؟

(A) کرز ابن جابر فہری (B) ابو سفیان

(C) ولید ابن مغیرہ (D) حئی ابن اخطب

66. مکی سردار کرز ابن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے آنحضور ﷺ کے کچھ جانور چوری کر لئے' اس واقعہ کے نتیجہ میں کون سا غزوہ لڑا گیا؟

(A) غزوہ بدر اول (B) غزوہ خندق

(C) غزوہ بنی مصطلق (D) غزوہ بدر ثانی

67. 2 ہجری ماہ رمضان کو کون سا غزوہ لڑا گیا؟

(A) بدر (B) حنین

(C) موتہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

68. 3 ہجری کو کس قانون کا نفاذ ہوا؟

(A) قانون وراثت

(B) مشرک عورت کے ساتھ نکاح کی ممانعت

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

69. 3 ہجری کو کون سا واقعہ پیش آیا؟

(A) حضرت ام کلثومؓ کی حضرت عثمانؓ سے شادی

(B) آنحضور ﷺ کی حضرت حفصہؓ سے شادی

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

70. حضرت حسنؓ کب پیدا ہوئے؟

(A) 1 ہجری (B) 2 ہجری

(C) 3 ہجری (D) 4 ہجری

71. 3 ہجری کو کون سا غزوہ پیش آیا؟

(A) غزوہ غطفان (B) غزوہ احد

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

72. اس یہودی شاعر کا کیا نام تھا جو اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو آنحضور ﷺ کے خلاف مشتعل کرتا تھا؟

(A) کعب ابن اشرف (B) کعب ابن حسن

(C) کعب ابن عتبہ (D) کعب ابن عقبہ

73. یہودی ابو رافع کو کس نے قتل کیا؟

(A) عبداللہ ابن عتیق (B) عبداللہ ابن سائل

(C) عبداللہ ابن عبداللہ (D) کوئی نہیں

74. شراب کو کب حرام قرار دیا گیا؟

(A) پہلی ہجری (B) دوسری ہجری

(C) تیسری ہجری (D) چوتھی ہجری

75. چوتھی ہجری کو کون سا غزوہ پیش آیا؟

(A) غزوہ نجد (B) غزوہ بنی نضیر

(C) غزوہ بدر ثانی (D) تمام

76. چوتھی ہجری میں کون سا واقعہ پیش آیا؟

(A) حضرت امام حسینؓ ماہ شعبان میں پیدا ہوئے

(B) حضرت محمد ﷺ نے ماہ رمضان میں حضرت زینبؓ سے عقد نکاح کیا

(C) آنحضور ﷺ نے ماہ شوال میں حضرت ام سلمہؓ سے نکاح کیا

(D) تمام

77. چوتھی ہجری میں کتنے سرایا لڑے گئے؟

(A) پانچ (B) چھ

(C) سات (D) آٹھ

78. چوتھی ہجری کا وہ مہینہ بتائیں جب پردہ کے متعلق احکام نازل ہوئے؟

(A) یکم ذی قعدہ (B) یکم رمضان
(C) یکم محرم (D) یکم ذی الحج

79. پانچویں ہجری میں کتنے غزوات پیش آئے؟
(A) غزوہ خندق اور بنی قریظہ
(B) غزوہ بنی مصطلق اور دومۃ الجندل
(C) تمام (D) ان میں سے کوئی نہیں

80. پانچویں ہجری میں کتنے سرایا پیش آئے؟
(A) ایک (B) دو
(C) تین (D) چار

81. ذیل میں کون سے احکام/حکم پانچویں ہجری کو پیش آئے؟
(A) زناء کی سزا (B) قذف
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

82. ''نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں'' قرآن کی کس سورۃ میں اس کا ذکر ہے (اسی سورۃ میں پردہ اور قذف کے متعلق احکام ہیں)؟
(A) سورہ بقرہ (B) سورہ آل عمران
(C) سورہ احزاب (D) سورہ علق

83. چھٹی ہجری کا سب سے اہم واقعہ جو ماہ رمضان کو وقوع پذیر ہوا کون سا تھا؟
(A) بیعت العقبہ (B) صلح حدیبیہ
(C) جنگ خندق (D) ان میں سے کوئی نہیں

84. خطوں پر مہر لگانے کیلئے کس صحابی نے آنحضور ﷺ کی نبوت سے متعلق تین لائنوں میں لکھی ہوئی انگوٹھی تیار کی؟
(A) یعلی ابن امیہؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت حذیفہؓ (D) حضرت علیؓ

85. صلح حدیبیہ کے بعد کس حکمران کو اللہ کا پیغام بھیجا گیا؟
(A) ہرقل (B) کسریٰ
(C) نجاشی (D) ان میں سے کوئی نہیں

86. ہرقل کس ملک کا بادشاہ تھا؟
(A) ایران (B) مصر
(C) شام (D) روم

87. ہرقل کو آنحضور ﷺ کا خط کس نے پہنچایا؟
(A) دحیہ کلبیؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) عبداللہ ابن حذافہؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

88. آنحضور ﷺ کا پیغام شہنشاہ فارس تک کس نے پہنچایا؟
(A) حضرت عبداللہ ابن حذافہؓ (B) حضرت دحیہ کلبیؓ
(C) حضرت خطیبؓ ابن بلاقہ (D) حضرت عمرؓ ابن امیہ

89. شہنشاہ فارس کا کیا نام تھا؟
(A) قیصر (B) خسرو پرویز
(C) ہرقل (D) ان میں سے کوئی نہیں

90. کس بادشاہ نے آنحضور ﷺ کا خط ٹکڑے ٹکڑے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ''خدا نے اس کی بادشاہت ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے۔'' اور کچھ عرصہ کے بعد اس کی بادشاہت ٹکڑے ٹکڑے ہوگئی؟
(A) خسرو پرویز (B) مقوقس
(C) ہرقل (D) قیصر

91. خسرو پرویز کے اس بیٹے کا نام بتائیں جس نے خسرو کو تخت سے اتارا؟
(A) شیرویہ (B) مقوقس
(C) ہرمز (D) کوئی نہیں

92. خسرو پرویز نے باذان کو لکھا ''ریاست عرب تمہارے زیر حکومت ہے اس لئے تم نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو''۔ باذان کون تھا؟
(A) شام کا گورنر (B) مصر کا گورنر
(C) اردن کا گورنر (D) یمن کا گورنر

93. مصر کے بادشاہ تک آنحضور ﷺ کا پیغام کس نے پہنچایا؟
(A) حضرت ابی ابن کعبؓ (B) حضرت عمرو ابن عاصؓ
(C) حضرت عمرؓ ابن امیہ
(D) حضرت حاطب بن ابی بلتعہ

94. مقوقس نے آنحضور ﷺ کے وفد کی تعظیم کی اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی نے آنا ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ......

(A) مصر میں ظاہر ہوگا (B) اردن میں ظاہر ہوگا
(C) فلسطین میں ظاہر ہوگا (D) شام میں ظاہر ہوگا

95. مقوقس بادشاہ تھا۔
(A) شام کا (B) مصر کا
(C) فلسطین کا (D) فارس کا

96. مقوقس نے آنحضور ﷺ کو......
(A) لونڈی ماریہ قبطیہ تحفے کے طور پر بھیجی
(B) لونڈی سیرین قبطی تحفے کے طور پر بھیجی
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

97. شہنشاہ مصر کا اصلی نام کیا تھا؟
(A) جریج ابن مطیع (B) جریج ابن مقوقس
(C) جریج ابن جراح (D) جریج ابن مینا

98. بحرین کے کس بادشاہ کے پاس علاء ابن حضرمی اللہ کا پیغام لے کر پہنچے؟
(A) منذر ابن علیق (B) منذر ابن ساوہ
(C) منذر ابن طلحہ (D) منذر ابن ہشام

99. جب منذر ابن ساوہ نے آنحضور ﷺ کا پیغام وصول کیا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟
(A) اس نے خط کو پرزے پرزے کر دیا
(B) اس نے نبی کریم ﷺ کے نمائندہ کو قتل کر دیا
(C) اس نے اسلام قبول کر لیا (D) ان میں سے کوئی نہیں

100. عمان کا حکمران کون تھا؟
(A) جعفر ابن جلندہ (B) عبد ابن جلندہ
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

101. جعفر ابن جلندہ اور عبد ابن جلندہ دونوں حقیقی بھائی تھے انہوں نے آنحضور ﷺ کے بھیجے گئے پیغام پر کس شخصیت کے ہاتھ اسلام قبول کیا؟
(A) حضرت ابی ابن کعبؓ (B) حضرت عمروؓ ابن امیہ
(C) حضرت عمروؓ ابن العاص (D) حضرت دحیہؓ ابن کلبی

102. یمامہ کا بادشاہ کون تھا؟
(A) ہزہ ابن عمرو (B) ہزہ ابن علی
(C) ہزہ ابن حسن (D) ہزہ ابن عتبہ

103. کس نے آنحضور ﷺ کا پیغام ہزہ ابن علی تک پہنچایا؟
(A) حضرت سلیطؓ (B) حضرت عمروؓ ابن عاص
(C) حضرت سلیط ابن عمرو ابن عبد الشمس
(D) ان میں سے کوئی نہیں

104. ہزہ ابن علی نے اسلام قبول کرنے کے لیے کیا طلب کیا؟
(A) 4 لونڈیاں (B) حکومت میں آدھا حصہ
(C) 100 اونٹ (D) مکہ میں زمین

105. "زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے گا جلد ہی اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی"۔ آنحضور نے یہ الفاظ کس کے بارے میں کہے؟
(A) ھوزہ ابن اسر (B) ھوزہ ابن عاص
(C) ھوزہ ابن علی (D) ھوزہ ابن عتبہ

106. حضرت حارثؓ ابن عمیر آنحضور ﷺ کا پیغام لے کر کس کے پاس گئے؟
(A) شاہ مصر (B) شاہ اردن
(C) شاہ فلسطین (D) شاہ شام

107. بصرہ کے اس بادشاہ کا نام بتائیں جس نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آنحضور ﷺ کے بھیجے گئے نمائندہ کو قتل کر دیا؟
(A) ابن عمر غسانی (B) ابن عمر حکام
(C) عمر ابن عتبہ (D) عمر ابن تخلیق

108. بصرہ کے بادشاہ عمر غسانی تک آنحضور ﷺ کا پیغام کس نے پہنچایا تھا؟
(A) حضرت حارثؓ ابن علی
(B) حضرت حارثؓ ابن عبد اللہ
(C) حضرت حارثؓ ابن عمیر
(D) حضرت حارثؓ ابن کلبی

109. ایتھوپیا کے بادشاہ تک آنحضور ﷺ کا پیغام کس نے پہنچایا؟

(A) حضرت عمروؓ ابن امیہ (B) حضرت خالدؓ ابن ولید
(C) حضرت شجاعؓ ابن وہاب
(D) حضرت عبداللہؓ ابن حذیفہ

110. ایتھوپیا کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟
(A) عاصم بن ابجار (B) عاصم ابن کہانہ
(C) عاصم ابن جہن (D) عاصم ابن حسین

111. جب آنحضور ﷺ کا خط حبشہ کے بادشاہ تک پہنچا تو اس نے کس کے ہاتھ اسلام قبول کیا؟
(A) حضرت عبداللہؓ ابن علی (B) حضرت حذیفہؓ ابن حسن
(C) حضرت جعفرؓ ابن طیار (D) ان میں سے کوئی نہیں

112. حضرت جعفرؓ ابن طیار مدینہ کب واپس پہنچے؟
(A) پانچویں ہجری (B) 6 ہجری
(C) 7 ہجری (D) 8 ہجری

113. حضرت جعفرؓ ابن طیار کی مدینہ واپسی پر نجاشی نے آنحضور ﷺ کی خدمت میں کیا بھیجا تھا؟
(A) ایک خط (B) اپنا بیٹا ارحہ
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

114. ساتویں ہجری میں کتنے غزوات پیش آئے؟
(A) ایک (B) دو
(C) تین (D) چار

115. ساتویں ہجری میں غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القریٰ کے علاوہ کون سا غزوہ وقوع پذیر ہوا تھا؟
(A) غزوہ موتہ (B) غزوہ ذات الرقاع
(C) غزوہ خندق (D) غزوہ حنین

116. ساتویں ہجری میں کتنے سرایا وقوع پذیر ہوئے؟
(A) دو (B) چار
(C) سات (D) نو

117. ساتویں ہجری کے کون سے ماہ آنحضور ﷺ نے عمرۃ القضاء ادا فرمایا؟
(A) شعبان (B) رمضان
(C) ذی قعدہ (D) محرم

118. آنحضور ﷺ نے ساتویں ہجری میں کس ام المومنینؓ سے شادی کی اور بعد از اں عمرۃ القضاء ادا کیا؟
(A) حضرت جویریہؓ (B) حضرت میمونہؓ
(C) حضرت ام حبیبہؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

119. آٹھویں ہجری میں چار غزوات پیش آئے جن میں غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے علاوہ چوتھا کون سا تھا؟
(A) غزوہ خندق (B) غزوہ خیبر
(C) غزوہ موتہ (D) غزوہ بدر ثانی

120. آٹھویں ہجری میں آٹھ سرایا ہوئے ان میں سے ایک سریہ کو غزوہ بھی کہا جاتا ہے اس کا نام کیا تھا؟
(A) سریہ ذات الرقاع (B) سریہ اوطاس
(C) سریہ ذات عرق (D) سریہ موتہ

121. آٹھویں ہجری میں کون سا سریہ پیش آیا؟
(A) سریہ ذات الرقاع (B) سریہ موتہ
(C) سریہ تبوک (D) سریہ ذات السلاسل

122. ہجرت کے کس سال اسلام کا غلبہ تمام عرب پر ہو گیا؟
(A) 5 ہجری (B) 6 ہجری
(C) 7 ہجری (D) 8 ہجری

123. 9 ہجری میں کتنے سرایا رونما ہوئے؟
(A) دو (B) تین
(C) پانچ (D) چھ

124. کس ہجری سال میں صرف ایک ہی غزوہ (غزوہ تبوک) پیش آیا؟
(A) 7 ہجری (B) 8 ہجری
(C) 9 ہجری (D) 10 ہجری

125. 9 ہجری کو عام الوفود کہتے ہیں اس ہجری سال میں آنحضور ﷺ کے پاس کتنے وفود آئے؟
(A) 30 (B) 32
(C) 33 (D) 34

126. ہجرت کے کس سال سریہ علیؓ پیش آیا؟

(A) 7 ہجری (B) 8 ہجری

(C) 9 ہجری (D) 10 ہجری

127. حج کب فرض ہوا؟

(A) 7 ہجری (B) 8 ہجری

(C) 9 ہجری (D) 10 ہجری

128. آنحضورﷺ نے کتنے صحابہ پہلے امیر حج ابوبکر صدیقؓ کے ساتھ بھیجے؟

(A) 100 (B) 200

(C) 300 (D) 400

129. 9 ہجری میں حج کے پہلے قافلے کی روانگی کے بعد کون سی سورۃ کی چالیس آیات نازل ہوئیں۔

(A) آل عمران (B) الواقعہ

(C) البقرہ (D) براۃ/توبہ

130. آپﷺ نے کس کو بھیجا تا کہ وہ پہلے حج کے دوران نازل ہونے والی سورۃ کو لوگوں کو سنائیں۔

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

131. 9 ہجری کو کس بادشاہ کی وفات ہوئی؟

(A) ہرقل (B) خسرو

(C) نجاشی (D) کوئی نہیں

132. نجاشی کی نماز جنازہ میں آنحضورﷺ نے کتنی دفعہ تکبیر ادا کی؟

(A) 4 (B) 6

(C) 8 (D) 10

133. ہجرت کے کس سال مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟

(A) 7 ہجری (B) 8 ہجری

(C) 9 ہجری (D) 10 ہجری

134. آنحضورﷺ نے کس شخصیت کو بنو ثقیف کے "لات" نامی بت کو توڑنے کیلئے بھیجا؟

(A) ابوسفیان (B) مغیرہ ابن شعبہ

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

135. ہجرت کے کس سال "فزیرہ" نامی خاتون کو رجم کی سزا دی گئی؟

(A) 7 ہجری (B) 8 ہجری

(C) 9 ہجری (D) 10 ہجری

136. سود کے بارے میں احکام کب نازل ہوئے؟

(A) 10 ہجری (B) 8 ہجری

(C) 9 ہجری (D) 5 ہجری

137. ایلاء کا کیا مطلب ہے؟

(A) میاں بیوی میں علیحدگی

(B) بیوی سے عارضی طور پر علیحدگی

(C) طلاق (D) خلع

138. ایلاء کا واقعہ کب پیش آیا۔

(A) 7 ہجری (B) 8 ہجری

(C) 9 ہجری (D) 10 ہجری

139. ایلاء کا واقعہ بیویوں کی باہمی رقابت کا مظہر تھا۔ آنحضورﷺ بیویوں سے کتنا عرصہ الگ رہے؟

(A) 20 دن (B) 25 دن

(C) 29 دن (D) ایک ماہ

140. آپﷺ نے 9 ہجری میں کس کی جنازہ ادا کرنی چاہی تو حضرت عمرؓ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی؟

(A) رئیس المنافقین عبداللہ ابن حکم

(B) رئیس المنافقین عبداللہ ابن سلول

(C) رئیس المنافقین عبداللہ ابن حشر

(D) رئیس المنافقین عبداللہ ابن حبیب

141. 9 ہجری میں یہ کس نے کہا تھا "اس سال کے بعد کسی مشرک کو بیت اللہ کی اجازت نہیں ہوگی"؟

(A) حضرت محمدﷺ (B) حضرت ابوبکرؓ

(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت علیؓ

142. کس واقعہ کے بعد کوئی آیت نازل نہ ہوئی؟
(A) خطبہ حجۃ الوداع (B) ہجرت مدینہ
(C) واقعہ کربلا (D) واقعہ قرطاس

143. آنحضور ﷺ نے اپنا آخری حج تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں کے ہمراہ کب ادا کیا تھا؟
(A) 8 ہجری (B) 9 ہجری
(C) 10 ہجری (D) 5 ہجری

144. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ ﷺ نے کتنے خطبے دیے؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

145. حجۃ الوداع کو کس اور نام سے یاد کیا جاتا ہے؟
(A) حجۃ البلاغ اور حجۃ الاسلام (B) حجۃ الکمال اور حجۃ التمام
(C) تمام (D) ان میں سے کوئی نہیں

146. حجۃ الوداع کے موقع پر ہدی کے کتنے اونٹ آنحضور ﷺ کے ہمراہ تھے؟
(A) 70 (B) 85
(C) 90 (D) 100

147. جب حضرت علیؓ نے حجۃ الوداع کی خبر سنی تو وہ کس جگہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے؟
(A) حجاز (B) حبشہ
(C) یمن (D) مصر

148. حجۃ الوداع میں خطبہ کی ادائیگی کے دوران ہر فقرے کی ادائیگی کے بعد آنحضور ﷺ وقفہ اختیار کرتے تھے اس وقت کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقرہ با آواز بلند دہراتے تھے؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت ربیعہ ابن امیہ (D) کوئی نہیں

149. احرام کھولنے کے بعد آنحضور ﷺ نے ہدی کے کتنے اونٹ ذبح کیے جبکہ باقی حضرت علیؓ نے ذبح کیے تھے؟
(A) 60 (B) 61
(C) 62 (D) 63

150. جب آنحضور ﷺ نے لوگوں سے پوچھا کہ "اے لوگو کیا میں نے تم تک اللہ کے پیغام پہنچا دیا ہے" لوگوں نے کہا "آپ نے پہنچا دیا ہے"۔ آنحضور ﷺ نے آسمان کی طرف دیکھا اور درج ذیل فقرہ تین دفعہ دہرایا۔ "اے خدا تو گواہ رہنا" یہ آپ ﷺ نے کس موقع پر کہا؟
(A) فتح مکہ کے موقع پر (B) حجۃ الوداع کے موقع پر
(C) وفات کے موقع پر (D) ان میں سے کوئی نہیں

151. حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی کون سی آیت نازل ہوئی؟
(A) آیت نمبر 1 (B) آیت نمبر 2
(C) آیت نمبر 3 (D) آیت نمبر 4

152. جب آنحضور ﷺ عرفات کے میدان میں اپنا خطبہ بیان کر رہے تھے تو اس وقت صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی؟
(A) 1,00,00 (B) 1,24,000
(C) 1,44,000 (D) 1,50,00

153. 10 ہجری میں آنحضور ﷺ کی زندگی میں کونسا المناک واقعہ رونما ہوا؟
(A) آپ ﷺ کی بیوی حضرت عائشہؓ کی وفات
(B) آپ ﷺ کے بیٹے حضرت قاسم کی وفات
(C) آپ ﷺ کی بیوی حضرت میمونہؓ کی وفات
(D) آپ ﷺ کے بیٹے حضرت ابراہیمؓ کی وفات

154. 11 ہجری کی کس تاریخ کو آنحضور ﷺ نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اور واپسی کے دوران آپ ﷺ نے درد اور بخار محسوس کیا؟
(A) 29 محرم (B) 29 صفر
(C) 29 ربیع الاول (D) 29 ربیع الثانی

155. 29 صفر، 11 ہجری کو آپ ﷺ اپنے غلام کے ساتھ کہاں گئے؟
(A) جنت البقیع (B) کوفہ
(C) مکہ (D) مسجد نبوی

156. 29 صفر 11 ہجری کو آنحضورﷺ کا جو غلام آپ کے ساتھ جنت البقیع گیا تھا اس کا کیا نام تھا؟

(A) ابو موسیٰ　(B) ابو عباس
(C) ابو مویبع　(D) ابو طاہر

157. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری بڑھ گئی تو آپﷺ نے ازواج مطہرات کی باہمی رضامندی کے بعد کس کے حجرہ میں قیام کیا؟

(A) حضرت ماریہؓ　(B) حضرت جویریہؓ
(C) حضرت عائشہؓ　(D) حضرت سودہؓ

158. آپﷺ نے جس آخری نماز کی امامت کروائی؟

(A) فجر　(B) عصر
(C) مغرب　(D) عشاء

159. آنحضورﷺ نے عشاء کی نماز کی امامت کرانے کی کوشش کی لیکن اپنی بیماری کے باعث ایسا نہ کر سکے تب انہوں نے کس سے نماز کی امامت کرانے کو کہا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ　(B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ　(D) حضرت علیؓ

160. آنحضورﷺ کی زندگی میں حضرت ابوبکرؓ نے کتنی نمازوں کی امامت کروائی؟

(A) 10　(B) 13
(C) 15　(D) 17

161. جنگ موتہ کے شہیدوں کا بدلہ لینے کیلئے جانے والی فوج کا سربراہ آپﷺ نے کسے مقرر کیا؟

(A) حضرت اسامہ ابن زیدؓ　(B) حضرت خالد ابن ولیدؓ
(C) حضرت جعفر ابن طیارؓ　(D) حضرت حذیفہؓ

162. نبی کریمﷺ کی زندگی میں مالیات کا ریکارڈ کس کے پاس تھا؟

(A) حضرت زبیر ابن عوامؓ　(B) حضرت زبیر ابن زبیرؓ
(C) حضرت طلحہ ابن زبیرؓ　(D) حضرت حمزہ ابن زبیرؓ

163. آنحضورﷺ کی زندگی میں کس شخص کے پاس مہر نبوی تھی جو آنحضورﷺ کے معاون کے طور پر بھی کام کرتے تھے؟

(A) حضرت عمر فاروقؓ　(B) حضرت علی مرتضیٰ
(C) حضرت زبیر ابن عوام　(D) حضرت حنظلہ ابن ربیعؓ

164. اگرچہ نبی پاکﷺ کی زندگی میں باقاعدہ محکمہ پولیس قائم نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود پولیس کے فرائض کس شخصیت کے ذمہ تھے؟

(A) حضرت عمر فاروقؓ　(B) حضرت علیؓ
(C) حضرت سعد ابن قیسؓ　(D) حضرت زبیرؓ

165. آپﷺ نے کس جنگ کے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے اپنے آخری ایام میں فوج روانہ کی؟

(A) تبوک　(B) موتہ
(C) یرموک　(D) کوئی نہیں

166. جنگ موتہ کا بدلہ لینے کے لیے روانہ فوج ابھی کہاں تھی کہ آپﷺ کی بیماری کا سن کر رک گئی؟

(A) جحفہ　(B) جراف
(C) ذوالحلیفہ　(D) کوئی نہیں

167. نبی پاکﷺ نے اپنی زندگی میں قاضی کی ذمہ داری کس کو سونپی تھی؟

(A) حضرت علی مرتضیٰؓ　(B) حضرت معاذ ابن جبلؓ
(C) دونوں　(D) ان میں سے کوئی نہیں

168. آنحضورﷺ نے ایک عہدہ "صاحب السوق" کے نام سے شروع کیا۔ اس کی ذمہ داری کیا تھی؟

(A) بازاروں کا معائنہ کرنا　(B) بیت المال کا معائنہ کرنا
(C) فوج کا معائنہ کرنا　(D) ان میں سے کوئی نہیں

169. آنحضورﷺ کی وفات سے چار دن پہلے کون سا واقعہ پیش آیا؟

(A) قرطاس　(B) قران
(C) قرآن　(D) قرأت

170. "کوئی بھی مشرک عرب میں نہیں رہ سکتا" آنحضورﷺ نے یہ الفاظ کب کہے؟

(A) واقعہ قرطاس کے دن (B) صلح حدیبیہ
(C) فتح مکہ کے موقع پر (D) غزوہ حنین کے موقع پر

171. قرطاس کا مطلب کیا ہے؟
(A) کاغذ (B) قلم
(C) معاہدہ (D) غیر متفق ہونا

172. آپ ﷺ نے اپنی وفات سے کتنے دن قبل قلم، سیاہی اور کاغذ لانے کا حکم دیا اور کہا کہ جو میں لکھواؤں وہ لکھ لو تو کبھی نہ بھٹکو گے؟
(A) 1 دن (B) 2 دن
(C) 3 دن (D) 4 دن

173. آپ ﷺ کے قلم سیاہی اور کاغذ منگوانے پر اردگرد لوگوں میں سے کچھ آپس میں غیر متفق ہو گئے کچھ نے آمادگی ظاہر کی اور کچھ نے کہا کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد باقی ہر چیز بے معنی ہے۔ آنحضور ﷺ نے ان سے کہا کہ میری موجودگی میں تم لوگ مت لڑو۔ یہ واقعہ کیا کہلاتا ہے؟
(A) قرطاس (B) قلم
(C) وصال (D) کوئی نہیں

174. آپ ﷺ نے اپنے وصال سے ایک دن قبل کون سا کام کیا تھا؟
(A) اپنے تمام غلاموں کو آزاد کیا۔
(B) آپ ﷺ نے اپنے سات دینار غرباء میں تقسیم کر دیئے
(C) دونوں کام کئے
(D) ان میں سے کوئی نہیں

175. آنحضور ﷺ نے کسے "نساء العلمین" کا خطاب دیا؟
(A) حضرت عائشہؓ (B) حضرت فاطمہؓ
(C) حضرت سودہؓ (D) حضرت حفصہؓ

176. آنحضور ﷺ نے یہ الفاظ کب ادا کیے "اللھم بالرفیق الاعلیٰ"؟
(A) واقعہ قرطاس کے وقت (B) فتح مکہ کے موقع پر
(C) صلح حدیبیہ کے وقت (D) اپنے وصال کے وقت

177. آنحضور ﷺ نے کس تاریخ کو چاشت کے وقت رحلت فرمائی؟
(A) 10 ربیع الاول (B) 11 ربیع الاول
(C) 12 ربیع الاول (D) 18 ربیع الاول

178. آپ ﷺ نے ہجرت کے کون سے سال رحلت فرمائی؟
(A) 9 (B) 10
(C) 11 (D) 12

179. آپ ﷺ کس کے حجرہ میں مدفون ہیں؟
(A) حضرت خدیجہؓ (B) حضرت ماریہؓ
(C) حضرت عائشہؓ (D) حضرت سودہؓ

180. آنحضور ﷺ کی قبر مبارک کس نے کھودی؟
(A) حضرت ابوزبیرؓ (B) حضرت ابوطلحہ انصاریؓ
(C) حضرت اویسؓ (D) حضرت ابوصالحؓ

181. آنحضور ﷺ کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کروائی؟
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عمر فاروقؓ
(C) حضرت علی مرتضیٰؓ (D) کسی نے بھی نہیں

182. آنحضور ﷺ کا کفن تین سفید رنگ کے سوتی کپڑوں پر مشتمل تھا' آنحضور ﷺ کو غسل کس نے دیا تھا؟
(A) حضرت علیؓ حضرت اسامہؓ اور حضرت صالحؓ
(B) حضرت عباسؓ اور ان کے دو بیٹے فضلؓ اور قثمؓ
(C) حضرت اوس بن خولیؓ انصاری صحابی
(D) تمام

183. آنحضور ﷺ کو لحد میں کس نے اتارا؟
(A) حضرت علیؓ اور حضرت فضل ابن عباسؓ
(B) حضرت اسامہ ابن زید حضرت عبداللہ ابن عوفؓ
(C) تمام (D) ان میں سے کوئی نہیں

184. آنحضور ﷺ کو لحد میں اتارنے کے بعد سب سے آخر میں لحد مبارک میں سے کون سے صحابی باہر نکلے؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت فضل ابن عباسؓ
(C) حضرت عبدالرحمٰن ابن عوفؓ
(D) حضرت اسامہؓ

185. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟

(A) 7 ہجری میں حضرت عمرو ابن العاصؓ نے اسلام قبول کیا۔
(B) 7 ہجری میں حضرت خالدؓ بن ولید نے اسلام قبول کیا۔
(C) دونوں بیان درست ہیں۔
(D) کوئی درست نہیں ہے۔

186. وصال کے وقت آنحضور ﷺ کی عمر مبارک کیا تھی؟
(A) 73 سال (B) 53 سال
(C) 63 سال (D) 43 سال

187. آنحضور ﷺ نے پہلی مرتبہ "قنوت نازلہ" کی تلاوت کب کی؟
(A) 2 ہجری (B) 3 ہجری
(C) 4 ہجری (D) 5 ہجری

188. "جوا" پر پابندی کب عائد ہوئی؟
(A) 1 ہجری (B) 2 ہجری
(C) 3 ہجری (D) 4 ہجری

189. اسلام کا پہلا "ادارہ" کون سا تھا؟
(A) صفہ (B) مسجد نبوی
(C) مسجد قباء (D) ان میں سے کوئی نہیں

190. اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟
(A) انصار جو مسجد نبوی کے قریب رہائش پذیر تھے۔
(B) مہاجر اور انصار میں سے جو مسجد نبوی کے قریب رہائش پذیر تھے۔
(C) انصار جو مسجد قباء کے قریب رہائش پذیر تھے۔
(D) مہاجر جو مسجد قباء کے قریب رہائش پذیر تھے۔

191. حضرت حمزہؓ ابن عبد المطلب کو کب اسلامی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا؟
(A) 1 ہجری (B) 2 ہجری
(C) 3 ہجری (D) 4 ہجری

192. عام الوفود کا سال کون سا تھا؟
(A) 7 ہجری (B) 8 ہجری
(C) 9 ہجری (D) 10 ہجری

193. آنحضور ﷺ نے کتنے عمرے ادا کیے؟
(A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

194. روضہ رسول ﷺ کس مسجد میں ہے؟
(A) مسجد نبوی (B) مسجد قباء
(C) مسجد عمر (D) مسجد ضرار

195. مہر نبوی پر کون سے الفاظ کندہ ہیں؟
(A) محمد اللہ رسول (B) محمد رسول اللہ
(C) اللہ محمد رسول (D) اللہ رسول محمد

196. دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا ہے؟
(A) صلح حدیبیہ (B) میثاق مدینہ
(C) خطبہ حجۃ الوداع (D) ان میں سے کوئی نہیں

197. تیمم کی اجازت کس سال دی گئی؟
(A) 2 ہجری (B) 3 ہجری
(C) 4 ہجری (D) 5 ہجری

198. مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے آخری صحابی کون تھے؟
(A) حضرت عباسؓ (B) حضرت حمزہؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عثمانؓ

199. یہ آخری الفاظ کس شخصیت نے ادا کیے "اب اللہ ہی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے جو سب سے عظیم ساتھی ہے"؟
(A) آنحضور ﷺ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت حسینؓ (D) حضرت عثمانؓ

200. قرآن پاک میں اسم مبارک محمد ﷺ کتنی دفعہ آیا ہے؟
(A) دو بار (B) چار بار
(C) چھ بار (D) سات بار

201. نبی پاک ﷺ کس دن سفر کرنا پسند کرتے تھے؟
(A) سوموار (B) بدھ
(C) جمعرات (D) جمعہ

202. حضرت امام حسنؓ کب پیدا ہوئے؟
(A) 1 ہجری (B) 2 ہجری
(C) 3 ہجری (D) 4 ہجری

203. آپ ﷺ کے انتقال کے وقت حضرت امام حسنؓ کی عمر کیا تھی؟
(A) 6 سال (B) 7 سال
(C) 8 سال (D) 9 سال

204. حضرت حسنؓ کب شہید ہوئے؟
(A) 50 ہجری (B) 51 ہجری
(C) 52 ہجری (D) 53 ہجری

205. کوہ بے ستون کہاں واقع ہے؟
(A) عراق (B) ایران
(C) شام (D) مصر

206. جبل زیتون نامی پہاڑ کہاں واقع ہے؟
(A) اسرائیل (B) فلسطین
(C) عراق (D) سعودی عرب

207. آپ ﷺ کی پسندیدہ سبزی ______
(A) آلو (B) کدو
(C) گاجر (D) شلجم

208. اس دنیا میں آپ ﷺ کا آخری عمل کیا تھا؟
(A) تلاوت قرآن (B) وعظ
(C) مسواک کرنا (D) کوئی نہیں

209. آپ ﷺ کے خادم حضرت اسلع شریکؓ کی ذمہ داری تھی۔
(A) اونٹ ہانکنا (B) اونٹوں پر سامان لادنا
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

210. شاعر جسے آپ ﷺ نے اپنی چادر عطا کی۔
(A) حسان بن ثابتؓ (B) حسان بن قیسؓ
(C) حسان بن عمرؓ (D) حسان بن عبداللہؓ

211. مسجد ذو قبلتین واقع ہے۔
(A) مدینہ میں (B) مکہ میں
(C) طائف میں (D) جبل نور میں
(E) کوئی نہیں

212. حد قذف ہے۔
(A) ۵۰ کوڑے (B) ۷۰ کوڑے
(C) ۸۰ کوڑے (D) ۹۰ کوڑے
(E) کوئی نہیں

213. باغ فدک نبی پاک ﷺ کو بطور ______ عطا ہوا۔
(A) فے (B) مال غنیمت
(C) جزیہ (D) عشر

214. کس قبیلے کے پاس کعبہ کی چابی ہے؟
(A) عبدالدار (B) عدی
(C) عاف (D) کسریٰ

215. صدقۃ الفطر کب لاگو ہوا؟
(A) ایک ہجری (B) دو ہجری
(C) تین ہجری (D) چار ہجری

216. نبی کریم ﷺ نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟
(A) حضرت زید بن حارثہؓ (B) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ
(C) حضرت اسامہ بن زیدؓ (D) حضرت خالد بن ولیدؓ

217. حد قذف کب نازل ہوئی؟
(A) 3 ہجری (B) 4 ہجری
(C) 5 ہجری (D) 6 ہجری

218. اسلام میں پہلی عید الفطر کب منائی گئی؟
(A) 2ھ (B) 3ھ
(C) 4ھ (D) 5ھ

219. نماز اور روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟
(A) 1 اور 2 ہجری میں (B) 2 ہجری میں
(C) 2،3 ہجری میں (D) 3 ہجری میں

220. حد قذف کب نازل ہوئی؟
(A) 3 ہجری (B) 4 ہجری
(C) 5 ہجری (D) 6 ہجری

221. کس بادشاہ نے حضور ﷺ کا مکتوب گرامی پھاڑ دیا تھا؟

(A) قیصر روم ہرقل (B) شہنشاہ فارس خسرو پرویز
(C) مقوقس (D) منذر بن ساری

222. حضور محمد ﷺ کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟
(A) نو ہجری (B) دس ہجری
(C) گیارہ ہجری (D) بارہ ہجری

223. حجۃ الوداع کس سن ہجری میں ادا ہوا؟
(A) 7 ہجری (B) 8 ہجری
(C) 10 ہجری (D) 11 ہجری

224. مسجد نبوی کی تعمیر کس سن ہجری میں ہوئی؟
(A) ایک ہجری (B) دو ہجری
(C) تین ہجری (D) چار ہجری

225. مسجد قبا کی زمین کس کی ملکیت تھی؟
(A) سہل اور سہیل
(B) حضرت عمار بن یاسرؓ
(C) حضرت ابوایوب انصاری
(D) حضرت کلثوم بن ہدمؓ

226. حضرت محمد ﷺ نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کروائی؟
(A) مسجد قبا (B) مسجد نبوی
(C) مسجد ضرار (D) مسجد قبلتین

227. اسلام کی سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجد کون سی تھی؟
(A) مسجد نبوی (B) مسجد قبا
(C) مسجد قبلتین (D) مسجد نمرہ

228. جنت البقیع سے کیا مراد ہے؟
(A) مدینہ کی ایک وادی (B) ایک مسجد کا نام
(C) مدینہ منورہ کا قبرستان (D) مکہ مکرمہ کا قبرستان

229. میثاق مدینہ دنیا کا کون سا تحریری دستور ہے؟
(A) پہلا (B) دوسرا
(C) چوتھا (D) تیسرا

230. قبلہ کب تبدیل ہوا؟
(A) تین ہجری (B) دو ہجری
(C) چار ہجری (D) پانچ ہجری

231. نبی حضرت محمد ﷺ نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی؟
(A) ایک ہجری (B) دو ہجری
(C) تین ہجری (D) چار ہجری

232. بیت المقدس کل کتنے عرصہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا؟
(A) ایک سال (B) 16 سال
(C) 17 ماہ (D) 2 سال

233. نبی اکرم حضرت محمد ﷺ نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی؟
(A) ایک ہجری (B) دو ہجری
(C) تین ہجری (D) چار ہجری

234. نماز سے پہلے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟
(A) 10 ہجری (B) 1 ہجری
(C) 2 ہجری (D) 5 ہجری

235. انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے؟
(A) عالمی منشور (B) اقوام متحدہ کا منشور
(C) خطبہ حجۃ الوداع (D) فرانس کا دستور

236. حضور ﷺ نے کب فرمایا تھا کہ "ایک مسلمان کا خون، مال اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے"؟
(A) فتح مکہ (B) ہجرت مدینہ
(C) طائف سے واپسی (D) خطبہ حجۃ الوداع

237. حضور ﷺ نے کس سال رحلت فرمائی؟
(A) 628ء (B) 630ء
(C) 632ء (D) 634ء

238. نبی کریم کی مشہور تلوار کا نام بتائیے؟
(A) حیدر (B) حمزہ
(C) حتف (D) ذوالفقار

جوابات

1. (C)	2. (C)	3. (C)	4. (A)	5. (D)	6. (B)	7. (C)	8. (A)
9. (A)	10. (D)	11. (A)	12. (D)	13. (A)	14. (D)	15. (A)	16. (A)
17. (D)	18. (B)	19. (C)	20. (B)	21. (D)	22. (A)	23. (C)	24. (B)
25. (C)	26. (B)	27. (B)	28. (C)	29. (D)	30. (B)	31. (C)	32. (B)
33. (C)	34. (D)	35. (D)	36. (A)	37. (D)	38. (A)	39. (C)	40. (C)
41. (B)	42. (D)	43. (C)	44. (B)	45. (C)	46. (B)	47. (A)	48. (A)
49. (D)	50. (C)	51. (C)	52. (A)	53. (C)	54. (C)	55. (B)	56. (C)
57. (B)	58. (A)	59. (B)	60. (A)	61. (B)	62. (A)	63. (C)	64. (A)
65. (A)	66. (A)	67. (A)	68. (C)	69. (C)	70. (C)	71. (C)	72. (A)
73. (A)	74. (C)	75. (D)	76. (D)	77. (A)	78. (A)	79. (C)	80. (A)
81. (C)	82. (C)	83. (B)	84. (A)	85. (A)	86 (D)	87. (A)	88. (A)
89. (B)	90. (A)	91. (A)	92. (D)	93. (D)	94. (D)	95. (B)	96. (C)
97. (B)	98. (B)	99. (C)	100. (C)	101. (C)	102. (B)	103. (C)	104. (B)
105. (C)	106. (D)	107. (A)	108. (C)	109. (A)	110. (B)	111. (C)	112. (C)
113. (C)	114. (C)	115. (B)	116. (D)	117. (C)	118. (B)	119. (C)	120. (D)
121. (B)	122. (D)	123. (D)	124. (C)	125. (D)	126. (C)	127. (C)	128. (C)
129. (D)	130. (D)	131. (C)	132. (A)	133. (C)	134. (C)	135. (C)	136. (C)
137. (B)	138. (C)	139. (C)	140. (B)	141. (D)	142. (A)	143. (C)	144. (C)
145. (C)	146. (D)	147. (C)	148. (C)	149. (D)	150. (B)	151. (C)	152. (B)
153. (D)	154. (B)	155. (A)	156. (C)	157. (C)	158. (C)	159. (A)	160. (D)
161. (A)	162. (A)	163. (D)	164. (C)	165. (B)	166. (B)	167. (C)	168. (A)
169. (A)	170. (A)	171. (A)	172. (D)	173. (A)	174. (C)	175. (B)	176. (D)
177. (C)	178. (C)	179. (C)	180. (B)	181. (D)	182. (D)	183. (C)	184. (A)
185. (C)	186. (C)	187. (C)	188. (A)	189. (A)	190. (B)	191. (A)	192. (C)
193. (A)	194. (A)	195. (D)	196. (B)	197. (D)	198. (A)	199. (A)	200. (B)
201. (C)	202. (C)	203. (C)	204. (B)	205. (B)	206. (B)	207. (B)	208. (C)
209. (C)	210. (A)	211. (A)	212. (C)	213. (A)	214. (A)	215. (B)	216. (C)
217. (C)	218. (A)	219. (B)	220. (C)	221. (B)	222. (C)	223. (C)	224. (A)
225. (D)	226. (A)	227. (B)	228. (C)	229. (A)	230. (B)	231. (A)	232. (C)
233. (A)	234. (B)	235. (C)	236. (D)	237. (C)	238. (D)		

نبی کریمؐ کے آباؤاجداد

1. آپؐ کس نبی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے؟

(A) حضرت داؤدؑ (B) حضرت شیثؑ

(C) حضرت ابراہیمؑ (D) کوئی نہیں

2. درج ذیل میں سے حضرت ابراہیمؑ کے اس بیٹے کا نام بتائیں جس سے آنحضورؐ کا تعلق تھا؟

(A) حضرت یعقوبؑ (B) حضرت اسحاقؑ

(C) حضرت یوسفؑ (D) حضرت اسماعیلؑ

3. حضرت اسماعیلؑ کے کتنے بیٹے تھے؟

(A) 11 (B) 9

(C) 8 (D) 12

4. حضرت اسماعیلؑ کے اس بیٹے کا نام بتائیں جس کا بیٹا عدنان تھا؟

(A) قیدار (B) الیاس

(C) لوئی (D) قراب

5. عدنان کے بیٹے کا نام بتائیں؟

(A) مائد (B) زہرہ

(C) وہاب (D) عبدمناف

6. مائد کے اس بیٹے کا نام بتائیں جس سے خاندان قریش کا تعلق تھا؟

(A) غالب ابن مالک (B) فہر ابن مالک

(C) خزیمہ ابن مالک (D) الیاس ابن مالک

7. قصیٰ کے اس بیٹے کا نام کیا تھا جو ہاشم کا باپ تھا۔ ہاشم عبدالمطلب کے باپ تھے۔ عبدالمطلب عبداللہ کے باپ تھے اور آنحضورؐ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے؟

(A) زہرہ (B) وہاب

(C) فہر (D) عبدمناف

8. حضرت محمد ﷺ کی والدہ کا کیا نام تھا جو وہب کی بیٹی تھیں جو وہب عبدمناف کے بیٹے تھے؟

(A) ایمن (B) آمنہ

(C) فہر (D) حلیمہ

9. حضرت آمنہ بیٹی تھیں۔

(A) قصیٰ کی (B) وہاب کی

(C) وہب کی (D) مائد کی

10. وہب بیٹے تھے۔

(A) عبدالمطلب کے (B) عبدمناف کے

(C) زہرہ کے (D) وہاب کے

11. حضرت آمنہؓ کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟

(A) بنو اسد (B) بنو امیہ

(C) بنو زہرہ (D) بنو عباس

12. حضرت عبدالمطلب کے بیٹوں کی تعداد کیا تھی؟

(A) 8 (B) 9

(C) 10 (D) 11

13. حضرت عبدالمطلب کی کتنی بیویاں تھیں؟

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 5

14. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟

(A) حضرت حمزہؓ حضرت عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے

(B) حضرت حمزہؓ اور آنحضورؐ کا سال پیدائش ایک ہی تھا

(C) دونوں بیان درست ہیں
(D) ان میں سے کوئی درست نہیں

15. حضرت عبداللہ حضرت ابوطالب اور حضرت زبیر جو کہ سگے بھائی تھے ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟
(A) فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ
(B) ایمن بنت عمرو مخزومیہ
(C) حلیمہ بنت عمرو مخزومیہ
(D) کلثوم بنت عمرو مخزومیہ

16. حضرت عبدالمطلب کے کس بیٹے کی پیدائش پر 100 اونٹ ذبح کیے گئے تھے؟
(A) زبیر (B) عباسؓ
(C) ابوطالب (D) عبداللہؓ

17. حضرت آمنہ کی عمر ان کی شادی کے وقت کتنی تھی؟
(A) 20 سال (B) 21 سال
(C) 24 سال (D) 25 سال

18. حضرت آمنہ کا انتقال کس عمر میں ہوا؟
(A) 25 سال (B) 30 سال
(C) 35 سال (D) 40 سال

19. آپؐ کے والد آپ کی پیدائش سے کتنے عرصہ قبل وفات پا گئے؟
(A) ایک ماہ (B) دو ماہ
(C) تین ماہ (D) چار ماہ

20. آپؐ کے والد حضرت عبداللہ کی عمر وفات کے وقت کیا تھی؟
(A) 24 سال (B) 34 سال
(C) 44 سال (D) 54 سال

21. حضرت عبداللہ اپنی شادی کے چھ ماہ بعد تجارت کی غرض سے کس ملک گئے تھے اور شدید بیمار ہو کر راستے میں وفات پا گئے؟
(A) مصر (B) شام
(C) فلسطین (D) اسرائیل

22. آنحضرت کو اللہ تعالیٰ نے کس موقع پر ان کی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دی؟
(A) صلح حدیبیہ (B) فتح مکہ
(C) غزوۂ موتہ (D) غزوہ حنین

23. غزوۂ بدر کے ایک ہفتہ بعد آنحضورؐ کے کون سے چچا کا انتقال ہوا؟
(A) ابوطالب (B) حضرت عباسؓ
(C) حضرت حمزہؓ (D) ابولہب

24. احد کی پہاڑیوں میں کون دفن ہے؟
(A) حضرت حمزہؓ (B) عبداللہ ابن جحش
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

25. حضرت حمزہؓ کے متعلق کون سا بیان درست ہے؟
(A) وہ آنحضورؐ کے رضاعی بھائی تھے۔
(B) انہوں نے اکتیس کافروں کو قتل کیا
(C) وہ حضرت جبرائیل کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن حضرت جبرائیل کے پاؤں دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔
(D) سارے بیان درست ہیں۔

26. کس جنگ میں حضور اکرمؐ کے چچا عباس اسلام قبول کرنے سے پہلے گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے انہیں ایک منافق عبداللہ ابن ابی کی قمیض پہنادی؟
(A) بدر (B) احد
(C) احزاب (D) حنین

27. بعثت سے پہلے آنحضورؐ نے حضرت ابوطالب کے ساتھ کہاں کا سفر کیا تھا؟
(A) مصر (B) شام
(C) فلسطین (D) اسرائیل

28. حضرت محمد ﷺ کی کون سی پھوپھی اور آپؐ کے والد حضرت عبداللہ جڑواں بہن بھائی تھے؟
(A) ام حکیم (B) ام سلمیٰ
(C) ام سلیم (D) ام خولہ

29. حضرت محمد ﷺ کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن کہلاتے تھے؟
(A) حمزہؓ ابن عباس (B) عبداللہ ابن عباسؓ
(C) طلحہ ابن عباس (D) زبیر ابن عباس

30. "آپ کا چہرہ اور کردار دونوں حضرت میکائیل علیہ السلام سے ملتے ہیں" کس کے بارے میں حضور اکرم ؐ نے یہ الفاظ کہے تھے؟
(A) اپنے چچا حضرت حمزہؓ
(B) اپنے چچا زاد بھائی جعفر طیار
(C) اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہؓ
(D) اپنے چچا حضرت عباسؓ

31. درج ذیل میں سے کون قبیلہ قریش کی شاخوں میں شامل تھے؟
(A) بنو ہاشم، بنو تیم، بنو عدی (B) بنو مخزوم، بنو زہرہ
(C) بنو اسد، بنو امیہ (D) تمام

32. بنو مخزوم سے کس کا تعلق تھا؟
(A) خالدؓ بن ولید (B) ابوجہل
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

33. بنو زہرہ سے کس کا تعلق تھا؟
(A) حضرت خدیجہؓ
(B) حضرت زبیر ابن العوام
(C) دونوں
(D) ان میں سے کوئی نہیں

34. رسول اکرم ﷺ کے سب سے پہلے رضاعی بھائی کا نام کیا ہے؟
(A) خالد (B) حمزہ
(C) مسروح (D) عبداللہ

35. حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کو ہجرت کرتے وقت نیزے سے کس نے زخمی کیا؟
(A) ابوسفیان (B) وحشی
(C) ابوجہل (D) ہبار بن الاسود

36. قریش کے سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟
(A) لات (B) منات
(C) ھبل (D) یعوق

37. حضرت اسماعیل کے بعد کعبہ کی تولیت کس کے حصے میں آئی؟
(A) قصی (B) ثابت
(C) بنی جرھم (D) فہر

38. جمعہ کے دن جمع ہونے کا طریقہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟
(A) عمرو بن لحی (B) کعب بن لوئی
(C) غالب بن فہر (D) نضر بن کنانہ

39. حضور ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب کی والدہ کون تھی۔
(A) سلمیٰ بنت عمرو (B) ہالہ بنت وہب
(C) اروی (D) کوئی نہیں

40. پیغمبر محمد ﷺ کا تعلق ________ خاندان سے تھا۔
(A) مکی (B) مدنی
(C) قریشی (D) ہاشمی

41. آنحضرت ﷺ کا نام کس نے رکھا؟
(A) حضرت آمنہؓ (B) جبرائیل
(C) حضرت ابوطالبؓ (D) حضرت عبدالمطلب

42. فہر کا لقب تھا؟
(A) ابوطالب (B) عبدالمطلب
(C) قریش (D) ابوبکر

جوابات

1. (C)	2. (D)	3. (D)	4. (A)	5. (A)	6. (B)	7. (D)	8. (B)
9. (C)	10. (B)	11. (C)	12. (C)	13. (D)	14. (C)	15. (A)	16. (D)
17. (C)	18. (B)	19. (B)	20. (A)	21. (B)	22. (A)	23. (D)	24. (C)
25. (D)	26. (A)	27. (B)	28. (A)	29. (B)	30. (B)	31. (D)	32. (C)
33. (C)	34. (B)	35. (D)	36. (C)	37. (A)	38. (B)	39. (A)	40. (D)
41. (D)	42. (C)						

ازواج مطہرات

1. نبی پاک ﷺ کی بیویاں جن سے کوئی شادی نہیں کر سکتا کیا کہلاتی ہیں؟
(A) امہات المومنین (B) ازواج مطہرات
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

2. ام المومنین کے لغوی معنی ہیں۔ "مومنین کی ماں" ازواج مطہرات کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) پاکیزہ بیویاں (B) نیک بیویاں
(C) عظیم بیویاں (D) بارحمت بیویاں

3. نبی پاک ﷺ نے اپنی زندگی میں کتنی عورتوں سے شادی کی؟
(A) 4 (B) 7
(C) 9 (D) 11

4. آپ ﷺ کی پہلی زوجہ تھیں۔
(A) حضرت عائشہؓ (B) حضرت زینبؓ
(C) حضرت خدیجہؓ (D) حضرت جویریہؓ

5. حضرت خدیجہؓ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟
(A) بنو اسد (B) بنو امیہ
(C) بنو عاد (D) بنو ہاشم

6. حضرت خدیجہؓ کے والد کا کیا نام تھا جو کہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے؟
(A) خویلد (B) قیدار
(C) قصی (D) کوئی نہیں

7. حضرت خدیجہؓ کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیں؟
(A) فاطمہ بنت زائدہ (B) فاطمہ بنت عبداللہ
(C) فاطمہ بنت عبدالرحمٰن (D) فاطمہ بنت علی

8. حضرت خدیجہؓ کے پہلے خاوند کا نام کیا تھا؟
(A) ابو ہالہ ابن زرارہ تمیمی (B) ابو ہالہ ابن عبداللہ
(C) ایصالہ ابن علی (D) کوئی نہیں

9. ابو ہالہ ابن زرارہ تمیمی کی وفات کے بعد حضرت خدیجہؓ نے کس سے دوسری شادی کی؟
(A) عبدالرحمٰن ابن عبداللہ (B) ابو ہالہ ابن عبداللہ
(C) عتیق ابن عائذ مخزومی (D) ابو خالد ابن عبداللہ

10. حضرت خدیجہؓ کے بیٹے ہالہ جو جنگ میں شہید ہوئے ان کے کس خاوند کے بیٹے تھے؟ (P.C.S.J -2001)
(A) ابو ہالہ ابن زرارہ تمیمی (B) عتیق ابن عائذ مخزومی
(C) زرارہ ابن ابو ہالہ (D) عتیق ابن ابو ہالہ

11. حضرت خدیجہؓ کے ابو ہالہ ابن زرارہ تمیمی سے پیدا ہونے والے دوسرے بیٹے کا نام بتائیں؟
(A) ہند (B) ہالہ
(C) قاسم (D) حالس

12. حضرت خدیجہؓ کی عتیق ابن عائذ مخزومی سے پیدا ہونے والی بیٹی کا نام بتائیں؟
(A) ہندہ (B) فاطمہ
(C) رملہ (D) کبریٰ

13. خدیجہؓ کا لقب کیا تھا؟
(A) صدیقہ (B) طاہرہ
(C) عابدہ (D) زاہدہ

14. "طاہرہ" کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) پاکیزہ (B) کامیاب

(C) عزت دار
(D) وفادار

15. حضرت خدیجہؓ کی پہلی اولاد میں سے کون مشرف بہ اسلام ہوا؟

(A) ایک بیٹی ہندہ
(B) ایک بیٹا ہالہ
(C) بیٹا حارث
(D) b,a اور c تینوں

16. 11 رمضان کو حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہوا سال بتائیں؟

(A) 7 نبوی
(B) 8 نبوی
(C) 9 نبوی
(D) 10 نبوی

17. نبی پاک ﷺ کی حیات مبارکہ میں ان کی کس زوجہ مطہرہ کا انتقال ہوا؟

(A) حضرت خدیجہؓ
(B) حضرت میمونہؓ
(C) حضرت زینبؓ
(D) حضرت عائشہؓ

18. کس زوجہ مطہرہ کی حیات میں آپ ﷺ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی؟

(A) حضرت عائشہؓ
(B) حضرت خدیجہؓ
(C) حضرت ماریہ قبطیہؓ
(D) حضرت میمونہؓ

19. حضرت خدیجہؓ کہاں دفن ہیں؟

(A) جنت معلیٰ
(B) جنت البقیع
(C) مدینہ
(D) عراق

20. کیوں آپ ﷺ نے حضرت خدیجہؓ کا جنازہ نہیں پڑھایا؟

(A) آپ ﷺ گھر نہیں تھے
(B) حضرت خدیجہؓ کی چاہت پر ورقہ بن نوفل نے پڑھایا
(C) ابھی تک جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا
(D) کوئی نہیں

21. کس شخصیت کے ذریعے سے نبی پاک ﷺ اور حضرت خدیجہؓ کی شادی ہوئی؟

(A) ورقہ ابن نوفل
(B) اسد ابن ولید
(C) خالد ابن اسد
(D) عبداللہ ابن اوس

22. "مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہؓ پر محسوس ہوتا ہے کسی اور زوجہ پر نہیں ہوتا۔" یہ کس ام المومنین کے الفاظ ہیں؟

(A) حضرت زینبؓ
(B) حضرت سودہؓ
(C) حضرت میمونہؓ
(D) حضرت عائشہؓ

23. "اس نے مجھ پر اس وقت یقین کیا جب کسی اور نے نہ کیا۔ اس نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور اس نے میری اس وقت مدد کی اور مجھے راحت پہنچائی جب کسی دوسرے نے میری طرف مدد کا ہاتھ نہ بڑھایا تھا۔" یہ جواب ہے اس سوال کا کہ کیا حضرت خدیجہؓ ہی اکیلی حضرت محمد ﷺ کی محبت کے لائق ہیں۔ یہ سوال نبی اکرم ﷺ سے کس ام المومنین نے کیا؟

(A) حضرت ماریہ قبطیہؓ
(B) حضرت زینبؓ
(C) حضرت عائشہؓ
(D) حضرت میمونہؓ

24. ایک موقع پر جب حضرت خدیجہؓ ابھی زندہ تھیں جبرائیلؑ حضرت محمد ﷺ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ "اے اللہ کے نبی خدیجہؓ آپ کے پاس یخنی کے پیالہ کے ساتھ آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ ﷺ کے پاس آئیں تو ان کو ان کے رب اور میری طرف سے سلامتی کا پیغام دیجئے گا اور جنت میں موتیوں کے ایک ایسے محل کی بشارت دیجئے گا جس میں نہ تو شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ۔" اس حدیث مبارکہ کے راوی کون ہیں؟

(A) حضرت ابوبکرؓ
(B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت ابوہریرہؓ
(D) حضرت طلحہؓ

25. حضرت فاطمہ بنت محمد حضرت خدیجہؓ اور..............

(A) حضرت مریم بنت عمرانؑ کو نبی پاک ﷺ نے دنیا کی افضل ترین خواتین قرار دیا۔
(B) فرعون کی بیوی حضرت آسیہؑ کو نبی پاک ﷺ نے دنیا کی افضل ترین خواتین قرار دیا۔
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

26. شادی کے وقت حضرت محمد ﷺ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہؓ

کی عمر۔

(A) 30 سال تھی (B) 35 سال تھی

(C) 40 سال تھی (D) 45 سال تھی

27. وصال کے وقت حضرت خدیجہؓ کی عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 66 سال (B) 65 سال

(C) 64 سال (D) 63 سال

28. نبی پاک ﷺ نے کس سال کو عام الحزن (غم کا سال) قرار دیا ہے؟

(A) جس میں حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہوا

(B) جس میں حضرت ابوطالب کا انتقال ہوا

(C) جس میں حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہؓ دونوں کا انتقال ہوا

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

29. کس ام المومنین نے حضرت محمد ﷺ کے بچوں کو دودھ پلایا؟

(A) حضرت میمونہؓ (B) حضرت سودہؓ

(C) حضرت جویریہؓ (D) حضرت حفصہؓ

30. کس ام المومنین نے حضرت عائشہؓ کے بارے میں کہا تھا کہ ''کاش میری روح ان میں ہوتی؟''

(A) حضرت سودہؓ (B) حضرت زینبؓ

(C) حضرت صفیہؓ (D) حضرت حفصہؓ

31. آپ ﷺ کی دوسری زوجہ تھیں۔

(A) حضرت میمونہؓ (B) حضرت جویریہؓ

(C) حضرت ریحانہؓ (D) حضرت سودہؓ

32. حضرت عثمانؓ ابن مظعون کی اس زوجہ کا نام بتائیں جنہوں نے حضرت سودہؓ کا نام نبی اکرم ﷺ کیلئے تجویز کیا تھا؟

(A) حضرت خولہ بنت حکیم

(B) حضرت خولہ بنت عبداللہ

(C) حضرت خولہ بنت عبدالرحمٰن

(D) حضرت خولہ بنت عثمان

33. حضرت سودہؓ کب مشرف بہ اسلام ہوئیں؟

(A) 1 نبوی (B) 2 نبوی

(C) 3 نبوی (D) 4 نبوی

34. حضرت سودہؓ کے پہلے شوہر کا نام بتائیں؟

(A) سکران ابن ہشام (B) سکران ابن علی

(C) سکران ابن ہاشم (D) سکران ابن عمرو

35. اس جنگ کا نام بتائیں جس میں سکران ابن عمرو نے جامِ شہادت نوش کیا؟

(A) جنگ جمل (B) جنگ فجار

(C) جنگ حنین (D) جنگ بدر

36. نبی پاک ﷺ سے شادی کے وقت حضرت سودہؓ کی عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 30 سال (B) 40 سال

(C) 50 سال (D) 60 سال

37. سکران ابن عمرو سے حضرت سودہؓ کے بیٹے کا نام بتائیں؟

(A) عبداللہ (B) عبدالرحمٰن

(C) عبیداللہ (D) عبیدالرحمٰن

38. سکران ابن عمروؓ سے حضرت سودہؓ کا بیٹا عبدالرحمٰن کس جنگ میں شہید ہوا؟

(A) موتہ (B) تبوک

(C) جلولہ (D) حمر

39. حضرت سودہؓ نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کب حبشہ کی طرف ہجرت کی۔

(A) 4 نبوی (B) 3 نبوی

(C) 2 نبوی (D) 5 نبوی

40. حضرت سودہؓ آپ ﷺ کے ساتھ رہنے کی اپنے حصے کی باری کس ام المومنین کو دے دیتی تھیں؟

(A) حضرت میمونہؓ

(B) حضرت عائشہؓ

(C) حضرت ماریہ قبطیہؓ

(D) حضرت زینب بنت جحشؓ

41. نبی پاک ﷺ کی کس زوجہ کی رہائش گاہ سب سے پہلے ایک مسجد میں بنائی گئی؟

(A) حضرت سودہؓ　　(B) حضرت عائشہؓ

(C) اے اور بی دونوں

(D) اے اور بی میں سے کوئی بھی نہیں

42. کس ام المومنین کے کہنے پر پردے کے احکامات سے متعلق آیت نازل ہوئی تھیں؟

(A) حضرت عائشہؓ　　(B) حضرت زینبؓ

(C) حضرت میمونہؓ　　(D) حضرت سودہؓ

43. حضرت سودہؓ کب فوت ہوئیں اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا؟

(A) 20 ہجری　　(B) 21 ہجری

(C) 22 ہجری　　(D) 23 ہجری

44. کس خلیفہ کے دور خلافت میں حضرت سودہؓ کا انتقال ہوا؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ　　(B) حضرت عمر فاروقؓ

(C) حضرت عثمان غنیؓ　　(D) حضرت علیؓ

45. نبی اکرم ﷺ کی کون سی زوجہ مطہرہ تمام ازواج مطہرات میں سے بلند قامت تھیں؟

(A) حضرت عائشہؓ　　(B) حضرت زینبؓ

(C) حضرت جویریہؓ　　(D) حضرت سودہؓ

46. کتنی احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی راوی حضرت سودہ تھیں؟

(A) 10　　(B) 8

(C) 5　　(D) 3

47. نبی اکرم ﷺ کی تیسری زوجہ مطہرہ کا نام کیا تھا؟

(A) حضرت حفصہؓ　　(B) حضرت میمونہؓ

(C) حضرت عائشہؓ　　(D) حضرت جویریہؓ

48. حضرت عائشہؓ کی والدہ سے متعلق کون سا بیان درست ہے؟

(A) ان کی والدہ کا نام زینب تھا

(B) ان کی والدہ کی کنیت ام رومان تھی

(C) دونوں

(D) کوئی نہیں

49. حضرت عائشہؓ کب پیدا ہوئیں؟

(A) 1 نبوی　　(B) 2 نبوی

(C) 3 نبوی　　(D) 4 نبوی

50. نبی اکرم ﷺ کے نام سے منسوب ہونے سے پہلے حضرت عائشہؓ کس سے منسوب تھیں اور یہ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ یہ خوف تھا کہ وہ لڑکا دین اسلام چھوڑ دے گا؟

(A) جبیر ابن علی　　(B) جبیر ابن حسن

(C) جبیر ابن مطعم　　(D) جبیر معطل

51. آپ ﷺ سے نکاح کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر

(A) 6 سال تھی　　(B) 8 سال تھی

(C) 10 سال تھی　　(D) 12 سال تھی

52. آپ ﷺ کے گھر رخصتی کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر تھی۔

(A) 9 سال　　(B) 10 سال

(C) 11 سال　　(D) 12 سال

53. حضرت عائشہؓ سے نکاح کے وقت حضرت محمد ﷺ کی عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 50 سال　　(B) 51 سال

(C) 52 سال　　(D) 54 سال

54. حضرت عائشہؓ نے آپ ﷺ کے ساتھ کتنے سال بحیثیت بیوی کے گزارے؟

(A) 5 سال　　(B) 7 سال

(C) 9 سال (D) 11 سال

55. کس نے حضرت عائشہؓ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ "میں نے عائشہؓ سے زیادہ فصیح و بلیغ عورت نہیں دیکھی۔"

(A) موسیٰ ابن طلحہؓ (B) طلحہ ابن زبیرؓ

(C) عبداللہ ابن عمر (D) حضرت عثمانؓ

56. حضرت عائشہؓ اور نبی پاک ﷺ کی کس زوجہ مطہرہ کے درمیان بہت گہری محبت تھی؟

(A) حضرت میمونہؓ (B) حضرت صفیہؓ

(C) حضرت جویریہؓ (D) حضرت سودہؓ

57. حضرت محمد ﷺ اور حضرت عائشہؓ کی شادی کے دوران کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟

(A) قبلہ کا رخ تبدیل ہو کر بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منتقل ہوا

(B) واقعہ معراج پیش آیا

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

58. کس جنگ میں حضرت عائشہؓ نے زخمی مجاہدین کو پانی پلایا اور ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی؟

(A) غزوۂ بدر (B) غزوۂ خندق

(C) غزوۂ احد (D) غزوۂ موتہ

59. کس غزوہ سے واپسی پر حضرت عائشہؓ کے گلے کا ہار گم گیا؟

(A) غزوہ بنو المصطلق (B) غزوہ مرہ

(C) غزوہ خندق (D) غزوہ بدر

60. غزوہ بنو المصطلق سے واپسی پر حضرت عائشہؓ کو کیوں قافلے والے پیچھے چھوڑ گئے؟

(A) کیونکہ آپ کسی کو بتائے بغیر اپنی پالکی سے اتر گئی تھیں

(B) آپ کو کچھ وقت لگا اپنا کھویا ہوا ہار تلاش کرنے میں

(C) دونوں

(D) کوئی نہیں

61. گلے کا ہار گمنے اور قافلے سے بچھڑنے کے واقعہ کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 12 سال (B) 13 سال

(C) 14 سال (D) 15 سال

62. اپنے قافلے سے بچھڑنے کے بعد کون سے صحابی حضرت عائشہؓ کو اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے؟

(A) صفوان ابن المعطل (B) احمد ابن المعطل

(C) عبداللہ ابن المعطل (D) جابر ابن المعطل

63. کس ام المومنین اور صفوان ابن المعطل کے بارے میں منافقین نے افواہیں پھیلا دیں اور آپ ﷺ پریشان ہو گئے؟

(A) حضرت خدیجہؓ (B) حضرت جویریہؓ

(C) حضرت سودہؓ (D) حضرت عائشہؓ

64. حضرت عائشہؓ کی اس ملازمہ کا نام بتائیں جب اس سے نبی پاک ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے کردار سے متعلق دریافت کیا تو اس نے ان کو پاکیزہ قرار دیا؟

(A) حصہ (B) فاطمہ

(C) بریرہ (D) رملہ

65. کس ام المومنین سے حضرت محمد ﷺ نے حضرت عائشؓ متعلق سوال کیا تو انہوں نے حضرت عائشہؓ سے تلخ تعلقات ہونے کے باوجود آپؓ کے کردار کی تعریف کی؟

(A) زینب بنت جحشؓ (B) حضرت جویریہؓ

(C) حضرت سودہؓ (D) حضرت صفیہؓ

66. حضرت عائشہؓ کے کردار کی پاکیزگی کے بارے میں کس کی گواہی نے ہر شخص کو مطمئن کر دیا تھا؟

(A) حضرت محمد ﷺ (B) حضرت عمرؓ

(C) اللہ تعالیٰ

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

67. قرآن مجید کی کس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے؟

(A) سورۃ الفلق (B) سورۃ النساء

(C) سورۃ النور (D) سورۃ الرحمٰن

68. قرآن مجید کی حضرت عائشہؓ کے کردار کی پاکیزگی پر گواہی کے بعد نبی پاک ﷺ نے ان لوگوں کو کیا سزا دی جنہوں نے حضرت عائشہؓ کے کردار کو داغ دار کرنے کی ناکام کوشش کی؟
(A) 80 کوڑے لگوائے (B) 70 کوڑے لگوائے
(C) 60 کوڑے لگوائے (D) 50 کوڑے لگوائے

69. کس ام المومنین اور حضرت علیؓ کے درمیان حضرت عثمانؓ کی شہادت کے مسئلے پر جنگ جمل ہوئی؟
(A) حضرت سودہؓ (B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت حفصہؓ (D) حضرت جویریہؓ

70. حضرت عائشہؓ کا لقب ''صدیقہ'' تھا۔ حضرت عائشہؓ.........
(A) طیبہ بھی کہلاتی ہیں (B) حمیرہ بھی کہلاتی ہیں
(C) a اور b دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

71. حضرت عمرؓ نے ازواج المطہرات کیلئے دس ہزار درہم کا سالانہ الاؤنس مقرر کیا تھا لیکن حضرت عائشہؓ کیلئے اس رقم کی تعداد۔
(A) گیارہ ہزار درہم تھی (B) بارہ ہزار درہم تھی
(C) تیرہ ہزار درہم تھی (D) چودہ ہزار درہم تھی

72. حضرت عائشہؓ کب فوت ہوئیں؟
(A) 17 رمضان 58 ہجری (B) 17 رمضان 59 ہجری
(C) 17 رمضان 60 ہجری (D) 17 رمضان 61 ہجری

73. کس کی وصیت کے مطابق حضرت عائشہؓ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا؟
(A) ان کے والد حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت محمد ﷺ
(C) خود حضرت عائشہؓ (D) کوئی نہیں

74. یہ بتائیں انہوں نے کس کے دور خلافت میں وفات پائی؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت امیر معاویہؓ

75. وفات کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر مبارک کی تھی؟
(A) 70 سال (B) 71 سال

76. حضرت عائشہؓ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
(A) حضرت حسنؓ (B) حضرت حسینؓ
(C) حضرت ابوہریرہؓ (D) حضرت امیر معاویہؓ

77. حضرت عائشہؓ کتنی احادیث کی راوی ہیں؟
(A) دو ہزار دو سو دس (B) تین ہزار دو سو دس
(C) چار ہزار دو سو دس (D) پانچ ہزار دو سو دس

78. حضرت محمد ﷺ کی چوتھی زوجہ محترمہ جو کہ حضرت عمرؓ کی بیٹی تھیں کا نام بتائیں؟
(A) حضرت حفصہؓ (B) حضرت زینبؓ
(C) حضرت صفیہؓ (D) حضرت میمونہؓ

79. حضرت حفصہؓ نبوت سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئیں؟
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

80. حضرت حفصہؓ کے پہلے شوہر کا نام بتائیں جو کہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حبشہ ہجرت کی؟
(A) خنیس ابن عمرؓ (B) خنیس بن حذافہؓ
(C) خنیس ابن جبارؓ (D) خنیس ابن عمروؓ

81. حضرت حفصہؓ نے کے پہلے شوہر خنیس ابن حذافہ نے کس جنگ میں شرکت کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا؟
(A) بدر (B) احد
(C) خندق (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

82. آپ ﷺ سے حضرت حفصہؓ کی شادی کب ہوئی؟
(A) 1 ہجری (B) 2 ہجری
(C) 3 ہجری (D) 4 ہجری

83. حضرت محمد ﷺ سے شادی کے وقت حضرت حفصہؓ کی عمر کیا تھی؟
(A) 18 سال (B) 19 سال
(C) 22 سال (D) 21 سال

84. حضرت حفصہؓ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کتنا عرصہ مدینہ میں رہیں؟

(A) 7 سال (B) 8 سال
(C) 9 سال (D) 10 سال

85. حضرت عائشہؓ کے بعد مذہبی معاملات میں علم کے لحاظ سے کس زوجہ مطہرہ کا نام آتا ہے؟

(A) حضرت صفیہؓ (B) حضرت زینبؓ
(C) حضرت حفصہؓ (D) حضرت میمونہؓ

86. اس خاتون کا نام بتائیں جنہیں نبی پاک ﷺ نے حضرت حفصہؓ کو پڑھانے کیلئے مقرر فرمایا تھا؟

(A) حضرت ماریہ بنت عبداللہ
(B) حضرت شفاء بنت عبداللہ
(C) حضرت مریم بنت عبداللہ
(D) حضرت فاطمہ بنت عبداللہ

87. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟

(A) حضرت زینبؓ حافظ قرآن تھیں
(B) حضرت صفیہؓ حافظ قرآن تھیں
(C) حضرت جویریہ حافظ قرآن تھیں
(D) حضرت حفصہ حافظ قرآن تھیں

88. قرآن مجید کے اصل مسودے کی محافظ کونسی ام المومنین تھیں؟

(A) حضرت خدیجہؓ (B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت ماریہ قبطیہؓ (D) حضرت حفصہؓ

89. خلیفہ وقت حضرت ابوبکرؓ کے کہنے پر حضرت حفصہؓ کے پاس موجود قرآن کے مسودے کو کس نے تحریر کیا تھا؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت زید ابن ثابتؓ (D) حضرت عائشہؓ

90. درج ذیل میں سے کون بیان درست ہے؟

(A) حضرت عائشہؓ کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت زینب سے مروی ہیں۔
(B) حضرت عائشہؓ کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت صفیہؓ سے مروی ہیں
(C) حضرت عائشہؓ کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت میمونہؓ سے مروی ہیں۔
(D) حضرت عائشہؓ کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت حفصہؓ سے مروی ہیں۔

91. حضرت حفصہؓ کا انتقال کب ہوا؟

(A) 40 ہجری (B) 45 ہجری
(C) 48 ہجری (D) 50 ہجری

92. حضرت حفصہؓ کا انتقال کس کے دور خلافت میں ہوا؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت امیر معاویہؓ (D) حضرت ولیدؒ

93. حضرت حفصہؓ کی صلوٰۃ جنازہ کس نے پڑھائی؟

(A) مروان ابن حکم (B) عبداللہ ابن طلحہ
(C) عبدالرحمن ابن زبیرؓ (D) مروان ابن طلحہ

94. نبی اکرم ﷺ کی پانچویں زوجہ مطہرہ کا نام بتائیں؟

(A) حضرت زینب بنت خزیمہؓ
(B) حضرت زینب بنت جحشؓ
(C) حضرت صفیہ بنت خزیمہؓ
(D) حضرت ماریہ قبطیہؓ

95. حضرت زینب بنت خزیمہؓ کا لقب کیا تھا؟

(A) ام الفقراء (B) ام المساکین
(C) ام وراء (D) کوئی نہیں

96. ام المساکین سے کیا مراد ہے؟

(A) لاوارثوں کی ماں (B) معذوروں کی ماں
(C) غریبوں کی ماں (D) نیکوکاروں کی ماں

97. حضرت زینبؓ بنت خزیمہؓ کی پہلی شادی نبی اکرم ﷺ کے پھوپھی زاد سے ہوئی تھی؟

(A) عبدالرحمن ابن جحش (B) عبداللہ ابن جحش
(C) خزیمہ ابن جحش (D) ان میں سے کوئی بھی

98. آپ ﷺ کی شادی حضرت زینب بنت خزیمہؓ سے کب ہوا

(A) 1ہجری (B) 2ہجری
(C) 3ہجری (D) 4ہجری

99. شادی کے وقت حضرت زینب بنت خذیمہؓ کی عمر تیس سال اور حضرت محمد ﷺ کی عمر مبارک ....

(A) 40 سال تھی (B) 45 سال تھی
(C) 55 سال تھی (D) 60 سال تھی

100. نبی پاک ﷺ کی کون سی زوجہ مطہرہ شہید کی بیوہ کہلاتی ہیں؟

(A) حضرت زینب بنت خزیمہ
(B) حضرت زینب بنت جحشؓ
(C) حضرت میمونہؓ
(D) حضرت جویریہؓ

101. درج ذیل میں سے کون سا بیان حضرت زینب بنت خزیمہؓ سے متعلق درست ہے؟

(A) وہ ازواج مطہرات میں سب سے کم عمر پانے والی زوجہ مطہرہ تھیں
(B) دوسری ام المومنین کے مقابلے میں انہوں نے بہت کم عرصہ نبی اکرم ﷺ کی زوجہ مطہرہ کی حیثیت سے گزرا
(C) وہ ازواج مطہرات میں سب سے لمبی عمر پانے والی زوجہ تھیں
(D) a اور b دونوں

102. حضرت زینب بنت خزیمہؓ نے کتنا عرصہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک بیوی کی حیثیت سے گزرا؟

(A) 3 مہینے (B) 4 مہینے
(C) 5 مہینے (D) 6 مہینے

103. حضرت زینب بنت خزیمہؓ۔۔

(A) جنت المعلی میں دفن ہیں
(B) جنت البقیع میں دفن ہیں
(C) حجاز میں دفن ہیں
(D) یمن میں دفن ہیں

104. حضرت ام سلمہؓ نبی اکرم ﷺ کی چھٹی زوجہ مطہرہ تھیں۔ آپ کا اصل نام کیا تھا؟

(A) ہند بنت علی امیہ ابن علی
(B) ہند بنت علی امیہ ابن خزیمہ
(C) ہند بنت علی امیہ ابن مغیرہ
(D) ہند بنت علی امیہ ابن جحش

105. حضرت ام سلمہؓ کا تعلق قبیلہ قریش کی کس شاخ سے تھا؟

(A) عاد (B) تمیم
(C) مخزوم
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

106. حضرت ام سلمہؓ کے ان کے پہلے شوہر کا نام بتائیں؟

(A) حضرت عبداللہ ابن عمار
(B) حضرت عبداللہ ابن عقیلؓ
(C) حضرت عبداللہ ابن عبدالاسدؓ
(D) حضرت عبداللہ ابن عاصؓ

107. نبی پاک ﷺ کی درج ذیل میں کس بیوی کا انتقال آپ ﷺ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا؟

(A) حضرت خدیجہؓ
(B) حضرت زینب بنت خزیمہؓ
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

108. کون سی ام المومنین مدینہ ہجرت کرنے والی خواتین میں سب سے پہلی خاتون تھیں؟

(A) حضرت حفصہؓ (B) حضرت زینبؓ
(C) حضرت ام سلمہؓ (D) حضرت صفیہؓ

109. کس غزوہ میں حضرت ام سلمہؓ کے پہلے شوہر کو شہادت نصیب ہوئی؟

(A) بدر (B) خندق
(C) احد (D) موتہ

110. حضرت ام سلمہؓ کی عدت ختم ہوئی تو حضرت محمد ﷺ نے ان کو شادی کا پیغام دیا۔ اس پیغام کا حضرت ام سلمہؓ نے کیا جواب دیا؟

(A) میں ایک نہایت حاسد عورت ہوں مجھے ڈر ہے کہ میری اس عادت کی وجہ سے آپ مجھ میں کچھ ایسا پائیں گے جو آپ کو ناراض کرے گا اور وجہ بنے گا میرے لیے اللہ کی سزا کا۔
(B) میری عمر بہت زیادہ ہے
(C) میرے بچے زیادہ ہیں
(D) b,a اور c تینوں

111. کب حضرت محمد ﷺ اور حضرت ام سلمہؓ کی شادی ہوئی؟
(A) شوال 4 ہجری
(B) شوال 5 ہجری
(C) شوال 6 ہجری
(D) شوال 7 ہجری

112. نبی اکرم ﷺ سے شادی کے وقت حضرت ام سلمہؓ کی عمر مبارک کیا تھی؟
(A) 20 سال
(B) 26 سال
(C) 29 سال
(D) 30 سال

113. کون سی ام المومنین قرآن مجید کی نہایت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتی تھیں اور ان کا انداز تلاوت نبی اکرم ﷺ کے انداز تلاوت سے مماثلت رکھتا تھا؟
(A) حضرت حفصہؓ
(B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت ام سلمہ
(D) حضرت جویریہؓ

114. کس ام المومنین کے پہلے شوہر نے وفات سے پہلے اپنی بیوی کے لیے دعا کی کہ "اے میرے رب میرے بعد میری بیوی کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرمانا؟"
(A) حضرت ام سلمہؓ
(B) حضرت حفصہؓ
(C) حضرت جویریہؓ
(D) حضرت زینبؓ

115. حضرت ام سلمہؓ سے نبی پاک ﷺ کے چار سوتیلے بچے تھے جن میں تین بیٹے سلمہ، عمر، ضرعہ اور ایک بیٹی شامل ہے۔ حضرت ام سلمہؓ کی بیٹی کا نام بتائیں جو کہ حضرت محمد ﷺ کے سائے میں پروان چڑھی اور اپنے دور کی قابل ترین عورت کی حیثیت میں ابھریں؟
(A) فاطمہؓ
(B) زینبؓ
(C) عائشہؓ
(D) ہالہؓ

116. حضرت ام سلمہؓ کے پہلے شوہر سے اس بیٹے کا نام بتائیں جنہوں نے حضرت امامہ سے شادی کی جو کہ آپ ﷺ کے چچا حضرت حمزہؓ کی بیٹی تھیں؟
(A) سلمہؓ
(B) ضرعہ
(C) عمر
(D) کوئی بھی نہیں

117. حضرت محمد ﷺ کی کون سی زوجہ مطہرہ محاصرہ طائف کے دوران آپ ﷺ کے ساتھ تھیں؟
(A) حضرت ام سلمہؓ
(B) حضرت زینبؓ
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

118. حضرت ام سلمہؓ کے پاس........
(A) نبی پاک ﷺ کی کچھ زلفیں تھیں
(B) نبی پاک ﷺ کے کپڑے تھے
(C) نبی پاک ﷺ کے جوتے کا جوڑا تھا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

119. حضرت ام سلمہؓ کے پہلے شوہر کا نام کیا تھا؟
(A) عبداللہ ابن الاسدؓ
(B) عبداللہ ابن الاسدؓ
(C) عبدالرحمن ابن الاسدؓ
(D) رشتے کے ماموں

120. حضرت ام سلمہؓ کے پہلے شوہر آپ ﷺ کے کیا لگتے تھے؟
(A) چچا کے بیٹے
(B) رضاعی بھائی
(C) رشتے کا چاچا
(D) رشتے کے ماموں

121. سب سے طویل عمر پانے والی ام المومنین کونسی تھیں؟
(A) حضرت زینبؓ
(B) حضرت جویریہؓ
(C) حضرت عائشہؓ
(D) حضرت ام سلمہؓ

122. وفات کے وقت حضرت ام سلمہؓ کی عمر مبارک کیا تھی؟
(A) 84 سال
(B) 85 سال
(C) 86 سال
(D) 87 سال

123. حضرت ام سلمہؓ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ ان کی صلوۃ جنازہ کس

نے پڑھائی؟

(A) حضرت اسامہؓ (B) حضرت ابوہریرہؓ
(C) عبدالرحمن ابن عوفؓ (D) حضرت امام حسنؓ

124. نبی پاک ﷺ کی سب سے آخر میں وفات پانے والی زوجہ کا نام کیا تھا؟

(A) حضرت عائشہؓ (B) حضرت زینبؓ
(C) حضرت ماریہؓ (D) حضرت ام سلمہؓ

125. اسلامی تاریخ کا کون سا اہم واقعہ حضرت ام سلمہ کی زندگی میں پیش آیا؟

(A) حضرت امام حسینؓ کی شہادت
(B) اموی سلطنت کا عباسی سلطنت کے ہاتھوں خاتمہ
(C) ابوعباس کے ہاتھوں بنوامیہ کا قتل عام
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

126. حضرت ام سلمہؓ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟

(A) 378 (B) 400
(C) 478 (D) 500

127. حضرت زینب بنت جحشؓ آپ ﷺ کی ________

(A) 5ویں زوجہ تھیں (B) 6ویں زوجہ تھیں
(C) 7ویں زوجہ تھیں (D) 8ویں زوجہ تھیں

128. حضرت زینب بنت جحشؓ کس کی بیٹی تھیں؟

(A) حضرت امیمہ بنت عبدالمطلب
(B) حضرت امیمہ بنت حمزہؓ
(C) حضرت امیمہ بنت عباسؓ
(D) حضرت امیمہ بنت ابوطالبؓ

129. حضرت زینب بنت جحشؓ رشتہ میں آپ ﷺ کی۔

(A) ماموں زاد بہن تھیں (B) خالہ زاد بہن تھیں
(C) پھوپھی زاد بہن تھیں (D) کوئی نہیں

130. حضرت زینب بنت جحشؓ کا اصل نام کیا تھا؟

(A) درا (B) حبیبہ
(C) برہ (D) بریرہ

131. 3 ہجری میں حضرت زینب بنت جحشؓ کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت اسامہ بن زیدؓ
(C) حضرت زید بن حارثؓ (D) کوئی نہیں

132. حضرت زید ابن حارثؓ کون تھے؟

(A) نبی اکرم ﷺ کے آزاد کردہ غلام
(B) نبی اکرم ﷺ کے منہ بولے بیٹے
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

133. لے پالک بیٹے سے شادی پر جب ابہام پیدا ہوا تو نبی اکرم ﷺ پر درج ذیل وحی کا نزول ہوا کہ "جب زید نے اس سے شادی ختم کی........ہم نے اسے (زینب) تمہارے (نبی اکرم ﷺ) ساتھ شادی کے بندھن میں جوڑ دیا۔" نکاح کب ہوا؟

(A) 2 ہجری (B) 3 ہجری
(C) 4 ہجری (D) 5 ہجری

134. نبی اکرم ﷺ سے شادی کے وقت حضرت زینب بنت جحشؓ کے عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 30 سال (B) 32 سال
(C) 33 سال (D) 36 سال

135. حضرت زینب بنت جحشؓ سے شادی کے وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 50 سال (B) 53 سال
(C) 56 سال (D) 57 سال

136. حضرت زینب بنت جحشؓ کا انتقال کب ہوا؟

(A) 20 ہجری (B) 21 ہجری
(C) 22 ہجری (D) 23 ہجری

137. حضرت زینب بنت جحشؓ کا انتقال کس کے دور خلافت میں ہوا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

138. حضرت زینب بنت جحشؓ کے انتقال کے وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 53 سال (B) 54 سال

(C) 55 سال (D) 56 سال

139. حضرت زینب بنت جحشؓ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ ان کی صلوٰۃ جنازہ کس نے ادا کی؟

(A) حضرت ابوہریرہؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

140. کس اموی خلیفہ نے 50,000 درہم کے عوض مسجد نبوی کی توسیع کیلئے حضرت زینب بنت جحشؓ کا وراثت میں چھوڑا ہوا گھر خرید لیا؟

(A) حضرت امیر معاویہؓ (B) ولید ابن عبدالملک

(C) ابوالمالک (D) ابوولید ابن عبدالملک

141. کس زوجہ سے متعلق آپ ﷺ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ اپنے لمبے ہاتھوں کی وجہ سے جنت میں ان سے سب سے پہلے ملیں گی؟

(A) حضرت سودہؓ

(B) حضرت میمونہؓ

(C) زینب بنت خزیمہؓ

(D) حضرت زینب بنت جحشؓ

142. لمبے ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟

(A) مخیّر (B) فیاض

(C) خیر خواہ (D) b,a اور c تینوں

143. کس زوجہ کا نکاح آپ ﷺ سے دوبار ہوا اور دونوں بار وحی سے ہوا؟

(A) حضرت زینب بنت جحشؓ

(B) حضرت سودہؓ

(C) حضرت عائشہؓ

(D) کوئی نہیں

144. نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد انتقال پانے والی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ کا نام بتائیں؟

(A) حضرت زینب بنت جحشؓ (B) حضرت عائشہؓ

(C) حضرت حفصہؓ (D) حضرت میمونہؓ

145. حضرت جویریہ بنت حارثؓ آپ ﷺ کی

(A) 5 ویں زوجہ تھیں (B) چھٹی زوجہ تھیں

(C) 7 ویں زوجہ تھیں (D) 8 ویں زوجہ تھیں

146. کس جنگ میں ایک سردار کی بیٹی جویریہؓ بنت حارث جنگی قیدی بن کر آئیں؟

(A) بنو مصطلق (B) بدر

(C) احد (D) خیبر

147. حضرت جویریہؓ کا اصل نام .... تھا جسے آپ ﷺ نے جویریہ سے تبدیل کر دیا۔

(A) بریرہ (B) برہ

(C) حوریہ (D) کوئی نہیں

148. حضرت جویریہ بنت حارثؓ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟

(A) بنو عدی (B) بنو مصطلق

(C) بنو خزرج (D) بنو عاد

149. قبیلہ بنو مصطلق کی شکست اور حضرت جویریہؓ کے قیدی ہو کر آنے کا واقعہ کب پیش آیا؟

(A) 4 ہجری (B) 5 ہجری

(C) 6 ہجری (D) 7 ہجری

150. غزوہ بنو مصطلق کے مال غنیمت کی تقسیم میں حضرت جویریہؓ کس کے حصے میں آئیں؟

(A) حضرت عمرؓ

(B) حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ

(C) حضرت ابوبکرؓ

(D) حضرت ثابت ابن قیسؓ

151. حضرت جویریہؓ نے جزیہ کے عوض حضرت ثابت ابن قیسؓ سے آزادی کی درخواست کی اور جزیہ کے لیے کس سے رابطہ کیا

جنہوں نے جزیہ ادا کر کے ان سے شادی کی پیش کش کی؟

(A) حضرت محمد ﷺ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

152. حضرت جویریہؓ کی درخواست پر حضرت محمد ﷺ نے غزوہ بنو مصطلق کے کتنے جنگی قیدیوں کو رہا کیا تھا؟

(A) 500 (B) 600

(C) 700 (D) 800

153. حضرت جویریہؓ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کتنا عرصہ ان کی بیوی کی حیثیت سے رہیں؟

(A) 6 سال (B) 7 سال

(C) 8 سال (D) 9 سال

154. حضرت محمد ﷺ کی وفات کے بعد حضرت جویریہؓ کتنا عرصہ حیات رہیں؟

(A) 35 سال (B) 36 سال

(C) 38 سال (D) 39 سال

155. وصال کے وقت حضرت جویریہؓ کی عمر مبارک کتنی تھی؟

(A) 60 سال (B) 62 سال

(C) 65 سال (D) 68 سال

156. حضرت جویریہؓ کا انتقال کس خلیفہ کے دور خلافت میں ہوا؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ

(C) حضرت علیؓ (D) حضرت امیر معاویہؓ

157. حضرت جویریہؓ کا انتقال کب ہوا؟

(A) 50 ہجری (B) 51 ہجری

(C) 52 ہجری (D) 53 ہجری

158. شادی کے وقت حضرت جویریہؓ کی عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 25 سال (B) 23 سال

(C) 20 سال (D) 19 سال

159. حضرت جویریہؓ سے شادی کے وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 50 سال (B) 53 سال

(C) 55 سال (D) 57 سال

160. نبی اکرم ﷺ کی نویں زوجہ مطہرہ کا نام بتائیں؟

(A) حضرت صفیہؓ (B) حضرت حفصہؓ

(C) حضرت ام حبیبہؓ (D) حضرت جویریہؓ

161. حضرت ام حبیبہؓ کے پہلے شوہر کا نام بتائیں۔

(A) عبداللہ ابن جحش (B) عبدالرحمن ابن جحش

(C) عبیداللہ ابن جحش (D) سیف اللہ ابن جحش

162. کس ام المومنین کا پہلا شوہر ام المومنین حضرت زینب بنت جحشؓ کا بھائی تھا؟

(A) حضرت سودہؓ (B) حضرت جویریہؓ

(C) حضرت ام حبیبہؓ (D) کوئی نہیں

163. حضرت ام حبیبہؓ کے پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی جس کی وجہ سے وہ ام حبیبہ کہلاتی تھیں۔ان کا اصل نام کیا تھا؟

(A) فاطمہ (B) کبریٰ

(C) کوثر (D) رملہ

164. حضرت ام حبیبہؓ کے والد کا نام بتائیں جو کہ اس وقت مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے اور بدر، احد اور خندق کی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑ چکے تھے؟

(A) ابوسفیان (B) امیر معاویہؓ

(C) اکرمہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

165. حضرت ام حبیبہ حضرت عثمانؓ کی چچازاد اور......

(A) حضرت امیر معاویہؓ کی حقیقی بہن تھیں

(B) حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کی حقیقی بہن تھیں

(C) حضرت طلحہ ابن زبیرؓ کی حقیقی بہن تھیں

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

166. کس ہجرت کے بعد ام حبیبہؓ کا پہلا شوہر عیسائی ہو گیا اور آپؓ نے اسے چھوڑ دیا۔

(A) ہجرت مدینہ (B) ہجرت طائف

(C) ہجرت کوفہ (D) ہجرت حبشہ

167. حضور اکرم ﷺ نے ام حبیبہ کیلئے شادی کا پیغام دے کر کس کو نجاشی کے پاس بھیجا؟

(A) عمرو ابن امیہ (B) عمار ابن امیہ

(C) عامر ابن امیہ (D) عدی ابن امیہ

168. کس کے ذریعے ام حبیبہؓ کا نکاح آپ ﷺ سے ہوا؟

(A) حبشہ کے بادشاہ نجاشی

(B) مصر کے بادشاہ مقوقس

(C) بنو المصطلق کے سردار حارث

(D) بنی ہاشم کے سردار عبداللہ

169. نجاشی نے جب اپنی ملازمہ ابرہہ کو حضرت ام حبیبہؓ کے پاس آپ ﷺ سے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا تو خوشی میں ام حبیبہؓ نے ابرہہ کو کیا انعام دیا؟

(A) دو چوڑیاں (B) دو انگوٹھیاں

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

170. حضرت ام حبیبہؓ کو نبی اکرم ﷺ کی طرف سے کتنا حق مہر ادا کیا گیا؟

(A) 400 دینار (B) 500 دینار

(C) 600 دینار (D) 700 دینار

171. حضرت ام حبیبہؓ کا نکاح حضرت محمد ﷺ سے چھ ہجری میں ہوا لیکن وہ رخصت ہو کر نبی اکرم ﷺ کے گھر کب تشریف لائیں تھیں؟

(A) 2 ہجری (B) 4 ہجری

(C) 7 ہجری (D) 9 ہجری

172. 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہؓ کس کے ساتھ حبشہ سے مدینہ تشریف لائیں؟

(A) عمرو ابن امیہ (B) شرحبیل ابن حسنہ

(C) عبداللہ ابن حسنہ (D) عمر ابن امیہ

173. حضرت ام حبیبہؓ کا وصال اپنے بھائی امیر معاویہؓ کے دور خلافت میں ہوا۔ ہجری سال بتائیں؟

(A) 44 ہجری (B) 45 ہجری

(C) 46 ہجری (D) 47 ہجری

174. حضرت ام حبیبہؓ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟

(A) 60 (B) 65

(C) 70 (D) 70

175. وصال کے وقت حضرت ام حبیبہؓ عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 74 سال (B) 75 سال

(C) 70 سال (D) 68 سال

176. حضرت ام حبیبہؓ نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے کتنا عرصہ گزرا؟

(A) 5 سال (B) 4 سال

(C) 3 سال (D) 2 سال

177. حضرت ام حبیبہؓ آپ ﷺ کے وصال کے بعد کتنا عرصہ حیات رہیں؟

(A) 30 سال (B) 31 سال

(C) 32 سال (D) 33 سال

178. نبی اکرم ﷺ کی دسویں زوجہ مطہرہ حضرت صفیہؓ کا تعلق کس یہودی قبیلے سے تھا؟

(A) بنو نضیر (B) بنو عدی

(C) بنو خزیمہ (D) بنو قینقاع

179. حضرت صفیہ کا اصل نام کیا تھا؟

(A) فاطمہ (B) برہ

(C) زینب (D) بریرہ

180. کس فتح کے بعد حضرت صفیہؓ مال غنیمت کے طور پر حضور اکرم ﷺ کے سامنے پیش کی گئیں تو نبی اکرم ﷺ نے ان پر اپنی چادر ڈال دی جو کہ اس بات کا اشارہ تھی کہ آپ ﷺ ان سے شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں؟

(A) فتح مکہ (B) فتح خیبر

(C) فتح موتہ (D) فتح جلولہ

181. حضرت صفیہؓ کے پہلے شوہر کا نام بتائیں جس نے ان کو طلاق دے دی تھی؟

(A) سلام ابن مشکم (B) سلام ابن اوس

(C) سلام ابن اسد (D) سلام ابن مسکین

182. حضرت صفیہؓ کے دوسرے شوہر کا نام بتائیں جو کہ غزوہ خیبر میں مارا گیا؟

(A) کنانہ ابن الحقیق (B) جحش ابن ربیع

(C) عمرو ابن ربیع (D) عاص ابن ربیع

183. حضرت صفیہؓ کی والدہ کس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں۔

(A) بنو قریظہ (B) بنو عاد

(C) بنو خزیمہ (D) بنو غطفان

184. غزوہ خیبر کے بعد حضرت صفیہؓ کس مجاہد کے حصے میں مال غنیمت کے طور پر آئیں اور انہوں نے ان سے شادی کا فیصلہ کیا لیکن صحابہ کرامؓ نے اعتراض کیا کہ حضرت صفیہؓ چونکہ ایک سردار کی بیٹی اور ایک سردار کی نواسی بھی ہیں اس لیے ان کی شادی حضرت محمد ﷺ سے ہونی چاہیے چنانچہ اس صحابی نے حضرت صفیہؓ کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا؟

(A) دحیہ کلبیؓ (B) عمر کلبیؓ

(C) ہارون کلبیؓ (D) رافع کلبیؓ

185. نبی پاک ﷺ کی کون سی زوجہ محترمہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی تھیں؟

(A) حضرت صفیہؓ (B) حضرت جویریہؓ

(C) حضرت میمونہؓ (D) حضرت حفصہؓ

186. حضرت صفیہؓ کی شادی کب آپ ﷺ سے ہوئی؟

(A) 5 ہجری (B) 6 ہجری

(C) 7 ہجری (D) 8 ہجری

187. آپ ﷺ کے وصال کے وقت حضرت صفیہؓ کی عمر کیا تھی؟

(A) 21 سال (B) 22 سال

(C) 23 سال (D) 24 سال

188. بوقت شادی حضرت صفیہؓ کی عمر مبارک کیا تھی جبکہ نبی اکرم ﷺ اس وقت ساٹھ سال کے تھے؟

(A) 20 سال (B) 17 سال

(C) 18 سال (D) 19 سال

189. کتنے سال حضرت صفیہؓ نے بیوگی کی زندگی گزاری؟

(A) 30 سال (B) 35 سال

(C) 39 سال (D) 42 سال

190. حضرت صفیہؓ کا انتقال کس عمر میں ہوا؟

(A) 50 سال (B) 60 سال

(C) 55 سال (D) 65 سال

191. حضرت صفیہؓ کس ہجری سال میں فوت ہوئیں؟

(A) 50 ہجری (B) 49 ہجری

(C) 48 ہجری (D) 47 ہجری

192. کس ام المومنین نے محاصرے کے دوران حضرت عثمانؓ کو خوراک و پانی پہنچانے کی کوشش کی تھی؟

(A) حضرت صفیہؓ (B) حضرت ام حبیبہؓ

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

193. آپ ﷺ کی گیارہویں زوجہ محترمہ تھیں۔

(A) حضرت ماریہؓ (B) حضرت صفیہؓ

(C) حضرت ام حبیبہؓ (D) حضرت میمونہؓ

194. نبی اکرم ﷺ کی اس زوجہ محترمہ کا نام بتائیں جن سے آپ ﷺ نے عمرہ کے بعد حالت احرام میں شادی کی تھی؟

(A) حضرت صفیہؓ (B) حضرت میمونہؓ

(C) حضرت ام سلمہؓ (D) ماریہ قبطیہؓ

195. حضرت میمونہؓ نبی اکرم ﷺ کے کس چچا کی سالی تھیں؟

(A) ابو طالب (B) حضرت عباسؓ

(C) حضرت حمزہؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

196. حضرت میمونہؓ کا اصل نام کیا تھا؟
(A) لبریزہ (B) وردہ
(C) برہ (D) ابرہہ

197. حضرت جعفرؓ ابی طالب حضرت میمونہؓ کے کیا لگتے تھے؟
(A) بھائی (B) چچا
(C) ماموں (D) چچازاد بھائی

198. حضرت میمونہؓ اسلام کے کس بہت بڑے جنگجو کی خالہ بھی تھیں؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت حمزہؓ
(C) حضرت خالد ابن ولیدؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

199. حضرت میمونہؓ کی بہن کا نام بتائیں جو کہ عبداللہ ابن عباسؓ کی والدہ تھیں؟
(A) ام الفضل (B) ام الغنی
(C) ام السبیل (D) ام الجعفر

200. کہاں پر نبی اکرم ﷺ نے حضرت میمونہؓ سے حالت احرام میں 7 ہجری میں نکاح کیا؟
(A) سرف (B) منیٰ
(C) صفا (D) مزدلفہ

201. حضرت میمونہؓ سے شادی کے وقت حضرت محمد ﷺ کی عمر مبارک کیا تھی؟
(A) 59 سال (B) 61 سال
(C) 62 سال (D) 63 سال

202. شادی کے وقت حضرت میمونہؓ کی عمر مبارک کیا تھی؟
(A) 30 سال (B) 32 سال
(C) 34 سال (D) 36 سال

203. حضرت میمونہؓ کے پہلے شوہر کا نام بتائیں؟
(A) مسعود ابن عمرو (B) حسن ابن عمرو
(C) عمار ابن عمرو (D) مسعد ابن عمرو

204. حضرت میمونہؓ کے دوسرے شوہر کا نام بتائیں جن کی وفات کے بعد حضرت میمونہؓ نے نبی اکرم ﷺ سے شادی کی؟
(A) عبدالرحمٰن ابن عبداللہ عزاء (B) عبداللہ ابن عبداللہ عزاء
(C) ابورحیم ابن عبداللہ عزاء (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

205. حضرت میمونہؓ کی کس بہن کی شادی حضرت ابوبکرؓ سے ہوئی تھی؟
(A) اسماء بنت عمیس (B) فاطمہ بنت عمیس
(C) زینب بنت عمیس (D) رملہ بنت عمیس

206. حضرت میمونہؓ کی کس بہن کی شادی حضرت حمزہؓ سے ہوئی؟
(A) ہالہ بنت عمیس (B) اسماءؓ بنت عمیس
(C) سلمہ بنت عمیس (D) کوئی نہیں

207. حضرت میمونہؓ کی وفات کب اسی جگہ پر ہوئی جہاں پر ان کی شادی نبی اکرم ﷺ سے ہوئی تھی؟
(A) 51 ہجری (B) 52 ہجری
(C) 53 ہجری (D) 54 ہجری

208. آپ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت میمونہؓ کتنا عرصہ مدینہ رہیں؟
(A) 20 سال (B) 30 سال
(C) 40 سال (D) 50 سال

209. وفات کے وقت حضرت میمونہؓ کی عمر مبارک کیا تھی؟
(A) 80 سال (B) 82 سال
(C) 85 سال (D) 90 سال

210. حضرت میمونہؓ کی صلوٰۃ جنازہ کس نے پڑھائی؟
(A) حضرت عبداللہ ابن جعفرؓ
(B) حضرت عبداللہ ابن طالبؓ
(C) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ
(D) حضرت عبداللہ ابن حمزہؓ

211. کس ام المومنین کو آپ ﷺ اچھائی کا نمونہ قرار دیتے تھے؟
(A) حضرت سودہؓ (B) حضرت عائشہؓ

(C) حضرت میمونہؓ (D) حضرت خدیجہؓ

212. آپ ﷺ نے حضرت میمونہؓ کا نام میمونہ رکھا جس کا مطلب ہے۔

(A) برکت والی (B) رحمتوں والی

(C) نوروالی (D) کوئی نہیں

213. حضرت میمونہؓ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟

(A) کیونکہ ان کی شادی کے وقت مسلمانوں کو کئی سالوں کی جلاوطنی کے بعد مکہ میں داخل ہونے کی اجازت ملی تھی

(B) ان کی شادی نبی پاک ﷺ سے اس وقت ہوئی جب مکہ فتح ہوا

(C) ان کی شادی نبی پاک ﷺ سے اس وقت ہوئی جب خیبر فتح ہوا

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

214. کہاں کے بادشاہ نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن بڑی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا اور واپسی پر ان کے ساتھ بہت سارے تحفوں کے ساتھ ماریہ قبطیہ بھی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بھیجیں؟

(A) مصر (B) عراق

(C) یمن (D) حجاز

215. حضرت ماریہ قبطیہؓ کی شادی آپ ﷺ سے کب ہوئی؟

(A) 8 ہجری (B) 9 ہجری

(C) 10 ہجری (D) 11 ہجری

216. کچھ روایات کے مطابق ماریہ قبطیہؓ آپ ﷺ کی لونڈی ہی رہیں۔ اگر نبی پاک ﷺ نے ان سے شادی کی تھی تو پھر مختلف روایات کے مطابق شادی کے وقت ماریہ قبطیہؓ کی عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 20 سال (B) 30 سال

(C) 40 سال (D) 50 سال

217. حضرت ماریہ قبطیہؓ دوسری ازواج مطہرات سے علیحدہ کس علاقے میں رہتی تھیں؟

(A) عوالی (B) سلیم

(C) قینقاع (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

218. ماریہ قبطیہؓ نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ صرف تین سال گزارے اور وصال نبی ﷺ کے صرف ....

(A) 6 سال بعد وفات پا گئیں

(B) 7 سال بعد وفات پا گئیں

(C) 8 سال بعد وفات پا گئیں

(D) 9 سال بعد وفات پا گئیں

219. حضرت ماریہ قبطیہؓ کہاں دفن ہیں؟

(A) کوفہ میں (B) جنت البقیع میں

(C) مکہ میں (D) مصر میں

220. حضرت ماریہ قبطیہؓ کی صلوٰۃ جنازہ کس نے پڑھائی؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ

(C) حضرت علیؓ (D) حضرت خالد ابن ولیدؓ

221. حضرت ماریہ قبطیہؓ کی اس بہن کا نام بتائیں جو کہ ماریہ قبطیہؓ کے ساتھ مصر سے آئیں تھیں اور ان کی شادی نبی اکرم ﷺ نے حضرت حسن ابن ثابتؓ سے کروادی تھی؟

(A) سیرین (B) درا

(C) سلمہ (D) قبطیہ

222. حضرت محمد ﷺ کی چار کنیزیں تھیں جن میں سے ایک کا نام ماریہؓ ایک کا نفیسہ ایک کا نام معلوم نہیں اور ایک کا ....

(A) سلمیٰ تھا (B) فاطمہ تھا

(C) کبریٰ تھا (D) ریحانہ تھا

223. کچھ روایات کے مطابق نبی اکرم ﷺ نے اپنی کنیز ریحانہ سے کب شادی کرلی تھی؟

(A) 6 ہجری (B) 7 ہجری

(C) 8 ہجری (D) 9 ہجری

224. کب مسلمانوں نے بنو قریظہ پر فتح حاصل کی اور ریحانہ بطور مال غنیمت حاصل ہوئیں؟
(A) 5 ہجری (B) 6 ہجری
(C) 7 ہجری (D) 8 ہجری

225. ریحانہ کا تعلق کس یہودی قبیلہ سے تھا؟
(A) بنونضیر (B) بنوہاشم
(C) بنوقریظہ (D) بنوقینقاع

226. نبی پاک ﷺ کی وفات کے کتنے عرصے بعد حضرت ریحانہ کا انتقال ہوا؟
(A) 10 سال (B) 12 سال
(C) 14 سال (D) 16 سال

227. ازواج النبی میں ام المساکین لقب تھا۔
(A) حضرت سودہ کا
(B) حضرت زینبؓ بنت جحش کا
(C) حضرت زینبؓ بنت خزیمہ کا
(D) حضرت صفیہ کا
(E) کوئی نہیں

228. حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے حضور ﷺ کے نکاح میں آئیں؟
(A) حضرت عائشہؓ (B) حضرت سودہؓ
(C) حضرت زینبؓ (D) حضرت صفیہؓ

229. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ حضور ﷺ کے وصال کے بعد زندہ رہیں۔
(A) 45 برس (B) 50 برس
(C) 65 برس (D) 20 برس

230. حضرت خدیجہؓ نے کتنی عمر میں وفات پائی؟
(A) 53 برس (B) 63 برس
(C) 65 برس (D) 66 برس

231. اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی ہالہ کس کے بیٹے تھے۔
(A) حضرت خدیجہؓ (B) حضرت ام سلمہؓ
(C) حضرت عطیہؓ (D) حضرت سعید

232. کون سی ام المومنینؓ قرأت اور کتابت پر مکمل عبور رکھتی تھیں؟
(A) حضرت حفصہؓ (B) حضرت ام سلمہؓ
(C) حضرت عائشہؓ (D) حضرت سودہؓ

233. سب سے زیادہ احادیث کن ام المومنین سے مروی ہیں؟
(A) حضرت صفیہؓ (B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت ام حبیبہؓ (D) حضرت ام سلمہؓ

234. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کتنی بیٹیاں تھیں؟
(A) کوئی نہیں (B) 3
(C) 4 (D) 2

جوابات

1. (C)	2. (A)	3. (D)	4. (C)	5. (A)	6. (A)	7. (A)	8. (A)
9. (C)	10. (A)	11. (A)	12. (A)	13. (B)	14. (A)	15. (D)	16. (D)
17. (A)	18. (B)	19. (A)	20. (C)	21. (A)	22. (D)	23. (C)	24. (C)
25. (C)	26. (C)	27. (B)	28. (C)	29. (B)	30. (A)	31. (D)	32. (A)
33. (A)	34. (D)	35. (D)	36. (C)	37. (B)	38. (C)	39. (D)	40. (B)
41. (C)	42. (D)	43. (C)	44. (B)	45. (D)	46. (C)	47. (C)	48. (C)
49. (D)	50. (C)	51. (A)	52. (A)	53. (A)	54. (C)	55. (A)	56. (D)
57. (B)	58. (C)	59. (A)	60. (C)	61. (B)	62. (A)	63. (D)	64. (C)
65. (A)	66. (C)	67. (C)	68. (A)	69. (B)	70. (C)	71. (B)	72. (A)
73. (C)	74. (D)	75. (B)	76. (C)	77. (A)	78. (A)	79. (C)	80. (B)
81. (A)	82. (C)	83. (C)	84. (B)	85. (C)	86 (B)	87. (D)	88. (D)
89. (C)	90. (D)	91. (B)	92. (C)	93. (A)	94. (A)	95. (B)	96. (C)
97. (B)	98. (C)	99. (C)	100. (A)	101. (B)	102. (A)	103. (B)	104. (C)
105. (C)	106. (C)	107. (C)	108. (C)	109. (C)	110. (D)	111. (A)	112. (B)
113. (C)	114. (A)	115. (B)	116. (A)	117. (C)	118. (A)	119. (B)	120. (B)
121. (D)	122. (A)	123. (B)	124. (D)	125. (A)	126. (A)	127. (C)	128. (A)
129. (C)	130. (C)	131. (C)	132. (C)	133. (D)	134. (D)	135. (D)	136. (A)
137. (B)	138. (A)	139. (B)	140. (B)	141. (D)	142. (D)	143. (A)	144. (A)
145. (D)	146. (A)	147. (B)	148. (B)	149. (B)	150. (D)	151. (A)	152. (C)
153. (A)	154. (D)	155. (C)	156. (D)	157. (A)	158. (C)	159. (D)	160. (C)
161. (C)	162. (C)	163. (D)	164. (A)	165. (A)	166. (D)	167. (A)	168. (A)
169. (C)	170. (A)	171. (C)	172. (A)	173. (A)	174. (B)	175. (A)	176. (B)
177. (D)	178. (A)	179. (C)	180. (B)	181. (A)	182. (A)	183. (A)	184. (A)
185. (A)	186. (C)	187. (A)	188. (B)	189. (C)	190. (B)	191. (A)	192. (C)
193. (D)	194. (B)	195. (B)	196. (C)	197. (D)	198. (C)	199. (A)	200. (A)
201. (A)	202. (D)	203. (D)	204. (C)	205. (A)	206. (C)	207. (A)	208. (C)
209. (A)	210. (C)	211. (C)	212. (A)	213. (A)	214. (A)	215. (A)	216. (A)
217. (A)	218. (A)	219. (B)	220. (A)	221. (A)	222. (D)	223. (A)	224. (B)
225. (C)	226. (A)	227. (C)	228. (B)	229. (A)	230. (B)	231. (A)	232. (A)
233. (B)	234. (C)						

عترۃ النبیؐ/اولاد نبیؐ

1. حضور اکرمؐ کے کتنے بچے تھے؟
(A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) 10

2. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) نبی اکرمؐ کے تمام بچے حضرت خدیجہؓ سے تھے
(B) نبی اکرمؐ کے چھ بچے حضرت خدیجہؓ سے تھے اور ایک بچہ حضرت ماریہ قبطیہؓ سے تھا
(C) نبی اکرمؐ کے چار بچے حضرت خدیجہؓ سے تھے اور تین بچے عائشہؓ سے تھے
(D) نبی اکرمؐ کے چار بچے حضرت خدیجہؓ سے تھے اور تین بچے حضرت عائشہؓ سے اور ایک بچہ حضرت ماریہ قبطیہؓ سے تھا

3. کس زوجہ مطہرہ کے علاوہ نبی اکرمؐ کو کسی زوجہ مطہرہ سے اولاد حاصل نہ ہوئی؟
(A) حضرت خدیجہؓ (B) حضرت ماریہ قبطیہؓ
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

4. حضرت خدیجہؓ سے پیدا ہونے والے پہلے بچے کا نام بتائیں؟
(A) قاسم (B) عبداللہ
(C) عبدالرحمٰن (D) طیب

5. آپؐ کے بیٹے قاسم کی وجہ سے حضرت محمد ﷺ کی کنیت ابوالقاسم تھی۔ کس عمر میں حضرت قاسم کا انتقال ہوا تھا؟
(A) ایک سال (B) 2 سال
(C) 3 سال (D) 4 سال

6. حضرت خدیجہؓ سے پیدا ہونے والی نبی اکرمؐ کی پہلی بیٹی کا نام بتائیں۔
(A) حضرت فاطمہؓ (B) حضرت امامہؓ
(C) حضرت زینبؓ (D) حضرت کلثومؓ

7. حضرت زینبؓ بعثت سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئیں؟
(A) 8 سال (B) 10 سال
(C) 11 سال (D) 13 سال

8. حضرت زینبؓ بنت محمد ﷺ کے شوہر کا نام بتائیں؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت ابوالعاصؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

9. حضرت زینبؓ بنت محمد ﷺ سے پیدا ہونے والی نبی اکرمؐ کی پہلی نواسی کا نام کیا ہے؟
(A) حضرت امامہؓ (B) حضرت کلثومؓ
(C) حضرت حمیراؓ (D) حضرت فاطمہؓ

10. حضرت زینبؓ سے پیدا ہونے والے نبی اکرمؐ کے نواسے کا نام بتائیں جو کہ نبی اکرمؐ کے اس وقت ساتھ تھے جب نبی اکرمؐ خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑ رہے تھے؟
(A) حضرت علی ابن ابوالعاصؓ
(B) حضرت حمزہ ابن ابوالعاصؓ
(C) حضرت طلحہ ابن ابوالعاصؓ
(D) حضرت طاہر ابن ابوالعاصؓ

11. حضرت خدیجہؓ سے نبی اکرمؐ کی کون سی بیٹی بعثت سے سات سال اور ہجرت سے 19 سال پہلے پیدا ہوئی تھی؟

(A) حضرت ام کلثومؓ (B) حضرت رقیہؓ

(C) حضرت فاطمہؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

12. نبی اکرمؐ کی کس بیٹی کا انتقال فتح غزوۂ بدر والے دن ہوا؟

(A) حضرت رقیہؓ (B) حضرت زینبؓ

(C) حضرت ام کلثومؓ (D) کسی کا بھی نہیں

13. حضرت رقیہؓ سے پیدا ہونے والے نبی اکرمؐ کے نواسے کا نام بتائیں؟

(A) حضرت عبداللہؓ (B) حضرت عبدالرحمٰنؓ

(C) حضرت طلحہؓ (D) حضرت زبیرؓ

14. حضرت خدیجہؓ سے پیدا ہونے والی نبی اکرمؐ کی بیٹی حضرت ام کلثومؓ..........

(A) بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں

(B) بعثت سے چار سال پہلے پیدا ہوئیں

(C) بعثت سے تین سال پہلے پیدا ہوئیں

(D) بعثت سے دو سال پہلے پیدا ہوئیں

15. حضرت کلثومؓ بنت محمد ﷺ کا انتقال کب ہوا؟

(A) شعبان' 9 ہجری (B) شعبان' 10 ہجری

(C) شعبان' 11 ہجری (D) شعبان' 12 ہجری

16. آپ کی بیٹی جن کا نکاح پہلے حضرت عثمانؓ سے ہوا۔

(A) حضرت زینبؓ (B) حضرت ام کلثومؓ

(C) حضرت رقیہؓ (D) کوئی نہیں

17. حضرت محمد ﷺ کی بیٹی حضرت رقیہؓ کی شادی حضرت عثمانؓ سے ہوئی۔ نبی اکرمؐ کی دوسری بیٹی کا نام بتائیں جن کی شادی حضرت رقیہؓ کی وفات کے بعد حضرت عثمانؓ سے ہوئی؟

(A) حضرت ام کلثومؓ (B) حضرت امامہؓ

(C) حضرت زینبؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

18. حضرت رقیہؓ کی موت کی وجہ کون سی بیماری تھی؟

(A) تپ دق (B) چیچک

(C) طاعون (D) کوئی بھی نہیں

19. حضرت خدیجہؓ سے پیدا ہونے والی نبی اکرمؐ کی چوتھی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام بتائیں؟

(A) حضرت زینبؓ (B) حضرت ام کلثومؓ

(C) حضرت رقیہؓ (D) حضرت فاطمہؓ

20. حضرت فاطمہؓ کی شادی حضرت علیؓ سے کب ہوئی؟

(A) 2 ہجری (B) 3 ہجری

(C) 4 ہجری (D) 5 ہجری

21. حضرت فاطمہؓ اور حضرت علیؓ سے پیدا ہونے والے نبی اکرمؐ کے نواسے کا نام بتائیں؟

(A) حضرت امام حسنؓ (B) حضرت امام حسینؓ

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

22. حضرت محمد ﷺ کے کس نواسے کا لقب "شبّر" (SHABBAR) تھا؟

(A) حضرت عبداللہؓ (B) حضرت امام حسنؓ

(C) حضرت امام حسینؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

23. شبّر (SHABBAR) کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(A) خوبصورت (B) کامیاب

(C) بہادر (D) سیاستدان

24. حضرت علیؓ کے بعد کس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا؟

(A) حضرت امام حسینؓ (B) حضرت امام حسنؓ

(C) حضرت امیر معاویہؓ (D) حضرت عبداللہؓ

25. کس سال کربلا کے المناک واقعہ میں حضرت امام حسینؓ کی شہادت ہوئی؟

(A) 61 ہجری (B) 62 ہجری

(C) 63 ہجری (D) 64 ہجری

26. کربلا کہاں واقع ہے؟

(A) دریائے دجلہ کے کنارے پر
(B) دریائے فرات کے کنارے پر
(C) دریائے نیل کے کنارے پر
(D) دریائے سندھ کے کنارے پر

27. حضرت امام حسینؓ کس تاریخ کو شہید ہوئے تھے؟

(A) 8 محرم (B) 9 محرم
(C) 10 محرم (D) 11 محرم

28. حضرت حسنؓ کتنے عرصے کیلئے خلیفہ رہے؟

(A) 4 مہینے (B) 5 مہینے
(C) 6 مہینے (D) 7 مہینے

29. حضرت امام حسنؓ کہاں دفن ہیں؟

(A) کوفہ (B) کربلا
(C) جنت البقیع (D) طاہرہ

30. حضرت خدیجہؓ سے پیدا ہونے والے نبی اکرمؐ کے آخری بچے کا نام بتائیں جو کہ بیٹا تھا؟

(A) حضرت عبداللہؓ (B) حضرت قاسمؓ
(C) حضرت ابراہیمؓ (D) حضرت طاہرؓ

31. حضور اکرمؐ کے بیٹے حضرت عبداللہ مکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کا لقب کیا تھا؟

(A) طاہر (B) طیب
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

32. حضرت ماریہ قبطیہؓ سے پیدا ہونے والے آپؐ کے بیٹے کا کیا نام تھا؟

(A) طاہر (B) قاسم
(C) عبداللہ (D) ابراہیم

33. ابراہیم بن محمدؐ کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟

(A) 18 ماہ (B) 20 ماہ
(C) 21 ماہ (D) 23 ماہ

34. حضرت ابراہیمؓ کب پیدا ہوئے تھے؟

(A) 8 ہجری (B) 9 ہجری
(C) 10 ہجری (D) 11 ہجری

35. "ہماری آنکھیں پرنم ہیں اور ہمارے دل پریشان ہیں لیکن ہم صرف وہی کہیں گے جو کہ ہمارے اللہ کو خوش کرے۔" یہ الفاظ نبی اکرمؐ نے کس کی وفات پر کہے تھے؟

(A) اپنے بیٹے حضرت ابراہیمؓ کی وفات پر
(B) اپنے بیٹے حضرت قاسمؓ کی وفات پر
(C) اپنی بیوی حضرت خدیجہؓ کی وفات پر
(D) اپنے چچا حضرت ابوطالب کی وفات پر

36. نبی اکرمؐ کے بیٹے حضرت ابراہیمؓ کی وفات پر کون سا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے عربوں نے اس واقعے کو خاص شخصیات کی وفات سے منسوب کیا لیکن نبی اکرمؐ نے عربوں کی اس ذہنیت کی نفی کر دی؟

(A) قحط (B) سیلاب
(C) زلزلہ (D) سورج گرہن

37. نبی اکرمؐ کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟

(A) 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں (B) 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے
(C) 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے (D) 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے

38. کس نے نبی اکرمؐ کے اکلوتے لے پالک بیٹے ہونے کی حیثیت سے ایک خاص مقام اور منفرد اعزاز حاصل کیا؟

(A) زید ابن حارثہؓ (B) زید ابن اسدؓ
(C) زید ابن عمرؓ (D) زید ابن جعفرؓ

39. درج ذیل میں سے کون سا بیان حضرت زید ابن حارثؓ سے متعلق درست ہے؟

(A) وہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے اور نبی اکرمؐ نے ان کو آزاد کروا کر خانہ کعبہ میں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا

(B) وہ زید ابن حارثؓ کے بجائے زیدؓ ابن محمدﷺ کہلاتے تھے

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

40. کس نے حضرت زیدؓ ابن محمدﷺ کے بارے میں کہا تھا کہ ''اگر زید زندہ رہتے تو نبی اکرمؐ ان کو اپنا جانشین مقرر کرتے۔''؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عائشہؓ (D) حضرت فاطمہؓ

41. حضورﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کو ہجرت کرتے وقت نیزے سے کس نے زخمی کیا؟

(A) ابوسفیان (B) وحشی

(C) ابوجندل (D) ہبار بن الاسود

42. حضرت خدیجہؓ کے علاوہ کس زوجہ سے آپ کی نرینہ اولاد ہوئی۔

(A) حضرت میمونہؓ (B) حضرت سودہؓ

(C) حضرت ماریہ قبطیہؓ (D) حضرت صفیہؓ

جوابات

1. (A)	2. (B)	3. (C)	4. (A)	5. (B)	6. (C)	7. (B)	8. (C)
9. (A)	10. (A)	11. (B)	12. (A)	13. (A)	14. (B)	15. (A)	16. (C)
17. (A)	18. (B)	19. (D)	20. (A)	21. (C)	22. (B)	23. (A)	24. (B)
25. (A)	26. (B)	27. (C)	28. (C)	29. (C)	30. (A)	31. (C)	32. (D)
33. (A)	34. (A)	35. (A)	36. (D)	37. (B)	38. (A)	39. (C)	40. (C)
41. (D)	42. (C)						

غزوات

غزوہ بدر سے غزوہ دومۃ الجندل تک

1. وہ جنگ جس میں نبی پاکؐ نے بذات خود حصہ لیا وہ کیا کہلاتی ہے؟
(A) سریہ (B) جنگ
(C) غزوہ (D) کوئی نہیں

2. نبی پاکؐ کی زندگی کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟
(A) بدر (B) احد
(C) خندق (D) ودان یا ابوا

3. غزوہ ودان کب لڑا گیا؟
(A) ایک ہجری (B) دو ہجری
(C) تین ہجری (D) چار ہجری

4. نبی پاکؐ نے کتنے غزوات میں حصہ لیا؟
(A) 20 (B) 25
(C) 27 (D) 31

5. بدر کیا ہے؟
(A) گاؤں (B) وادی
(C) میدان (D) جزیرہ

6. مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر بدر واقع ہے؟
(A) 80 میل (B) 90 میل
(C) 100 میل (D) 110 میل

7. جنگ بدر کس تاریخ کو لڑی گئی؟
(A) 18 رمضان (B) 17 رمضان
(C) 16 رمضان (D) 15 رمضان

8. جنگ بدر کس ہجری میں لڑی گئی؟
(A) 2 ہجری (B) 3 ہجری
(C) 4 ہجری (D) 5 ہجری

9. سریہ عبداللہ بن جحش میں کس مشرک/کافر کا قتل بدر کی لڑائی کا سبب بنا؟
(A) عمرو بن الحضرمی (B) ولید بن مغیرہ
(C) ابوسفیان (D) کرز بن جابر

10. بدر کے کیا معانی ہیں؟
(A) دیوار (B) کنواں
(C) کھیت (D) وادی

11. جنگ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟
(A) 1000 (B) 500
(C) 415 (D) 313

12. جنگ بدر میں کتنے انصار مہاجرین شامل تھے؟
(A) 81 مہاجرین اور 232 انصار
(B) 82 مہاجرین اور 231 انصار
(C) 83 مہاجرین اور 230 انصار
(D) 82 مہاجرین اور 229 انصار

13. جنگ بدر میں مسلم فوج میں قبیلہ خزرج کے کتنے مجاہد شامل تھے؟
(A) 40 (B) 45
(C) 52 (D) 170

14. جنگ بدر میں 61 مجاہدوں کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟
(A) عاد (B) اوس

(C) اسد
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

15. جنگ بدر میں کتنے کفار شامل تھے؟
(A) 500
(B) 700
(C) 900
(D) 1000

16. جنگ بدر میں کفار کے پاس کتنے اونٹ تھے؟
(A) 100
(B) 300
(C) 500
(D) 700

17. جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟
(A) 100
(B) 80
(C) 70
(D) 90

18. جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس گھوڑوں کی تعداد کیا تھی؟
(A) 2
(B) 8
(C) 10
(D) 15

19. جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس تلواروں کی تعداد کیا تھی؟
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

20. جنگ بدر کا جھنڈا کس ام المومنین کے دوپٹے سے تیار کیا گیا؟
(A) حضرت حفصہؓ
(B) حضرت زینبؓ
(C) حضرت عائشہؓ
(D) حضرت ام حبیبہؓ

21. جنگ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟
(A) 100
(B) 80
(C) 70
(D) 60

22. جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟
(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 16

23. جنگ بدر میں کتنے انصار و مہاجرین شہید ہوئے؟
(A) 8 انصار اور 6 مہاجرین
(B) 9 انصار اور 5 مہاجرین
(C) 10 انصار اور 4 مہاجرین
(D) 11 انصار اور 3 مہاجرین

24. جنگ بدر میں وہ کون سے صحابہ تھے جو اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے؟
(A) حضرت عبیدہؓ
(B) حضرت علیؓ
(C) حضرت حمزہؓ
(D) تمام

25. کون سے صحابی عمر میں سب سے زیادہ ہونے کے باوجود جنگ بدر میں اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے؟
(A) حضرت حمزہؓ
(B) حضرت عبیدہؓ
(C) حضرت سعدؓ
(D) ان میں سے کوئی نہیں

26. جنگ بدر میں کون سے کفار اگلی صفوں میں لڑے؟
(A) عتبہ
(B) ولید بن عتبہ
(C) شیبہ
(D) تمام

27. جنگ بدر میں مسلمانوں کی فوج کا جھنڈا کس رنگ کا تھا؟
(A) سبز
(B) سیاہ
(C) سفید
(D) نیلا

28. جنگ بدر میں کتنے کافر قیدی بنالئے گئے تھے؟
(A) 70
(B) 80
(C) 60
(D) 50

29. جنگ بدر کے متعلق ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) آنحضورؐ کے چچا حضرت عباسؓ کو قیدی بنالیا گیا
(B) آنحضورؐ کے داماد ابوالعاص کو قیدی بنالیا گیا
(C) یہ دونوں بیان درست ہیں
(D) ان میں سے کوئی نہیں

30. حضرت علیؓ کے اس مشرک بھائی کا نام بتائیں جسے جنگ بدر میں قیدی بنالیا گیا تھا؟
(A) عقیل
(B) عباس
(C) حمزہ
(D) کوئی بھی نہیں

31. جنگ بدر میں کافروں کے کون سے لیڈر (پیشوا) مارے گئے؟
(A) شیبہ
(B) ابوجہل
(C) عتبہ
(D) تمام

32. کس کو نبی پاکؐ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کا سر کردہ سپاہی مقرر کیا؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت ابوبکر صدیقؓ

33. بدر کے قریب جب قریش کو ابوسفیان کے قافلے کے بحفاظت نکل جانے کی خبر ملی تو کس نے کہا کہ مسلمانوں سے جنگ کی ضرورت نہیں؟

(A) بنو عدی کے سرداروں نے
(B) بنو زہرہ کے سرداروں نے
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

34. بنو عدی و زہرہ کی فوج میں کتنے افراد شامل تھے؟

(A) 20 (B) 30
(C) 40 (D) 50

35. ابوسفیان کے قافلے کی خبر کے بعد کس نے مسلمانوں سے جنگ کے لئے اصرار کیا؟

(A) ابوجہل (B) عتبہ ابن ربیعہ
(C) عتبہ ابن ولید (D) ان میں سے کوئی نہیں

36. جنگ بدر میں ابوجہل کس کے ہاتھوں مارا گیا؟

(A) معاذ (B) معوذ
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

37. کس کے سات بیٹوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا؟

(A) حضرت اسماءؓ (B) حضرت زینبؓ
(C) حضرت عفراءؓ (D) حضرت امامہؓ

38. کس صحابی کی تین نسلوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا؟

(A) حضرت یزید ابن اخنس سلمیؓ
(B) حضرت یزید ابن عبیدہؓ
(C) حضرت یزید ابن عکرمہ
(D) حضرت یزید ابن عتبہؓ

39. ابوجہل کے کس بیٹے نے تلوار کے حملے سے حضرت معاذ کا ہاتھ زخمی کر دیا تھا؟

(A) عتبہ (B) عکرمہ
(C) یزید (D) ان میں سے کوئی نہیں

40. عمیر بن ابی وقاص کون تھے؟

(A) جنگ بدر کے معمر ترین شہید
(B) جنگ بدر کے کم عمر شہید
(C) جنگ بدر کے پہلے شہید
(D) جنگ بدر کے آخری شہید

41. ابوجہل کا سر تن سے جدا کر کے کس نے آپ کی خدمت میں پیش کیا؟

(A) عبداللہ بن مسعودؓ (B) عبداللہ بن عمروؓ
(C) عبداللہ بن نعمانؓ (D) عبداللہ بن عزیزؓ

42. معوذ اور معاذ کی والدہ کا نام بتائیں؟

(A) حضرت سارہؓ (B) حضرت عفراءؓ
(C) حضرت حاجرہؓ (D) کوئی نہیں

43. جنگ بدر میں کس صحابی نے اپنے لٹکتے ہوئے ہاتھ کو علیحدہ کر کے لڑائی کی راہ میں رکاوٹ روکی؟

(A) حضرت معاذؓ (B) حضرت معوذؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت حمزہؓ

44. ذیل میں کون سا بیان درست ہے؟

(A) جنگ بدر میں عتبہ بن ربیعہ کفار کی فوج کا سپہ سالار تھا
(B) ولید بن عتبہ جنگ بدر میں کفار کی فوج کا سپہ سالار تھا
(C) ابوسفیان جنگ بدر میں کفار کی فوج کا سپہ سالار تھا
(D) ان میں سے کوئی درست نہیں ہے

45. جنگ بدر میں عتبہ کو کس نے قتل کیا تھا؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عبیدہؓ
(C) حضرت حمزہؓ (D) حضرت حارثؓ

46. غزوہ بدر میں ولید ابن عتبہ او شیبہ کو کس نے قتل کیا؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت حارثؓ
(C) حضرت حمزہؓ (D) حضرت عمرؓ

47. جنگ بدر سے قبل قریش کے سرداروں نے کہاں بیٹھ کر آپ ﷺ کو قتل کرنے کی سازش کی؟
(A) دارالندوہ میں (B) غار حرا میں
(C) مسجد ضرار میں (D) کوئی نہیں

48. دارالندوہ میں بیٹھ کر نبی اکرم ﷺ کو قتل کرنے کے سازش میں شامل افراد میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟
(A) 5 (B) 7
(C) 8 (D) 11

49. آپ ﷺ کو قتل کرنے کی سازش کرنے والوں میں کتنوں کو جنگ بدر میں قیدی بنالیا گیا؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

50. کیوں اہل قریش نے عوف ابن حارثؓ معوذ ابن عفراؓ اور عبداللہؓ ابن رواحہؓ سے لڑنے سے انکار کردیا؟
(A) کیونکہ وہ چھوٹے تھے (B) کیونکہ وہ بہت دلیر تھے
(C) کیونکہ وہ غیر قریش تھے (D) کوئی نہیں

51. قریش کی طرف سے کس نے معوذ ابن عفراؓ، عوف ابن حارثؓ اور عبداللہ ابن رواحہؓ سے لڑنے سے انکار کردیا؟
(A) عتبہ (B) شیبہ
(C) ولید (D) تمام

52. اہل قریش کے انکار کے بعد مسلمانوں کی طرف سے کون عتبہ شیبہ اور ولید کا مقابلہ کرنے آئے؟
(A) حضرت عبیدہ ابن حارثؓ (B) حضرت حمزہؓ
(C) حضرت علیؓ (D) تمام

53. اس صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا؟
(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت عبیدہؓ
(C) حضرت حارثؓ (D) حضرت علیؓ

54. جنگ بدر کے مسلمان سپاہی ابوحذیفہؓ کون تھے؟
(A) عتبہ بن ربیعہ کے بھائی تھے
(B) عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے
(C) عتبہ بن ربیعہ کے چچازاد تھے
(D) عتبہ بن ربیعہ کے داماد تھے

55. بدر کی لڑائی میں کس صحابی کی تلوار ٹوٹنے پر آنحضورؐ نے انہیں درخت کی شاخ پکڑائی جو لڑتے ہوئے تلوار میں تبدیل ہوگئی تھی؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت معاذؓ
(C) حضرت عکاشہ بن محصن (D) حضرت عمرؓ

56. اس تلوار کو کس نام سے پکارا جاتا ہے جو آنحضورؐ نے حضرت عکاشہ بن محصن کو جنگ بدر میں لڑنے کیلئے دی تھی؟
(A) عکاشہ (B) عون
(C) ذوالفقار (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

57. جب آپ ﷺ نے عمیر بن وہب کو اس کے خفیہ اداروں سے آگاہ کیا تو اس کا ردعمل کیا تھا؟
(A) بہت حیران ہوا (B) مسلمان ہوگیا
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

58. کس جنگ کے بعد عمیر بن وہب مکہ سے مدینہ آنحضور کو قتل کرنے کیلئے روانہ ہوا؟
(A) جنگ بدر (B) جنگ خندق
(C) جنگ احد (D) ان میں سے کوئی نہیں

59. جب آپ ﷺ نے عمیر بن وہب کو اس کے خفیہ ارادوں سے آگاہ کیا تو اس کا ردعمل کیا تھا؟
(A) بہت حیران ہوا (B) مسلمان ہوگیا
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

60. اس کافر کا نام بتائیں جس نے مسجد حرام میں دوران نماز آنحضورؐ پر اونٹ کی نجاست ڈال دی تھی اور جنگ بدر میں قتل ہوگیا؟
(A) عتبہ بن ولید (B) عتبہ بن حارث

(C) عقبہ بن ابی معیط (D) عتبہ بن ابی امرو

61. آنحضورؐ کی اس پھوپھی کا نام بتائیں جنہوں نے جنگ بدر سے پہلے خواب میں کفار مکہ کا عبرت ناک انجام دیکھا تھا؟

(A) حضرت اسماءؓ (B) حضرت سلمیٰؓ
(C) حضرت عاتکہؓ (D) حضرت ماریہؓ

62. حضرت عاتکہؓ نے کس شخص کو اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا جس میں انہوں نے کافروں کا عبرت ناک انجام دیکھا؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت عباسؓ (D) حضرت عمرؓ

63. کس نے حضرت عاتکہؓ کے خواب کا سن کر کہا کہ اب بنی ہاشم کی عورتیں بھی نبوت کا کام سرانجام دینے لگی ہیں؟

(A) عتبہ (B) شیبہ
(C) ابوجہل (D) ولید

64. جب ابوجہل کا سر آنحضورؐ کے سامنے پیش کیا گیا تو آنحضور نے کون سی بات تین دفعہ دہرائی؟

(A) صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں
(B) اللہ نے فتح کا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندوں کی مدد کی اور تمام گروہوں کو شکست دی
(C) دونوں
(D) ان میں سے کوئی نہیں

65. جنگی قیدیوں کے متعلق یہ تجویز کس نے دی کہ ہر مسلمان اپنے کافر رشتہ داروں کو قتل کرے؟

(A) حضرت حارثؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت علیؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

66. جنگ بدر کے قیدیوں کیلئے فدیہ کی کتنی مقدار رکھی گئی؟

(A) 4ہزار درہم (B) 5ہزار درہم
(C) 6ہزار درہم (D) 7ہزار درہم

67. کس نے جنگ بدر کے قیدیوں کے لیے فدیہ کی تجویز دی تھی

قبول کرلیا گیا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

68. بدر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو بطور مال غنیمت کیا حاصل ہوا؟

(A) 150 اونٹ (B) 10 گھوڑے
(C) ذوالفقار نامی ایک تلوار (D) تمام

69. جنگ بدر کے قیدیوں سے مسلمانوں کو کتنی رقم حاصل ہوئی؟

(A) 2 سے اڑھائی ہزار درہم
(B) 4 سے ساڑھے چار ہزار درہم
(C) 3 سے ساڑھے تین ہزار درہم
(D) 5 سے ساڑھے پانچ ہزار درہم

70. جنگ بدر میں جس جگہ سے آنحضورؐ نے اپنی فوج کی رہنمائی کی وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی اس مسجد کا کیا نام تھا؟

(A) مسجد بدر (B) مسجد نبوی
(C) مسجد عریش (D) ان میں سے کوئی نہیں

71. جنگ بدر کے............

(A) غریب قیدیوں کو فدیہ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا
(B) پڑھے لکھے قیدیوں کو مسلمان بچوں کو پڑھانے پر معمور کیا گیا
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

72. قرآن کریم میں جنگ بدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟

(A) یوم الفرقان (B) یوم المسلم
(C) یوم الفتح (D) یوم النبی

73. جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف کون سی غیبی امداد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی؟

(A) تیز بارش (B) زلزلہ
(C) من وسلویٰ (D) تیز آندھی

74. مدینہ کے بچوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا کب پڑھا؟

(A) فتح بدر کے بعد (B) فتح احد کے بعد
(C) فتح احزاب کے بعد (D) فتح موتہ کے بعد

75. اس لڑائی کا نام بتائیں جس میں شمولیت کرنے والوں کو اللہ نے بہترین انعامات سے نوازا؟
(A) بدر (B) احد
(C) خندق (D) حنین

76. جنگ بدر کتنی دفعہ لڑی گئی؟
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

77. کس شخصیت نے جنگ بدر میں 36 کفار کو ہلاک کر کے آنحضورؐ سے ابوتراب کا لقب پایا؟
(A) حضرت حمزہؓ (B) حضرت ابوبکرؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عبیدہ

78. عتبہ اور ابوجہل کے مرنے کے بعد جنگ بدر میں قریش کا سربراہ کون تھا؟
(A) ابوسفیان (B) ولید ابن مغیرہ
(C) ابوحذیفہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

79. کس جنگ میں مسلمانوں کا نعرہ احد احد تھا؟
(A) احد (B) خندق
(C) حنین (D) بدر

80. سلیم ابن عمیر نے کس شخص کو اپنی شاعری سے اپنے قبیلے کو آنحضورؐ اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے پر قتل کیا؟
(A) ابو افک (B) اصمعہ
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

81. ابو افک کا تعلق کیسے قبیلے سے تھا؟
(A) بنوعاد (B) بنوسعد
(C) بنوعمرو ابن عوف (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

82. "یہ عرب کے سردار ہی تھے جن پر (حضرت) محمدؐ نے غلبہ پالیا۔ ہمارے لئے تو (ایسی) زندگی سے موت بہتر ہے" یہ الفاظ کس کے ہیں؟
(A) کعب ابن اشرف (B) کعب ابن خذیفہ
(C) کعب ابن خالد (D) کعب ابن خذیفہ

83. کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟
(A) ابوحذیفہؓ (B) حضرت علیؓ
(C) ابونائلہؓ (D) حضرت عمرؓ

84. غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے کتنے دنوں تک بنوقینقاع کی آمد ورفت پر پابندی لگا کر ان کو ان کے علاقے میں محصور رکھا؟
(A) 15 دن (B) 16 دن
(C) 17 دن (D) 18 دن

85. بنوقینقاع کے قیدیوں کو آپؐ نے کیا سزا دی؟
(A) قتل کردیا (B) مدینہ بدر کردیا
(C) جزیہ وصول کیا (D) کوئی نہیں

86. کس کے مشورے پر آپؐ نے بنوقینقاع کو سزا کے طور پر مدینہ خالی کرنے کا حکم دیا؟
(A) عبداللہ بن ابی سلول (B) عبادہ بن صامتؓ
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

87. بنوقینقاع کی لڑائی کب ہوئی؟
(A) 15 شوال 2 ہجری (B) 16 شوال 2 ہجری
(C) 17 شوال 2 ہجری (D) 18 شوال 2 ہجری

88. غزوہ قینقاع کے شروع ہونے کی وجہ کیا تھی؟
(A) معاہدے کے مطابق یہودیوں نے جنگ بدر میں ساتھ نہ دیا
(B) یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کیا
(C) یہودیوں نے مسلمانوں کے راستے میں مشکلات کھڑی کیں
(D) ان میں سے کوئی نہیں

89. غزوہ قینقاع کے بعد کتنے یہودیوں کو مدینہ چھوڑنے کا حکم ملا؟
(A) 700 (B) 750

(C) 800 (D) 900

90. غزوہ قینقاع کے قیدیوں سے متعلق کون سا بیان درست ہے؟
(A) انہوں نے پہلے وادی القریٰ میں رہائش اختیار کی
(B) آخرکار وہ اذریات میں رہائش پذیر ہوئے
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

91. اذریات کہاں واقع ہے؟
(A) مصر (B) عراق
(C) شام (D) فلسطین

92. کس نے رات کے اندھیرے میں العریض نامی ایک علاقے پر حملہ کیا؟
(A) ابوسفیان (B) ابوجہل
(C) ابوحذیفہ (D) عتبہ

93. ابوسفیان نے کتنے آدمیوں کے ساتھ العریض پر حملہ کیا؟
(A) 100 (B) 200
(C) 300 (D) 400

94. مدینہ میں العریض پر حملے کے بعد مسلمانوں نے کہاں تک اس کا پیچھا کیا؟
(A) قرقرۃ الکدر (B) مکہ
(C) العریض (D) سویق

95. ابوسفیان نے العریض (Al areed) پر حملہ کر کے کس مسلمان انصاری کو شہید کیا؟
(A) ابوحذیفہ (B) ابوسعد
(C) سعد ابن عمر (D) ان میں سے کوئی نہیں

96. ابوسفیان کے العریض پر حملے کو تاریخ میں کیا نام دیا جاتا ہے؟
(A) غزوہ السویق (B) غزوہ القینقاع
(C) غزوہ البدر ثانی (D) ان میں سے کوئی نہیں

97. عربی میں سویق ستو کو کہتے ہیں۔ غزوہ سویق کو اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟
(A) ابوسفیان نے مسلمانوں پر حملہ کرنے [illegible] کر بھاگتے ہوئے راستے پر آٹا گرایا تھا
(B) اس غزوہ میں ابوسفیان کو آٹے کی قلت کا سامنا تھا
(C) ابوسفیان مسلمانوں کا خورد و نوش کا سامان لے کر بھاگ گیا تھا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

98. کس واقعہ کو ابوسفیان غزوہ بدر کی شکست کی تلافی سمجھتا تھا اور بار بار بیان کرتا تھا؟
(A) غزوہ قینقاع (B) غزوہ السویق
(C) غزوہ احد (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

99. غزوہ غطفان کب پیش آیا؟
(A) محرم 3 ہجری (B) محرم 4 ہجری
(C) محرم 5 ہجری (D) محرم 6 ہجری

100. غزوہ غطفان میں آنحضور کو تنہا دیکھ کر کس شخص نے آپ سے کہا تھا "محمد تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا" جس پر آپ نے جواب دیا "میرا اللہ" یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا؟
(A) داشورہ بن حارث (B) داشورہ بن عقیل
(C) داشورہ بن عمر (D) داشورہ بن رملہ

101. غزوہ غطفان کا دوسرا نام کیا؟
(A) غزوہ انمار (B) غزوہ ذی امر
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

102. السویق سے واپس جاتے ہوئے قریش کے گروہ کو مسلمانوں نے کے کس سربراہ نے لوٹا تھا؟
(A) زید ابن علی (B) زید ابن حذیفہ
(C) زید ابن سریع (D) ان میں سے کوئی نہیں

103. مشرکین میں سے کس نے جنگ بدر میں شرکت نہ کی تھی لیکن اب نئی جنگ میں شمولیت کے لیے تڑپ رہے تھے؟
(A) بنو مصطلق کے لوگ (B) قریش کی عورتیں
(C) یہودی (D) کوئی نہیں

104. کس کے بھرپور اصرار پر کفار احد میں عورتوں کو ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے؟

(A) ابوسفیان کی بیوی ہندہ ✓
(B) ابوسفیان کی بیوی ولمہ
(C) ابوسفیان کی بیوی صبیحہ
(D) ابوسفیان کی بیوی حبا

105. جنگ بدر میں مشرکین نے عورتوں کو کس مقام سے واپس لوٹا دیا تھا؟

(A) جحفہ ✓ (B) بدر
(C) سویق (D) قرقرۃ القدر

106. اس پہلی جنگ کا نام بتائیں جس میں مشرکین عورتوں نے بھی حصہ لیا؟

(A) جنگ بدر (B) جنگ سویق
(C) جنگ مصطلق (D) جنگ احد ✓

107. جنگ احد میں قریش کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟

(A) 2,000 (B) 3,000 ✓
(C) 4,000 (D) 5,000

108. جنگ احد میں قریش فوج کے کتنے لوگ زرہ بکتر میں ملبوس تھے؟

(A) 1000 (B) 700 ✓
(C) 500 (D) 255

109. جنگ احد میں قریش کی فوج کی تعداد کیا تھی؟

(A) 1000 (B) 2000
(C) 3000 ✓ (D) 4000

110. غزوہ احد میں کافروں کے پاس اونٹوں کی تعداد کیا تھی؟

(A) 1000 (B) 2000
(C) 3000 ✓ (D) 4000

111. غزوہ احد میں مشرکین کے گھوڑوں کی تعداد کیا تھی؟

(A) 100 (B) 200 ✓
(C) 300 (D) 400

112. غزوہ احد میں دشمن کی فوج میں 100 آدمیوں کے علاوہ تمام لوگ مکی تھے۔ یہ 100 آدمی کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟

(A) بنو عدی (B) بنو سعد
(C) بنو ثقیف ✓ (D) ان میں کوئی بھی نہیں

113. آنحضورؐ کے کونسے چچا نے آپ کو جنگ احد سے پہلے کفار کے لشکر اور جنگی حرب کے بارے میں ایک خط کے ذریعے آگاہ کیا تھا؟

(A) حضرت حمزہؓ (B) حضرت عباسؓ ✓
(C) حضرت ابوطالب (D) کوئی بھی نہیں

114. آنحضورؐ کو اپنے چچا عباس کا خط غزوہ احد سے پہلے کس مقام پر موصول ہوا؟

(A) قباء ✓ (B) مدینہ
(C) کوفہ (D) بصرہ

115. کون سا بیان حضرت عباسؓ سے متعلق درست ہے؟

(A) انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا
(B) جنگ احد سے قبل وہ مسلمان نہ ہوئے تھے
(C) دونوں ✓ (D) کوئی نہیں

116. جنگ احد کے لئے اہل مکہ کا لشکر کس مقام سے چل کر مقام عتیق میں پہنچا؟

(A) دارالندوۃ (B) ابواء ✓
(C) جحفہ (D) قبا

117. غزوہ احد میں مسلم فوج کی تعداد کیا تھی؟

(A) 800 (B) 900
(C) 1000 ✓ (D) 1200

1000 − 300 = 700

118. جنگ احد میں کون سا منافق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسلم فوج کو چھوڑ کر واپس لوٹ گیا تھا؟

(A) عبداللہ ابن وقاص (B) عبداللہ ابن ابی ✓
(C) عبداللہ ابن عتیق (D) کوئی بھی نہیں

119. عبداللہ بن ابی اپنے کتنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگ احد سے واپس لوٹ گیا؟

عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق 300 ساتھیوں کے ہمراہ جنگ احد سے واپس لوٹ گئے تھے۔ غزوہ احد میں مسلم فوج کی تعداد 700 رہ گئی تھی۔

(A) 100 (B) 200
(C) 300 (D) 400

120. عبداللہ بن ابی کی میدان احد سے واپسی پر مسلمانوں کی فوج کی تعداد کیا رہ گئی؟
(A) 500 (B) 600
(C) 700 (D) 800

121. جنگ احد میں آنحضورؐ کی فوج کے پاس صرف دو گھوڑے تھے۔ جن میں سے ایک پر آنحضورؐ خود سوار تھے۔ دوسرے گھوڑے کا سوار کون تھا؟
(A) ابوعبداللہ (B) ابوبردہ
(C) ابورحمان (D) ابوقیس

122. جنگ احد میں نبی پاکؐ کی کس تجویز کو نوجوان سپاہی قبول کرنے کو تیار نہ تھے؟
(A) مسلمان مدینہ پر اپنا قبضہ برقرار رکھیں
(B) قریش کو مدینہ سے باہر رکھ کر ان سے لڑیں
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

123. کس کے کہنے پر احد میں آپؐ نے مدینہ پر قبضہ برقرار رکھنے اور مدینہ سے باہر لڑائی کی تجویز کو قبول کیا تھا؟
(A) عبداللہ ابن ابی (B) عبداللہ ابن حسن
(C) عبداللہ ابن قیس (D) عبداللہ ابن سلول

124. ''نبی اس وقت تک اپنی زرہ بکتر تلوار ایک دفعہ پہننے کے بعد نہیں اتارتا جب تک خدا اسکے اور اسکے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کردے'' آنحضورؐ نے یہ الفاظ کب کہے تھے؟ (P.c.s Judicial 2000)
(A) جنگ احد کے موقع پر (B) جنگ بدر کے موقع پر
(C) جنگ خندق کے موقع پر (D) جنگ موتہ کے موقع پر

125. غزوہ احد میں مسلم فوج کے سپہ سالار کون تھے؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت ابوبکرؓ
(C) نبی پاکؐ (D) کوئی نہیں

126. غزوہ احد میں مسلمان مدینہ سے چل کر احد کے مقام کہاں پہنچے؟
(A) کوفہ (B) شیخان
(C) جحفہ (D) بصرہ

127. جنگ احد میں آنحضورؐ نے جبل العینین (جبل الرماة) پر پچاس تیرانداز متعین کیے۔ ان تیراندازوں کے ... تھے؟ (P.C.S. Judicial 2002)
(A) عبداللہ بن جبیرؓ (B) عبدالرحمٰن بن عوفؓ
(C) عبداللہ بن عمرؓ (D) اسد بن حمیدؓ

128. غزوہ احد میں قریش کی فوج کی علمبرداری کس نے کی؟
(A) عبدالعزیٰ طلحہ ابن ابوطلحہ
(B) عبدالعزیٰ طلحہ ابن ابوخذیفہ
(C) عبدالعزیٰ طلحہ ابن ابوعمر
(D) عبدالعزیٰ طلحہ ابن ابوجعفر

129. ہندہ کے علاوہ قریش کی فوج میں کتنی عورتیں سپاہیوں کے جذبات کو اکسانے کیلئے شامل تھیں؟
(A) 15 (B) 16
(C) 17 (D) 18

130. کس جنگ میں آپؐ نے اپنی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ''کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟
(A) بدر (B) احد
(C) خندق (D) موتہ

131. غزوہ احد میں نبی کریم ﷺ نے اپنی شمشیر کس صحابی کو دی؟
(A) حضرت ابوخذیفہؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت ابودجانہؓ (D) حضرت علیؓ

132. اس کافر کا نام بتائیں جس نے جنگ احد میں لڑائی کا آغاز کیا؟
(A) ابوعامر اوسی (B) ابوعامر خلجی
(C) ابوعامر طوسی (D) ابوعامر ثوری

133. جنگ احد میں عبداللہ بن ابی کس مقام سے اپنے ساتھی واپس لے گیا؟
(A) قباء (B) شیخان
(C) جحفہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

134. غزوہ احد میں قریش کی جمعیت نے کس کی کمان میں مسلمانوں پر حملہ کیا لیکن مسلمانوں نے اس زور کی سنگ باری کی کہ حملہ آور قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو گئے؟
(A) طلحہ ابن ابوجہل (B) عکرمہ ابن ابوجہل
(C) زبیر ابن ابوجہل (D) طوی ابن ابوجہل

135. سورۃ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر آیا ہے؟
(A) غزوہ بدر (B) غزوہ احد
(C) غزوہ خندق (D) غزوہ خیبر

136. جنگ احد میں کس صحابی کی مغرور چال کو دیکھتے ہوئے آپؐ نے فرمایا "یہ وہ چال ہے کہ اللہ اسے اس موقعہ کے سوا کسی مقام پر پسند نہیں کرتا"؟
(A) حضرت ابودجانہؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت ابوحذیفہؓ (D) حضرت علیؓ

137. جنگ احد میں کس صحابی کے سر پر ہر وقت سرخ پٹی بطور موت کے نشان کے بندھی ہوتی تھی؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت ابودجانہؓ (D) کوئی نہیں

138. احد میں مسلمانوں کی طرف سے تیراندازی میں پہل کس نے کی؟
(A) کزمان (B) عبداللہ
(C) قینقاع (D) ان میں سے کوئی نہیں

139. وحشی بن حرب نے کس کے کہنے پر حضرت حمزہؓ کو شہید کیا تھا؟
(A) ہندہ (B) عتبہ
(C) شیبہ (D) جابر

140. وحشی بن حرب کس کا غلام تھا؟
(A) جبیر بن مطعم (B) جابر بن احسن
(C) جابر بن ولید (D) جابر بن ہند

141. حضرت حمزہؓ کو شہید کرنے کے بعد ہندہ نے وحشی بن حرب کو بطور انعام کیا دیا؟
(A) اپنے تمام زیورات (B) پانچ ہزار درہم
(C) سواونٹ (D) ایک کھجوروں کا باغ

142. حضرت حمزہؓ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے جنگ احد میں شہید ہوئے؟
(A) عبداللہ بن جحشؓ (B) عبداللہ ابن حنظلہؓ
(C) عبداللہ بن حارثؓ (D) کوئی نہیں

143. وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے غزوہ احد میں غسل جنابت کے بغیر شرکت کی اور وہ غسیل ملائکہ کے طور پر مشہور تھے؟
(A) حضرت حنظلہ بن عمیرؓ (B) حضرت حنظلہ بن عبیدہ
(C) حضرت حنظلہ بن حمزہ (D) حضرت حنظلہ بن عبداللہ

144. جبل الرباط پر متعین پچاس تیراندازوں میں سے کتنے اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے؟
(A) 10 (B) 20
(C) 30 (D) 40

145. غزوہ احد میں جبل الرباط پر اپنی جگہ نہ چھوڑنے والے دس افراد پر کس شخص نے سو سپاہیوں کے ساتھ حملہ کیا؟
(A) خالد بن ولید (B) عکرمہ بن ابوجہل
(C) وحشی بن حربؓ (D) حارث بن حرب

146. خالد بن ولید کے حملے کے بعد غزوہ احد میں جبل الرباط پر متعین تیر اندازوں میں سے کتنے تیرانداز زندہ رہے؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) کوئی نہیں

147. جنگ احد میں کس شخص نے اپنی موت کے وقت اسلام قبول کیا اور ایک بھی نماز ادا کیے بغیر شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے؟
(A) حضرت عمیر بن حمزہؓ
(B) حضرت عمرو اصیرم بن ثابتؓ

(C) حضرت حنظلہ بن حارثؓ
(D) حضرت حنظلہ بن عتبہؓ

148. کس صحابی کی مشابہت نبی پاکؐ سے بہت زیادہ تھی؟
(A) حضرت مصعب بن عمیرؓ
(B) حضرت عمیر بن حمزہؓ
(C) حضرت حنظلہ بن ثابتؓ
(D) کوئی نہیں

149. کس لڑائی میں حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت پر آنحضورﷺ کے شہید ہونے کی افواہ فوج میں پھیل گئی تھی؟
(A) جنگ بدر (B) جنگ احد
(C) جنگ خندق (D) جنگ موتہ

150. جنگ احد میں آنحضورﷺ کی شہادت کی خبر سن کر مسلمان فوج بکھر گئی آپﷺ کے گرد صرف ....
(A) 10 صحابی رہ گئے (B) 13 صحابی رہ گئے
(C) 15 صحابی رہ گئے (D) 20 صحابی رہ گئے

151. جنگ احد میں کس صحابی نے آنحضورﷺ سے اپنے کافر باپ کے خلاف لڑنے کی اجازت مانگی لیکن آپﷺ نے اجازت نہ دی؟
(A) حضرت ابودجانہؓ (B) حضرت ابوحنظلہؓ
(C) حضرت ابوہریرہؓ (D) کوئی نہیں

152. غزوہ احد میں کس شخص نے آنحضورﷺ کے چہرہ مبارک پر تلوار کے ساتھ حملہ کیا تھا؟
(A) عبداللہ بن قمیہ (B) عبداللہ بن جاسر
(C) عبداللہ بن جاشر (D) عبداللہ بن عمر

153. کس جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپﷺ کے چہرہ پر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپﷺ کی خود کی دو کڑیاں جلد میں پیوست ہو گئیں؟
(A) بدر (B) احد
(C) خندق (D) ابوا

154. کس شخص نے جنگ احد میں آنحضورﷺ کے ... پیوست کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالیں؟
(A) حضرت ابوعبیدہ بن الجراحؓ
(B) حضرت ابوحذیفہؓ
(C) حضرت ابوبکرؓ (D) حضرت عمرؓ

155. کس جنگ میں آنحضورﷺ کا ایک دانت مبارک یا اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور آپﷺ کے ہونٹ اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گئے؟
(A) احد (B) خندق
(C) حنین (D) موتہ

156. اے خدا میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آنحضورﷺ نے یہ الفاظ کس موقع پر ادا کیے؟
(A) غزوہ بدر کے شروع ہونے پر
(B) غزوہ احد کے شروع ہونے پر
(C) غزوہ خندق کے شروع ہونے پر
(D) غزوہ موتہ کے شروع ہونے پر

157. غزوہ احد میں کتنے مشرکین ہلاک ہوئے؟
(A) 10 (B) 20
(C) 30 (D) 40

158. غزوہ احد میں کتنے مسلمان زخمی ہوئے؟
(A) 10 (B) 20
(C) 30 (D) 40

159. غزوہ احد میں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟
(A) 60 (B) 65
(C) 70 (D) 80

160. غزوہ احد کے ستر شہداء میں کتنے انصار اور مہاجرین شامل تھے؟
(A) 10 مہاجر اور باقی انصار (B) 8 مہاجر اور باقی انصار
(C) چھ مہاجر اور باقی انصار (D) چار مہاجر اور باقی انصار

161. غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھا کس سورہ میں اللہ نے مال کی

محبت سے منع فرمایا ہے؟

(A) آل عمران (B) الفلق
(C) البقرہ (D) التوبہ

162. غزوہ احد میں کتنی مسلمان عورتوں نے حصہ لیا؟
(A) 10 (B) 12
(C) 14 (D) 18

163. جنگ احد میں زخمیوں کو پانی کس نے پلایا؟
(A) حضرت ام سلیطؓ (B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت ام سلیمؓ (D) تمام

164. جنگ احد میں آنحضورؐ کا دفاع کرتے ہوئے کس مسلمان خاتون کے جسم پر بارہ زخم آئے؟
(A) حضرت فاطمہؓ (B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت سودہؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

165. غزوہ احد کے کس صحابی کی نماز جنازہ ستر بار پڑھائی گئی؟
(A) حضرت حمزہؓ (B) حضرت حنظلہؓ
(C) حضرت عمیرؓ (D) حضرت عبداللہؓ

166. حضرت حمزہؓ کی نماز جنازہ کس نے ادا کی؟
(A) آنحضورؐ (B) حضرت ابوبکرؓ
(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت علیؓ

167. غزوہ احد میں کس صحابی نے اپنی نوعمری کے باوجود اصرار کر کے آپؐ سے لڑائی میں حصہ کی اجازت لے لی تھی؟
(A) ثمرہ بن جندب (B) رافع بن خدیجؓ
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

168. احد کا پہاڑ مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟
(A) ایک کلومیٹر (B) 2 کلومیٹر
(C) 3 کلومیٹر (D) 4 کلومیٹر

169. جنگ احد کب لڑی گئی؟
(A) 7 ربیع الاول 3 ہجری (B) 8 ربیع الاول 3 ہجری
(C) 9 ربیع الاول 3 ہجری (D) 10 ربیع الاول 3 ہجری

170. غزوہ بدر کا دوسرا نام کیا ہے؟
(A) فرقان (B) حمید
(C) رحمت (D) حکیم

171. جنگ احد میں کس نے حضرت حمزہؓ کی لاش کے اعضاء کاٹ کر ان کا جگر چبایا تھا؟
(A) ام حکیم (B) ہندہ
(C) بنت شیبہ (D) کوئی نہیں

172. اس جنگ کا نام کیا ہے جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوگئی تھی؟
(A) حنین (B) موتہ
(C) احد (D) تبوک

173. جنگ احد کے دوسرے دن آپؐ نے ابوسفیان کا تعاقب کرتے ہوئے کس مقام پر پہنچ کر قیام کیا؟
(A) سویق (B) الجندل
(C) حمراء الاسد (D) کوئی نہیں

174. جنگ احد سے واپسی پر ابوسفیان کی فوج کس جگہ پر موجود تھی؟
(A) سویق (B) روحا
(C) احد (D) کوئی نہیں

175. کس شخص نے غزوہ احد کے دوسرے دن ابوسفیان کو مسلمانوں کی طاقت کے متعلق مبالغہ آمیزی کر کے ابوسفیان کو بددل کر دیا؟
(A) معبد خزاعی (B) الاسد
(C) سعد بن زرارا (D) سعد بن عبادہ

176. غزوہ احد کے دوسرے دن آنحضورؐ نے کس جنگ میں حصہ لینے کیلئے کوچ فرمایا؟
(A) غزوہ سویق (B) غزوہ احد
(C) غزوہ حمراء الاسد (D) ان میں سے کوئی نہیں

177. جنگ بدر کے بعد اہل قریش کیلئے مسلمانوں نے صرف شام کا راستہ بند کیا تھا لیکن جنگ احد کے بعد مسلمانوں کا اثر مشرق میں

نجد اور شمال میں دومۃ الجندل تک پھیل گیا۔ دومۃ الجندل کس کو کہتے ہیں۔ (P.C.S. Executive 1999)

(A) قلعہ (B) کنواں

(C) پہاڑ

(D) نخلستان اور تجارتی قافلوں کی قیام گاہ

178. غزوہ احد کے دو ماہ بعد کس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ مدینہ پر حملہ کر کے آنحضورؐ کو ان کے گھر میں محصور کر دیں؟

(A) طلیحہ (B) سلمہ

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

179. آپؐ نے کس کو طلیحہ اور سلمہ کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے بنو اسد کی طرف روانہ کیا؟

(A) ابو سلمہ بن عبدالاسدؓ

(B) ابو سلمہ بن عبداللہؓ

(C) ابو سلمہ بن عبدالعاشرؓ

(D) کوئی نہیں

180. ابو سلمہ بن عبدالاسدؓ کے ساتھ بنو اسد جاتے ہوئے کتنے سپاہی تھے؟

(A) 100 (B) 150

(C) 200 (D) 250

181. حضرت ابو سلمہ بن عبدالاسدؓ کے ساتھ ذیل میں کون سے صحابی بھی مسلمانوں کی فوج میں شامل تھے؟

(A) ابوعبیدہؓ (B) سعد بن ابی وقاصؓ

(C) اسید بن حضیرؓ (D) تمام

182. کس غزوہ کی فتح نے مسلمانوں کا جنگ احد میں کھویا ہوا وقار بحال کر دیا؟

(A) غزوہ بنی مرہ (B) غزوہ بنی مصطلق

(C) غزوہ بنی اسد (D) کوئی نہیں

183. کون سے صحابی غزوہ اسد کے بعد وفات پا گئے کیونکہ جنگ احد میں ان کو لگنے والے زخموں کا منہ اس لڑائی میں صعوبت سفر کی وجہ سے کھل گیا تھا؟

(A) ابو سلمہؓ (B) ابی وقاصؓ

(C) ابوعبیدہؓ (D) خالد بن ولیدؓ

184. کس غزوہ کے بعد آپ کو خبر ملی کہ خالد ابن سفیان ہذلی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟

(A) موتہ (B) خندق

(C) احد (D) حمراء الاسد

185. خالد ابن سفیان ہذلی کی مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں کی صداقت معلوم کرنے کے لئے نبی اکرمؐ نے کسکو روانہ کیا؟

(A) حضرت عبداللہ بن خذیفہؓ

(B) حضرت عبداللہ ابن انیسؓ

(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت علیؓ

186. خالد ابن سفیان کے قتل کا واقعہ کب رونما ہوا؟

(A) 600 عیسوی (B) 615 عیسوی

(C) 625 عیسوی (D) 630 عیسوی

187. خالد ابن سفیان ہذلی کے قتل کے بدلے میں کون سی جنگ ہوئی؟

(A) جنگ رجیع (B) جنگ مرسیع

(C) جنگ ابوا (D) جنگ ودان

188. خالد ہذلی کے قتل کے بدلے کے طور پر اس کے لوگوں نے آپؐ سے دھوکے سے اسلام کی تبلیغ کی خاطر کچھ لوگ مانگیں۔ آپؐ نے کتنے آدمی روانہ کیے؟

(A) 2 (B) 4

(C) 6 (D) 8

189. خالد ہذلی کے قبیلے کے لوگوں کے مطالبے پر جب یہ مسلمان رجیع کے مقام پر پہنچے تو دشمنوں نے انہیں دھوکہ دیتے ہوئے تلواروں کے ساتھ گھیر لیا۔ رجیع کا مقام کہاں واقع ہے؟

(A) کوفہ (B) بصرہ

(C) حجاز (D) مکہ

190. نجد کے لوگوں کی اسلامی تعلیم کے لیے آپؐ نے کس کو چالیس

افراد کی معیت میں وہاں روانہ کیا؟

(A) ابوالبراءؓ (B) منذر بن عمروؓ

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

191. نجد کے لوگوں کی تربیت کے لیے بھیجے گئے مسلمانوں نے کہاں پڑاؤ کیا؟

(A) بئر معونہ (B) کوفہ

(C) الاسعد (D) رجیع

192. بئر معونہ میں نبی پاک ﷺ کے وفد نے کس کو قاصد بنا کر عامر ابن طفیل کے پاس بھیجا؟

(A) حرام بن حرم (B) حرام بن ملحان

(C) حرام بن ملقان (D) حرام بن سفیان

193. عامر ابن طفیل نے نبی پاک ﷺ کے قاصد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

(A) اس کی تعظیم کی (B) اسے واپس لوٹا دیا

(C) اُسے قتل کر دیا (D) کوئی نہیں

194. عامر ابن طفیل کے ہاتھوں حرام بن ملحانؓ کے قتل سے کون سی جنگ ہوئی؟

(A) جنگ بئر (B) جنگ معونہ

(C) جنگ بئر معونہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

195. بئر معونہ کی لڑائی میں تمام مسلمان شہید ہو گئے سوائے......

(A) حضرت کعب بن زیدؓ کے جو کہ شدید زخمی ہوئے

(B) حضرت عمرو بن امیہؓ کے جن کو عامر ابن طفیل نے اپنا غلام بنا لیا

(C) A اور B دونوں (D) A اور B

196. غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے کس یہودی قبیلے کا محاصرہ کیا؟

(A) بنو اسد (B) بنو نضیر

(C) بنو سعد (D) بنو عامر

197. آنحضور بنو نضیر کے پاس ان دو اشخاص کے قصاص اور دیت لینے گئے جن کو بئر معونہ (Bir Maunah) کی لڑائی کے بعد اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ عامر بن طفیل کے قیدی تھے۔ اس عمل کے دوران کس یہودی نے آنحضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا؟

(P.C.S. Jud 2002)

(A) حیی بن اخطب (B) نضر بن حارث

(C) سلام بن مشکم (D) مخیمن حارث

198. غزوہ بنو نضیر کب واقع ہوا؟

(A) ربیع الاول 4 ہجری (B) ربیع الثانی 4 ہجری

(C) محرم 4 ہجری (D) صفر 4 ہجری

199. مسلمانوں نے غزوہ بنو نضیر کی لڑائی کتنے دنوں تک لڑی؟

(A) 20 دن (B) 25 دن

(C) 30 دن (D) 35 دن

200. کس غزوہ کی شکست کے بعد یہودیوں کو مدینہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا؟

(A) غزوہ بنو مصطلق (B) غزوہ بدر

(C) غزوہ ودان (D) بنو نضیر

201. غزوہ بنو نضیر کے بعد یہودی کس کی قیادت میں مدینہ سے باہر آ گئے؟

(A) حیی ابن ملحان (B) حیی ابن اخطب

(C) حیی ابن ملقان (D) کوئی نہیں

202. غزوہ بنو نضیر کے بعد کچھ یہودی شام منتقل ہو گئے۔ باقی یہودی کس علاقے میں آباد ہوئے؟

(A) مصر (B) خیبر

(C) عراق (D) حجاز

203. کس غزوہ میں مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر بہت زیادہ زمین ملی اور اس زمین کو مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا جس سے وہ خود مختار ہو گئے؟

(A) غزوہ سویق (B) غزوہ بنو نضیر

(C) غزوہ احد (D) غزوہ بدر

204. کس غزوہ کے دوران شراب کو حرام قرار دینے کے خدائی احکامات نازل ہوئے؟

(A) غزوہ بنونضیر (B) غزوہ سویق

(C) غزوہ خندق (D) غزوہ موتہ

205. غزوہ بنونضیر میں کس نے اسلام قبول کیا؟

(A) یامین بن عمیر (B) ابوسعید بن وھب

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

206. کس غزوہ کے بعد ابوسفیان نے ایک سال بعد مسلمانوں سے دوبارہ لڑائی کا عہد کیا؟

(A) جنگ بدر (B) جنگ بنونضیر

(C) جنگ احد (D) جنگ احد

207. غزوہ احد میں ابوسفیان کے عہد کے باعث کون سا غزوہ لڑا گیا؟

(A) ابوا (B) بدر ثانی

(C) ودان (D) مصطلق

208. غزوہ بدر ثانی سے ابوسفیان سفر کے دو دن بعد ہی واپس کیوں لوٹ گیا؟

(A) اس کے سپاہیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا

(B) وہ بیمار ہو گیا

(C) اُس نے کہا کہ یہ سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی کے لیے مناسب نہیں

(D) کوئی نہیں

209. غزوہ بدر ثانی کے لیے ابوسفیان کے پاس کتنے سپاہی تھے؟

(A) 1000 (B) 2000

(C) 3000 (D) 4000

210. غزوہ بدر ثانی کب ہوئی؟

(A) شعبان 4 ہجری (B) شعبان 5 ہجری

(C) شعبان 6 ہجری (D) شعبان 7 ہجری

211. غزوہ بدر ثانی (Minor) میں مسلمانوں کے پاس کتنے سپاہی تھے؟

(A) 1000 (B) 1500

(C) 2000 (D) 1800

212. آنحضور نے غزوہ بدر ثانی (Minor) کیلیے کتنے دن بدر میں قیام کیا اور پھر مدینہ واپس لوٹ گئے؟

(A) 15 دن (B) 12 دن

(C) 8 دن (D) 4 دن

213. کس غزوہ نے مسلمانوں کی جنگ احد کی شکست کے [illegible] دیا تھا؟

(A) غزوہ خندق (B) غزوہ بدر ثانی

(C) غزوہ موتہ (D) غزوہ خیبر

214. غزوہ بدر ثانی کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ .... [illegible] لوگ مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں؟

(A) بنی عاد (B) بنی غطفان

(C) بنی بکر (D) بنی ثمود

215. بنی غطفان کے لوگوں سے نمٹنے کے لیے آپؐ نے کتنے سپاہی کو ذات الرقاع روانہ کیا؟

(A) 100 (B) 200

(C) 300 (D) 400

216. ذات الرقاع میں مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر مخالفین بھاگ [illegible] تاریخ میں یہ واقعہ ________

(A) غزوہ ذات الرقاع کے نام سے موسوم ہے

(B) غزوہ بنی غطفان کے نام سے موسوم ہے

(C) غزوہ دومۃ الجندل کے نام سے موسوم ہے

(D) کوئی نہیں

217. غزوہ ذات الرقاع کے کچھ دنوں بعد آنحضور دشمنوں سے لڑنے کیلیے کس مقام کی طرف روانہ ہوئے؟

(A) دومۃ الجندل (B) خیبر

(C) خندق (D) سویق

218. غزوہ دومۃ الجندل کب لڑا گیا؟

(A) 5 ہجری (B) 4 ہجری

(C) 5 ہجری (D) 3 ہجری

219. اللہ اس وقت تک مسلمانوں کی مدد کرے گا جس وقت تک وہ نبی پاکؐ کی اطاعت کریں گے۔ کس جنگ کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے؟

(A) جنگ احد ✓ (B) جنگ تبوک

(C) جنگ حنین (D) جنگ خندق

220. حضرت حمزہؓ نے کس جنگ میں اسلام کے دشمن عتبہ کا سر قلم کیا؟

(A) جنگ خندق۔ (B) جنگ بدر۔ ✓

(C) جنگ احد۔ (D) بئر معونہ کے واقعہ میں

221. مسلمانوں کا جھنڈا تھا۔

(A) لوا (B) ریت

(C) علم (D) تمام ✓

222. غزوہ خندق میں شریک واحد صحابیہ کا نام ______

(A) حضرت زبیرہؓ (B) حضرت رقیہؓ

(C) حضرت صفیہؓ (D) حضرت خنسہؓ ✓

223. کس غزوہ میں پہلی دفعہ خمس نکالا گیا؟

(A) غزوہ احد (B) غزوہ احزاب

(C) غزوہ خیبر ✓ (D) غزوہ بنو قریظہ

224. غزوہ بدر میں شیطان کس کے روپ میں ظاہر ہو کر مشرکین کے حوصلے بڑھاتا رہا؟

(A) سراقہ بن مالک ✓ (B) سراقہ بن ہشم

(C) ابوجہل (D) امیہ بن خلف

225. Ya Sabahaho کا مطلب ہے۔

(A) صبح کا خطرہ ✓ (B) شام کا خطرہ

(C) رات کا خطرہ (D) کوئی نہیں

226. غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟

(A) عتبہ ✓ (B) شیبہ

(C) ابوجہل (D) ولید

227. کس غزوہ میں نبی کریم ﷺ نے "شاہت الوجوہ" کہہ کر مٹی بھر مٹی لشکر کفار کی طرف پھینکی؟

(A) الاحزاب (B) حنین

(C) بدر ✓ (D) احد

228. غزوہ بدر میں کتنے فرشتوں سے مسلمانوں کی نصرت کی گئی؟

(A) ایک ہزار (B) پانچ سو

(C) دو ہزار (D) پانچ ہزار ✓

229. غزوہ بدر میں شیطان کس کے روپ میں ظاہر ہو کر مشرکین کے حوصلے بڑھاتا رہا؟

(A) سراقہ بن مالک ✓ (B) سراقہ بن ہشم

(C) ابوجہل (D) امیہ بن خلف

230. بدر کا لفظی مطلب کیا ہے؟

(A) کنواں ✓ (B) رونق

(C) راستہ (D) چودھویں کا چاند

231. اسلامی تاریخ کا پہلا مشرک مقتول کون تھا؟

(A) ابوجہل (B) عمرو بن حضرمی ✓

(C) شیبہ (D) عتبہ

232. جنگ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علیؓ نے مسلمانوں کا جھنڈا (علم) اٹھایا۔

(A) حضرت مصعب بن عمیرؓ ✓ (B) حضرت حمزہؓ

(C) حضرت طلحہؓ (D) حضرت زید بن حارثہؓ

233. کس غزوہ میں پہلی باقاعدہ لڑائی ہوئی؟

(A) احد (B) تبوک

(C) ابوا (D) بدر ✓

234. غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟

(A) عتبہ ✓ (B) شیبہ

(C) ابوجہل (D) ولید

235. ولید بن عتبہ غزوہ بدر میں کس کے ہاتھوں قتل ہوا۔

(A) حضرت علیؓ ✓

(B) حضرت حمزہؓ

یہاں پر آپشن A پر درست کا نشان ہے لیکن اکثر جگہ ہم نے یہ پڑھا ہے غزوہ بدر میں ابوجہل سپہ سالار تھا
اس کا صحیح جواب بار ایک سرچ کریں

(C) حضرت ابوعبیدہ بن جراح

(D) حضرت عبداللہ بن رواحہؓ

236. غزوہ احد ________ میں لڑی گئی۔

(A) سن 2 ہجری (B) سن 3 ہجری

(C) سن 4 ہجری (D) سن 5 ہجری

237. غزوہ بدر ________ میں لڑی گئی۔

(A) سن 3 ہجری (B) سن 2 ہجری

(C) سن 4 ہجری (D) سن 1 ہجری

238. قرآن حکیم میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا گیا ہے؟

(A) غزوہ احد (B) غزوہ خندق

(C) غزوہ بدر (D) غزوہ تبوک

239. غزوات کی تعداد کیا ہے؟

(A) 20 (B) 23

(C) 25 (D) 27

240. حضرت محمد ﷺ کے چچا حضرت حمزہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟

(A) غزوۂ بدر (B) غزوۂ خندق

(C) غزوۂ تبوک (D) غزوۂ احد

241. کس غزوہ میں آنحضور ﷺ کے دندان مبارک شہید ہوئے؟

(A) غزوہ بدر (B) غزوہ حنین

(C) غزوہ خندق (D) غزوہ احد

242. غزوہ بدر میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟

(A) 22 (B) 15

(C) 14 (D) 18

243. غزوہ بدر کا سبب بنا؟

(A) قریش کا قافلہ (B) قریش کا غصہ

(C) قریش کی جنگی طاقت (D) وعدہ خلافی

244. غزوہ بدر میں قریش کے لشکر کا سردار تھا؟

(A) ابوجہل (B) ابوسفیان

(C) شیبہ (D) عتبہ بن ربیعہ

جوابات

1. (C)	2. (D)	3. (A)	4. (C)	5. (C)	6. (A)	7. (B)	8. (A)
9. (A)	10. (B)	11. (D)	12. (B)	13. (D)	14. (B)	15. (D)	16. (D)
17. (C)	18. (A)	19. (D)	20. (C)	21. (C)	22. (C)	23. (A)	24. (D)
25. (B)	26. (D)	27. (C)	28. (A)	29. (C)	30. (A)	31. (D)	32. (D)
33. (C)	34. (D)	35. (A)	36. (C)	37. (C)	38. (A)	39. (B)	40. (B)
41. (A)	42. (B)	43. (A)	44. (A)	45. (C)	46. (A)	47. (A)	48. (D)
49. (C)	50. (C)	51. (D)	52. (D)	53. (A)	54. (B)	55. (C)	56. (C)
57. (C)	58. (A)	59. (C)	60. (C)	61. (C)	62. (C)	63. (C)	64. (C)
65. (B)	66. (A)	67. (A)	68. (D)	69. (A)	70. (C)	71. (C)	72. (A)
73. (A)	74. (A)	75. (A)	76. (A)	77. (C)	78. (A)	79. (D)	80. (C)
81. (C)	82. (A)	83. (C)	84. (A)	85. (B)	86 (C)	87. (A)	88. (A)
89. (A)	90. (C)	91. (C)	92. (A)	93. (A)	94. (A)	95. (C)	96. (A)
97. (A)	98. (B)	99. (A)	100. (A)	101. (C)	102. (C)	103. (B)	104. (A)
105. (A)	106. (D)	107. (B)	108. (B)	109. (C)	110. (C)	111. (B)	112. (C)
113. (B)	114. (A)	115. (C)	116. (B)	117. (C)	118. (B)	119. (C)	120. (C)
121. (B)	122. (C)	123. (A)	124. (A)	125. (C)	126. (B)	127. (A)	128. (A)
129. (A)	130. (B)	131. (C)	132. (A)	133. (B)	134. (B)	135. (B)	136. (A)
137. (C)	138. (A)	139. (A)	140. (A)	141. (A)	142. (A)	143. (A)	144. (D)
145. (A)	146. (A)	147. (B)	148. (A)	149. (B)	150. (D)	151. (B)	152. (A)
153. (B)	154. (A)	155. (A)	156. (B)	157. (C)	158. (D)	159. (C)	160. (D)
161. (A)	162. (C)	163. (D)	164. (C)	165. (A)	166. (A)	167. (C)	168. (C)
169. (A)	170. (A)	171. (B)	172. (C)	173. (C)	174. (B)	175. (A)	176. (C)
177. (D)	178. (C)	179. (A)	180. (A)	181. (D)	182. (C)	183. (A)	184. (D)
185. (B)	186. (C)	187. (A)	188. (C)	189. (C)	190. (C)	191. (A)	192. (B)
193. (C)	194. (C)	195. (C)	196. (B)	197. (A)	198. (A)	199. (A)	200. (D)
201. (B)	202. (B)	203. (B)	204. (A)	205. (C)	206. (C)	207. (B)	208. (C)
209. (B)	210. (A)	211. (B)	212. (C)	213. (B)	214. (B)	215. (D)	216. (A)
217. (A)	218. (A)	219. (A)	220. (B)	221. (D)	222. (D)	223. (C)	224. (A)
225. (A)	226. (A)	227. (C)	228. (D)	229. (A)	230. (A)	231. (B)	232. (A)
233. (D)	234. (A)	235. (A)	236. (B)	237. (B)	238. (C)	239. (D)	240. (D)
241. (D)	242. (C)	243. (A)	244. (D)				

غزوہ خندق سے صلح حدیبیہ تک

1. غزوہ بدر کے بعد غزوہ قینقاع رونما ہوا۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں لڑتے جانے والے غزوہ بنونضیر کے بعد کونسا غزوہ رونما ہوا؟ (P.C.S 2002)

(A) غزوہ خیبر
(B) غزوہ خندق
(C) غزوہ طائف
(D) غزوہ موتہ

2. کس نے غزوہ خندق کے دوران تمام عرب قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا؟ (P.C.S. Judicial 2002)

(A) بنونضیر
(B) بنوقینقاع
(C) بنوقریظہ
(D) قریش

3. غزوہ خندق کب رونما ہوا؟

(A) 4 ہجری
(B) 5 ہجری
(C) 6 ہجری
(D) 7 ہجری

4. کس نے قریش کے لوگوں کو اکسایا اور جنگ خندق ہوئی؟

(A) حیی ابن خطب
(B) ابوسفیان
(C) عکرمہ بن ابوجہل
(D) کوئی نہیں

5. غزوہ خندق میں قریش کے گھوڑوں کی تعداد تھی۔

(A) 100
(B) 200
(C) 300
(D) 400

6. غزوہ خندق میں قریش کے اونٹوں کی تعداد تھی۔

(A) 500
(B) 800
(C) 1000
(D) 1500

7. غزوہ خندق میں قریش کی کل فوج تھی۔

(A) 10000
(B) 8000
(C) 12000
(D) 9000

8. غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب کا مطلب ہے؟

(A) فوج
(B) اتحادی
(C) دونوں
(D) ان میں سے کوئی نہیں

9. درج ذیل میں سے کون سے لوگ حیی بن اخطب کے گروہ میں شامل تھے؟

(A) سلام بن ابی حقیق اور کنانہ بن ابی حقیق
(B) حوضہ بن قیس اور ابوعمار
(C) تمام
(D) ان میں سے کوئی نہیں

10. حیی بن اخطب کی کوششوں سے کون سے قبائل نے مسلمانوں کے خلاف قریش کی مدد کی؟

(A) بنوغطفان، بنوقیس، بنومرہ
(B) بنواشجع، بنوسلیم
(C) بنوسعد، بنواسد
(D) تمام

11. غزوہ خندق میں کفار کی فوج کا سربراہ ابوسفیان تھا اس کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ (P.C.S.Judicial 2002)

(A) 7000
(B) 8000
(C) 9000
(D) 10,000

12. غزوہ خندق میں قریش کی فوج کا پرچم کس شخص کو دیا گیا؟

(A) عثمان بن طلحہ
(B) عمر بن طلحہ
(C) حذیفہ بن طلحہ
(D) اسد بن طلحہ

13. غزوہ خندق میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟

(A) 1000
(B) 2000
(C) 3000
(D) 4000

14. غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟

(A) حضرت سلمان فارسیؓ (B) حضرت اسداللہؓ

(C) حضرت عبیداللہؓ (D) حضرت عمرؓ

15. کون مشرک قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا دوستانہ معاہدہ تھا اور وہ منافقین کی توقعات کے برعکس جنگ خندق میں اس معاہدہ پر قائم رہے؟

(A) بنو مصطلق (B) بنو نضیر

(C) بنو قریظہ (D) بنو تمیم

16. غزوہ خندق میں خندق کھودنے کے لئے آلات مسلمانوں نے کس قبیلے سے حاصل کئے تھے؟

(A) بنو اسد (B) بنو قریظہ

(C) بنو سعد (D) بنو تمیم

17. غزوہ خندق میں اہل قریش نے خندق کی وجہ سے مجبوراً کہاں پڑاؤ ڈالا؟

(A) جہاں وادی رومہ کا پانی اکٹھا ہوتا تھا

(B) جہاں وادی بئر کا پانی اکٹھا ہوتا تھا

(C) جہاں وادی بدر کا پانی اکٹھا ہوتا تھا

(D) کوئی نہیں

18. غزوہ خندق میں اہل قریش کے اتحادی بنی غطفان اور اہل نجد نے کہاں پڑاؤ ڈالا تھا؟

(A) عریج (B) نقمی

(C) عریش (D) ان میں سے کوئی نہیں

19. غزوہ خندق میں آنحضورؐ کی فوج نے کس پہاڑی کے دامن میں پڑاؤ ڈالا؟

(A) سلع (B) احد

(C) عریش (D) عیل

20. علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی کے مطابق کتنے دنوں میں خندق کھودی گئی تھی؟

(A) 10 (B) 12

(C) 14 (D) 17

21. غزوہ خندق میں خندق کی گہرائی تھی۔

(A) 10 فٹ (B) 12 فٹ

(C) 15 فٹ (D) 18 فٹ

22. غزوہ خندق میں خندق کی چوڑائی تھی۔

(A) 15 فٹ (B) 16 فٹ

(C) 17 فٹ (D) 18 فٹ

23. غزوہ خندق میں خندق کی لمبائی تھی۔

(A) 3 میل (B) $3\frac{1}{2}$ میل

(C) 4 میل (D) $4\frac{1}{2}$ میل

24. کس صحابی کے مطابق خندق بیس دنوں میں کھودی گئی؟

(A) موسیٰ بن عمیر (B) موسیٰ بن اوس

(C) موسیٰ بن عقبہ (D) موسیٰ بن جبیدہ

25. آنحضورؐ کے مشورہ کے مطابق خندق شیخان سے لے کر کس مقام تک کھودی گئی؟

(A) سلع (B) عالہ

(C) احد (D) ان میں سے کوئی نہیں

26. خندق کی کھدائی کے دوران سب سے سخت پہاڑ کو آنحضورؐ نے تین ضربوں سے توڑا اس پہاڑ کے ٹوٹنے کے ساتھ آنحضورؐ نے کس فتح کی خوشخبری سنائی؟

(A) ایران (B) روم

(C) یمن (D) تمام

27. غزوہ خندق کے دوران مسلمان عورتوں اور بچوں کی نگرانی کیلئے کسے مامور کیا گیا؟

(A) حضرت حسان بن ثابتؓ

(B) حضرت عمر بن خطابؓ

(C) حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ

(D) ان میں سے کوئی نہیں

28. خندق کو آنحضورؐ کے مقرر کردہ رقبہ تک کھودا گیا۔ تاہم کچھ قبائل نے اپنی حفاظت کیلئے اس کی کھدائی کو کس مقام تک بڑھایا تھا؟

(A) قباء (B) عالیہ

(C) سلع (D) ان میں سے کوئی نہیں

29. غزوہ خندق کے موقع پر کون سا واحد یہودی قبیلہ مدینہ میں آباد تھا؟

(A) بنوقریظہ (B) بنونضیر

(C) بنوقینقاع (D) بنوعاد

30. حیی بن اخطب کے کہنے پر بنوقریظہ کے کس سربراہ نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دیا؟

(A) کعب بن اسد (B) کعب ابن عاد

(C) کعب ابن حسن (D) ان میں سے کوئی نہیں

31. آنحضورؐ نے عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر کے ساتھ کس شخص کو بھیجا تا کہ بنوقریظہ کی دھوکہ دہی کی خبر کی تصدیق کی جاسکے؟

(A) سعد ابن معاذؓ (B) سعد ابن عبادہؓ

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

32. کس شخص کے ہمراہ قریش کے کچھ گھڑ سواروں نے خندق کو کم چوڑائی والی جگہ سے پار کر کے سلع کے قریب اپنی پوزیشن سنبھال لی؟

(A) عمرو ابن عبدود (B) عکرمہ ابن ابوجہل

(C) ضرار ابن الخطاب (D) تمام

33. جنگ خندق میں سب سے پہلے کس نے مسلمانوں کو دو بدو لڑائی کے لیے للکارا؟

(A) عمرو ابن عبدود (B) عمار ابن عبدود

(C) عتبہ بن عبدود (D) شیبہ بن عبدود

34. مسلمانوں کی طرف سے کس نے عبدود کی دعوت قبول کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا تھا؟

غزوہ خندق سے متعلق

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت ابوعبیدہؓ

(C) حضرت علیؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

35. عمرو ابن عبدود کے قتل ہوتے ہی اس کے ساتھی میدان جنگ سے فرار ہو گئے کون خندق پار کرتے ہوئے اپنے گھوڑے سمیت اس میں گر کر ہلاک ہو گیا؟

(A) ضرار ابن الخطاب (B) نوفل

(C) عبدود (D) ابن عبیدہ

36. بنوقریظہ کی دھوکہ دہی پر آنحضورؐ نے کتنے سپاہیوں کو غزوہ خندق میں بنوقریظہ کی مزاحمت روکنے پر مامور کیا؟

(A) 50 (B) 95

(C) 101 (D) 200

37. آنحضورؐ کی اس پھوپھی کا کیا نام تھا جو کہ جنگ خندق کے دوران حسان بن ثابتؓ کی حفاظت میں تھیں؟

(A) حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب

(B) حضرت زینب بنت عبدالمطلب

(C) حضرت خولہ بنت عبدالمطلب

(D) حضرت سودہ بنت عبدالمطلب

38. جنگ خندق میں کس عورت نے اپنے گھر کے گرد منڈلاتے ہوئے یہودی کو قتل کر دیا؟

(A) حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب

(B) حضرت رقیہ بن عبدالمطلب

(C) حضرت حلیمہ بنت عبدالمطلب

(D) کوئی نہیں

39. غزوہ خندق کے متعلق کون سا بیان درست ہے؟

(A) آنحضورؐ نے حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت قرار دیا۔

(B) آنحضورؐ نے حضرت زبیر بن عوامؓ کو اپنا ساتھی قرار دیا۔

(C) دونوں بیان درست ہیں۔

(D) ان میں سے کوئی درست نہیں۔

40. غزوہ خندق میں کافروں نے مدینہ کا محاصرہ کتنے دنوں تک کیا؟ (P.C.S. J.2002)

(A) 30دن (B) 25دن
(C) 40دن (D) 20دن

41. کون سے قبیلے نے سب سے پہلے مدینہ کا محاصرہ جنگ خندق کے دوران ختم کیا؟

(A) بنوقینقاع (B) بنوقریظہ
(C) قریش (D) ان میں سے کوئی نہیں

42. غزوہ خندق میں منافق قبیلوں خاص طور پر قریش کا مدینہ کا محاصرہ ختم کرنے کی وجہ کیا تھی؟(P.C.S.J 2002)

(A) ماہ ذی الحج کے دوران حج کے انتظامات کرنے کی مصروفیات
(B) خوراک کی کمی اور سپاہیوں کی بیماری
(C) بنوقریظہ کی دھوکہ دہی
(D) تندوتیز ہوا اور بارش

43. غزوہ خندق کے بعد کس کے قبول اسلام پر آنحضورؐ نے فرمایا کہ "آج مکہ نے اپنے بیٹے ہمارے حوالے کر دیئے"؟

(A) خالدابن ولید (B) عثمان بن طلحہ
(C) عمروبن العاص (D) تمام

44. غزوہ خندق میں دو مسلمان شہید ہوئے کتنے کافر قتل ہوئے؟

(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

45. غزوہ خندق کے بعد اسی سال دوسرا کون سا غزوہ پیش آیا؟

(A) غزوہ سویق (B) غزوہ بنوقریظہ
(C) غزوہ موتہ (D) غزوہ خیبر

46. کس غزوہ کے لیے آپؐ نے اعلان فرمایا کہ "کوئی نیک مسلمان بنوقریظہ کے علاوہ کہیں بھی نماز ظہر ادا نہ کرے گا؟"

(A) غزوہ بنوقریظہ (B) غزوہ بنوغطفان
(C) غزوہ بنوسلیم (D) غزوہ بنونضیر

47. آنحضورؐ کس شخص کو پہلے ہی بنوقریظہ کے پاس بھیج چکے تھے اور اس کے بعد پھر بنوقریظہ کے محاصرہ کا حکم دیا؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

48. بنوقریظہ اور قریش کے درمیان کشمکش پیدا کرنے والے اس صحابی کا نام بتائیں جو کہ پہلے یہودی تھے لیکن اب مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا قبیلہ اس بات سے آگاہ نہ تھا؟

(A) نعیم ابن مسعودؓ (B) نعیم بن آزاد
(C) نعیم بن عثمان (D) نعیم بن حتبہ

49. مسلمانوں نے کتنے دنوں تک بنوقریظہ کا محاصرہ کئے رکھا؟

(A) 20دن (B) 22دن
(C) 25دن (D) 30دن

50. محاصرہ بنوقریظہ میں محصور یہودیوں نے کس شخص کو اپنا منصف چنا؟

(A) حضرت ابوالابان (B) حضرت سعد بن معاذؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت حذیفہؓ

51. یہودیوں کے منصف سعد بن معاذؓ نے کیا فیصلہ کیا تھا؟

(A) بنوقریظہ کے لڑنے والے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے۔
(B) بنوقریظہ کی دولت مال غنیمت کے طور پر ضبط کر لی جائے۔
(C) بنوقریظہ کی عورتیں اور بچے قیدی بنا لئے جائیں۔
(D) تمام بیانات درست ہیں۔

52. بنوقریظہ کی لڑائی میں مردوں کے ساتھ ایک عورت بھی قتل ہوئی اس کے قتل کی کیا وجہ تھی؟

(A) اس نے حضرت خالد بن ثعلبہ کو شہید کیا۔
(B) اس نے حضرت خالد بن عتبہ کو شہید کیا۔
(C) اس نے حضرت خالد بن عبداللہ کو شہید کیا۔
(D) اس نے حضرت خالد بن رزاق کو شہید کیا۔

53. غزوہ بنوقریظہ میں کتنے یہودی قتل ہوئے؟

(A) 200 (B) 300
(C) 400 (D) 500

54. غزوہ بنو قریظہ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟
(A) ایک (B) دو
(C) تین (D) چار

55. غزوہ بنو قریظہ میں کس شخص کے متعلق آنحضورؐ نے فرمایا کہ ان کا مرتبہ دو شہداء کے برابر ہے؟
(A) حضرت خالد بن ثعلبہ (B) حضرت خلاد بن سوید
(C) حضرت خالد بن عتبہ (D) حضرت خالد بن رحمان

56. ''میں آنحضور کا دشمن ہونے پر شرمندہ نہیں ہوں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو خدا کو چھوڑتا ہے خدا اسے چھوڑ دیتا ہے اور وہی شکست کھاتے ہیں جنہیں خدا شکست دیتا ہے؟ یہ الفاظ کس یہودی نے قتل ہوتے وقت کہے؟
(A) حیی بن اخطب (B) نعیم بن رزاق
(C) سلیم بن عتبہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

57. غزوہ خندق میں زخمی اور غزوہ بنو قریظہ بعد وفات پانے والے کس صحابی کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی؟
(A) حضرت سعد بن معاذ (B) حضرت خویلدؓ
(C) حضرت منذر بن حبابؓ (D) کوئی نہیں

58. حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق میں زخمی ہونے کے کتنے دن بعد وفات پا گئے؟
(A) 15 دن (B) 25 دن
(C) 30 دن (D) 35 دن

59. 5 ہجری میں رونما ہونے والے غزوات میں غزوہ دومۃ الجندل غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ اور ____ شامل ہیں۔
(A) غزوہ بنو مصطلق یا مریسیع (B) غزوہ حنین
(C) غزوہ موتہ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

60. غزوہ خندق میں کتنی نمازیں قضا ہوئیں جنہیں بعد میں ادا کیا گیا؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

61. غزوہ بنو قریظہ کے بعد کون سے ایک قریبی علاقے کے مسلمانوں کی طرف لڑائی کی غرض سے بڑھ رہے تھے؟
(A) بنو اسد (B) بنو لحیان
(C) بنو قینقاع (D) ان میں سے کوئی نہیں

62. بنو لحیان نے کس صحابی کو رجیع کے کنویں کے قریب قتل کر دیا تھا؟
(A) حضرت حبیب بن عدی
(B) حضرت حبیب بن اسد
(C) حضرت حبیب بن عتبہ
(D) حضرت حبیب بن عثمان

63. کس غزوہ کے لیے آپ دشمن سے رازداری کے تحت شام کی بجائے فوج شمال کی طرف روانہ کر دی؟
(A) غزوہ بنو مصطلق (B) غزوہ لحیان
(C) غزوہ مرہ (D) کوئی نہیں

64. نبی پاکؐ کے آنے کی اطلاع پا کر بنو لحیان نے ____
(A) بھاگ کر جانے بچانے میں عافیت سمجھی
(B) راستہ پتھروں سے بھر دیا
(C) قریبی پہاڑوں میں پناہ لی
(D) کوئی نہیں

65. بنو لحیان کس مقام پر خیمہ زن تھے؟
(A) غران (B) ار
(C) عریش (D) اران

66. آنحضورؐ نے کس کو بنو لحیان کے تعاقب میں روانہ کیا لیکن ان کو لحیان کا سراغ نہ ملا اور مسلمان مدینہ واپس لوٹ آئے؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

67. بنو لحیان کے تعاقب میں حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ کتنے سواروں کا دستہ تھا؟
(A) 100 (B) 200
(C) 300 (D) 400

68. غزوہ لحیان کے کچھ دنوں بعد کس شخص نے مدینہ کے نواح پر حملہ کر کے چرتے ہوئے اونٹوں کو پکڑ لیا ان کے چرواہے کو مار ڈالا اور اس کی بیوی کو ساتھ لے گئے؟
(A) موسیٰ بن اشعری (B) خالد بن احسن
(C) عینیہ ابن حصن فرازی (D) ان میں سے کوئی نہیں

69. کس صحابی نے عینیہ ابن حصن فرازی کو لوٹ مار اور ہنگامہ کرتے دیکھ کر مسلمانوں کو بلایا؟
(A) سلمہ ابن عمرو بن الاکوعؓ (B) عبداللہ بن عمرؓ
(C) حسن بن طفیلؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

70. آپؐ کے گھڑسواروں نے کہاں تک عینیہ ابن حصن کا تعاقب کیا اور اسی جگہ کے نام پر اس غزوہ کا نام ہے؟
(A) ذی قرد (B) لحیان
(C) قری (D) رباط

71. مسلمانوں سے بچ نکل کر عینیہ ابن حصن کس کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا؟
(A) بنو مریصع (B) بنو غطفان
(C) بنو مصطلق (D) کوئی نہیں

72. غزوہ بنی مصطلق / غزوہ مریسیع (Marease) کب لڑا گیا؟
(A) 3 ہجری (B) 4 ہجری
(C) 5 ہجری (D) 6 ہجری

73. غزوہ مریسیع میں کتنے مخالف آدمی مارے گئے؟
(A) 5 (B) 8
(C) 7 (D) 10

74. غزوہ مریسیع میں کتنے مخالف گرفتار ہوئے؟
(A) 100 (B) 250
(C) 450 (D) 600

75. قبیلے کے سربراہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جو غزوہ مریسیع میں قیدی ہو کر آئی آپؐ نے اس سے نکاح کیا؟
(A) سودہ بنت حارث (B) جویریہ بنت حارثؓ
(C) حفصہ بنت عمر (D) عائشہ بنت صدیق

76. غزوہ مریسیع کے بعد کس نے آپؐ کے منافق عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی اجازت مانگی لیکن نہ ملی؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت ابو جابرؓ
(C) حضرت ابو عکاشہؓ (D) کوئی نہیں

77. عبداللہ بن ابی کے اس بیٹے کا نام بتائیں جس نے اپنے باپ کا سر کاٹنے کی خود اجازت اس خوف کی وجہ سے لی کہ کہیں باپ کی محبت میں اپنے باپ کے قاتل کو قتل نہ کر دے؟
(A) عبیداللہ (B) عبداللہ
(C) عبدالرحمان (D) سہیل

78. غزوہ مصطلق کے متعلق ذیل میں کون سا بیان درست ہے؟
(A) اس غزوہ میں حضرت عائشہؓ سے متعلق واقعہ افک رونما ہوا۔
(B) اس غزوہ کے دوران تیمم کا حکم نازل ہوا
(C) دونوں درست ہیں۔
(D) ان میں سے کوئی نہیں

79. غزوہ ذی قرد کے دو ماہ بعد کون سا غزوہ رونما ہوا؟
(A) غزوہ سویق (B) غزوہ الجندل
(C) غزوہ بنو مصطلق / مریسیع (D) ان میں سے کوئی نہیں

80. غزوہ حدیبیہ کس ہجری سال رونما ہوا؟
(A) 6 ہجری (B) 7 ہجری
(C) 8 ہجری (D) 9 ہجری

81. حدیبیہ کس پہاڑ پر واقع ہے؟ (P.C.S Judicial2000)
(A) جبل نور (B) جبل حرا
(C) جبل شومیسی (D) جبل صفا

82. ہجرت کے کس سال آپؐ نے اپنے ساتھیوں کو اپنا خواب سنایا کہ وہ مکہ میں محفوظ اور طیر مسیح ہو کر داخل ہو رہے ہیں؟
(A) 5 ویں سال (B) 6 ویں سال
(C) 7 ویں سال (D) 8 ویں سال

83. آنحضورؐ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی جس اونٹنی پر سوار مکہ روانہ ہوئے اس کا نام کیا تھا؟

(A) قصویٰ (B) عرج

(C) ذوالفقار

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

84. براء بن عازب کی روایت کے مطابق ہجرت کے بعد کعبہ کی طرف پہلے سفر میں آنحضورؐ کے ہمراہ کتنے ساتھی تھے؟

(A) 1000 (B) 2000

(C) 3000 (D) 1400

85. کس صحابی کی روایت کے مطابق حدیبیہ کے سفر میں آنحضورؐ کے ہمراہ 1500 ساتھی تھے؟

(A) جابر ابن حذیفہؓ (B) جابر ابن حمزہؓ

(C) جابر ابن عبداللہؓ (D) جابر ابن علیؓ

86. حدیبیہ کے سفر میں آنحضورؐ کے ہمراہ کتنے اونٹ تھے؟

(A) 50 (B) 60

(C) 70 (D) 80

87. حدیبیہ کے سفر میں آنحضورؐ کے ہمراہ کون سی ام المومنین تھیں؟

(A) حضرت جویریہؓ (B) حضرت سودہؓ

(C) حضرت ام سلمہؓ (D) کوئی نہیں

88. اہل قریش نے کس کی قیادت میں 200 سواروں کو آنحضورؐ اور ان کے ساتھیوں کو مکہ داخل ہونے سے روکنے کیلئے بھیجا؟

(A) خالد ابن الولید (B) عکرمہ ابن ابوجہل

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

89. حدیبیہ میں مسلمانوں کے پاس واحد ہتھیار کون سا تھا؟

(A) تلوار (B) تیر

(C) منجنیق

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

90. نبی پاکؐ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کس مقام سے احرام باندھ کر غسفان پہنچے؟

(A) ذوالحلیفہ (B) ذی قرد

(C) غطفان (D) قرنی

91. غسفان کے مقام پر آپ کو کس قبیلے کا فرد ملا جس سے قریش سے متعلق دریافت کیا؟

(A) بنی کلاب (B) بنی کعب

(C) بنی ثعلبہ (D) بنی عدی

92. بنی کعب کے ایک شخص کی اطلاع کے مطابق اہل مکہ کے سالار نے اپنی فوج کے ساتھ کہاں پڑاؤ ڈالا؟

(A) غسفان (B) سویق

(C) کراع الغمیم (D) جحفہ

93. کراع الغمیم غسفان سے ____ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔

(A) 6 (B) 7

(C) 8 (D) 9

94. بنی کعب کے آدمی کی اطلاع پر آپؐ نے غسفان چھوڑ کر کہاں پڑاؤ ڈالا؟

(A) براع (B) حدیبیہ

(C) کراع الغمیم (D) کوئی نہیں

95. حدیبیہ کہاں پر واقع ہے؟

(A) مکہ کے مشرق میں (B) مکہ کے مغرب میں

(C) مکہ کے جنوب میں (D) مکہ کے شمال میں

96. حدیبیہ میں سب سے پہلے اہل مکہ میں سے کون بنی خزاعہ کے چند ساتھیوں کے ساتھ لشکر اسلام کے پاس آیا؟

(A) بدیل ابن ورقہ (B) حذیفہ ابن ورقہ

(C) اسامہ ابن ورقہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

97. حدیبیہ میں مسلمانوں سے مل کر بدیل ابن ورقہ ________
(A) مطمئن ہو گیا کہ مسلمان واقعی لڑائی کی غرض سے نہ آئے تھے
(B) کو قتل کر دیا گیا
(C) اس پر متفق نہ ہوا کہ مسلمان صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں
(D) کوئی نہیں

98. حدیبیہ میں مسلمانوں سے مطمئن بدیل ابن ورقہ ....
(A) قریش کو بھی مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا
(B) قریش کو مطمئن نہ کر سکا
(C) راستے میں ہی دم توڑ گیا
(D) کوئی نہیں

99. "اے گروہ قریش میں قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے شاہی درباروں میں باریابی کا شرف حاصل کر چکا ہوں لیکن بخدا! میں نے کسی فرمانروا کو اس قوم میں اتنا محترم اور معزز نہیں پایا جتنا کہ (حضرت) محمدؐ اپنی قوم میں ہیں۔" یہ الفاظ قریش کے اس وفد کے سربراہ کے ہیں جو مسلمانوں سے حدیبیہ کے مقام پر بدیل ابن ورقہ کے بعد بات چیت کرنے آیا۔ اس سربراہ کا نام کیا تھا؟
(A) عروہ ابن مسعود ثقفی (B) عروہ ابن مسعود خزرجی
(C) عروہ ابن مسعود طوسی (D) عروہ ابن مسعود اوسی

100. آنحضورؐ کے اس قاصد کا کیا نام تھا جو غزوہ حدیبیہ میں قریش کو مسلمانوں کے اچھے ارادوں سے آگاہ کرنے کے لئے گئے لیکن قریش کے لوگوں نے اس کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔
(A) خراش ابن حسان (B) خراش ابن امیہ
(C) خراش ابن عتبہ (D) خراش ابن عبداللہ

101. حدیبیہ کے زیر التواء مسئلے کے دوران مکہ کے ادنیٰ طبقہ کے کتنے لوگوں نے رات کے وقت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔
(A) 80 (B) 85
(C) 100 (D) 115

102. آنحضورؐ کس شخص کو قریش کے ساتھ دوبارہ مذاکراتی کوششوں کیلئے بھیجنا چاہتے تھے لیکن اسی شخص کی تجویز پر حضرت عثمانؓ کو مسلمانوں کے نمائندہ کے طور پر بھیجا گیا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عمرؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

103. حضرت عثمانؓ کے کون سے رشتہ دار نے انہیں مکہ میں اپنی حفاظت میں رکھا؟
(A) ابان بن سعید (B) ابان ابن حمزہ
(C) ابان ابن طلحہ (D) ابان ابن عکرمہ

104. کس موقع پر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا گیا ہے؟
(A) حدیبیہ میں پڑاؤ کے دوران
(B) شیخان میں پڑاؤ کے دوران
(C) ذوالحلیفہ میں پڑاؤ کے دوران
(D) کوئی نہیں

105. حدیبیہ میں حضرت عثمانؓ کے قتل کی افواہ سن کر اس کے بدلے کے لیے آنحضورؐ نے ایک درخت کے نیچے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے بیعت لی۔ تاریخ میں اس بیعت کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟
(A) بیعت رضوان (B) بیعت عثمان
(C) بیعت حدیبیہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

106. آنحضورؐ کے کون سے ساتھی بیعت رضوان کے وقت موجود نہ تھے جس پر آنحضورؐ نے ان کی طرف سے اپنا ہاتھ بیعت کیلئے رکھا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت ابوبکرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

107. بیعت رضوان کا سن کر قریش کا رد عمل کیا تھا؟
(A) انہوں نے حضرت عثمانؓ کو رہا کر دیا
(B) اپنا ایک نمائندہ مذاکرات کے لیے بھیجا
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

108. معاہدہ حدیبیہ کے مطابق مسلمانوں کے عمرہ سے متعلق کیا شق تھی؟

(A) وہ عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے
(B) وہ اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

109. قریش نے بیعت رضوان کا سن کر آنحضورؐ سے مذاکرات کیلئے کس کو بھیجا؟

(A) سہیل بن عمر (B) سہیل بن عتبہ
(C) سہیل بن عمرو (D) سہیل بن حسن

110. حدیبیہ کا معاہدہ لکھے جانے کے دوران سہیل بن عمرو کا کون سا بیٹا اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آیا لیکن مسلمانوں نے معاہدہ حدیبیہ کے تحت اسے قریش کے پاس واپس بھیج دیا؟

(A) ابوجندل ابن سہیلؓ (B) عثمان بن سہیلؓ
(C) اسامہ ابن سہیلؓ (D) خراش ابن سہیلؓ

111. کس معاہدے کے بعد صحابہ کرامؓ عمرہ کے لیے بغیر واپس جانے کو تیار نہ تھے؟

(A) معاہدہ حدیبیہ (B)
(C) (D)

112. قریش کی طرف سے معاہدہ حدیبیہ پر کس نے دستخط کیے؟

(A) ابوسفیان (B) خالد بن ولید
(C) سہیل ابن عمرو (D) کوئی نہیں

113. حدیبیہ کے معاہدہ کے بعد آپؐ نے کس کے مشورے پر پہلے خود اپنا احرام کھول دیا جس کو دیکھتے ہی صحابہ کرامؓ نے بھی اپنے احرام کھول دیے؟

(A) حضرت ام سلمہؓ (B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت سودہؓ (D) حضرت جویریہؓ

114. احرام کھولنے کے کتنے دنوں بعد تک آنحضورؐ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حدیبیہ میں قیام پذیر رہے؟

(A) 20 دن (B) 30 دن
(C) 40 دن (D) 50 دن

115. معاہدہ حدیبیہ کس نے لکھا؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) زید ابن حارثؓ (D) سہیل ابن عمرو

116. حدیبیہ کے معاہدے سے پہلے آنحضورؐ نے کس شخص سے اپنا سر عمرہ کی نیت سے منڈوایا تھا؟

(A) خراش ابن خزاعہ (B) خراش ابن علی
(C) خراش ابن عمامہ (D) خراش ابن خزرج

117. معاہدہ حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے مدینہ واپسی سفر کے دوران کون سی سورۃ نازل ہوئی؟

(A) سورہ علق (B) سورہ فلق
(C) سورہ فتح (D) سورہ رحمان

118. آنحضورؐ نے معاہدہ حدیبیہ پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے کو کہا لیکن کس نے اصرار کیا کہ بسمک اللھم لکھا جائے اور اس کی رائے مان لی گئی؟

(A) سہیل ابن عمرو (B) ابوسفیان
(C) حسن ابن عدیل (D) ان میں سے کوئی نہیں

119. مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ حدیبیہ پر کس نے دستخط کیے؟

(A) حضرت محمدؐ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عثمانؓ

120. معاہدہ حدیبیہ میں کتنی شرطیں تھیں؟

(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

121. معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب مسلمان مکہ سے مدینہ پہنچے تو کون سے صحابی مکہ سے مدینہ فرار ہو کر آئے لیکن آنحضورؐ نے معاہدہ حدیبیہ کے مطابق ان کو قریش کے وفد کے حوالے کر دیا لیکن اس

صحابی نے قریش کا ایک نمائندہ قتل کر دیا جبکہ دوسرا خوف کے مارے بھاگ گیا۔

(A) ابو حذیفہؓ (B) ابو جندل
(C) ابو بصیرؓ (D) ابو عکرمہؓ

122. اس جگہ کا کیا نام ہے جہاں پر ابو بصیرؓ جا کر آباد ہو گئے اور ان کو دیکھتے ہی مکہ کے دوسرے ستم رسیدہ مسلمان بھی وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے؟

(A) عیص، شام کے ساحل پر
(B) عریض، شام کے ساحل پر
(C) جحفہ، شام کے ساحل پر
(D) سکران، شام کے ساحل پر

123. ابو بصیرؓ کے پاس آدمیوں کی کتنی تعداد ہو گئی جس کے بعد انہوں نے قریش کے قافلوں کا راستہ روکنا شروع کر دیا؟

(A) 100 (B) 90
(C) 80 (D) 70

124. ابو بصیرؓ کے قریش پر حملوں کا ردعمل قریش پر کیا ہوا؟

(A) انہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی پہلی شرط کو توڑتے ہوئے آپ ﷺ سے مطالبہ کیا کہ ابو بصیرؓ مدینہ بلایا جائے
(B) انہوں نے آپ ﷺ سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس مکہ بجھوایا جائے
(C) انہوں نے آپ ﷺ سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان حملوں سے روکا جائے
(D) کوئی نہیں

125. معاہدہ حدیبیہ کے بعد کس قبیلے نے کفار کے گروہ میں شمولیت اختیار کی؟

(A) بنو غطفان (B) بنو مصطلق
(C) بنو بکر (D) بنو؟؟؟

126. معاہدہ حدیبیہ کے بعد کون سا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا؟

(A) بنو قینقاع (B) بنو عدی
(C) بنو امیہ (D) بنو خزاعہ

127. معاہدہ حدیبیہ کے مطابق کتنے سالوں تک اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی کا سمجھوتا طے پایا؟

(P.C.S.Executive 2000)

(A) 5 سال (B) 2 سال
(C) 8 سال (D) 10 سال

128. صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟

(A) 5,000 (B) 6,000
(C) 8,000 (D) 8,500

129. کس یہودی قبیلے نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے بدعہدی کی؟

(A) بنو قریظہ (B) بنو قینقاع
(C) بنو نضیر (D) بنو ہوازن

130. صلح حدیبیہ کی شرائط کس صحابیؓ نے قلمبند کی تھیں؟

(A) حضرت زید بن ثابتؓ (B) حضرت ابو بکر صدیقؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عمرؓ

131. فتح مبین کس کو قرار دیا گیا؟

(A) صلح حدیبیہ (B) غزوہ اُحد
(C) میثاق مدینہ (D) بیعت رضوان

132. غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟

(A) غزوہ بدر (B) غزوہ احد
(C) غزوہ خندق (D) غزوہ تبوک

133. "فتح مبین" کسے کہا جاتا ہے؟

(A) فتح مکہ (B) غزوہ بدر
(C) غزوہ احد (D) صلح حدیبیہ

134. کس غزوہ میں حضور ﷺ نے ایران اور روم کی فتح کے بارے میں خوشخبری دی؟

(A) غزوہ احد (B) غزوہ خندق
(C) غزوہ تبوک (D) غزوہ خیبر

135. غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟

(A) بدر (B) خندق

(C) حنین (D) احد

جوابات

1. (B)	2. (D)	3. (B)	4. (A)	5. (C)	6. (D)	7. (A)	8. (C)
9. (C)	10. (D)	11. (D)	12. (A)	13. (C)	14. (A)	15. (C)	16. (B)
17. (A)	18. (B)	19. (A)	20. (D)	21. (A)	22. (A)	23. (B)	24. (C)
25. (A)	26. (D)	27. (A)	28. (A)	29. (A)	30. (A)	31. (C)	32. (D)
33. (A)	34. (C)	35. (B)	36. (D)	37. (A)	38. (A)	39. (C)	40. (A)
41. (C)	42. (D)	43. (D)	44. (A)	45. (B)	46. (A)	47. (B)	48. (A)
49. (C)	50. (B)	51. (D)	52. (A)	53. (C)	54. (C)	55. (B)	56. (A)
57. (A)	58. (B)	59. (A)	60. (D)	61. (B)	62. (A)	63. (B)	64. (C)
65. (A)	66. (A)	67. (B)	68. (C)	69. (A)	70. (A)	71. (B)	72. (C)
73. (D)	74. (D)	75. (B)	76. (A)	77. (B)	78. (C)	79. (C)	80. (A)
81. (C)	82. (B)	83. (A)	84. (D)	85. (C)	86 (C)	87. (C)	88. (C)
89. (A)	90. (A)	91. (B)	92. (C)	93. (C)	94. (B)	95. (C)	96. (A)
97. (A)	98. (B)	99. (A)	100. (B)	101. (A)	102. (C)	103. (A)	104. (A)
105. (A)	106. (C)	107. (C)	108. (C)	109. (C)	110. (A)	111. (A)	112. (C)
113. (A)	114. (A)	115. (B)	116. (A)	117. (C)	118. (A)	119. (C)	120. (D)
121. (C)	122. (A)	123. (B)	124. (A)	125. (C)	126. (D)	127. (D)	128. (D)
129. (A)	130. (C)	131. (A)	132. (C)	133. (D)	134. (B)	135. (B)	

غزوہ خیبر سے فتح مکہ تک

1. غزوہ خیبر کس ہجری سال میں رونما ہوا؟
(A) 6 ہجری (B) 7 ہجری
(C) 9 ہجری (D) 9 ہجری

2. خیبر کا کیا مطلب ہے؟
(A) قلعہ (B) باغ
(C) پھول (D) دیوار

3. خیبر مدینہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ (Police Inspector-1999)
(A) 80 میل (B) 86 میل
(C) 90 میل (D) 96 میل

رحیق المختوم کے مطابق خیبر مدینہ کے درمیان فاصلہ 100 میل کا ہے

4. غزوہ خیبر کی وجہ یہ تھی کہ۔
(A) قلعہ خیبر مسلمان کے خلاف یہودی سازشوں کا مرکز تھا
(B) قلعہ خیبر مسلمان کے خلاف قریشی سازشوں کا مرکز تھا
(C) قلعہ خیبر مسلمان کے خلاف عیسائی سازشوں کا مرکز تھا
(D) کوئی نہیں

5. ہجری کے کون سے ماہ میں غزوہ خیبر لڑا گیا؟
(A) محرم (B) صفر
(C) رمضان (D) ذی الحج

6. آنحضور کی طرف سے غزوہ خیبر میں کن لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی؟
(A) غزوہ خندق کے صحابہ کو (B) غزوہ بدر کے صحابہ کو
(C) غزوہ احد کے صحابہ کو (D) غزوہ حدیبیہ کے صحابہ کو

7. غزوہ خیبر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟
(A) اللہ اکبر (B) اللہ اللہ
(C) یا منصور امت امت (D) یا منصور

8. غزوہ خیبر میں ایک سو گھڑ سواروں کے ہمراہ مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟
(A) 1000 (B) 1300
(C) 1600 (D) 1800

رحیق المختوم کے مطابق غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی

9. غزوہ خیبر میں کتنی مسلمان خواتین نے حصہ لیا؟
(A) 10 (B) 13
(C) 18 (D) 20

10. آنحضور کی کون سی زوجہ غزوہ خیبر میں آپؐ کے ساتھ تھیں؟
(A) حضرت ام سلمہؓ (B) حضرت سودہؓ
(C) حضرت عائشہؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

11. خیبر میں کتنے قلعے تھے؟
(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 6

12. خیبر کے کس قلعے میں مسلمانوں اور یہودیوں کی افواج کا آمنا سامنا ہوا؟
(A) سلالم (B) نطاۃ
(C) قموص (D) ناعم

13. یہودیوں کے چھپے قلعے میں کتنے سپاہی تھے؟
(A) 8,000 (B) 12,000
(C) 15,000 (D) 20,000

14. یہودیوں کے مضبوط ترین قلعہ قموص کا مالک کون تھا؟
(A) ابورافع سلام ابن ابی الحقیق
(B) ابورافع سلام ابن احسان
(C) ابورافع سلام ابن خذیفہ

(D) ابو رافع سلام ابن عتیق

15. یہودیوں کے سب سے بڑے جنگجو کا کیا نام تھا جو قموص کے قلعے میں موجود تھا؟

(A) مارجہ (B) قتادہ
(C) مرحب (D) عتبہ

16. یہودیوں کے اس سربراہ کا نام بتائیں جس کے فیصلے کے مطابق سپاہیوں کو قلعہ نطاۃ کے مقام پر متعین کیا گیا؟

(A) سلام ابن مشکم (B) سلام ابن الحقیق
(C) سلام ابن اوف (D) سلام ابن رمل

17. سلام ابن مشکم کے مطابق بچوں اور دولت کو خیبر کے کس قلعہ میں رکھا گیا؟

(A) وطیح (B) سلالم
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

18. سلام ابن مشکم نے ناعم نامی خیبر کے قلعہ میں کیا محفوظ کیا؟

(A) عورتیں (B) دولت
(C) اسلحہ (D) سپاہی

19. غزوہ خیبر کے پہلے دن دونوں افواج کس قلع میں بے جگری سے لڑیں؟

(A) نطاۃ (B) ناعم
(C) سلالم (D) وطیح

20. غزوہ خیبر کے پہلے دن کتنے مسلمان زخمی ہوئے جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ یہودیوں کی ہلاکتیں ہوئیں؟

(A) 8 (B) 10
(C) 15 (D) 20

21. غزوہ خیبر میں سلام ابن مشکم کے مرنے کے بعد کون یہودیوں کا سربراہ بنا؟

(A) حارث ابن ابی زینب (B) حارث ابن ابی دجانہ
(C) حارث ابن ابی خولہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

22. حارث ابن ابی زینب نے کس قلعے سے مسلمانوں پر حملہ کیا مگر شکست کھا گیا؟

(A) ناعم (B) حنین
(C) سلالم (D) کوئی نہیں

23. غزوہ خیبر میں قلعہ ناعم کو فتح کرنے کی کوشش میں کون سے صحابی ناکام رہے؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

24. غزوہ خیبر میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمرؓ کی قلعہ ناعم کو فتح کرنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد کس نے اس کو فتح کیا؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عبداللہؓ
(C) حضرت ابودجانہؓ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

25. یہودیوں کے سب سے مضبوط قلعے قموص کو کس نے فتح کیا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

26. یہودیوں کے جنگجو مرحب کو غزوہ خیبر میں کس نے قتل کیا تھا؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت ابوبکرؓ
(C) حضرت محمد ابن سلمہؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

27. قلعہ قموص کے 20 دن کے محاصرے کے بعد آنحضورؐ نے فرمایا کل اس شخص کو قیادت سونپی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول فتح خیبر اسی عظیم شخص کے ہاتھوں سے چاہتے ہیں کس کو قیادت سونپی گئی تھی؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت علیؓ

28. سلام ابن مشکم کی بیوی نے کس غزوہ میں زہر آلود کھانا آنحضورؐ کی خدمت میں پیش کیا تھا؟

(A) غزوہ موتہ (B) غزوہ حنین
(C) غزوہ خیبر (D) ان میں سے کوئی نہیں

29. غزوہ خیبر میں یہودیوں سے امن سمجھوتے کے بعد کون سے

زینب کا بنایا ہوا زہر آلود کھانا کھا کر شہید ہو گئے تھے؟

(A) حضرت بشر بن براءؓ (B) حضرت بشر ابن عتیق

(C) حضرت بشر ابن الخلیق (D) حضرت بشر ابن عتبہ

30. غزوہ خیبر کے بعد آپؐ نے کس سے نکاح کیا؟

(A) حضرت جویریہؓ (B) حضرت میمونہؓ

(C) حضرت صفیہؓ (D) حضرت عائشہؓ

31. حضرت صفیہ کس یہودی کی بیوی تھیں جو کہ غزوہ خیبر میں مارا گیا تھا؟

(A) کنانہ ابن ربیع (B) کنانہ ابن رسالہ

(C) کنانہ ابن عتبہ (D) کنانہ ابن عبداللہ

32. آنحضورؐ کی حضرت صفیہؓ سے شادی کے بعد کتنے یہودیوں کو رہا کیا گیا تھا؟

(A) 700 سے زیادہ (B) 800 سے زیادہ

(C) 900 سے زیادہ (D) 1000 سے زیادہ

33. فتح خیبر کے موقع پر آنحضورؐ کے کون سے رشتہ دار حبشہ سے 14 سال کے عرصہ کے بعد تشریف لائے تھے؟

(A) حضرت عباسؓ (B) حضرت حمزہؓ

(C) حضرت جعفرؓ ابن ابی طالب

(D) ان میں سے کوئی نہیں

34. غزوہ خیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟

رحیق المختوم کے مطابق 18 مسلمان شہید ہوئے۔

(A) 10 (B) 15

(C) 20 (D) 25

35. غزوہ خیبر کے کس قلعے کے محاصرے کے دوران آپؐ نے فدک کے یہودیوں کو ایک پیشکش کی؟

(A) سلالم (B) وطیح

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

36. غزوہ خیبر میں آپؐ نے فدک کے یہودیوں کو کیا پیش کش کی؟

(A) اسلام قبول کر لیں

(B) اپنی آدھی جائیداد مسلمانوں کے حوالے کر دیں

(C) دونوں

(D) کوئی نہیں

37. فدک کے یہودیوں نے آپ کی پیشکش پر کس ردعمل کا اظہار کیا؟

(A) اسلام قبول کر لیا

(B) آدھی جائیداد دینے پر رضامند ہو گئے

(C) دونوں شرائط رد کر کے لڑنے پر آمادہ ہوئے

(D) کوئی نہیں

38. غزوہ خیبر میں کتنے یہودی ہلاک ہوئے؟

(A) 90 (B) 91

(C) 92 (D) 93

39. آنحضورؐ نے کس شخص کو فدک کے یہودیوں کے پاس اپنی شرائط کے ساتھ بھیجا؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ

(C) محیصہ ابن مسعود (D) ان میں سے کوئی نہیں

40. فتح خیبر کے بعد کس شرط پر آپؐ نے یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت دی؟

(A) وہ اسلام قبول کر لیں

(B) وہ مسلمان بچوں کو پڑھائیں

(C) وہ اپنی زمینی پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں

(D) کوئی نہیں

41. خیبر کی فتح کے بعد آپؐ نے کس صحابی کو یہودیوں سے جزیہ اکٹھا کرنے کے کام پر مامور کیا گیا؟

(A) عبداللہ ابن رواحہ (B) عبداللہ ابن معاذ

(C) عبداللہ ابن عبداللہ (D) عبداللہ ابن خلیق

42. تم جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے مجھ سے مشابہت رکھتے ہو، آنحضورؐ نے غزوہ خیبر کے دوران یہ الفاظ کس سے کہے تھے؟

(A) حضرت جعفرؓ (B) حضرت علیؓ

(C) حضرت عمرؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

43. غزوہ خیبر میں آنحضورؐ نے کس کو اپنا مددگار قرار دیا؟

(A) حضرت جعفرؓ (B) حضرت طلحہؓ
(C) حضرت زبیر ابن عوام (D) حضرت علیؓ

44. خیبر کس ملک کی سرحد کے قریب واقع ہے؟
(A) عراق (B) ایران
(C) مصر (D) شام

45. خیبر کو کتنے دنوں میں فتح کیا گیا؟
(A) 18 (B) 19
(C) 20 (D) 21

46. فتح خیبر کے بعد آنحضورؐ کس راستے سے مدینہ واپس آئے؟
(A) وادی القریٰ (B) وادی السویق
(C) وادی غطفان (D) وادی الزخرف

47. وادی القریٰ کے رہائشی کون تھے؟
(A) مشرکین (B) یہودی
(C) نصرانی (D) عبرانی

48. وادی القریٰ کے رہائشی کچھ دن تک مسلمانوں کے ساتھ لڑے لیکن بعد میں
(A) میدان سے بھاگ گئے
(B) جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے
(C) مدینہ چھوڑنے پر رضامند ہو گئے
(D) کوئی نہیں

49. غزوہ وادی القریٰ میں کتنے یہودی مارے گئے؟
(A) 10 (B) 11
(C) 12 (D) 13

50. یہودیوں کے اس آخری علاقے کا نام بتائیں جہاں کے لوگوں نے بھی مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا غلبہ سارے عرب قبائل کے یہودیوں پر قائم ہو گیا؟
(A) تائمہ (B) غازیہ
(C) عریش (D) سوتی

51. ذیل میں کون سے غزوات 8 ہجری میں رونما ہوئے؟
(A) غزوہ فتح مکہ اور غزوہ حنین
(B) غزوہ طائف اور غزوہ موتہ
(C) یہ تمام غزوات (D) ان میں سے کوئی نہیں

52. موتہ ریاست بلقا کا گاؤں ہے اور بلقا کیا ہے؟
(A) مصر کی ریاست (B) عراق کی ریاست
(C) شام کی ریاست (D) فلسطین کی ریاست

53. غزوہ موتہ کی لڑائی کی وجہ کیا تھی؟
(A) بصرہ کے گورنر کی طرف روانہ کئے جانے والے قاصد کا قتل
(B) نبی پاکؐ کے ان پندرہ مبلغوں کا قتل جو کہ نبی پاکؐ نے ذات اطلح کی طرف تبلیغ اسلام کے لئے بھیجے تھے۔
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی نہیں

54. غزوہ موتہ کس ماہ میں لڑا گیا؟
(A) جمادی الاول (B) جمادی الثانی
(C) رجب (D) شعبان

55. غزوہ موتہ میں مسلمان فوج کی تعداد کتنی تھی؟
(A) 1000 (B) 2000
(C) 3000 (D) 4000

56. غزوہ موتہ کس کے خلاف لڑا گیا؟
(A) سلطنت عثمانیہ (B) سلطنت روم
(C) سلطنت قادسیہ (D) سلطنت چین

57. سلطنت روم کا مذہب کیا تھا؟
(A) عیسائی (B) یہودی
(C) زرتشت (D) کافر

58. موتہ بھیجی جانے والی فوج کا سپہ سالار آپؐ نے کسے مقرر کیا؟
(A) زید ابن ابو طالب (B) زید ابن حارثہ
(C) زید ابن عبداللہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

59. کس شخص نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کیلئے غزوہ موتہ میں

رضا کارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کیں حالانکہ انہوں نے غزوہ موتہ سے صرف دو ماہ قبل اسلام قبول کیا تھا؟

(A) خالد ابن ولیدؓ (B) عبدالرحمان ابن عوفؓ
(C) ابوسفیانؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

60. مسلمان فوج کو موتہ بھیجنے کے بعد آنحضورؐ خود کہاں تشریف لے گئے۔

(A) مکہ (B) سویق
(C) ثنیاۃ الوداع (D) قینقاع

61. غزوہ موتہ کے لیے آپ کی فوج ابھی کس علاقے میں تھی کہ رومی فوج کو ان کی پیش قدمی کی خبر ملی؟

(A) شام (B) معان
(C) تھیوڈرس (D) کوئی نہیں

62. آپؐ نے کتنی فوج موتہ بھیجی؟

(A) 1000 (B) 2000
(C) 3000 (D) 4000

63. شام میں ہرقل کے اس کمشنر کا نام بتائیں جس نے ہرقل سے مزید عرب اور یونانی فوج بھیجنے کا مطالبہ کیا اور اپنی فوج کو متحرک کیا؟

(A) شرجیل (B) عکرمہ
(C) بالی (D) ان میں سے کوئی نہیں

64. شام کی فوج کی کل تعداد کتنی تھی؟

(A) 30,000 (B) 40,000
(C) 50,000 (D) 100,000

65. غزوہ موتہ کے لئے کس نے لشکر اسلام کے جذبہ حمیت کو جگایا؟

(A) حضرت جعفر ابن طیارؓ
(B) حضرت خالد ابن ولیدؓ
(C) حضرت زید ابن حارثہؓ
(D) حضرت عبداللہ ابن رواحہؓ

66. دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرو کیونکہ دو فائدوں "غلبہ یا شہادت" میں سے ایک تو حاصل ہوگا کس جنگ میں یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے مسلم فوج سے کہے؟

(A) خندق (B) موتہ
(C) بنو نضیر (D) دومۃ الجندل

67. غزوہ موتہ کے لئے سرزمین بلقا کی کس بستی کے قریب مسلمانوں کو رومی فوجیں ملیں لیکن جب دشمن قریب آیا تو مسلمان موتہ کی بستی میں جمع ہو گئے؟

(A) مشارف بلقا کا گاؤں (B) قریط بلقا کا گاؤں
(C) معاب بلقا کا گاؤں (D) موآب بلقا کا گاؤں

68. غزوہ موتہ میں سب سے پہلے شہید کون تھے؟

(A) زید بن حارثہؓ (B) جعفر بن طیارؓ
(C) عبداللہ بن رواحہؓ (D) کوئی نہیں

69. غزوہ موتہ میں حضرت زیدؓ کی شہادت کے بعد کس نے آنحضورؐ کا دیا ہوا علم پکڑا اور 90 زخموں کے ساتھ شہید ہوئے؟

(A) حضرت جعفر ابن ابی طالبؓ
(B) حضرت خالد ابن ولیدؓ
(C) حضرت عبداللہ ابن رواحہؓ
(D) ان میں سے کوئی نہیں

70. غزوہ موتہ میں شہادت کے وقت حضرت جعفرؓ ابن ابی طالب کی کیا عمر تھی؟

(A) 33 سال (B) 30 سال
(C) 36 سال (D) 40 سال

71. حضرت جعفر ابن ابی طالب کا لقب کیا تھا؟

(A) ذوالجناحین (دو پروں والا)
(B) طیار (اڑنے والا)
(C) دونوں
(D) ان میں سے کوئی نہیں

72. غزوہ موتہ میں حضرت جعفرؓ کی شہادت کے بعد کون سے سالار شہید ہوئے؟

(A) حضرت زید بن حارثہؓ (B) حضرت خالد بن ولیدؓ
(C) حضرت عبداللہ بن رواحہؓ (D) کوئی نہیں

73. غزوہ موتہ کے اس صحابی کا نام بتائیں۔ جنہوں نے پرچم دائیں ہاتھ میں پکڑا اور جب دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو انہوں نے اسے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے اس پرچم کو اپنی وفات تک دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے سینے سے لگا کر اٹھائے رکھا؟
(A) حضرت زید ابن حارثہؓ
(B) حضرت عبداللہ ابن رواحہؓ
(C) حضرت جعفر ابن ابی طالبؓ
(D) ان میں سے کوئی نہیں

74. حضرت زید بن حارثہؓ حضرت جعفرؓ ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن رواحہؓ کی شہادت کے بعد جنگ موتہ میں مسلمانوں کی قیادت کس شخص کو سونپی گئی؟
(A) حضرت ثابت ابن اقرمؓ
(B) حضرت ثابت ابن قتبؓ
(C) حضرت ثابت ابن حسانؓ
(D) حضرت ثابت ابن الرحیقؓ

75. غزوہ موتہ میں حضرت ثابت ابن اقرمؓ نے اپنی جگہ کس کا نام بطور سالار تجویز کیا جو کہ قبول کر لیا گیا؟
(A) حضرت جعفرؓ
(B) حضرت خالد بن ولیدؓ
(C) حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ
(D) کوئی نہیں

76. غزوہ موتہ میں حضرت خالد بن ولیدؓ کے ہاتھوں کتنی تلواریں ٹوٹیں؟
(A) 1 (B) 3
(C) 5 (D) 9

77. اس عیسائی قائد کا نام بتائیں جو اپنے بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ غزوہ موتہ میں حضرت خالد ابن ولیدؓ کے ہاتھوں مارا گیا۔؟
(A) مالک ابن حریص (B) مالک ابن رفاعہ
(C) مالک ابن قرانہ (D) مالک ابن شیبہ

78. غزوہ موتہ کے بعد خالد بن ولیدؓ کو کیا خطاب دیا گیا؟
(A) ذوالجناحین (B) سیف اللہ
(C) حیدر (D) کوئی نہیں
(A) شام (B) معان

79. کس جنگ میں مسلم فوج کی تعداد دشمن سے 38 گنا کم تھی؟
(A) خندق (B) جسر
(C) موتہ (D) بدر

80. غزوہ موتہ کتنے دنوں تک لڑا گیا؟
(A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) 10

81. حالات اور نتائج کے لحاظ سے کس غزوہ کو "بدر کی بین الاقوامی جنگ" کہا جاتا ہے؟
(A) خندق (B) حنین
(C) تبوک (D) موتہ

82. کس جنگ میں مسلمانوں نے نہ تو شکست کھائی اور نہ ہی جیتے؟
(A) موتہ (B) حنین
(C) طائف (D) کوئی نہیں

83. اسلام کی پہلی غیر عرب جنگ کا نام بتائیں؟
(A) موتہ (B) خیبر
(C) حنین (D) احزاب

84. غزوہ موتہ کے کتنا عرصہ بعد آنحضورؐ نے اپنی افواج کو مکہ کی طرف روانہ کیا؟
(A) 3 ماہ (B) 4 ماہ
(C) 5 ماہ (D) 1 ماہ

85. کس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ آپؐ کی اور بنو بکر قریش کی جماعت میں شامل ہوئے تھے؟
(A) صلح حدیبیہ (B) فتح مکہ
(C) اجنادین (D) کوئی نہیں

86. بنو بکر نے خاص طور پر کس کی مدد سے بنو خزاعہ پر اس وقت حملہ کیا

جب وہ اپنے الوتیر نامی کنویں کے نزدیک خیمہ زن تھے؟

(A) خالد بن ولید (B) عکرمہ بن ابوجہل

(C) بدیل ابن ورقہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

87. خزاعہ کے لوگوں نے مکہ پہنچ کر کس کے گھر پناہ لی اور یہ شکایت کی کہ قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے؟

(A) بدیل ابن ورقاء (B) بدیل ابن نوفل

(C) بدیل ابن قرانہ (D) بدیل ابن عتبہ

88. بنوخزاعہ کے اس سردار کا نام بتائیں جو کہ بدیل ابن ورقاء کے ساتھ مدینہ میں آیا اور نبی اکرمؐ سے بنوبکر کی طرف سے سمجھوتہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کرنے کی شکایت بھی کی اور ان کے خلاف مدد بھی طلب کی؟

(A) عامر ابن سلیم الخزاعی (B) عمرو ابن سالم الخزاعی

(C) عبداللہ ابن سلیم الخزاعی (D) حذیفہ ابن سالم الخزاعی

89. بنوخزاعہ کی طرف سے مدد کی درخواست پر آنحضورؐ نے قریش سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کا جزیہ ادا کیا جائے یا قریش بنوبکر کی مدد کرنا چھوڑ دیں یا.........

(A) جنگ کیلئے تیار رہو۔

(B) صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دو۔

(C) بنوبکر اور بنوخزاعہ دونوں کسی قبیلے کے اتحادی نہ بنیں۔

(D) ان میں سے کوئی نہیں۔

90. کس واقعہ کے بعد معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا؟

(A) بنوخزاعہ پر بنوبکر کے حملے سے

(B) قریش کے مدینہ پر حملے سے

(C) قریش کی مسلمانوں کے مویشیوں کی لوٹ مار سے

(D) کوئی نہیں

91. قریش نے کس نمائندے کو آنحضورؐ کے ساتھ مذاکرات کے لئے بھیجا لیکن تمام تر کوشش کے باوجود وہ شخص ناکام واپس لوٹ گیا؟

(A) عکرمہ ابن ابوجہل (B) ابوسفیان

(C) امر ابن سلیم (D) بدیل ابن ورقہ

92. 8 ہجری میں مسلمان فوج کس ماہ کے دوران مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے کیلئے روانہ ہوئی؟

(A) 10 رمضان (B) 15 رمضان

(C) 20 رمضان (D) 25 رمضان

93. کس سال کو اسلام میں عام الفتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟

(A) فتح طائف کے سال کو (B) فتح خیبر کے سال کو

(C) فتح مکہ کے سال کو (D) حنین کے سال کو

94. فتح مکہ کے لئے کوچ کرنے والے لشکر اسلام میں فوج کی اصل تعداد کیا تھی؟

(A) 8,000 (B) 9,000

(C) 10,000 (D) 11,000

95. اتحادیوں کے ملنے سے فتح مکہ میں مسلم لشکر کی تعداد کیا ہوگئی؟

(A) 11000 (B) 12000

(C) 13000 (D) 14000

96. کس مشہور قبیلے کی شمولیت سے باقی ماندہ قبائل نے اپنے آدمی فتح مکہ کیلئے لشکر اسلام کے ساتھ روانہ کئے تھے؟

(A) بنوسلیم (B) بنومزینہ

(C) بنوغطفان (D) تمام

97. فتح مکہ سے قبل آنحضورؐ کے کس رشتہ دار نے اسلام قبول کر لیا تھا؟

(A) ابوسفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب

(B) عبداللہ ابن امیہ ابن مغیرہ

(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

98. آنحضورؐ کے اس چچا کا نام بتائیں جنہوں نے قریش کو مذاکرات کے درمیان چھوڑ کر اپنے خاندان کے ہمراہ اسلام قبول کیا؟

(A) حضرت عباسؓ (B) حضرت حمزہؓ

(C) حضرت عبدالمطلبؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

99. کس معاہدے کے بعد بنوخزاعہ آنحضورؐ کی اور بنوبکر قریش کی جماعت شامل ہوتے تھے؟

(A) صلح حدیبیہ (B) فتح مکہ

(C) اجنادین (D) کوئی نہیں

100. فتح مکہ میں نیق العقاب میں پڑاؤ کے دوران کس معروف شخصیت نے لشکر اسلام میں شمولیت اختیار کی؟
(A) ابوسفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب
(B) عبداللہ ابن امیہ ابن مغیرہ
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

101. فتح مکہ کے لیے جب مسلمان ظہران کے مقام پر خیمہ زن تھے تو قریش نے آنحضورؐ کے پاس دوبارہ مذاکرات کیلئے کس شخص کو بھیجا؟
(A) ابوسفیان (B) بدیل ابن ورقہ
(C) حکیم ابن حزام (D) تمام لوگ

102. ابوسفیان کو کس شخص نے اس وقت پہچانا جب وہ بدیل ابن ورقہ کے ساتھ ظہران کے مقام پر مسلمانوں کے پڑاؤ کے بارے میں بات کررہا تھا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عباسؓ (D) حضرت عثمانؓ

103. فتح مکہ کے مذاکراتی عمل کے دوران کس شخص نے ابوسفیان کو موت کی دھمکی دے کر اسلام قبول کرنے کو کہا جس پر ابوسفیان ایمان لے آیا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عباسؓ
(C) حضرت علیؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

104. حضرت عباسؓ نے کس کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر آنحضورؐ سے کہا تھا کہ وہ سرداری اور سربلندی پسند کرتا ہے کیا آپ اسے کچھ رعایتیں نہیں دیں گے۔ جس پر آنحضورؐ نے فرمایا بلاشبہ جو شخص اسکے گھر میں داخل ہوگا محفوظ ہوگا؟
(A) عکرمہ بن ابوجہل (B) ابوسفیان
(C) بدیل ابن ورقہ (D) حکیم ابن حزام

105. ''اے ابوالفضل! (حضرت عباس کا لقب) تمہارے بھائی کے بیٹے کی بادشاہت قائم ہو چکی ہے'''' یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔'' آخری جملہ حضرت عباسؓ نے ابوسفیان کی پہلی کہی ہوئی بات کے جواب میں کب کہا؟
(A) صلح حدیبیہ کے موقع پر (B) فتح مکہ کے موقع پر
(C) غزوہ موتہ کے موقع پر (D) غزوہ حنین کے موقع پر

106. فتح مکہ کے دوران جحفہ کے مقام پر آنحضورؐ نے یہ الفاظ کس سے کہے کہ تمہاری ہجرت میری نبوت کی طرح آخری ہے؟
(A) حضرت عباسؓ (B) حضرت حمزہؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عبداللہ

107. فتح مکہ کے موقع پر قریش کو یہ الفاظ کس نے کہے کہ ''اے قریش اپنے انجام کی فکر کرو کیونکہ کوئی شخص محمد کی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کرسکتا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت حمزہؓ
(C) حضرت طلحہؓ (D) حضرت ابوسفیانؓ

108. فتح مکہ کے موقع پر آنحضورؐ نے اپنی فوج کو کتنے گروہوں میں تقسیم کرکے یہ حکم دیا کہ سخت مجبوری کے علاوہ نہ تو کسی سے جنگ کی جائے اور نہ ہی خون بہایا جائے؟
(A) 8 (B) 5
(C) 4 (D) 3

109. فتح مکہ سے پہلے آنحضورؐ نے بائیں بازو کی قیادت کس کے حوالے کرکے اسے شمال کی طرف سے مکہ داخل ہونے کو کہا؟
(A) زبیر ابن العوامؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت خالد بن ولیدؓ

110. فتح مکہ پر آپؐ نے کس کو دائیں بازو کی قیادت سونپی اور زیریں حصے سے مکہ داخل ہونے کا حکم دیا؟
(A) حضرت خالد بن ولیدؓ (B) حضرت عباسؓ
(C) حضرت سعدؓ (D) کوئی نہیں

111. فتح مکہ کے موقع پر آنحضورؐ نے کس کو اہل مدینہ کی قیادت سونپی اور حکم دیا کہ وہ مغربی گوشے سے مکہ میں داخل ہوں؟
(A) سعد ابن عبادہؓ (B) حضرت جراحؓ
(C) حضرت ابن عتبہؓ (D) حضرت ابن طلحہؓ

112. فتح مکہ کے دوران کس کو نبی اکرمؐ نے مہاجرین کا سالار مقرر کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ وہ بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوں؟
(A) حضرت ابو عبیدہ ابن جراحؓ
(B) حضرت ابو عبیدہ ابن عبداللہؓ
(C) حضرت ابو عبیدہ ابن حذیفہؓ
(D) حضرت ابو عبیدہ ابن رواحہؓ

113. فتح مکہ میں ابو عبیدہ ابن جراحؓ سے مہاجرین کی سپہ سالاری واپس کیوں لے لی گئی؟
(A) کیونکہ انہوں نے خود انکار کر دیا تھا
(B) کیونکہ وہ بالائی کی بجائے زیریں حصے سے مکہ داخل ہونا چاہتے تھے
(C) کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آج مکہ میں خونریزی حلال ہوگی
(D) کوئی نہیں

114. ابو عبیدہ ابن جراحؓ کے اُس بیٹے کا نام بتائیں جنہیں فتح مکہ میں اپنے باپ کی جگہ سپہ سالار بنایا گیا؟
(A) قیسؓ (B) رحیمؓ
(C) الیاسؓ (D) عبداللہؓ

115. فتح مکہ میں مکہ داخل ہوتے وقت چاروں سپہ سالاروں میں سے صرف ....
(A) قیسؓ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا
(B) سعد بن عبادہؓ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا
(C) زبیر ابن العوام کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا
(D) خالد بن ولیدؓ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا

116. فتح مکہ میں خالدؓ بن ولید کو پیش آنے والی مزاحمت میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

117. خالد بن ولیدؓ کو پیش آنے والی مزاحمت میں کتنے کفار مارے گئے؟
(A) 10 (B) 11
(C) 12 (D) 13

118. آنحضورؐ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کس تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے؟
(A) 17 رمضان (B) 19 رمضان
(C) 18 رمضان (D) 20 رمضان

119. فتح مکہ کے بعد کس موقعہ پر آنحضورؐ نے یہ الفاظ کہے "اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹ جانے والا ہے"؟
(A) جب حضرت عباسؓ نے اسلام قبول کیا۔
(B) جب ابوسفیان کو آنحضورؐ کے سامنے لایا گیا۔
(C) مکہ میں داخل ہوتے وقت
(D) جب آنحضورؐ کعبہ کے ہر بت کو اپنے ہاتھوں سے گرا رہے تھے۔

120. فتح مکہ میں مکہ داخلے کے وقت آپؐ کے ساتھ اونٹنی پر کون سوار تھا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت زید بن حارثؓ (D) حضرت عمرؓ

121. آپؐ کی اونٹنی جس پر سوار ہو کر آپ مکہ داخل ہوئے کا نام کیا تھا؟
(A) ذوالفقار (B) قصویٰ
(C) ذوالحلیفہ (D) کوئی نہیں

122. فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوتے وقت نبی اکرمؐ کس سورۃ کی تلاوت فرما رہے تھے؟
(A) الفلق (B) الفتح
(C) ملک (D) آل عمران

123. اے قریش آج خدا نے جہالت اور قبائل کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آنحضورؐ نے یہ الفاظ کب کہے؟
(A) اپنے خاندان کے سامنے تبلیغ کرتے ہوئے۔
(B) صفا کے مقام پر اہل قریش سے خطاب کرتے ہوئے۔
(C) فتح مکہ کے موقع پر
(D) حجۃ الوداع کے موقع پر

فتح مکہ میں شہید ہونے والے مسلمان ① کرز بن جابر فہری ② حنیس بن خالد بن ربیعہ

124. کس صحابی کے والد نے فتح مکہ کے آخری لمحات میں اسلام قبول کیا؟
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ
(B) حضرت خالد ابن ولیدؓ
(C) حضرت حذیفہؓ
(D) ان میں سے کوئی نہیں

125. کس فتح کے بعد آنحضورؐ نے سوائے چند اشخاص کے علاوہ سب کفار کیلئے عام معافی کا اعلان کیا؟
(A) فتح مکہ کے موقع پر (B) فتح موتہ کے موقع پر
(C) فتح خندق کے موقع پر (D) فتح تبوک کے موقع پر

126. فتح مکہ کے موقع پر کتنے لوگ عام معافی سے مستثنیٰ ٹھہرے؟
(A) 50 (B) 60
(C) 70 (D) 80

127. فتح مکہ کے موقع پر عام معافی سے مستثنیٰ معروف افراد میں شامل تھے۔
(A) عبداللہ بن ابی سرح (B) عکرمہ ابن ابوجہل
(C) عبدالعزیٰ ابن خطل (D) تمام

128. فتح مکہ کے بعد عبداللہ ابن ابی سرح کو کس کے کہنے پر معاف کر دیا گیا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

129. اس شخص کا نام بتائیں جس نے فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کے پردوں میں پناہ لی لیکن وہاں بھی قتل کر دیا گیا؟
(A) عبداللہ ابن حیی (B) عبدالعزیٰ بن خطل
(C) صفوان ابن امیہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

130. فتح مکہ کے موقع پر کس کے گھر کو آنحضورؐ نے محفوظ پناہ گاہ قرار دیا؟
(A) حکیم ابن حزام (B) ابوسفیان
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

131. فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں لگی تصویریں کس نے ہٹائیں؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت ابوسفیانؓ
(C) حضرت ابوعبیدہؓ (D) حضرت معاذؓ

132. فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کے بتوں کو کس نے توڑا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت محمدؐ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

133. خانہ کعبہ کے بتوں میں کچھ بت بہت اونچے تھے۔ کس شخص کے کندھوں پر کھڑے ہو کر آپؐ نے فتح مکہ کے موقع پر ان بتوں کو توڑا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

134. فتح مکہ کے موقع پر آنحضورؐ کے حکم سے کس شخص نے عورتوں سے بیعت لی؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) خالد بن ولیدؓ (D) حضرت ابوسفیانؓ

135. آنحضورؐ نے فتح مکہ کے موقع پر کس صحابی کو عرب کا دماغ کہا؟
(A) حضرت عمرو ابن العاصؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت ابوبکرؓ (D) ان میں سے کوئی نہیں

136. فتح مکہ کے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) آنحضورؐ نے معاذ ابن جبلؓ کو مکہ میں عالم دین مقرر کیا۔
(B) آنحضورؐ نے معاذ ابن جبلؓ کو مکہ کا عامل مقرر کیا۔
(C) دونوں درست ہیں۔
(D) ان میں سے کوئی نہیں

137. فتح مکہ کا دیباچہ کس کو کہا جاتا ہے؟
(A) صلح حدیبیہ (B) غزوۂ خندق
(C) غزوہ سویق (D) ان میں سے کوئی نہیں

138. مکہ کس دن کو فتح ہوا؟
(A) جمعہ (B) اتوار
(C) پیر (D) منگل

139. کس غزوہ میں پہلی دفعہ خمس نکالا گیا؟

(A) غزوہ اُحد (B) غزوہ احزاب

(C) غزوہ خیبر (D) غزوہ بنو قریظہ

140. خیبر کے قلعوں میں سب سے پہلے کون سا قلعہ فتح ہوا۔

(A) قلعہ ناعم (B) قلعہ العطاۃ

(C) قلعہ الصعب (D) قلعہ

141. عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز کون سا تھا؟

(A) مکہ (B) خیبر

(C) طائف (D) حبشہ

142. مکہ کب فتح ہوا؟

(A) 634 (B) 632

(C) 630 (D) 636

143. فتح مکہ میں کتنے کافر مارے گئے؟

(A) 44 (B) 2

(C) 22 (D) 14

جوابات

1. (B)	2. (A)	3. (D)	4. (A)	5. (A)	6. (D)	7. (C)	8. (C)
9. (D)	10. (A)	11. (D)	12. (B)	13. (A)	14. (A)	15. (C)	16. (A)
17. (C)	18. (C)	19. (A)	20. (C)	21. (A)	22. (A)	23. (C)	24. (A)
25. (D)	26. (A)	27. (D)	28. (C)	29. (A)	30. (C)	31. (A)	32. (A)
33. (C)	34. (C)	35. (C)	36. (C)	37. (B)	38. (D)	39. (C)	40. (C)
41. (A)	42. (A)	43. (C)	44. (D)	45. (C)	46. (A)	47. (B)	48. (B)
49. (B)	50. (A)	51. (C)	52. (C)	53. (C)	54. (C)	55. (C)	56. (B)
57. (A)	58. (B)	59. (A)	60. (C)	61. (B)	62. (C)	63. (A)	64. (D)
65. (D)	66. (B)	67. (C)	68. (A)	69. (A)	70. (A)	71. (C)	72. (C)
73. (C)	74. (A)	75. (B)	76. (D)	77. (B)	78. (B)	79. (C)	80. (A)
81. (D)	82. (A)	83. (A)	84. (A)	85. (A)	86 (B)	87. (A)	88. (B)
89. (B)	90. (A)	91. (B)	92. (A)	93. (C)	94. (C)	95. (B)	96. (D)
97. (C)	98. (A)	99. (A)	100. (C)	101. (D)	102. (C)	103. (B)	104. (B)
105. (B)	106. (A)	107. (D)	108. (C)	109. (A)	110. (A)	111. (A)	112. (A)
113. (C)	114. (A)	115. (D)	116. (B)	117. (D)	118. (A)	119. (D)	120. (C)
121. (B)	122. (B)	123. (C)	124. (A)	125. (A)	126. (C)	127. (D)	128. (C)
129. (B)	130. (C)	131. (A)	132. (B)	133. (D)	134. (B)	135. (A)	136. (C)
137. (A)	138. (B)	139. (C)	140. (A)	141. (B)	142. (C)	143. (D)	

غزوہ حنین سے آخری غزوہ تبوک تک

1. فتح مکہ کے فوراً بعد کون سا غزوہ لڑا گیا؟
(A) غزوہ موتہ (B) غزوہ تبوک
(C) غزوہ حنین (D) غزوہ طائف

2. فتح مکہ کے کتنے دن بعد یہ خبر ملی کہ مکہ کے جنوب مشرق میں آباد ایک قبیلہ اپنی فوجوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔
(A) 5 دن بعد (B) 20 دن بعد
(C) 25 دن بعد (D) 30 دن بعد

3. فتح مکہ کے بعد کس قبیلے کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مکہ پر حملے کے لیے بڑھ رہا ہے؟
(A) ہوازن (B) قینقاع
(C) عاد (D) اوس

4. قبیلہ ہوازن کے ساتھ کون سا قبیلہ مل گیا؟
(A) اوس (B) ثقیف
(C) خزاج (D) نفیر

5. اس راہنما کا نام بتائیں جس نے ہوازن اور ثقیف کو اسلامی تحریک کی مخالفت کیلئے تیار کیا تھا؟
(A) مالک ابن عوف (B) مالک ابن مالک
(C) مالک ابن عتبہ (D) مالک ابن حلیین

6. قبیلہ بنو ہوازن کی تمام شاخیں بنو ہوازن کے ساتھ اسلام کے خلاف متحد ہو گئیں ماسوائے ....
(A) بنی کعب کے (B) بنی کلاب کے
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

7. قبیلہ بنی جشم کے اس بوڑھے اور عقلمند جنگجو کا نام بتائیں جو زیادہ عمر کی وجہ سے لڑائی کے قابل تو نہ تھا لیکن اس کو فوجی امور کے متعلق بہت تجربہ حاصل تھا؟
(A) درید ابن صمہ (B) درید ابن العمص
(C) درید ابن العمارات (D) درید ابن القس

8. فتح مکہ بعد درید ابن صمہ نے کس کے ساتھ شمولیت اختیار کی؟
(A) مسلمانوں کے ساتھ (B) بنو ہوازن کے ساتھ
(C) بنو ثقیف کے ساتھ (D) کوئی نہیں

9. کس جنگ میں ہوازن اور ان کے اتحادیوں نے آدھی رات کو مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا؟
(A) تبوک (B) مرہ
(C) حنین (D) مریصع

10. حنین کا مقام کہاں واقع ہے؟
(A) مکہ اور مدینہ کے درمیان
(B) مکہ اور طائف کے درمیان
(C) مدینہ اور طائف کے درمیان
(D) طائف اور یثرب کے درمیان

11. ''میں جھوٹا نہیں ہوں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں'' یہ الفاظ نبی اکرمؐ نے کب ادا کیے؟
(A) غزوہ حنین کے موقع پر (B) غزوہ خندق کے موقع پر
(C) غزوہ تبوک کے موقع پر (D) غزوہ موتہ کے موقع پر

12. حنین ایک میدان ہے یہ مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟

(A) 10 میل (B) 15 میل
(C) 16 میل (D) 20 میل

13. غزوہ حنین میں آنحضورؐ کے ہمراہ کتنے مجاہدین تھے؟
(P.C.S.Judicial 2002)

(A) 10,000 (B) 12,000
(C) 14,000 (D) 16,000

14. غزوہ حنین میں نبی اکرمؐ کے ساتھ آٹھ کافر تھے آنحضورؐ کے ہمراہ نومسلموں کی تعداد کتنی تھی؟

(A) 1000 (B) 2000
(C) 3000 (D) 4000

15. کس جنگ کے دوران مسلمان نشیبی اور دشمن اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے تیروں کی بوچھاڑ میں آ کر بھگدڑ کا شکار ہوگئے؟

(A) غزوہ حنین (B) غزوہ موتہ
(C) غزوہ خندق (D) غزوہ مریسیع

16. جنگ حنین میں جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تو کس نے دشمن کے سیلاب کو اپنے سفید خچر کے ذریعے روکنے کی کوشش کی؟

(A) نبی پاکؐ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت علیؓ (D) کوئی نہیں

17. غزوہ حنین میں کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑی اور آپ کو پیش قدمی سے روکے رکھا؟

(A) حضرت ابوسفیانؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

18. غزوہ حنین میں ہوازن کے آدھی رات کے حملے کے بعد آنحضورؐ نے کس کو پکارا؟

(A) مہاجرین (B) قریش
(C) انصار (D) اہل مکہ

19. غزوہ حنین میں مسلمانوں کے منتشر ہونے کے بعد آپؐ کتنے صحابہ کرامؓ کے ساتھ رہ گئے؟

(A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 9

20. "اے گروہ انصار! تم نے آنحضرت کو پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ اے مہاجرین! تم وہی تو ہو جنہوں نے درخت کے نیچے پیغمبرؐ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پیغمبر اسلام زندہ ہیں۔ ادھر آؤ"۔ غزوہ حنین میں یہ الفاظ کس نے کہے؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عباسؓ
(C) حضرت ابوبکرؓ (D) حضرت علیؓ

21. غزوہ حنین میں کتنے کافر قتل ہوئے؟

(A) 40 (B) 50
(C) 60 (D) 70

22. غزوہ حنین میں زندہ بچ جانے والے کافروں نے......

(A) کچھ نے طائف میں پناہ لی
(B) کچھ نے اوطاس میں پناہ لی
(C) کچھ مسلمانوں کے قیدی بنائے گئے
(D) تمام بیان درست ہیں

23. اوطاس میں پناہ گزین کافروں کی سرکوبی کے لئے نبی اکرمؐ نے کس صحابی کو روانہ کیا؟

(A) ابوعامر اشعریؓ (B) ابوعمرو اشعریؓ
(C) ابوعامر عبداللہؓ (D) ابوعمرو عبداللہؓ

24. غزوہ اوطاس میں مسلمانوں کے سپہ سالار ابوعامر اشعریؓ کو کس نے شہید کیا؟

(A) مسلمہ بن ولید ابن ولید
(B) مسلمہ بن ولید ابن صمہ
(C) مسلمہ بن ولید ابن ولید
(D) مسلمہ بن ولید ابن شیما

25. غزوہ اوطاس میں کافروں کے سپہ سالار سلمہ ابن ولید ابن صمہ کو کس نے قتل کیا؟

(A) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ
(B) حضرت علیؓ
(C) حضرت خالد بن ولیدؓ
(D) حضرت عثمانؓ

26. غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کتنے اونٹ مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئے؟

(A) 22,000 (B) 23,000
(C) 24,000 (D) 25,000

27. غزوہ اوطاس میں مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ______

(A) 40000 بکریاں حاصل ہوئیں
(B) 4000 اوقیہ چاندی حاصل ہوئیں
(C) 6000 بچے اور عورتیں حاصل ہوئیں
(D) تمام

28. آنحضورؐ کی کس رضاعی بہن کو غزوہ اوطاس میں جنگی قیدی بنالیا گیا؟

(A) شیماءبنت الحارث (B) شیماءبنت الحسن
(C) شیماءبنت الرحیق (D) شیماءبنت سفیان

29. غزوہ اوطاس میں حضرت ابو عامر اشعریؓ نے اپنے کتنے کافر بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا؟

(A) 2 (B) 4
(C) 7 (D) 9

30. کس جنگ میں مسلموں کی بدنظمی مسلمانوں کے انتشار کی وجہ بنی؟

(A) موتہ (B) تبوک
(C) اوطاس (D) حنین

31. غزوہ حنین میں آنحضورؐ کے کس عمل سے دشمن اندھا ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گیا؟

(A) انہوں نے خدا سے ان کے اندھے پن کی دعا کی تھی۔
(B) دشمن کی آنکھوں پر حملہ کیا گیا تھا۔
(C) انہوں نے دشمن کی طرف مٹھی بھر ریت پھینکی تھی۔
(D) ان میں سے کوئی نہیں۔

32. کس غزوہ کے مال غنیمت کو "مولفۃ القلوب" کہہ کر پکارا گیا؟

(A) غزوہ حنین (B) غزوہ موتہ
(C) غزوہ اوطاس (D) غزوہ طائف

33. غزوہ حنین میں مال غنیمت کی تقسیم مسلمانوں کے لئے کس طرح کی گئی تھی؟

(A) ہر ایک مسلمان کے لئے چار اونٹ اور چالیس بکریاں
(B) ہر ایک مسلمان کے لئے پانچ اونٹ اور پینتالیس بکریاں
(C) ہر ایک مسلمان کے لئے چھ اونٹ اور پچاس بکریاں
(D) ہر ایک مسلمان کے لئے سات اونٹ اور پچپن بکریاں

34. اس غیر مسلم کا نام بتائیں جس کو نبی اکرمؐ نے غزوہ حنین کے بعد اس کی توقعات سے بڑھ کر انعام و اکرام سے نوازا؟

(A) صفوان ابن امیہ (B) صفوان ابن عتبہ
(C) صفوان ابن سویق (D) صفوان ابن رحیق

35. کس غزوہ میں مسلمان اپنے دشمن کے مقابلے میں اکثریت میں تھے؟

(A) حنین (B) تبوک
(C) مکہ (D) طائف

36. اس غزوہ کا نام بتائیں جو عرب کے قبائل کے خلاف لڑا گیا؟

(A) تبوک (B) حنین
(C) الغبا (D) خیبر

37. ہوازن کے سربراہ مالک ابن عوف نے غزوہ حنین میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بعد کہاں پناہ لی؟

(A) طائف (B) سلاسل

(C) اوطاس (D) ان میں سے کوئی نہیں

38. غزوہ حنین کے بعد مسلمان فوج نے کہاں کا محاصرہ کیا؟

(A) طائف (B) اوطاس

(C) سلاسل (D) ان میں سے کوئی نہیں

39. طائف مکہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟

(A) 70 میل (B) 80 میل

(C) 90 میل (D) 100 میل

40. غزوہ طائف کس قبیلے کیخلاف لڑا گیا جس کا سپہ سالار مالک ابن عوف تھا؟

(A) بنوثعلبہ (B) بنی ثقیف

(C) بنوغبا (D) ان میں سے کوئی نہیں

41. کس جنگ میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ جنگی حرب منجنیق استعمال کی؟

(A) حنین (B) تبوک

(C) موتہ (D) طائف

42. مسلمانوں نے کتنے دنوں کے محاصرے کے بعد طائف فتح کیا؟

(A) 20دن (B) 25دن

(C) 30دن (D) 35دن

43. غزوہ طائف میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟

(A) 12 (B) 13

(C) 14 (D) 15

44. حضرت ابوبکرؓ کے اس بیٹے کا نام بتائیں جنہوں نے غزوہ طائف میں شہادت پائی؟

(A) عبداللہ بن ابوبکرؓ (B) عبدالرحمن بن ابوبکرؓ

(C) عثمان بن ابن ابوبکرؓ (D) عبداللہ بن ابوبکرؓ

45. غزوہ تبوک آنحضورؐ کا آخری غزوہ تھا کون سا غزوہ جیش العسرۃ کے نام سے جانا جاتا ہے؟(P.C.S.Judicial 2001)

(A) غزوہ بدر (B) غزوہ خندق

(C) غزوہ احد (D) غزوہ تبوک

46. غزوہ تبوک 9 ہجری کے کس مہینے میں وقوع پذیر ہوا؟

(A) رجب (B) شعبان

(C) رمضان (D) صفر

47. 9 ہجری میں کون سا واقعہ پیش آیا؟

(A) حجاز میں قحط (B) مدینہ میں پانی کی قلت

(C) دونوں درست ہیں (D) ان میں سے کوئی نہیں

48. قرآن پاک میں تبوک کی مہم کو کیا کہا گیا؟

(A) جیش العسرۃ (تنگی کا لشکر)

(B) افسردگی کا غزوہ

(C) عظیم غزوہ

(D) ان میں سے کوئی نہیں

49. کتنے مسلمان مدینہ سے نکل کر غزوہ تبوک کے لئے تبوک کے قریب خیمہ زن ہوئے؟

(A) 10,000 (B) 20,000

(C) 30,000 (D) 40,000

50. مسلمانوں نے تبوک میں کتنے دنوں تک قیام کیا؟

(A) 10دن (B) 20دن

(C) 30دن (D) 40دن

51. کس نے اپنی ساری جائیداد غزوہ تبوک کے لئے خیرات کردی؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ

(C) حضرت ابوبکرؓ (D) کوئی نہیں

52. اس غزوہ کا کیا نام ہے جس میں مسلمان بغیر لڑے واپس لوٹ آئے؟

(A) غزوہ موتہ (B) غزوہ حنین

(C) غزوہ تبوک (D) غزوہ خیبر

53. غزوہ تبوک کس کے خلاف لڑا گیا؟

(A) یہودیوں (B) رومیوں
(C) عیسائیوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

54. حضرت عثمانؓ نے غزوہ تبوک کیلئے کیا چیز دی جس کی وجہ سے وہ مجہز جیش عسرت (سامان مہیا کرنے والے) کہلاتے تھے؟
(A) ایک ہزار اونٹ (B) ایک سو گھوڑے
(C) سو دینار (D) b,a اور c تینوں

55. غزوہ تبوک کے لیے کتنے پیسے جمع کیے گئے؟
(A) ایک لاکھ درہم (B) 2 لاکھ درہم
(C) 3 لاکھ درہم (D) 4 لاکھ درہم

56. غزوہ مسلمانوں کے پاس غزوہ تبوک میں کتنے گھوڑے تھے؟
(A) 4000 (B) 7000
(C) 8000 (D) 10,000

57. منافقین سویلم کے گھر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کیلئے جمع ہوتے تھے۔ آنحضرتؐ نے اس گھر کو جلانے کا حکم کس صحابی کو دیا تھا؟
(A) جعفر ابن عبداللہ (B) طلحہ ابن عبداللہؓ
(C) زبیر ابن عبداللہؓ (D) حمزہ ابن عبداللہؓ

58. تبوک مدینہ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے؟
(A) 400 کلومیٹر (B) 430 کلومیٹر
(C) 465 کلومیٹر (D) 600 کلومیٹر

بقول گلدستہ 686 کلومیٹر شمال کی طرف

59. تبوک کس کے درمیان واقع ہے؟
(A) بصرہ اور مدینہ (B) دمشق اور مدینہ
(C) دمشق اور مکہ (D) مکہ اور مدینہ

60. غزوہ تبوک میں کس مقام پر پہنچ کر مسلمانوں کو علم ہوا کہ دشمن خوفزدہ ہو کر بھاگ چکا ہے؟
(A) تبوک (B) عائلہ
(C) دومۃ الجندل (D) کوئی نہیں

61. روم کی وادی عائلہ کے اس سردار کا نام بتائیں جس نے مسلمانوں کو جزیہ دینے کا مطالبہ بغیر لڑے قبول کر لیا؟
(A) یوحنا (B) ہرقل
(C) اکیدر (D) ان میں سے کوئی نہیں

62. اس صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے دومۃ الجندل کے سربراہ کو گرفتار کیا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت ابوبکرؓ
(C) حضرت خالد بن ولیدؓ (D) حضرت علیؓ

63. نبی پاکؐ کے حکم پر حضرت خالد ابن ولیدؓ نے دومۃ الجندل کو فتح کیا۔ دومۃ الجندل کی اہمیت کیا تھی؟ (P.C.S.1999)
(A) فوجی لحاظ سے اہم تھا
(B) مشہور بندرگاہ تھی
(C) زرخیز زمین تھی
(D) وہ راستے جو عراق، شام اور حجاز جاتے تھے انکا مرکز تھا۔

64. کون سی مسجد منافقین کا مرکز کہلاتی تھی؟
(A) ضرار (B) اوطاس
(C) طائف (D) ان میں سے کوئی نہیں

65. کس غزوہ سے واپسی پر آپؐ نے مسجد ضرار کو گرانے کا حکم دیا؟
(A) خندق (B) حنین
(C) تبوک (D) دومۃ الجندل

66. آنحضورؐ نے کس کو مسجد ضرار کو گرانے کیلئے بھیجا؟
(A) مالک ابن دخشمؓ (B) معنؓ ابن عدی
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی نہیں

67. غزوہ تبوک میں آنحضورؐ نے کس صحابی کو اہل بیت کی حفاظت کیلئے مامور کیا۔ جس پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم میرے لئے ویسا کہلانا پسند نہیں کرو گے جیسا کہ موسیٰ کیلئے ہارون تھے۔ اگرچہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت علیؓ

68. غزوہ تبوک میں ذرائع نقل وحمل کی قلت کی وجہ سے ہر سپاہی کے حصے میں کیا آیا؟

(A) 1اونٹ (B) 2اونٹ

(C) 3اونٹ (D) 4اونٹ

69. غزوہ تبوک کے وقت مسلمانوں کی سلطنت کا کل رقبہ کتنا تھا؟

(A) 10,0000 مربع میل (B) 500000 مربع میل

(C) 1500000 مربع میل (D) 2000000 مربع میل

70. کون سا ہجری سال عام الوفود کہلاتا ہے؟

(A) 4ہجری (B) 8ہجری

(C) 9ہجری (D) 10ہجری

71. قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟

(A) 28 (B) 20

(C) 17 (D) 12

72. رسول اکرم ﷺ کی قیادت میں آخری غزوہ کون سا تھا؟

(A) غزوہ حنین (B) غزوہ تبوک

(C) غزوہ خیبر (D) غزوہ فتح مکہ

73. غزوہ تبوک میں مجاہدین نبی کریم ﷺ کی قیادت میں کس کے خلاف نکلے؟

(A) روم (B) شام

(C) حبشہ (D) ایران

74. حضور ﷺ کی رضاعی بہن شیما کس غزوہ میں قیدی بن کر آئیں؟

(A) غزوہ تبوک (B) غزوہ حنین

(C) غزوہ احزاب (D) غزوہ بدر

75. رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالدؓ بن ولید کو کس موقع پر سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔

(A) غزوہ تبوک (B) غزوہ حنین

(C) سریہ موتہ (D) فتح مکہ

76. وہ کون سا آخری معرکہ تھا جس میں حضرت محمد ﷺ نے خود شرکت کی۔

(A) غزوہ حنین (B) فتح مکہ

(C) غزوہ تبوک (D) غزوہ موتہ

77. غزوہ کی تیاری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور ﷺ کے سامنے پیش کر دیا۔

(A) غزوہ تبوک (B) غزوہ بدر

(C) غزوہ احد (D) غزوہ حنین

78. غزوہ تبوک کس سن ہجری میں ہوا؟

(A) 5ہجری (B) 6ہجری

(C) 7ہجری (D) 9ہجری

جوابات

1. (C)	2. (A)	3. (A)	4. (B)	5. (A)	6. (C)	7. (A)	8. (B)
9. (C)	10. (B)	11. (A)	12. (B)	13. (B)	14. (B)	15. (A)	16. (A)
17. (A)	18. (C)	19. (C)	20. (B)	21. (D)	22. (D)	23. (A)	24. (B)
25. (A)	26. (A)	27. (D)	28. (A)	29. (D)	30. (D)	31. (C)	32. (A)
33. (A)	34. (A)	35. (A)	36. (B)	37. (A)	38. (A)	39. (A)	40. (B)
41. (D)	42. (A)	43. (A)	44. (A)	45. (D)	46. (A)	47. (C)	48. (A)
49. (C)	50. (B)	51. (C)	52. (C)	53. (B)	54. (D)	55. (B)	56. (D)
57. (B)	58. (D)	59. (B)	60. (A)	61. (A)	62. (C)	63. (D)	64. (A)
65. (C)	66. (C)	67. (D)	68. (A)	69. (A)	70. (C)	71. (D)	72. (B)
73. (A)	74. (B)	75. (C)	76. (C)	77. (A)	78. (D)		

مکہ

مکہ معظّمہ

1. قرآن مجید میں مکہ کا دوسرا نام لیا گیا ہے۔
(A) بکہ (B) مکرمہ
(C) معظمہ (D) منورہ

2. خانہ کعبہ کے قریب ترین پہاڑی ہے۔
(A) حرا (B) ثور
(C) صفا (D) مروہ

3. خانہ کعبہ کے قریب ترین پہاڑ ہے۔
(A) قیقعان (B) ابوقبیس
(C) نور (D) ثور

4. جس پہاڑ پر شق القمر کا معجزہ رونما ہوا۔
(A) ثور (B) حندی
(C) قیقعان (D) ابوقبیس

5. ام القریٰ کہلاتا ہے۔
(A) مدینہ (B) مکہ
(C) جدہ (D) طائف

6. شہر جو زمین کا ناف یعنی مرکز ہے۔
(A) جدہ (B) طائف
(C) مکہ (D) مدینہ

7. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی سمت ہے۔
(A) شمال (B) جنوب
(C) مشرق (D) مغرب

8. مکہ معظمہ کا طول بلد و عرض بلد ہے۔
(A) 21،42 (B) 21،40
(C) 20،40 (D) 22،44

9. خانہ کعبہ کے قریب ترین مسجد جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔
(A) مسجد نمرہ (B) مسجد رایہ
(C) مسجد جن (D) مسجد عائشہ

10. مکہ معظمہ کی سطح سمندر سے بلندی ہے۔
(A) 100 میٹر (B) 200 میٹر
(C) 300 میٹر (D) 400 میٹر

11. جبل ابوقبیس کی زمین سے بلندی ہے۔
(A) 400 میٹر (B) 500 میٹر
(C) 600 میٹر (D) 700 میٹر

12. جبل قیقعان کی بلندی ہے۔
(A) 100 میٹر (B) 200 میٹر
(C) 300 میٹر (D) 400 میٹر

13. جبل نور (حرا) کی بلندی ہے۔
(A) 500 میٹر (B) 600 میٹر
(C) 700 میٹر (D) 800 میٹر

14. جبل ثور کی بلندی ہے۔
(A) 550 میٹر (B) 650 میٹر
(C) 750 میٹر (D) 850 میٹر

15. مکہ کے مشہور پہاڑ جبل قیقعان کا دوسرا نام ہے۔
(A) جبل حندی (B) ابوقبیس
(C) ثور (D) نور

16. مکہ کے علاقے کا پرانا نام ہے۔

(A) عروض (B) تہامہ
(C) نجد (D) حجاز

17. مکہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ ہے۔
(A) 350 کلومیٹر (B) 400 کلومیٹر
(C) 450 کلومیٹر (D) 500 کلومیٹر

18. مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ دور ہے۔
(A) 275 میل (B) 300 میل
(C) 325 میل (D) 350 میل

19. حدیبیہ کا مکہ کے فاصلہ ہے۔
(A) 20 کلومیٹر (B) 25 کلومیٹر
(C) 30 کلومیٹر (D) 35 کلومیٹر

20. حدیبیہ کا موجودہ نام ہے۔
(A) صلاحیہ (B) بولیہ
(C) رضوانیہ (D) شمیسیہ

21. کافر جس کے مکان والی جگہ پر بیت الخلا بنادیے گئے ہیں۔
(A) ابولہب (B) ابوجہل
(C) عاص بن وائل (D) ولید بن مغیرہ

22. مکہ کا محلہ جہاں ترکوں کے محلات یا مکانات وغیرہ تھے۔
(A) جیاد (B) مسفلہ
(C) قشاشیہ (D) شامیہ

23. مکہ کے قریب وادی فاطمہ میں ام المومنین دفن ہیں۔
(A) حضرت خدیجہؓ (B) حضرت سودہؓ
(C) حضرت میمونہؓ (D) حضرت عائشہؓ

24. مکہ معظمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ ہے تقریباً
(A) 1200 کلومیٹر (B) 1300 کلومیٹر
(C) 1400 کلومیٹر (D) 1500 کلومیٹر

25. مکہ شہر کا مقدس قبرستان ہے۔
(A) جنت الفردوس (B) جنت النعیم
(C) جنت المعلیٰ (D) جنت البقیع

26. مکہ شہر محفوظ رہے گا۔
(A) سیلاب سے (B) بھونچال سے
(C) مال سے (D) دجال سے

27. ایک ساعت مکہ کی گرمی برداشت پر جہنم کی آگ جتنے سال کی ساعت پر دور ہو جاتی ہے۔
(A) 100 سال (B) 80 سال
(C) 60 سال (D) 40 سال

28. نبی جنہوں نے مکہ شہر آباد کیا۔
(A) حضرت اسحاقؑ (B) حضرت اسماعیلؑ
(C) حضرت موسیٰؑ (D) حضرت عیسیٰؑ

29. حضرت اسماعیلؑ کی پیدائش جتنے سال قبل مسیح ہوئی۔
(A) 500 سال (B) 1000 سال
(C) 1500 سال (D) 2000 سال

30. حضرت اسماعیلؑ کی عمر تھی۔
(A) 117 سال (B) 127 سال
(C) 137 سال (D) 147 سال

31. حضرت اسماعیلؑ کا لقب تھا۔
(A) صفی اللہ (B) ذبیح اللہ
(C) نجی اللہ (D) کلیم اللہ

32. حضرت اسماعیلؑ کی زبان تھی۔
(A) عبرانی (B) عربی
(C) سریانی (D) لاطینی

33. حضرت اسماعیلؑ کو قربانی کے لیے لٹایا گیا۔
(A) عکاظ میں (B) عرفات میں
(C) مزدلفہ میں (D) منیٰ میں

34. قبیلہ جس میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی۔
(A) بنی قریش (B) بنی کنانہ
(C) بنی جرہم (D) بنی خزاعہ

35. مکہ معظمہ کہلاتا ہے۔
(A) وادی صفا (B) وادی فاران
(C) وادی فاطمہ (D) وادی مروہ

36. قبیلہ جو مکہ معظمہ میں سب سے پہلے آباد ہوا۔
(A) بنوجرہم (B) بنوقریش
(C) بنوثقیف (D) بنوخزرج

37. حضرت اسماعیلؑ کا وصال ہوا تقریباً قبل مسیح
(A) 1937ق م (B) 1947ق م
(C) 1959ق م (D) 1987ق م

38. حضرت یوسفؑ کے خریدار جس نبیؑ کی اولاد تھے۔
(A) حضرت ہودؑ (B) حضرت اسحاقؑ
(C) حضرت اسماعیلؑ (D) حضرت صالحؑ

39. قریش کے شوریٰ ہال کا تعمیر کنندہ تھا۔
(A) فہر (B) قصی
(C) غالب (D) مالک

40. قصی کا زمانہ حضور علیہ السلام سے پہلے تھا تقریباً
(A) 150 سال (B) 250 سال
(C) 350 سال (D) 450 سال

41. ہاشم کے لفظی معنی ہے چوُرا کرنے والا
(A) کھجور کا (B) چاول کا
(C) روٹی کا (D) گوشت کا

42. نامور شخصیت جس نے مکہ میں سال میں دو تجارتی سفر رائج کیے۔
(A) ہاشم (B) عبدالمطلب
(C) عبداللہ (D) عبدمناف

43. آپ ﷺ کے دادا عبدالمطلب کا اصل نام تھا۔
(A) عتبہ (B) شیبہ
(C) مطلب (D) طالب

44. آپ ﷺ کی پردادی سلمٰی کا قبیلہ تھا۔
(A) بنواسد (B) بنوزہرہ
(C) بنونجار (D) بنوامیہ

45. جنگ جس کے فوراً بعد معاہدہ حلف الفضول طے پایا۔
(A) جنگ بدر (B) جنگ احد
(C) جنگ احزاب (D) جنگ فجار

46. شق القمر کا معجزہ انڈیا کے جس راجہ نے بھی دیکھا تھا۔
(A) راجہ ملیبار (B) راجہ پٹیالہ
(C) راجہ گجرات (D) راجہ جے پور

47. فتح مکہ کے بعد جس صحابیؓ کو امیر مکہ بنایا گیا تھا۔
(A) حضرت معاذؓ (B) حضرت عتابؓ
(C) حضرت عباسؓ (D) حضرت ابوسفیانؓ

48. مکہ میں حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام جس قبیلے کے ذمہ تھا۔
(A) بنی امیہ (B) بنی عدی
(C) بنی مخزوم (D) بنی ہاشم

49. جعرانہ کا مکہ سے فاصلہ ہے۔
(A) 14 میل (B) 16 میل
(C) 18 میل (D) 20 میل

50. عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔
(A) منیٰ (B) مزدلفہ
(C) عرفات (D) جعرانہ

51. محلہ مسفلہ میں مسجد جہاں سے حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی۔
(A) مسجد جن (B) مسجد صدیق
(C) مسجد عائشہ (D) مسجد رایہ

52. مسجد جہاں فتح مکہ والے دن حضور علیہ السلام نے اپنا جھنڈا نصب فرمایا تھا۔
(A) مسجد رایہ (B) مسجد عائشہ
(C) مسجد جن (D) مسجد صدیق

53. میدان منیٰ میں مسجد کا نام ہے۔
(A) صدیق (B) مشعر الحرام
(C) نمرہ (D) خیف

54. مزدلفہ میں مسجد ہے۔
(A) جن (B) مشعر الحرام
(C) نمرہ (D) خیف

55. عرفات میں مسجد ہے۔
(A) عائشہ (B) مشعر الحرام
(C) نمرہ (D) خیف

56. مسجد خیف میں جتنے انبیاء کرام نے نماز پڑھی۔
(A) 70 (B) 60
(C) 50 (D) 40

57. حضرت اسمٰعیل کے ذبح کی جگہ پر مسجد ہے۔
(A) مسجد نمرہ (B) مسجد مشعر الحرام
(C) مسجد خیف (D) مسجد کبش

58. مسجد کبش جس پہاڑ کے دامن میں ہے۔
(A) جبل ثور (B) جبل ثبیر
(C) جبل نور (D) جب ابوقبیس

59. جبل حرا کے مقابل پہاڑ کا نام ہے۔
(A) جبل ابوقبیس (B) جبل ثور
(C) جبل ثبیر (D) ذوالقعان

60. زمین پر سب سے پہلا پہاڑ بنایا گیا۔
(A) جبل ابوقبیس (B) جبل حرا
(C) جبل احد (D) جبل طور

61. غار ثور کی لمبائی ہے۔
(A) 12 فٹ (B) 13 فٹ
(C) 14 فٹ (D) 15 فٹ

62. پہاڑ جس کے دامن میں شعب علی یعنی شعب بنی ہاشم ہے۔
(A) جبل خندمہ (B) جبل ثور
(C) جبل نور (D) جبل ثبیر

63. جبل خندمہ کے دامن میں جتنے انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔
(A) 50 (B) 60
(C) 70 (D) 80

64. نبی علیہ السلام فتح مکہ کے روز جس راستہ سے شہر میں داخل ہوئے۔
(A) جبل ثور (B) جبل نور
(C) جبل خندمہ (D) جبل حجون

65. جبل نور کی چوٹی پر واقع غار ہے۔
(A) حرا (B) ثور
(C) خندمہ (D) ثبیر

66. میدان عرفات کے مشرق میں واقع پہاڑی ہے۔
(A) جبل صفا (B) جبل رحمت
(C) جبل مروہ (D) جبل نور

67. وادی جس سے نہر زبیدہ نکالی گئی۔
(A) وادی عامر (B) وادی عقیق
(C) وادی حنین (D) وادی فاطمہ

68. مکہ مکرمہ سے وادی حنین کا فاصلہ ہے۔
(A) 35 کلومیٹر (B) 30 کلومیٹر
(C) 25 کلومیٹر (D) 20 کلومیٹر

69. ملکہ زبیدہ کا اصل نام تھا۔
(A) ام امین (B) ام مامون
(C) امۃ الخالد (D) امۃ العزیز

70. ظہور اسلام کے بعد پہلا تباہ کن سیلاب آیا۔

(A) 16ھ (B) 17ھ

(C) 18ھ (D) 19ھ

71. خلیفہ جس نے شعیبہ کی جگہ جدہ کو بندرگاہ بنایا۔

(A) خلیفہ اوّل (B) خلیفہ دوم

(C) خلیفہ سوم (D) خلیفہ چہارم

72. میدان عرفات کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔

(A) 1.5 × 1.5 میل (B) 1 × 1 میل

(C) 2.5 × 2.5 میل (D) 2 × 2 میل

جوابات

1. (A)	2. (C)	3. (B)	4. (D)	5. (B)	6. (C)	7. (A)	8. (B)
9. (D)	10. (C)	11. (A)	12. (D)	13. (B)	14. (C)	15. (A)	16. (D)
17. (C)	18. (A)	19. (B)	20. (D)	21. (B)	22. (A)	23. (C)	24. (D)
25. (C)	26. (D)	27. (A)	28. (B)	29. (D)	30. (C)	31. (B)	32. (A)
33. (D)	34. (C)	35. (B)	36. (A)	37. (A)	38. (C)	39. (B)	40. (D)
41. (C)	42. (A)	43. (B)	44. (C)	45. (D)	46. (A)	47. (B)	48. (D)
49. (C)	50. (D)	51. (B)	52. (A)	53. (D)	54. (B)	55. (C)	56. (A)
57. (D)	58. (B)	59. (C)	60. (A)	61. (B)	62. (A)	63. (C)	64. (D)
65. (A)	66. (B)	67. (C)	68. (A)	69. (D)	70. (B)	71. (C)	72. (D)

یہ ٹاپک پرانے ایڈیشن میں نہیں ہے

مسجد نبوی

1. تاریخ اسلام کی دوسری مسجد ہے۔
(A) مسجد اقصیٰ　(B) مسجد حرام
(C) مسجد قبا　(D) مسجد نبوی

2. مسجد جہاں نماز پڑھنے کا ثواب 50 ہزار نمازوں کے برابر ہے۔
(A) مسجد قبا　(B) مسجد نبوی
(C) مسجد حرام　(D) مسجد اقصیٰ

3. مساجد جن کی زیارت کی اجازت ہے۔
(A) 1　(B) 2
(C) 3　(D) 4

4. مسجد نبوی کی جگہ ملکیت تھی۔
(A) سہل و سہیل کی　(B) ابوایوبؓ انصاری کی
(C) سعدؓ بن معاذ کی　(D) سعدؓ بن عبادہ کی

5. مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔
(A) محرم 1ھ　(B) ربیع الاول 1ھ
(C) محرم 2ھ　(D) ربیع الاول 2ھ

6. مسجد نبوی کی پہلی تعمیر میں دروازے تھے۔
(A) چھ　(B) پانچ
(C) چار　(D) تین

7. مسجد نبوی کی لمبائی × چوڑائی تھی۔
(A) 60 × 60 ہاتھ　(B) 80 × 80 ہاتھ
(C) 100 × 100 ہاتھ　(D) 120 × 120 ہاتھ

8. تعمیر مسجد نبوی کے وقت امہات المومنین کے لیے حجرے بنائے گئے۔
(A) 1　(B) 2
(C) 3　(D) 4

9. ازواج مطہرات کے حجروں کی لمبائی چوڑائی تھی۔
(A) 15 × 10 فٹ　(B) 14 × 9 فٹ
(C) 13 × 8 فٹ　(D) 12 × 7 فٹ

10. صحابیؓ جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے سب سے پہلے منبر پیش کیا۔
(A) کلثومؓ بن الہدم　(B) اسعدؓ بن زرارہ
(C) تمیمؓ داری　(D) ابوایوبؓ انصاری

11. حدیث کی رو سے مسجد نبوی میں کتنی نمازیں پڑھنے والا جہنم سے بری ہے۔
(A) 25　(B) 30
(C) 35　(D) 40

12. مسجد نبوی کے صحن میں بنائے گئے چھت دار چبوترے کا نام تھا۔
(A) صفہ　(B) ریاض الجنۃ
(C) گنبد خضریٰ　(D) مواجہ شریف

13. مسجد نبوی میں پہلی توسیع ہوئی۔
(A) 6ھ　(B) 7ھ
(C) 8ھ　(D) 9ھ

14. مسجد نبوی کا دروازہ جس کے پاس روضہ مبارک ہے۔
(A) باب عزرائیل　(B) باب اسرائیل
(C) باب میکائیل　(D) باب جبرائیل

15. مدینہ کا پرانا نام یثرب بدل کر رکھا گیا۔
(A) مدینۃ النبی ﷺ　(B) مدینۃ الرسول
(C) مدینہ منورہ　(D) مدینہ شریف

16. مسجد نبوی میں حضور ﷺ کے ساتھ صحابہؓ مدفون ہیں۔
(A) خلیفہ اول و چہارم　(B) خلیفہ اول و دوم

(C) خلیفہ اول و دوم (D) خلیفہ دوم و سوم

17. پہلی نماز جو تبدیلی قبلہ کے بعد مسجد نبوی میں ادا کی گئی۔
(A) عصر (B) مغرب
(C) عشاء (D) ظہر

18. مسجد نبوی میں سب سے پہلے مینار اور محراب ولید بن عبدالملک کے حکم سے بنوائے۔
(A) عبداللہؓ بن زبیر نے (B) عبداللہؓ بن عباس نے
(C) عبداللہؓ بن عمر نے (D) عمر بن عبدالعزیز نے

19. روضہ رسول کے گنبد پر پہلی بار سبز رنگ لگوایا گیا۔
(A) 1251ھ (B) 1253ھ
(C) 1255ھ (D) 1257ھ

20. مسجد نبوی میں سب سے پہلے اذان دینے والے صحابی تھے۔
(A) حضرت زیدؓ (B) حضرت حسانؓ
(C) حضرت بلالؓ (D) حضرت سلیمانؓ

21. مسجد نبوی کے ساتھ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے خیمہ تھا۔
(A) ام عمارۃؓ کا (B) ام رفیدہؓ کا
(C) ام سلیمؓ کا (D) ام معبدؓ کا

22. حضورؐ کے روضہ پر پہلی بار گنبد تعمیر کیا گیا۔
(A) 672ھ (B) 674ھ
(C) 676ھ (D) 678ھ

23. مسجد نبوی میں سب سے پہلے روشنی کا انتظام کیا۔
(A) تمیم داریؓ (B) ابوطلحہؓ
(C) ابوایوبؓ (D) ابوعبیدہؓ

24. مسجد نبوی میں سب سے پہلے روشنی کا انتظام ہوا۔
(A) 7ھ (B) 8ھ
(C) 9ھ (D) 10ھ

25. مسجد نبوی کی متحرک چھتریاں جس نو مسلم انجینئر کی ڈیزائن کردہ ہیں۔
(A) جاپانی (B) چینی
(C) اطالوی (D) جرمن

26. مسجد نبوی کی تعمیر میں ایک کی بجائے دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے۔
(A) حضرت بلالؓ (B) حضرت عمارؓ
(C) حضرت سلیمانؓ (D) حضرت ابوذرؓ

27. دور رسالت میں مسجد نبوی کی تعمیر ثانی میں رقبہ تھا۔
(A) 130' × 130' (B) 140' × 140'
(C) 150' × 150' (D) 160' × 160'

28. دور فاروقی میں توسیع سے مسجد نبوی کے دروازے ہو گئے۔
(A) 6 (B) 5
(C) 4 (D) 3

29. حضرت .... اور منبر کے درمیان جگہ کہلاتی ہے۔
(A) محراب نبوی (B) محراب عثمانی
(C) صفہ (D) ریاض الجنۃ

30. ریاض الجنۃ کا طول اور عرض ہے۔
(A) 11 × 18 میٹر (B) 13 × 20 میٹر
(C) 15 × 22 میٹر (D) 17 × 24 میٹر

31. ریاض الجنۃ میں ستون ہیں۔
(A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) 10

32. خلیفہ جس نے پہلی بار مسجد نبوی کو شاندار طریقے سے بنوایا۔
(A) ولید بن عبدالملک (B) عبداللہؓ بن زبیر
(C) عبدالملک بن مروان (D) سلیمان بن عبدالملک

33. مسجد نبوی میں پہلی بار آگ لگی۔
(A) 651ھ (B) 652ھ
(C) 653ھ (D) 654ھ

34. کسی غلطی پر خود کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھنے والے صحابی تھے۔
(A) ابوزرارہؓ (B) ابولبابہؓ
(C) ابومنذرؓ (D) ابوذرؓ

35. خلیفہ دوم نے جس صحابیؓ سے مکان خرید کر مسجد میں شامل کیا۔
(A) حضرت ابوایوبؓ (B) حضرت حمزہؓ
(C) حضرت عباسؓ (D) حضرت حسانؓ

36. مسجد نبوی میں پہلی بار توسیع کروائی۔
(A) حضور علیہ السلام (B) خلیفہ اول
(C) خلیفہ دوم (D) خلیفہ سوم

37. حضور علیہ السلام کو غسل دینے میں صحابہ کرام شامل تھے۔
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

38. جس کنویں سے حضورﷺ کو غسل دیا گیا۔
(A) بیر عثمان (B) بیر روما
(C) بیر اریس (D) بیر غرس

39. کنواں جسے آپ نے جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ قرار دیا تھا۔
(A) بیر غرس (B) بیر اویس
(C) بیر علی (D) بیر عثمان

40. بیر غرس واقع تھا۔
(A) عقیق (B) قبا
(C) احد (D) بدر

41. آپﷺ کی قبر مبارک کھودی۔
(A) ابوعبیدہؓ (B) زیدؓ بن حارثہ
(C) بلالؓ (D) ابوطلحہؓ

42. سب سے پہلے جنازہ پڑھا۔
(A) صحابہؓ نے (B) صحابیاتؓ نے
(C) فرشتوں نے (D) غلاموں نے

43. روضہ رسولؐ میں قرب قیامت دفن ہوں گے۔
(A) حضرت عیسیٰؑ (B) حضرت خضرؑ
(C) حضرت ادریسؑ (D) حضرت امام مہدی

44. روضہ رسولﷺ کی اندرونی دیوار ہے۔
(A) چارگوشہ (B) پنج گوشہ
(C) ہفت گوشہ (D) ہشت گوشہ

45. اندرونی دیوار بنوائی۔
(A) عبداللہ بن زبیر (B) عمرؒ بن عبدالعزیز
(C) عمر فاروقؓ (D) عثمان غنیؓ

46. روضہ انور میں نقب لگانے والے عیسائیوں کا تعلق تھا۔
(A) برطانیہ سے (B) فرانس سے
(C) سپین سے (D) اٹلی سے

47. روضہ انور میں نقب زنی کی مذموم سازش کو ناکام بنایا۔
(A) نورالدین زنگی (B) صلاح الدین ایوبی
(C) عمرؒ بن عبدالعزیز (D) ارطغرل غازی

48. روضہ انور میں بدبخت غیر مسلموں نے نقب زنی کی کوشش کی۔
(A) 551ھ (B) 553ھ
(C) 555ھ (D) 557ھ

جوابات

1. (D)	2. (B)	3. (C)	4. (A)	5. (B)	6. (D)	7. (C)	8. (B)
9. (A)	10. (C)	11. (D)	12. (A)	13. (B)	14. (D)	15. (A)	16. (C)
17. (A)	18. (D)	19. (B)	20. (C)	21. (B)	22. (D)	23. (A)	24. (C)
25. (D)	26. (B)	27. (C)	28. (A)	29. (D)	30. (C)	31. (B)	32. (A)
33. (D)	34. (B)	35. (C)	36. (A)	37. (C)	38. (D)	39. (A)	40. (B)
41. (D)	42. (C)	43. (A)	44. (B)	45. (B)	46. (C)	47. (A)	48. (D)

سرایا/سریہ

1. نبی پاک ﷺ کی زندگی میں لڑی جانے والی وہ جنگ جس میں مسلمان فوجوں نے نبی پاک ﷺ کے بغیر کسی اور کی سپہ سالاری میں حصہ لیا کیا کہلاتی ہے؟
(A) غزوہ (B) سریہ
(C) مہم جوئی (D) ان میں کوئی بھی نہیں

2. اپنی زندگی میں نبی پاک ﷺ نے کتنے سرایہ روانہ کیے؟
(A) 60 (B) 56
(C) 64 (D) 70

3. پہلے سریہ کا نام بتائیں؟
(A) سریہ عبیدہ بن حارثؓ (B) سریہ اسامہ ابن زیدؓ
(C) سریہ حمزہ بن عبدالمطلبؓ (D) سریہ سعد ابن وقاصؓ

4. پہلا سریہ کس مقام پر لڑا گیا؟
(A) طائف (B) سلاسل
(C) رباقہ (D) قاہرہ

5. پہلا سریہ کس سال لڑا گیا؟
(A) 1 ہجری (B) 2 ہجری
(C) 3 ہجری (D) 4 ہجری

6. درج ذیل میں سے کون سا سریہ پہلی ہجری میں لڑا گیا؟
(A) سریہ عبیدہ ابن حارثؓ (B) سریہ سعد ابن وقاصؓ
(C) b'a دونوں
(D) b'a میں سے کوئی بھی نہیں

7. درج ذیل میں سے کون سا سریہ 2 ہجری میں بھیجا گیا؟
(A) سریہ عبدالرحمن ابن جحشؓ (B) سریہ عمر ابن عابدیؓ
(C) سریہ سالم ابن عمیرؓ (D) c'b'a تینوں

8. 3 ہجری میں سریہ ______
(A) محمد ابن مسلمہ انصاری لڑا گیا
(B) زید ابن حارثؓ لڑا گیا
(c) b'a دونوں
(d) b'a میں سے کوئی بھی نہیں

9. سریہ عبدا... نیس؟ ابو سلمہ ابن ابوالاسد منذر ابن عمروؓ اور مرثدؓ ابن ابی مرثد کب لڑے گئے؟
(A) 2 ہجری (B) 3 ہجری
(c) 4 ہجری (d) 5 ہجری

10. مندرجہ ذیل میں کون سا سریہ 5 ہجری میں لڑا گیا؟
(A) سریہ عمر فاروق (B) سریہ بشیر ابن سعدؓ
(C) محمد ابن مسلمہ انصاریؓ
(D) عکاشہ ابن مسلمہ انصاریؓ

11. 6 ہجری میں جو سریہ لڑا گیا وہ تھا۔
(A) عکاشہ ابن مسلمہ انصاریؓ اور محمد ابن مسلمہ انصاریؓ
(B) ابوعبیدہ ابن جراحؓ، زید بن حارثؓ اور عمرو بن امیہؓ
(C) عبدالرحمن بن عوفؓ، عبداللہ ابن رواحہؓ اور کرز ابن جابرؓ
(D) تمام

12. 7 ہجری میں لڑے گئے سریے کے نام بتائیں؟
(A) سریہ عمر فاروقؓ اور سریہ ابوبکر صدیق
(B) سریہ بشیر ابن سعدؓ اور سریہ ابن ابی العوجیہؓ
(C) غالب ابن عبداللہ
(D) c'b'a تینوں

13. 7 ہجری میں بنی کلاب میں لڑے جانے والے سریہ کے سپہ سالار کا نام بتائیں؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

14. طربہ کے مقام پر 7 ہجری میں لڑے جانے والے سریہ کے سپہ سالار کا نام بتائیں؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت عثمانؓ

15. 6 ہجری کو بنی سلام میں لڑے جانے والے سریہ کے سپہ سالار کا نام بتائیں؟

(A) حضرت ابوعبیدہ ابن جراحؓ
(B) حضرت خالد ابن ولیدؓ
(C) حضرت ابوقتادہ ابن ربیع
(D) حضرت محمد ابن انصاریؓ

16. درج ذیل میں سے کون سا سریہ 6 ہجری کو الجندل کے مقام پر لڑا گیا؟

(A) سریہ زید ابن حارثؓ
(B) سریہ عبدالرحمٰن ابن عوفؓ
(C) b'a دونوں
(D) b'a میں سے کوئی بھی نہیں

17. درج ذیل میں سے کون سا سریہ بنو سلیم کے ساتھ لڑا گیا؟

(A) 6 ہجری میں سریہ ابوعبیدہ ابن جراح
(B) 7 ہجری میں سریہ ابن ابی العوجہ اسلمیؓ
(C) b'a دونوں
(D) b'a دونوں میں کوئی بھی نہیں

18. حضرت زید ابن حارثؓ سپہ سالار تھے ان سریہ کے جو کہ ....

(A) العیس اور الطائف کے مقام پر لڑے گئے
(B) حسمہ اور الاقراء کے مقام پر لڑے گئے
(C) الجند اور القراء کے مقام پر لڑے گئے
(D) c' b' a تینوں

19. علاقہ جزیرہ اور نجران کے علاقوں میں لڑے جانے والے سریہ کے سپہ سالار کا نام بتائیں؟

(A) حضرت ابوقتادہ ابن ربیعؓ (B) حضرت خالد ابن ولیدؓ
(C) عمرو ابن العاصؓ (D) محمد ابن سلمہؓ

20. حضرت ابوقتادہ ابن ربیع سپہ سالار تھے اس سریہ کے جو کہ ....

(A) حزیرہ کے مقام پر لڑا گیا
(B) بطن العظم کے مقام پر لڑا گیا
(C) b'a دونوں
(D) b'a دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

21. کب سریہ غالب ابن عبداللہؓ شجاع ابن وھب اسدیؓ کعب ابن عمیر غفاریؓ موت الخبط ابوقتادہ ابن ربیعؓ خالد ابن ولیدؓ عمرو ابن عاصؓ سعد ابن زیدؓ الاشہلی اور طفیل ابن عمروؓ لڑے گئے؟

(A) 8 ہجری (B) 9 ہجری
(C) 10 ہجری (D) 11 ہجری

22. حضرت عمرو ابن عاصؓ سپہ سالار تھے اس سریہ کے جو کہ 8 ہجری میں ....

(A) سواع کے مقام پر لڑا گیا
(B) ذات السلاسل کے مقام پر لڑا گیا
(C) b'a دونوں
(d) b'a دونوں نہیں

23. سلاسل سے کیا مراد ہے؟

(A) کنواں (B) ندی
(C) نہر (D) پہاڑ

24. درج ذیل میں سے کون سا سریہ 9 ہجری میں لڑا گیا؟

(A) عیدا ابن حسنؓ اور قبیصہ ابن عامرؓ
(B) زاھق ابن سفیانؓ اور علقمہ ابن معاذؓ
(C) علی ابن ابی طالبؓ اور عکاشہ ابن محصن
(D) c'b'a تینوں

25. حضرت علیؓ سپہ سالار تھے اس سریہ کے جو..........
(A) بنی سعد میں لڑا گیا (B) بنی بکر میں لڑا گیا
(C) یمن میں لڑا گیا (D) c'b'a تینوں

26. 9 ہجری میں سریہ علیؓ یمن روانہ کیا گیا اس وقت یمن کا بادشاہ کون تھا؟
(A) زید ابن حاتم (B) عدی ابن حاتم
(C) b'a دونوں
(D) b'a دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

27. کس سریہ میں ایک عورت بھی گرفتار ہوئی جسے عزت واحترام سے واپس بھیج دیا گیا؟
(A) سریہ خالد بن ولیدؓ (B) سریہ علیؓ
(C) سریہ عمرؓ (D) کوئی نہیں

28. سریہ علی میں عورت کی عزت واحترام سے واپسی کو دیکھ کر کس بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا تھا؟
(A) عدی ابن حاتم (B) زید ابن حاتم
(C) حارث ابن حاتم (D) کسی نے بھی نہیں

29. ''خدا کی قسم وہ وقت قریب ہے جب ایک بوڑھی عورت قادسیہ سے مکہ تک اکیلی سفر کرے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا اور خدا کی قسم جلد ہی سنو گے کہ مسلمانوں نے بابل کے محلات فتح کر لئے ہیں'' یہ الفاظ نبی اکرم ﷺ نے کس سے کہے تھے؟
(A) ابوسفیان (B) عدی ابن حاتم
(c) ابوجہل (D) زید ابن حاتم

30. حضرت محمد ابن مسلمہ سپہ سالار تھے اس سریہ کہ جو کہ..........
(A) کعب ابن اشرف پر لڑا گیا
(B) قرطاء کے مقام پر لڑا گیا
(C) ذی القصیٰ کے مقام پر لڑا گیا
(D) c'b'a تینوں

31. 6 ہجری کو الجندل کے مقام پر لڑے جانے والے سریہ کے سپہ سالار کا نام بتائیں
(A) حضرت محمد ابن مسلمہ انصاریؓ
(B) حضرت خالد ابن ولیدؓ
(C) حضرت عبدالرحمٰنؓ ابن عوف
(D) ابوعبیدہ ابن جراحؓ

32. درج ذیل میں سے کونسا سریہ یمن میں لڑا گیا؟
(A) سریہ حضرت علیؓ ابن ابی طالب
(B) سریہ حضرت بشیر ابن سعدؓ
(C) b'a دونوں
(D) b'a دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

33. درج ذیل میں سے کون سا سریہ شام میں لڑا گیا؟
(A) حضرت عبیدہ ابن حارثؓ
(B) حضرت اسامہ ابن زیدؓ
(C) حضرت منذر ابن عمروؓ
(D) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ

34. نبی پاک ﷺ کی زندگی میں بھیجے جانے والے آخری سریہ کے سالار کا نام بتائیں؟
(A) حضرت زید ابن حارثؓ
(B) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ
(C) حضرت اسامہ ابن زیدؓ (D) منذر ابن عمروؓ

35. نبی پاک ﷺ کی زندگی میں بھیجا جانے والا آخری سریہ کہاں لڑا گیا؟
(A) شام (B) یمن
(C) مصر (D) اردن

36. آخری سریہ کب لڑا گیا؟
(A) 9 ہجری (B) 10 ہجری میں
(C) 11 ہجری میں (D) 12 ہجری میں

37. تیونس اور مراکش کی فتح نے مسلمانوں کے لیے سپین پر حملے کا راستہ ہموار کیا یہ راستہ کب ہموار ہوا؟
(A) حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں
(B) حضرت امیر معاویہؓ کے دور خلافت میں

(C) عبدالملک ابن مروانؒ کے دورِ خلافت میں

(D) ولید ابن عبدالملکؒ کے دورِ خلافت میں

38. جنگ موتہ میں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کن کو بنایا گیا؟

(A) حضرت خالد بن ولیدؓ

(B) حضرت زید بن حارثہؓ

(C) حضرت جعفر طیار

(D) حضرت سعد بن ابی وقاص

39. حضرت خالد بن ولیدؓ کو کس جنگ میں سیف اللہ کا لقب ملا؟

(A) غزوہ حنین (B) سریہ موتہ

(C) غزوہ تبوک (D) جنگ صفین

جوابات

1. (B)	2. (B)	3. (C)	4. (C)	5. (A)	6. (C)	7. (D)	8. (C)
9. (C)	10. (C)	11. (D)	12. (D)	13. (A)	14. (C)	15. (A)	16. (B)
17. (C)	18. (D)	19. (B)	20. (C)	21. (A)	22. (C)	23. (A)	24. (D)
25. (D)	26. (B)	27. (B)	28. (A)	29. (B)	30. (D)	31. (C)	32. (C)
33. (B)	34. (C)	35. (A)	36. (C)	37. (D)	38. (B)	39. (B)	

اسمائے حسنیٰ

1. الرحمٰن کے کیا معنی ہیں؟
(A) بڑے صبر والا (B) رہنما
(C) بادشاہ (D) رحم کرنے والا

2. الرحیم کسے کہتے ہیں؟
(A) بڑا رحم کرنے والا (B) وارث
(C) بادشاہ (D) زبردست

3. الملک کا کیا مطلب ہے؟
(A) راہ دکھانے والا (B) رہنما
(C) بادشاہ
(D) بخشش اور سخاوت کرنے والا

4. القدوس کی تعریف کریں۔
(A) رزق دینے والا (B) منع کرنے والا
(C) بڑے صبر والا (D) پاک

5. السلام کے کیا معنی ہیں؟
(A) بادشاہ (B) رہنما
(C) امن اور سلامتی کا سرچشمہ (D) اکیلا

6. المومن کسے کہتے ہیں؟
(A) امن دینے والا (B) باطن
(C) بنانے والا (D) بڑی محبت کرنے والا

7. المہیمن کا کیا مطلب ہے؟
(A) امن دینے والا (B) رہنما
(C) نگہبان (D) زبردست

8. العزیز کی تعریف کریں۔
(A) بڑے صبر والا (B) بڑی محبت کرنے والا
(C) بڑا بردبار (D) غالب بڑے اقتدار والا

9. الجبار کے کیا معنی ہیں؟
(A) امن دینے والا (B) غالب بڑے اقتدار والا
(C) بے پروا (D) زبردست غلبہ رکھنے والا

10. المتکبر کسے کہتے ہیں؟
(A) عظمت اور کبریائی کا سرچشمہ
(B) ہر شے پر قبضہ رکھنے والا
(C) بادشاہ (D) بے پروا

11. الخالق کا کیا مطلب ہے؟
(A) امن دینے والا (B) بڑے صبر والا
(C) پیدا کرنے والا (D) رہنما

12. الباری کی تعریف کریں۔
(A) بہت مہربان (B) قدرت والا
(C) بادشاہ (D) بنانے والا

13. المصور کے کیا معنی ہیں؟
(A) صورت گری کرنے والا (B) غالب بڑے اقتدار والا
(C) امن دینے والا (D) صورت گری کرنے والا

14. الغفار کسے کہتے ہیں؟
(A) بڑا درگزر کرنے والا (B) بڑے صبر والا
(C) مشکلوں کا حل کرنے والا (D) بڑا شمار کنندہ

15. القہار کا کیا مطلب ہے؟
(A) راہ دکھانے والا (B) اکیلا
(C) زبردست (D) رہنما

16. الوھاب کی تعریف کریں۔
(A) امن دینے والا (B) وارث
(C) رزق دینے والا

(D) بخشش اور سخاوت کرنے والا

17. الرزاق کے کیا معنی ہیں؟
(A) ملکوں کا مالک
(B) عظمت اور کبریائی کا سرچشمہ
(C) امن دینے والا (D) رزق دینے والا

18. الفتاح کے کہتے ہیں؟
(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) منع کرنے والا
(C) ہر شے پر قبضہ رکھنے والا (D) رہنما

19. العلیم کا کیا مطلب ہے؟
(A) بڑا بردبار (B) زبردست
(C) ہر چیز کا جاننے والا (D) بڑی محبت کرنے والا

20. القابض کی تعریف کریں۔
(A) رہنما۔ (B) بنانے والا
(C) بے پروا (D) ہر شے پر قبضہ رکھنے والا

21. الباسط کے کیا معنی ہیں؟
(A) صورت گری کرنے والا (B) بادشاہ
(C) امن دینے والا (D) کثرت سے دینے والا

22. الخافض کے کہتے ہیں؟
(A) پست کرنے والا (B) بڑے صبر والا
(C) نور (D) کثرت سے دینے والا

23. الرافع کا کیا مطلب ہے؟
(A) راہ دکھانے والا (B) اکیلا
(C) جو بلندیاں عطا کرتا ہے (D) رہنما

24. المعز کی تعریف کریں۔
(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) وارث
(C) جو بلندیاں عطا کرتا ہے (D) عزت دینے والا

25. المذل کے کیا معنی ہیں؟
(A) ضرر پہنچانے والا (B) بڑے صبر والا
(C) ذلت دینے والا (D) اکیلا

26. السمیع کے کہتے ہیں؟
(A) ہر چیز سننے والا
(B) عظمت اور کبریائی کا سرچشمہ
(C) رہنما (D) زبردست

27. البصیر کے کیا معنی ہیں؟
(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) ضرر پہنچانے والا
(C) صورت گری کرنے والا (D) ہر چیز دیکھنے والا

28. الحکم کے کہتے ہیں؟
(A) فیصلہ کرنے والا (B) بادشاہ
(C) راہ دکھانے والا (D) قدرت والا

29. العدل کا کیا مطلب ہے؟
(A) رزق دینے والا (B) منع کرنے والا
(C) انصاف (D) کثرت سے دینے والا

30. اللطیف کی تعریف کریں۔
(A) ہر چیز کا جاننے والا (B) بڑے صبر والا
(C) ہر شے پر قبضہ رکھنے والا (D) کرم کرنے والا

31. الخبیر کے کیا معنی ہیں؟
(A) رہنما (B) وارث
(C) آگاہ و خبر رکھنے والا (D) رہنما

32. الحلیم کے کہتے ہیں؟
(A) بڑا بردبار
(B) عظمت اور کبریائی کا سرچشمہ
(C) ملکوں کا مالک (D) رہنما

33. العظیم کے کیا معنی ہیں؟
(A) امن دینے والا (B) زبردست
(C) جو بلندیاں عطا کرتا ہے (D) بڑی بزرگی والا

34. الغفور کے کہتے ہیں؟
(A) بخشش کرنے والا (B) بڑے صبر والا
(C) نور (D) بادشاہ

35. الشکور کا کیا مطلب ہے؟

(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) بنانے والا

(C) بڑا قدر کرنے والا (D) بڑی محبت کرنے والا

36. العلی کی تعریف کریں۔

(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) بڑی بزرگی والا

(C) بڑا شمار کنندہ (D) بڑی بلندیوں والا

37. الحفیظ کے کیا معنی ہیں؟

(A) بے پروا (B) غالب/بڑے اقتدار والا

(C) حفاظت کرنے والا (D) زبردست

38. المقیت کسے کہتے ہیں؟

(A) قوت دینے والا (B) رہنما

(C) بہت مہربان (D) نگہبان

39. الحسیب کے کیا معنی ہیں؟

(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) بڑی بزرگی والا

(C) سرپرست (D) بڑا شمار کنندہ

40. الجلیل کسے کہتے ہیں؟

(A) بلند مرتبے والا (B) زبردست

(C) بڑا بردبار (D) ضرر پہنچانے والا

41. الکریم کا کیا مطلب ہے؟

(A) رزق دینے والا

(B) عظمت اور کبریائی کا سرچشمہ

(C) کرم کرنے والا (D) پہلی بار پیدا کرنے والا

42. الرقیب کی تعریف کریں۔

(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) منع کرنے والا

(C) پاک (D) بڑا نگہبان

43. المجیب کے کیا معنی ہیں؟

(A) پیچھے رکھنے والا (B) بڑے صبر والا

(C) دعا میں قبول کرنے والا (D) رہنما

44. الواسع کسے کہتے ہیں؟

(A) بڑی وسعت والا (B) بادشاہ

(C) اکیلا (D) زبردست

45. الحکیم کے کیا معنی ہیں؟

(A) راہ دکھانے والا (B) بنانے والا

(C) امن دینے والا (D) بڑی حکمت والا

46. الودود کسے کہتے ہیں؟

(A) بڑی محبت کرنے والا (B) بڑی بزرگی والا۔

(C) مردوں کو زندہ جلانے والا (D) کثرت سے دینے والا

47. المجید کا کیا مطلب ہے؟

(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) بلند مرتبے والا

(C) بڑی بزرگی والا (D) بادشاہ

48. الباعث کی تعریف کریں۔

(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) رہنما

(C) پیچھے رکھنے والا

(D) مردوں کو زندہ جلانے والا

49. الشہید کے کیا معنی ہیں؟

(A) ضرر پہنچانے والا (B) بڑے صبر والا

(C) گواہ (D) منع کرنے والا

50. الحق کسے کہتے ہیں؟

(A) سچا/برحق (B) بادشاہ

(C) ہر شے پر قبضہ رکھنے والا (D) وارث

51. الوکیل کے کیا معنی ہیں؟

(A) بخشش اور سخاوت کرنے والا (B) باطن

(C) بڑا شمار کنندہ (D) بڑا کارساز

52. القوی کسے کہتے ہیں؟

(A) قوت والا

(B) عظمت اور کبریائی کا سرچشمہ

(C) پاک

(D) بڑی محبت کرنے والا

53. المتین کا کیا مطلب ہے؟
(A) نور (B) بڑے صبر والا
(C) انتہائی مضبوط و مستحکم (D) زبردست

54. الولی کی تعریف کریں۔
(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) نگہبان
(C) سچا رزق (D) مددگار

55. الحمید کے کیا معنی ہیں؟
(A) رزق دینے والا (B) رہنما
(C) تعریف کے لائق (D) بڑی بزرگی والا

56. المحصی کسے کہتے ہیں؟
(A) اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا
(B) کثرت سے دینے والا
(C) ہمیشہ زندہ رہنے والا
(D) پہلی بار پیدا کرنے والا

57. المبدی کے کیا معنی ہیں؟
(A) راہ دکھانے والا (B) غالب بڑے اقتدار والا
(C) اکیلا (D) پہلی بار پیدا کرنے والا

58. المعید کسے کہتے ہیں؟
(A) دوبارہ پیدا کرنے والا (B) بڑی بزرگی والا
(C) صورت گری کرنے والا (D) بنانے والا

59. المحیی کا کیا مطلب ہے؟
(A) ضرر پہنچانے والا (B) رہنما
(C) زندگی دینے والا (D) بے پروا

60. القیوم کی تعریف کریں۔
(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) قدرت والا
(C) مردوں کو زندہ کرنے والا (D) قائم رکھنے والا

61. الواجد کے کیا معنی ہیں؟
(A) رحم کرنے والا
(B) عظمت اور کبریائی کا سرچشمہ
(C) ہر چیز کا پانے والا
(D) امن اور سلامتی کا سرچشمہ

62. الماجد کسے کہتے ہیں؟
(A) بزرگی اور بڑائی والا (B) بادشاہ
(C) بہت مہربان (D) وارث

63. الواحد کے کیا معنی ہیں؟
(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) بڑی بزرگی والا
(C) ملکوں کا مالک (D) اکیلا

64. الاحد کسے کہتے ہیں؟
(A) اکیلا (B) بڑی بزرگی والا
(C) ملکوں کا مالک (D) رہنما

65. الصمد کا کیا مطلب ہے؟
(A) رزق دینے والا (B) باطن
(C) بے نیاز (D) زبردست

66. القادر کی تعریف کریں۔
(A) غالب بڑے اقتدار والا (B) بڑی محبت کرنے والا
(C) پیچھے رکھنے والا (D) قدرت والا

67. المقتدر کے کیا معنی ہیں؟
(A) اکیلا
(B) عظمت اور کبریائی کا سرچشمہ
(C) بڑی قدرت والا (D) نگہبان

68. الممیت کسے کہتے ہیں؟
(A) موت دینے والا (B) بادشاہ
(C) جو بلندیاں عطا کرتا ہے (D) رہنما

69. القیوم کے کیا معنی ہیں؟
(A) امن دینے والا (B) منع کرنے والا
(C) بے پروا (D) ہمیشہ قائم رہنے والا

70. المقدم کسے کہتے ہیں؟
(A) آگے بڑھانے والا (B) بڑے صبر والا
(C) بے پروا (D) ہمیشہ زندہ رہنے والا

71. المؤخر کا کیا مطلب ہے؟
(A) رحم کرنے والا (B) کثرت سے دینے والا
(C) پیچھے رکھنے والا (D) رہنما

72. الاول کی تعریف کریں۔
(A) راہ دکھانے والا (B) بنانے والا
(C) ضرر پہنچانے والا (D) اول

73. الآخر کے کیا معنی ہیں؟
(A) برداشار کنندہ (B) بادشاہ
(C) آخر (D) وارث

74. الظاہر کسے کہتے ہیں؟
(A) ظاہر (B) بادشاہ
(C) سرپرست (D) بے پروا

75. الباطن کے کیا معنی ہیں؟
(A) بخشش اور سخاوت کرنے والا
(B) بادشاہ
(C) پاک (D) باطن

76. الوالی کسے کہتے ہیں؟
(A) سرپرست (B) بادشاہ
(C) مشکلوں کا حل کرنے والا (D) بڑی بزرگی والا

77. المتعالی کا کیا مطلب ہے؟
(A) ہر شے پر قبضہ رکھنے والا (B) بادشاہ
(C) سب سے بلند و برتر (D) بڑی بزرگی والا

78. البر کی تعریف کریں۔
(A) بخشش اور سخاوت کرنے والا
(B) قدرت والا
(C) ملکوں کا مالک
(D) تمام اچھائیوں کا سرچشمہ

79. التواب کے کیا معنی ہیں؟
(A) رحم کرنے والا (B) بادشاہ
(C) توبہ قبول کرنے والا (D) بے پروا

80. المنتقم کسے کہتے ہیں؟
(A) بدلہ لینے والا (B) بادشاہ
(C) باطن (D) رہنما

81. العفو کے کیا معنی ہیں؟
(A) راہ دکھانے والا (B) وارث
(C) نور (D) معاف کرنے والا

82. الرؤف کسے کہتے ہیں؟
(A) بہت مہربان (B) بڑے صبر والا
(C) صورت گری کرنے والا (D) بادشاہ

83. مالک الملک کا کیا مطلب ہے؟
(A) ضرر پہنچانے والا (B) بادشاہ
(C) ملکوں کا مالک (D) زبردست

84. المقسط کی تعریف کریں۔
(A) بخشش اور سخاوت کرنے والا (B) بادشاہ
(C) پاک
(D) عدل و انصاف قائم کرنے والا

85. الجامع کے کیا معنی ہیں؟
(A) رزق دینے والا (B) بڑی بزرگی والا
(C) جمع کرنے والا (D) رہنما

86. الغنی کسے کہتے ہیں؟
(A) بے پروا (B) بادشاہ
(C) جو بلندیاں عطا کرتا ہے (D) قدرت والا

87. المانع کا کیا مطلب ہے؟
(A) بڑا بردبار (B) بادشاہ
(C) منع کرنے والا (D) رہنما

88. النافع کی تعریف کریں؟
(A) رحم کرنے والا (B) بادشاہ
(C) ضرر پہنچانے والا (D) نفع پہنچانے والا

89. الضار کے کیا معنی ہیں؟
(A) رحم کرنے والا (B) بادشاہ
(C) ضرر پہنچانے والا (D) بڑی بزرگی والا

90. النور کسے کہتے ہیں؟
(A) نور
(B) بخشش اور سخاوت کرنے والا
(C) بنانے والا (D) رہنما

91. الھادی کا کیا مطلب ہے؟
(A) سرپرست (B) منع کرنے والا
(C) راہ دکھانے والا (D) بڑی بزرگی والا

92. البدیع کی تعریف کریں۔
(A) بادشاہ (B) صورت گری کرنے والا
(C) غالب بڑے اقتدار والا
(D) بے مثال چیزوں کا پیدا کرنیوالا

93. الباقی کے کیا معنی ہیں؟
(A) رحم کرنے والا (B) زبردست
(C) ہمیشہ باقی رہنے والا (D) بڑی محبت کرنے والا

94. الوارث کسے کہتے ہیں؟
(A) وارث (B) بڑے صبر والا
(C) اکیلا (D) کثرت سے دینے والا

95. الرشید کا کیا مطلب ہے؟
(A) مشکلوں کا حل کرنے والا (B) بڑی بزرگی والا
(C) رشد و ہدایت والا
(D) بخشش اور سخاوت کرنے والا

96. الصبور کی تعریف کریں؟
(A) بے پروا (B) وارث
(C) بادشاہ (D) بڑے صبر والا

97. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟
(A) 89 (B) 99
(C) 999 (D) 1000

98. جلیل کا مطلب ہے۔
(A) بڑا (B) داتا
(C) عمدہ (D) خوبصورت

99. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام "الباری۔Al-Bari" کس صفت کو ظاہر کرتا ہے؟
(A) ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا
(B) سب کو روزی اور توانائی دینے والا
(C) مردوں کو زندہ کرنے والا
(D) عدل و انصاف قائم رکھنے والا

جوابات

1. (D)	2. (A)	3. (C)	4. (D)	5. (C)	6. (A)	7. (C)	8. (D)
9. (D)	10. (A)	11. (C)	12. (D)	13. (D)	14. (A)	15. (C)	16. (D)
17. (D)	18. (A)	19. (C)	20. (D)	21. (D)	22. (A)	23. (C)	24. (D)
25. (C)	26. (A)	27. (D)	28. (A)	29. (C)	30. (D)	31. (C)	32. (A)
33. (D)	34. (A)	35. (C)	36. (D)	37. (C)	38. (A)	39. (D)	40. (A)
41. (C)	42. (D)	43. (C)	44. (A)	45. (D)	46. (A)	47. (C)	48. (D)
49. (C)	50. (A)	51. (D)	52. (A)	53. (C)	54. (D)	55. (C)	56. (A)
57. (D)	58. (A)	59. (C)	60. (D)	61. (C)	62. (A)	63. (D)	64. (A)
65. (C)	66. (D)	67. (C)	68. (A)	69. (D)	70. (A)	71. (C)	72. (D)
73. (C)	74. (A)	75. (D)	76. (A)	77. (C)	78. (D)	79. (C)	80. (A)
81. (D)	82. (A)	83. (C)	84. (D)	85. (C)	86. (A)	87. (C)	88. (D)
89. (C)	90. (A)	91. (C)	92. (D)	93. (C)	94. (A)	95. (C)	96. (D)
97. (B)	98. (A)	99. (A)					

عقائد اسلام

توحید

1. شریعت کے مطابق ایمان سے کیا مراد ہے؟
(A) سات چیزوں پر یقین (B) محمد ﷺ پر یقین
(C) تمام نبیوں پر یقین (D) آخرت پر یقین

2. ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) ماننا (B) یقین کرنا
(C) a اور b دونوں
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

3. دین اسلام کتنے عناصر پر مشتمل ہے؟
(A) 2 (B) 4
(C) 6 (D) 8

4. دین اسلام کے عناصر میں ایک اعمال اور دوسرا۔
(A) اراکین ہیں (B) ایمان ہیں
(C) شہادت ہیں (D) عقائد ہیں

5. ______ اسلام کا وہ نظریاتی پہلو ہیں جن کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہے۔
(A) اعمال (B) عقائد
(C) نظریہ (D) کوئی نہیں

6. عقائد سے کیا مراد ہے؟
(A) ستون (B) یقینی نظریات
(C) مذہب (D) سکون

7. ان سات عقائد کا ذکر مندرجہ ذیل الفاظ میں کہاں آیا ہے کہ "میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے نبیوں پر آخرت پر اور اس بات پر کہ ہر اچھی اور بری چیز کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور حیات بعد موت پر"؟
(A) ایمان مجمل (B) ایمان مفصل
(C) آیت الکرسی
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

8. ایمان مفصل سے کیا مراد ہے؟
(A) تفصیلی ایمان (B) یقینی اعمال
(C) تعدیلی ایمان (D) روح ایمان

9. ایمان مجمل سے کیا مراد ہے؟
(A) مختصر ایمان (B) تفصیلی ایمان
(C) یقین الایمان
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

10. ایمان مفصل میں کتنے ضروری عقائد کا ذکر ہے؟ (237-7 s.a)
(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

11. اسلام کے بنیادی عقائد میں ....
(A) اللہ کی واحدانیت پر یقین شامل ہے
(B) فرشتوں اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر یقین شامل ہے
(C) نبیوں اور حیات بعد موت پر یقین شامل ہے
(D) b,a اور c تینوں

12. سورۃ البقرۃ کی کس آیت میں ان بنیادی عقائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ "ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملئکۃ والکتب والنبین" یعنی نیکی اس شخص نے پائی جو ایمان لایا اللہ پر آخرت پر فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر؟

175 (A)
176 (B)
177 (C)
178 (D)

13. ایمان مفصل میں موجود پہلے عقیدے کا نام بتائیں؟
(A) نبیوں پر ایمان
(B) فرشتوں پر ایمان
(C) توحید
(D) آخرت پر ایمان

14. اللہ کی وحدانیت پر یقین اور زبان سے اس کا اظہار کیا کہلاتا ہے؟
(A) یقین
(B) توحید
(C) ایمان
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

15. توحید سے مراد ہے..........۔
(A) اللہ کی وحدانیت کا یقین
(B) اللہ کی انفرادیت کا یقین
(C) اس بات پر یقین کہ اللہ ہی مقتدر اعلیٰ ہے
(D) a'b اور c تینوں

16. قرآن مجید کی کس سورۃ میں عقیدہ توحید کا ان الفاظ میں ذکر ہوا ہے کہ "کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے؟"
(A) سورۃ الفاتحہ
(B) سورۃ اخلاص
(C) سورۃ النساء
(D) سورۃ مریم

17. توحید کی قسم ہے۔
(A) اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے (توحید ذات)
(B) اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے (توحید صفات)
(C) اللہ اپنے افعال میں یکتا ہے (توحید افعال)
(D) b,a اور c تینوں

18. توحید فی الذات سے مراد ہے۔
(A) اللہ ایک ہے
(B) یکتا اور یگانہ ہے
(C) اس کا کوئی ساجھے دار اور حصے دار نہیں
(D) تمام

19. توحید فی الصفات سے مراد ہے۔
(A) اس کی کوئی مثل نہیں
(B) وہ اپنی صفات میں یکتا ہے
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

20. توحید فی الافعال سے مراد ہے۔
(A) اللہ اپنے افعال میں یکتا ہے
(B) اس کا کوئی معاون و مددگار نہیں
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

21. توحید فی العبادت سے مراد ہے۔
(A) عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے
(B) اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

22. وہ شخص کیا کہلاتا ہے جو کہ توحید کی تمام قسموں پر یقین و ایمان رکھتے ہوئے توحید پرست ہو؟
(A) موحد
(B) حنیف
(C) مومن
(D) a,b اور c تینوں

23. کس کلمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ "اگر سات آسمان اور سات زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں تو اس کلمہ کا وزن سات آسمان اور سات زمینوں سے زیادہ ہوگا؟"
(A) کلمہ طیبہ
(B) کلمہ شہادت
(C) کلمہ تمجید
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

24. درج ذیل میں سے کون سا بیان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بہترین اظہار ہے؟
(A) لا الہ الا ھو
(B) لا الہ الا اللہ

(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

25. کس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ بلاشبہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا جبکہ اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے"؟
(A) منافقت (B) جھوٹ
(C) شرک (D) بے حیائی

26. شرک سے مراد صرف بتوں کی پوجا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ......
(A) اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا بھی شرک ہے۔
(B) اللہ کے سوا مرے ہوئے لوگوں کو حقیقی حاجت روا سمجھنا بھی شرک ہے
(C) اللہ کے سوا زندہ چیزوں کو حقیقی کارساز سمجھنا بھی شرک ہے
(D) a'b اور c تینوں

27. قرآن مجید نے کس گناہ کو "بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے؟"
(A) شرک (B) منافقت
(C) انکار نبوت
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

28. قرآن مجید کی کس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے؟
(A) سورۃ النساء (B) سورۃ الرحمٰن
(C) سورۃ لقمان (D) سورۃ التوبہ

29. کس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہ بخش دیتا ہے؟
(A) سورۃ النساء (B) سورۃ التوبہ
(C) سورۃ مریم (D) سورۃ ابراہیم

30. وہ کون تھے جنھوں نے پہلی بار توحید کے نظریے کی اصلاح کی درست مفہوم میں وضاحت فرمائی؟
(A) حضرت آدم (B) حضرت موسیٰ
(C) حضرت عیسیٰ (D) حضرت محمد ﷺ

31. وہ لوگ کیا کہلاتے ہیں جو کہ عقیدہ توحید پر یقین نہیں رکھتے؟
(A) منافق (B) ارتداد
(C) مشرک
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

32. پولی تھیزم بھی ایک شرک ہے۔ پولی تھیزم سے کیا مراد ہے؟
(A) ایک سے زائد خداؤں پر یقین
(B) دو خداؤں پر یقین
(C) تین خداؤں پر یقین (D) چار خداؤں پر یقین

33. اللہ تعالیٰ کی دوئیت پر کس مذہب کے پیروکار یقین رکھتے ہیں؟
(A) عیسائی (B) یہودی
(C) آتش پرست (D) کوئی بھی نہیں

34. عقیدہ تثلیث پر کس مذہب کے پیروکار یقین کرتے ہیں؟
(A) عیسائی (B) یہودی
(C) آتش پرست (D) کوئی بھی نہیں

35. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس مذہب کے پیروکار یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ واحد نہیں بلکہ کثرت وجود رکھتا ہے؟
(A) ہندو (B) یہودی
(C) عیسائی (D) مجوسی

36. کس مذہب کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے؟
(A) یہودی (B) بدھ مت
(C) مجوسی (D) کوئی بھی نہیں

37. اللہ تعالیٰ کے وجود ہی سے انکار کرنے والا شخص کیا کہلاتا ہے؟
(A) کافر (B) دہریہ
(C) ملحد (D) a b c تینوں

38. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) اسلام دنیا کا سب سے زیادہ توحید پرست دین ہے
(B) ایک شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین نہ لے آئے

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

39. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراو یہ ایک ....

(A) حدیث ہے (B) قرآنی آیت ہے

(C) روایت ہے

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

40. کس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا سردار بناتے ہوئے کائنات کی ہر چیز اس کے تابع کر دی ہے؟

(A) انسان (B) جنات

(C) فرشتے (D) کوئی بھی نہیں

41. کس نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ (کلمہ توحید) تھا؟

(A) حضرت محمد ﷺ (B) حضرت عیسیٰ

(C) حضرت آدمؑ (D) تمام نبیوں کا

42. لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے جو کوئی بھی اس قلعہ میں داخل ہو گیا محفوظ ہو گیا۔ یہ ایک ....

(A) قرآنی آیت ہے (B) حدیث ہے

(C) کسی صوفی کا بیان ہے (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

43. ''لا الہ الا اللہ'' جو پہلا کلمہ ہے اس کا پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟

(A) تلبیہ (B) تخلیق

(C) تہلیل (D) تیامن

44. ناقابل معافی گناہ کون سا ہے؟

(A) نماز نہ پڑھنا (B) توبہ نہ کرنا

(C) غیبت (D) شرک

جوابات

1. (A)	2. (C)	3. (A)	4. (D)	5. (B)	6. (B)	7. (B)	8. (A)
9. (A)	10. (C)	11. (D)	12. (C)	13. (C)	14. (B)	15. (D)	16. (B)
17. (D)	18. (D)	19. (C)	20. (C)	21. (C)	22. (D)	23. (A)	24. (C)
25. (C)	26. (D)	27. (A)	28. (C)	29. (A)	30. (D)	31. (C)	32. (A)
33. (C)	34. (A)	35. (A)	36. (B)	37. (D)	38. (C)	39. (B)	40. (A)
41. (D)	42. (B)	43. (C)	44. (D)				

ایمان بالرسل

1. ایمان مفصل کے مطابق چوتھا عقیدہ اسلام کیا ہے؟
(A) ایمان بالکتب (B) ایمان بالملائکہ
(C) ایمان بالرسل (D) ایمان بالآخرت

2. اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان تک اپنے منتخب بندوں کے ذریعے ہدایت ورہنمائی شروع سے ہی بھجواتا رہا ہے۔ یہ منتخب بندے کیا کہلاتے ہیں؟
(A) نبی
(B) رسول
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

3. مقدس کتاب کس کو عطا کی جاتی ہے؟
(A) رسول (B) نبی
(C) رسول اور نبی دونوں کو
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

4. رسول کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) ہدایت کرنے والا (B) پیامبر
(C) رہنما (D) مددگار

5. اللہ تعالیٰ نے وقتے وقتے سے بنی نوع انسان کی رشد وہدایت کیلیے کتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے؟
(A) 1,25000 (B) 1,24,000
(C) 1,23,000 (D) 1,22,000

6. نبی کون ہوتا ہے؟
(A) وہ شخصیت جو شریعت کے مطابق عمل کرے
(B) وہ شخصیت جو اللہ کا پیغام پھیلائے لیکن اس کو کتاب عطا نہ ہو
(C) وہ شخصیت جو اللہ کی وحدانیت کا درس دے
(D) وہ شخصیت جو اللہ کا پیغام سابقہ رسول کی کتاب کی رہنمائی میں پھیلائے

7. کس ملک کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں؟
(A) عراق (B) سعودی عرب
(C) فلسطین (D) شام

8. رسالت سے کیا مراد ہے؟
(A) پیغام پہنچانا (B) عمل کرنا
(C) رہنمائی کرنا (D) ہدایت پہنچانا

9. نبوت کیسے حاصل ہوتی ہے؟
(A) نیک کردار کی وجہ سے
(B) ایماندارانہ طرز زندگی سے
(C) اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

10. رسالت پر یقین سے مراد............
(A) تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے۔
(B) حضرت محمد ﷺ کی نبوت پر ایمان لانا ہے۔
(C) تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

11. بنی نوع انسان میں سے کس کو معصوم اور گناہوں سے پاک قرار دیا گیا ہے؟
(A) حضرت محمد ﷺ
(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
(C) تمام انبیاء کرام کو
(D) کسی کو بھی نہیں

12. انبیاء کرام پر یقین سے مراد ہے کہ انبیاء کرام ....
(A) اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں
(B) اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں
(C) اللہ تعالیٰ کے تعینات کردہ ہیں
(D) b,a اور c تینوں

13. انبیاء کرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
(A) اپنی ذاتی رائے سے لوگوں کے مسائل حل کرنا
(B) اپنے پیروکاروں تک اللہ کا پیغام اپنی فلسفیانہ اور منطقی ذہنیت کے ذریعے پہنچانا
(C) اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بغیر کسی کمی وبیشی کے لوگوں تک پہنچانا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

14. کسی بھی نبی کا انکار کرنے والا شخص کیا کہلاتا ہے؟
(A) منافق (B) مشرک
(C) مرتد (D) کافر

15. ''پیامبر جس کو ہم نے بھیجا ہے اس کی فرمانبرداری ہونی چاہئے کیونکہ اللہ اس کا حکم دیتا ہے۔'' یہ آیت کس نبی کی اطاعت کا حکم دے رہی ہیں؟
(A) حضرت آدم علیہ السلام
(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(C) حضرت محمدؐ
(D) تمام انبیاء کرام کی (اپنے اپنے دور میں)

16. انبیاء کرام کی زنجیر .... سے شروع ہوتی ہے۔
(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت شیثؑ
(C) حضرت نوحؑ (D) حضرت ابراہیمؑ

17. اس نبی کا نام بتائیں جس کی قوم کو نبی کی نافرمانی پر سیلاب کے ذریعے تباہ کر دیا گیا تھا؟
(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام (B) حضرت عیسیٰ علیہ السلام
(C) حضرت نوح علیہ السلام (D) حضرت ادریس علیہ السلام

18. وہ کون سے نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اگرچہ وہ ایک بت پرست گھرانے میں پروان چڑھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر وقت کے لوگوں کیلئے ایک مثال بنا دیا؟
(A) حضرت نوح علیہ السلام
(B) حضرت اسحاق علیہ السلام
(C) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(D) حضرت عیسیٰ علیہ السلام

19. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے کس بیٹے سے نبیوں کی ایک لمبی زنجیر چلی؟
(A) حضرت اسماعیل علیہ السلام
(B) حضرت اسحاق علیہ السلام
(C) حضرت شیثؑ
(D) کسی کو بھی نہیں

20. حضرت اسماعیلؑ ....
(A) کی نسل سے آپؐ ہیں
(B) عربوں کے جد امجد ہیں
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

21. انبیاء کی زنجیر میں آخری نبی ہیں۔
(A) حضرت نوحؑ (B) حضرت اسماعیل
(C) حضرت محمدؐ (D) حضرت داؤد

22. نسخ شرائع سے کیا مراد ہے؟
(A) پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دینا
(B) پہلی شریعتوں کو لاگو کرنا
(C) پہلی شریعتوں سے انکار کرنا
(D) کوئی نہیں

23. وحی سے کیا مراد ہے؟
(A) اشارہ کرنا
(B) چپکے سے دل میں ڈال دینا

(C) دونوں

(D) کوئی نہیں

24. خاص خدا کی طرف سے عطا ہونے والا منصب جس میں محنت شامل نہ ہو کہلاتا ہے۔

(A) نبوت (B) وراثت

(C) رسالت (D) ولی

25. ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟

(A) نبوت کا خاتمہ (B) الہامی پیغامات کا خاتمہ

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

26. "نبی اکرمؐ اللہ کے پیامبر اور آخری نبی ہیں۔" اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟

(A) ختم نبوت (B) نبی اکرمؐ کی نبوت

(C) تعبیر (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

27. قرآن مجید کی اس سورۃ کا نام بتائیں جس میں لفظ "خاتم النبیین" آیا ہے؟

(A) الاحزاب (B) الفاتحہ

(C) العلق (D) آل عمران

28. نبی اکرم ﷺ کو تمام امتوں کیلئے بھیجا گیا ہے اس لیے ان کو......

(A) نبی العالمین بھی کہتے ہیں

(B) رسول العالمین بھی کہتے ہیں

(C) رحمت للعلمین بھی کہتے ہیں

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

29. رحمت للعلمین سے کیا مراد ہے؟

(A) تمام انسانوں کیلئے رحمت (B) اس دنیا کیلئے رحمت

(C) تمام جہانوں کیلئے رحمت (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

30. درج ذیل میں سے کون سا بیان نبی اکرمؐ سے متعلق درست ہے؟

(A) وہ تمام بنی نوع بشر کیلئے ایک بہترین نمونہ ہیں۔

(B) ان کی زندگی قرآنی تعلیمات کی بہترین مثال ہے۔

(C) ان کی نبوت کے بارے بہت سارے سابقہ نبی پیش گوئی کر چکے تھے۔

(D) a اور b اور c تینوں

31. نبی اکرمؐ کی انفرادی خصوصیت کیا ہے؟

(A) وہ پچھلے تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔

(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیتے ہیں۔

(C) تمام مسائل کو اپنی منطق سے حل کرتے ہیں

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

32. کس نے نبی پاکؐ کے خلق کو قرآن کہا ہے؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عائشہؓ (D) حضرت فاطمہؓ

33. کس نبی کے پاس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب سے پہلے شفاعت کا حق ہوگا؟

(A) حضرت آدم علیہ السلام

(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام

(C) حضرت محمد ﷺ

(D) کسی کے پاس بھی نہیں

34. شفاعت سے کیا مراد ہے؟

(A) سفارش

(B) دعا

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

35. وہ شخص جو نبی اکرمؐ کی شفاعت پر یقین نہیں رکھتا......

(A) مشرک کہلاتا ہے۔ (B) منافق کہلاتا ہے۔

(C) کافر کہلاتا ہے۔ (D) مرتد کہلاتا ہے۔

36. عقائد میں توحید کے بعد کس کا درجہ آتا ہے؟

(A) نماز (B) حج

(C) رسالت (D) زکوٰۃ

جوابات

1. (C)	2. (C)	3. (A)	4. (B)	5. (B)	6. (B)	7. (C)	8. (A)
9. (C)	10. (A)	11. (C)	12. (D)	13. (C)	14. (D)	15. (D)	16. (A)
17. (C)	18. (C)	19. (B)	20. (C)	21. (C)	22. (A)	23. (C)	24. (B)
25. (C)	26. (A)	27. (A)	28. (C)	29. (C)	30. (D)	31. (A)	32. (C)
33. (C)	34. (C)	35. (C)	36. (C)				

ایمان بالملائکہ

1. ایمان مفصل میں بیان ہونیوالے عقائد میں سے دوسرا عقیدہ کون سا ہے؟
(A) ایمان بالملائکہ (B) ایمان بالرسل
(C) ایمان بالکتب (D) ایمان بالآخرت

2. ملائکہ کا واحد کیا ہے؟
(A) ملک (B) ملکہ
(C) ملک (D) کوئی نہیں

3. ملک کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) وارث (B) نائب
(C) قاصد (D) کوئی نہیں

4. اس مذہب کا نام بتائیں جس میں تمام فرشتوں پر ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے؟
(A) اسلام (B) بدھ مت
(C) عیسائیت (D) کوئی بھی نہیں

5. بزرگ ترین اور ممتاز ترین فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟
(A) 5 (B) 4
(C) 6 (D) 8

6. چار ممتاز ترین فرشتے یہ ہیں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور......
(A) حضرت عزرائیل (B) حضرت ہاروتؑ
(C) حضرت ماروتؑ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

7. چار ممتاز ترین فرشتوں میں سے کس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟
(A) حضرت جبرائیل (B) حضرت میکائیل
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

8. کس مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام نبیوں تک پہنچایا؟
(A) جن (B) فرشتے
(C) انسان (D) کوئی بھی نہیں

9. کون نورانی مخلوق کہلاتے ہیں؟
(A) فرشتے (B) پرندے
(C) انسان (D) کوئی نہیں

10. نور سے کیا مراد ہے؟
(A) آگ (B) خدائی روشنی
(C) ہوا (D) شعاعیں

11. آگ سے کون سی مخلوق تخلیق کی گئی؟
(A) انسان (B) جنات
(C) فرشتے (D) جانور

12. ابلیس ایک..........
(A) جن تھا (B) فرشتہ تھا
(C) انسان تھا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

13. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قیامت تک کے لیے کھلی چھٹی دی ہے؟
(A) وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور فرمانبرداری سے بہکائے
(B) وہ انسانوں کو غلط راستوں کی ترغیب دے
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

14. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) اللہ تعالیٰ نے جنات سے کہا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں
(B) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں
(C) اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو کہا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

15. عربی زبان میں فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟
(A) ملائکہ
(B) ملک
(C) ملیکہ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

16. انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہر وقت رہتے ہیں؟
(A) 3
(B) 2
(C) 1
(D) کوئی بھی نہیں

17. انسان کے ساتھ متعین دو فرشتوں کا کام کیا ہے؟
(A) ایک انسان کے اچھے اور دوسرا برے کام کا حساب رکھتا ہے
(B) دونوں انسان کے اچھے اور برے کاموں پر نظر رکھتے ہیں
(C) دونوں انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں
(D) کوئی نہیں

18. انسان کیساتھ متعین دو فرشتے کیا کہلاتے ہیں؟
(A) منکر اور نکیر
(B) کراماً کاتبین
(C) جبرائیل و اسرافیل
(D) جبرائیل اور عزرائیل

19. کراماً کاتبین انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک کے اعمال کا حساب کیوں رکھتے ہیں؟
(A) تاکہ اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکیں
(B) تاکہ اسے قیامت کے دن فرشتوں کے سامنے پیش کر سکیں
(C) تاکہ اسے قبر میں منکر اور نکیر کے سامنے پیش کر سکیں
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

20. بزرگ ترین پیغام رساں فرشتہ ہونے کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟
(A) حضرت جبرائیلؑ
(B) حضرت میکائیلؑ
(C) حضرت اسرائیلؑ
(D) حضرت عزرائیلؑ

21. جبرائیل سے کیا مراد ہے؟
(A) جبر السنتر
(B) خلیل جبران
(C) حضرت جبرائیلؑ
(D) b,a اور c تینوں

22. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

23. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) ان کو دشمنوں کے خلاف مددگار کے طور پر نبی پاکؐ کے پاس بھیجا گیا۔
(B) ان کو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر اللہ کی طرف سے سزا نہیں ملی
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

24. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنیادی فرض کیا ہے؟
(A) بارش برسانا
(B) خوراک مہیا کرنا
(C) اللہ کے پیغامات اور احکام کو نبیوں تک پہنچانا
(D) اللہ کے پیغامات اور احکام کو لوگوں تک پہنچانا

25. قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو..........
(A) الروح بھی کہا گیا ہے
(B) روح القدس بھی کہا گیا ہے
(C) روح الامین بھی کہا گیا ہے
(D) b,a اور c تینوں

26. روح القدس سے کیا مراد ہے؟
(A) مقدس روح
(B) مقدس فرشتہ
(C) مقدس جسم
(D) انسان

27. کس مذہب کے پیروکار حضرت میکائیلؑ کو حضرت جبرائیلؑ سے افضل قرار دیتے ہیں؟

(A) یہود (B) عیسائیت

(C) مجوسیت (D) اسلام

28. یہودی کیوں حضرت جرائیل علیہ السلام کو حضرت میکائیل علیہ السلام سے افضل سمجھتے ہیں؟

(A) حضرت میکائیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو من وسلویٰ مہیا کیا تھا۔

(B) حضرت میکائیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دولت مہیا کی تھی

(C) حضرت جرائیل علیہ السلام نے انجیل یہودیوں کی بجائے عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔

(D) a اور c

29. اسلامی تعلیمات کے مطابق عظیم ترین فرشتے کون سے ہیں؟

(A) حضرت جرائیل علیہ السلام

(B) حضرت میکائیل علیہ السلام

(C) حضرت اسرافیل علیہ السلام

(D) حضرت عزرائیل علیہ السلام

30. حضرت میکائیل علیہ السلام کا فرض کیا ہے؟

(A) بارش برسانا (B) خوراک پہنچانا

(C) a اور b دونوں

(D) a'B میں سے کوئی بھی نہیں

31. روح قبض کرنا کس فرشتے کے فرائض میں شامل ہے؟

(A) حضرت اسرافیل علیہ السلام

(B) حضرت عزرائیل علیہ السلام

(C) حضرت میکائیل علیہ السلام

(D) حضرت جرائیل علیہ السلام

32. حضرت عزرائیل علیہ السلام........

(A) ملک الموت بھی کہلاتے ہیں

(B) ملائک الموت بھی کہلاتے ہیں

(C) ملیک الموت بھی کہلاتے ہیں

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

33. موت کے بعد قبر میں انسان سے سوال و جواب کرنے والے فرشتے کا نام بتائیں؟

(A) منکر (B) نکیر

(C) a اور b دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

34. بیت المعمور سے کیا مراد ہے؟

(A) اللہ کا گھر (B) نبی پاک کا گھر

(C) حضرت آدم کا گھر (D) حضرت ابراہیم کا گھر

35. بیت المعمور ایک مسجد ہے۔اس کے گرد کون طواف کرتا ہے؟

(A) فرشتے (B) انسان

(C) جنات (D) نبی

36. بیت المعمور کہاں واقع ہے؟

(A) پہلے آسمان پر (B) دوسرے آسمان پر

(C) چھٹے آسمان پر (D) ساتویں آسمان پر

37. قرآن مجید کے مطابق کونسا فرشتہ بابل شہر پر متعین کیا گیا تھا؟

(A) ہاروت (B) ماروت

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

38. جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام بتائیں؟

(A) رضوان (B) رعد

(C) ملک (D) قہدار

39. دوزخ کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام بتائیں؟

(A) قہدار (B) جبار

(C) مالک (D) رضوان

40. اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق کونسی ہے؟

(A) انسان (B) فرشتے

(C) جنات (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

41. قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے کون سا دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے؟

(A) کروبی (B) رسول

(C) جبار (D) رضوان

42. رسول سے کیا مراد ہے؟

(A) آسمانی مخلوق (B) غیر مرئی مخلوق

(C) پیامبر (D) فرمانبردار

43. اللہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق کون سی ہے؟

(A) انسان (B) فرشتہ

(C) جنات (D) ان میں سے کوئی نہیں

44. بارش برسانا اور روزی تقسیم کرنا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟

(A) حضرت اسرافیل (B) حضرت عزرائیل

(C) حضرت جبرائیل (D) حضرت میکائیل

جوابات

1. (A)	2. (B)	3. (C)	4. (A)	5. (B)	6. (A)	7. (C)	8. (B)
9. (A)	10. (B)	11. (B)	12. (A)	13. (C)	14. (B)	15. (A)	16. (B)
17. (A)	18. (B)	19. (A)	20. (A)	21. (C)	22. (A)	23. (C)	24. (C)
25. (C)	26. (A)	27. (A)	28. (D)	29. (A)	30. (C)	31. (B)	32. (A)
33. (C)	34. (A)	35. (A)	36. (D)	37. (C)	38. (A)	39. (C)	40. (B)
41. (B)	42. (C)	43. (B)	44. (D)				

ایمان بالکتب

1. ایمان مفصل کے مطابق تیسرا عقیدہ اسلام کیا ہے؟
(A) ایمان بالکتب (B) ایمان بالآخرت
(C) بالرسل (D) توحید

2. اسلامی نقطہ نظر سے ایمان بالکتب سے کیا مراد ہے؟
(A) قرآن پر ایمان (B) زبور پر ایمان
(C) تورات پر ایمان
(D) تمام نبیوں کی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان

3. تمام نبیوں کا دین اسلام تھا تو پھر مختلف نبیوں کے مذہب میں فرق کیا تھا؟
(A) قوانین شریعت کی تفصیلات مختلف تھیں۔
(B) قوانین شریعت کا نفاذ مختلف تھے۔
(C) قوانین شریعت مختلف تھے۔
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

4. قرآن مجید میں کتنی آسمانی کتابوں کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے؟
(A) چار (B) پانچ
(C) چھ (D) آٹھ

5. چار آسمانی کتابوں کے علاوہ کس نبی کے صحیفے کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے؟
(A) صحف ابراہیم (B) صحف موسیٰ
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

6. آسمانی کتابوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
(A) بنی نوع انسان کی رہنمائی
(B) تلاوت کرنا
(C) بنی نوع انسان کو سکون مہیا کرنا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

7. کس آسمانی کتاب کا سب سے اہم موضوع انسان ہے؟
(A) توریت (B) انجیل
(C) قرآن (D) a,b اور c تینوں

8. کس چیز کو انسانوں کیلئے غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کیلئے معیار بنایا گیا ہے؟
(A) قرآن (B) رسول
(C) زبور (D) تمام آسمانی کتابیں

9. سب سے پرانی آسمانی کتاب کا نام بتائیں؟
(A) قرآن (B) زبور
(C) انجیل (D) تورات

10. مقدس آسمانی کتاب زبور.........
(A) صحیفہ بھی کہلاتی ہے۔
(B) مناجات (Psalam) بھی کہلاتی ہے۔
(C) انجیل بھی کہلاتی ہے۔
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں۔

11. کس نبی پر زبور نازل کی گئی؟
(A) حضرت داؤد علیہ السلام
(B) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(C) حضرت عیسیٰ علیہ السلام
(D) حضرت ادریس علیہ السلام

12. زبور کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) رہنما دل (B) ہدایت کی کتاب
(C) ٹکڑا (D) روشنی کی کتاب

13. مقدس آسمانی کتاب زبور کی زبان کیا تھی؟
(A) عربی (B) فارسی
(C) لاطینی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

14. مقدس آسمانی کتاب زبور میں نبی اکرم کا ذکر کس نام سے آیا ہے؟
(A) صدیق (B) امین
(C) فاروق (D) طیب

15. کون سی مقدس آسمانی کتاب عہد نامہ قدیم (Old Testament) بھی کہلاتی ہے؟
(A) زبور (B) توریت
(C) انجیل (D) قرآن

16. توریت ....
(A) حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی
(B) حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کی گئی
(C) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی
(D) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی

17. کس نبی پر دس احکام الٰہی (Ten Commandments) نازل کیے گئے؟
(A) حضرت ادریس علیہ السلام
(B) حضرت آدم علیہ السلام
(C) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(D) حضرت ابراہیم علیہ السلام

18. موسوی شریعت کے دس احکام الٰہی ....
(A) اوامر عشرہ بھی کہلاتے ہیں
(B) شریعت عشرہ بھی کہلاتے ہیں
(C) قوانین عشرہ بھی کہلاتے ہیں
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

19. مقدس آسمانی کتاب توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟
(A) طیب (B) امین
(C) احمد (D) قاسم

20. مقدس آسمانی کتاب زبور سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟
(A) قرآن (B) انجیل
(C) توریت (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

21. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سب سے پہلی کتاب ہے۔
(A) قرآن (B) انجیل
(C) زبور (D) توریت

22. توریت کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) حفاظت (B) رہنمائی
(C) ہدایت (D) روشنی

23. توریت کے بعد کون سی مقدس آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی؟
(A) زبور (B) انجیل
(C) قرآن (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

24. انجیل کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) خوشخبری (B) بری خبر
(C) آسمانی خبر (D) زمینی خبر

25. مقدس کتاب انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟
(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(B) حضرت ادریس علیہ السلام
(C) حضرت عیسیٰ علیہ السلام
(D) حضرت آدم علیہ السلام

26. مقدس کتاب انجیل میں نبی اکرم ﷺ کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟
(A) فاروق (B) عبداللہ
(C) فارقلیط (D) محمد

27. کونسی مقدس آسمانی کتاب عہد نامہ جدید (New Testament) بھی کہلاتی ہے؟
(A) زبور (B) انجیل

(C) توریت (D) قرآن

28. کون سی مقدس آسمانی کتاب گوسپل (Gospal) بھی کہلاتی ہے؟
(A) توریت (B) زبور
(C) قرآن (D) انجیل

29. کس نبی پر صحیفہ نازل ہوا؟
(A) حضرت آدم علیہ السلام
(B) حضرت شیث علیہ السلام
(C) حضرت ابراہیم علیہ السلام
(D) c,b,a اور تینوں

30. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟
(A) رسول کو ایک نیا ضابطہ اور نئی کتاب دی جاتی ہے جبکہ نبی پچھلے ضابطے اور کتاب کی پیروی کرتے ہیں۔
(B) نبی کو ایک نیا ضابطہ اور نئی کتاب دی جاتی ہے جبکہ رسول پچھلے ضابطے اور کتاب کی پیروی کرتے ہیں۔
(C) رسول اور نبی دونوں کو نئی کتاب دی جاتی ہے مگر دونوں کے ضابطہ قانون میں فرق ہوتا ہے۔
(D) نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

31. حضرت شیث علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے گئے؟
(A) 50 (B) 70
(C) 80 (D) 100

32. آخری مقدس آسمانی کتاب کا نام بتائیں؟
(A) توریت (B) انجیل
(C) قرآن (D) زبور

33. درج ذیل میں سے کون سی مقدس آسمانی کتاب کو دوسری مقدس آسمانی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے؟
(A) زبور (B) توریت
(C) قرآن (D) انجیل

34. سورۃ المائدہ کی کس آیت میں قرآن مجید اپنے آپ کو پچھلی کتابوں کی محافظ کتاب قرار دیتا ہے؟
(A) 41 (B) 48
(C) 49 (D) 50

35. درج ذیل میں سے کون سی کتاب عربی میں نازل کی گئی؟
(A) زبور (B) قرآن
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

36. کس آسمانی کتاب کی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھائی ہے؟
(A) قرآن (B) توریت
(C) انجیل (D) تمام کتابوں کی

37. "بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔" یہ آیت قرآن مجید کی کس سورۃ میں بیان ہوئی ہے؟
(A) حم السجدہ (B) الرحمٰن
(C) آل عمران (D) الحجر

38. قرآن مجید میں قرآن کیلئے لفظ عزیز استعمال ہوا ہے۔ عزیز سے کیا مراد ہے؟
(A) غالب (B) پاکیزہ
(C) ہمیشہ رہنے والی (D) ہدایت دینے والی

39. کس آسمانی کتاب کی اصلی عبارت میں تبدیلی پیدا کر دی گئی ہے؟
(A) توریت (B) زبور
(C) انجیل (D) b,a اور تینوں

40. آسمانی کتابوں کی تعلیمات کے مطابق انسان کی اس دنیا میں کیا حیثیت ہے؟
(A) اللہ کا غلام (B) اللہ کا پیامبر
(C) اللہ کا عبادت گزار (D) اللہ کا خلیفہ یا نائب

41. سب سے پہلی الہامی کتاب کا کیا نام ہے؟
(A) انجیل (B) زبور
(C) توریت (D) قرآن کریم

42. الہامی کتاب ''زبور'' کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟

(A) حضرت داؤدؑ
(B) حضرت یعقوبؑ
(C) حضرت موسیٰؑ
(D) حضرت ہارونؑ

جوابات

1. (A)	2. (D)	3. (A)	4. (A)	5. (C)	6. (A)	7. (D)	8. (D)
9. (D)	10. (B)	11. (A)	12. (C)	13. (D)	14. (C)	15. (B)	16. (C)
17. (C)	18. (A)	19. (A)	20. (C)	21. (D)	22. (D)	23. (A)	24. (A)
25. (C)	26. (C)	27. (B)	28. (D)	29. (D)	30. (A)	31. (A)	32. (C)
33. (C)	34. (B)	35. (B)	36. (A)	37. (D)	38. (A)	39. (D)	40. (D)
41. (C)	42. (A)						

ایمان بالآخرت

1. ایمان مفصل میں موجود پانچویں عقیدے کا کیا نام ہے؟
(A) ایمان بالآخرت (B) ایمان بالرسل
(C) ایمان بالکتب (D) ایمان بالملائکہ

2. حیات بعد موت کو اللہ تعالیٰ نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟
(A) دو (B) تین
(C) چار (D) پانچ

3. جگہ یا حالت جہاں پر لوگ موت کے بعد اور فیصلے کے دن سے پہلے رہیں گے کو کیا کہتے ہیں؟
(A) برزخ (B) برزخ
(C) باص (D) حاویہ

4. قرآن مجید کی اس سورۃ کا نام بتائیں جس کی آیت نمبر 100 میں برزخ کا لفظ استعمال ہوا ہے؟
(A) سورۃ الفلق (B) سورۃ المومنون
(C) سورۃ رحمٰن (D) سورۃ النساء

5. برزخ کے لغوی معنی کیا ہے؟
(A) مقررہ وقت
(B) درمیان میں آنے والا
(C) فیصلے کا دن
(D) ساتواں آسمان

6. قرآن مجید کے مطابق درج ذیل میں سے کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے سات دنوں میں تخلیق کی؟
(A) ارض (زمین) (B) سماوات (آسمان)
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

7. قیامت کے دن مسلمانوں کی کس زمرہ میں درجہ بندی کی جائے گی؟
(A) متقی (B) مومن
(C) مسلمان (D) a اور b اور c تینوں

8. قیامت والے دن انسانوں کی درجہ بندی کس زمرہ میں کی جائے گی؟
(A) مسلمان (B) کافر
(C) منافق (D) a,b اور c تینوں

9. احادیث کی رو سے کس دن قیامت واقع ہوگی؟
(A) حج (B) جمعہ
(C) منگل (D) اتوار

10. کس فرشتے کے صور پھونکنے سے قیامت واقع ہوگی؟
(A) حضرت جبرائیلؑ (B) حضرت میکائیل
(C) حضرت اسرافیلؑ (D) کوئی نہیں

11. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صور پھونکنے کے فوراً بعد کیا ہوگا؟
(A) تمام مخلوقات میدان حشر کی طرف بھاگیں گے
(B) تمام مردہ مخلوق زندہ ہو جائے گی۔
(C) تمام مخلوق پر موت طاری ہو جائے گی
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

12. کب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ صور پھونکیں گے اور تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے گی؟
(A) حساب کے دن (B) حشر کے دن
(C) قیامت کے دن
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

13. آخرت کے لغوی معنی ہیں۔
(A) بعد میں آنے والی چیز (B) آنکھوں سے پرے چیز
(C) اللہ کی چیز (D) انعام

14. آخرت متضاد ہے۔
(A) برزخ (B) جنت
(C) جسم (D) دنیا

15. دنیا کے لغوی معنی ہیں۔
(A) بعد کی چیز (B) دلفریب چیز
(C) دھوکہ دینے والی چیز (D) قریب کی چیز

16. کس دن انسانوں کو ان کے افعال و اعمال کے لحاظ سے سزا اور جزا دی جائے گی؟
(A) یوم آخرت (B) یوم المحیط
(C) یوم الحساب (D) یوم النافخة

17. یوم الحساب سے کیا مراد ہے؟
(A) صور پھونکنے کا دن (B) فیصلے کا دن
(C) اعمال کے احتساب کا دن
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

18. یوم الحساب میں پہلا سوال کس عمل سے متعلق پوچھا جائے گا؟
(A) دین (B) توحید
(C) نماز (D) جہاد

19. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) کافروں کی بخشش کبھی بھی نہ ہوگی۔
(B) کافروں کی بخشش 70 سال بعد ہوگی۔
(C) کافروں کی بخشش 60 سال بعد ہوگی۔
(D) کافروں کی بخشش 50 سال بعد ہوگی۔

20. نبی اکرمؐ نے یوم الحساب سے متعلق کتنے اشارے دیے ہیں؟
(A) 72 (B) 75
(C) 80 (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

21. یوم القیامہ سے کیا مراد ہے؟
(A) حشر کا دن (B) حساب کا دن
(C) اکٹھا ہونے کا دن (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

22. یوم المحیط سے کیا مراد ہے؟
(A) احاطہ کرنے والا دن (B) اکٹھا کرنے والا دن
(C) آنے والا دن (D) عظیم دن

23. یوم التلاق سے کیا مراد ہے؟
(A) حشر کا دن (B) فیصلے کا دن
(C) اکٹھا ہونے کا دن (D) صور پھونکنے کا دن

24. یوم النافخة فی الصور سے کیا مراد ہے؟
(A) قیامت کا دن (B) فیصلے کا دن
(C) صور پھونکنے کا دن (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

25. قریب آتا ہوا دن مطلب ہے.........
(A) یوم النافخة کا (B) یوم المحیط کا
(C) یوم الحساب کا (D) یوم القیامہ کا

26. یوم لاریب فیہ سے مراد ہے؟
(A) موت کا دن
(B) زندگی کے ایام
(C) ایسا دن جس کے آنے میں شک نہ ہو
(D) کوئی نہیں

27. یوم الاجل معلوم سے کیا مراد ہے؟
(A) اکٹھا ہونے کا دن (B) قریب آتا ہوا دن
(C) مقررہ معلوم وقت پر آنے والا دن
(D) بہت بڑا دن

28. یوم العظیم کس دن کو کہا جاتا ہے؟
(A) قیامت کے دن کو (B) قبر میں پہلے دن کو
(C) قبر سے جی اٹھنے کے دن کو (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

29. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) موت کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن روح کی موت واقع نہیں ہوتی

(B) موت کے بعد زندگی اور روح دونوں کی موت واقع ہو جاتی ہے

(C) موت کے بعد زندگی قائم رہتی ہے لیکن روح پرواز کر جاتی ہے

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

30. مومن کا مطلب ہے۔

(A) نیک (B) پرہیزگار

(C) محبت کرنے والا (D) امن دینے والا

31. متقی سے کیا مراد ہے؟

(A) یقین رکھنے والا (B) ایماندار

(C) پرہیزگار (D) عظیم

32. جنت کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(A) باغ (B) انعام

(C) کامیابی (D) امید

33. جنت حاصل کرنے کیلئے درج ذیل میں سے کون سی چیز ہونی چاہیے؟

(A) عقیدہ (B) نیک اعمال

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

34. جنت سے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟

(A) یہ ایک جسمانی لذت ہے

(B) یہ ایک روحانی لذت ہے

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

35. درج ذیل الفاظ میں سے کون سے الفاظ قرآن مجید میں جنت کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟

(A) فردوس، روضہ اور دار الخلد

(B) دار المقامہ، دار القرار، المروہ

(C) دار السلام، دار الجلال، جنت النعیم

(D) a,b اور c تینوں

36. جنت کے اس مقام پر جس کا نام محمود ہے کون فائز ہوگا؟

(A) مومن (B) متقی

(C) انبیاء کرام (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

37. جنت میں سب سے پہلے قدم رکھنے والے نبی کا نام بتائیں؟

(A) حضرت آدم علیہ السلام

(B) حضرت ابراہیم علیہ السلام

(C) حضرت یعقوب علیہ السلام

(D) حضرت محمدؐ

38. قرآن مجید میں کتنی دفعہ جنت کا ذکر آیا ہے؟

(A) 150 (B) 200

(C) 250 (D) 300

39. رضوان کون ہے؟

(A) خازن جنت (B) خازن جہنم

(C) جنت کا ایک درخت (D) جہنم کا ایک درخت

40. قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں مومنین سے جنت کے وعدے کا ذکر آیا ہے؟

(A) 15 (B) 10

(C) 6 (D) 2

41. غی، آثام، موباق، سعیر، جب الحزن، سحق قرآنی تعلیمات کے مطابق کیا ہیں؟

(A) جہنم کی وادیاں اور ندیاں

(B) جنت کی وادیاں اور ندیاں

(C) جہنم کے نام (D) جنت کے نام

42. جنت میں مسلمانوں کیلئے سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟

(A) موبق نامی جنت کی وادی (B) اللہ تعالیٰ کا دیدار

(C) حضرت محمدؐ کا دیدار (D) نیک دوستوں کا ساتھ

43. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟

(A) 7 (B) 9

(C) 15 (D) 20

44. داروغہ جہنم کا نام بتائیں؟

(A) مالک (B) مسعود

(C) جبل (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

45. ھاویہ کیا ہے؟
(A) جہنم کی تنگ ترین جگہ (B) جہنم کی گہری ترین جگہ
(C) جہنم کی اونچی ترین جگہ
(D) جہنم کی خوفناک ترین جگہ

46. جہنم کی کس چوٹی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟
(A) محیط (B) حاطمہ
(C) صعود (D) تالیق

47. حیات بعد موت کا پہلا حصہ برزخ کہلاتا ہے دوسرا حصہ جو کہ دائمی ہے کیا کہلاتا ہے؟
(A) آخرت کی زندگی (B) دائمی زندگی
(C) عاقبہ کی زندگی (D) لاریب زندگی

48. موت کے فوراً بعد قبر میں جو حساب ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
(A) یوم العاقبہ (B) حساب صغریٰ
(C) قیامت صغریٰ (D) یوم الصغریٰ

49. اسلام کی انفرادی خصوصیت کیا ہے جو کہ ایک حدیث کے مطابق اسلام کے عقائد کا بھی حصہ ہے؟
(A) سچ (B) حیا
(C) ایمانداری (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

50. ہر مذہب کی ایک انفرادی خصوصیت ہوتی ہے اور اسلام کی انفرادی خصوصیت حیا ہے۔" یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟
(A) زید ابن حارثؓ (B) زید ابن طلحؓ
(C) زید ابن عاصؓ (D) زید ابن عمرؓ

51. حیا ایمان کی شاخ ہے۔" حیا اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر ان میں سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے۔" یہ ایک ــــــــ
(A) قرآنی آیت ہے (B) حدیث ہے
(C) روایت ہے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

52. "اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے اس سے حیا کا حق ہے۔" یہ حدیث صحاح ستہ میں سے کس کتاب میں بیان ہوئی ہے؟
(A) صحیح بخاری (B) صحیح مسلم
(C) ترمذی شریف (D) سنن ابی داؤد

53. عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟
(A) عذاب دوزخ کا عالم
(B) چاند ستاروں کی دنیا
(C) محشر کا دن
(D) موت اور قیامت کے دن کا درمیانی وقفہ

جوابات

1. (A)	2. (A)	3. (B)	4. (B)	5. (B)	6. (C)	7. (D)	8. (D)
9. (B)	10. (C)	11. (C)	12. (B)	13. (A)	14. (D)	15. (D)	16. (C)
17. (C)	18. (C)	19. (A)	20. (A)	21. (A)	22. (A)	23. (C)	24. (C)
25. (A)	26. (C)	27. (C)	28. (A)	29. (A)	30. (D)	31. (C)	32. (A)
33. (C)	34. (C)	35. (D)	36. (C)	37. (D)	38. (A)	39. (A)	40. (C)
41. (A)	42. (B)	43. (A)	44. (A)	45. (D)	46. (C)	47. (A)	48. (C)
49. (B)	50. (B)	51. (B)	52. (C)	53. (D)			

ارکان اسلام-شہادت

1. کس بنیاد پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے؟
(A) ارکان اسلام
(B) عقیدہ اسلام
(C) پیروکار اسلام
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

2. ارکان اسلام کتنے ہیں؟
(A) چار
(B) پانچ
(C) چھ
(D) سات

3. پانچ ارکان اسلام ہیں نماز روزہ زکوۃ حج اور ......
(A) جہاد
(B) شہادت
(C) ایمان بالرسل
(D) فرشتوں پر ایمان

4. اسلام کے پہلے رکن کا نام بتائیں؟ (P.C.S.Judicial 2001)
(A) شہادت
(B) نماز
(C) روزہ
(D) زکوۃ

5. توحید یہ اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے مطابق اللہ تعالی ......
(A) اپنی ذات میں یکتا ہیں یعنی ایک سے زیادہ اللہ موجود نہیں ہیں۔
(B) صفات میں یکتا ہیں یعنی صفات کے لحاظ اللہ کا کوئی ثانی نہیں۔
(C) اعمال میں یکتا ہیں یعنی جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔
(D) a، b اور c تینوں

6. ایک مسلمان کلمہ شہادت اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ پڑھ کر اس چیز کا حلف وفاداری اٹھاتا ہے کہ ......
(A) میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
(B) میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

7. عقیدہ توحید اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی انسان
(A) کی زندگی دیتے ہیں
(B) کی حفاظت ہیں
(C) [illegible] کام میں
(D) a، b اور c تینوں

8. توحید کا متضاد شرک ہے۔ شرک سے کیا مراد ہے؟
(A) اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔
(B) بتوں کی پوجا کرنا۔
(C) کسی زندہ یا مردہ کی عبادت کرنا
(D) a، b اور c تینوں۔

9. شرک کی قسمیں بتائیں؟
(A) شرک عظیم
(B) شرک صغیرہ
(C) چھپا ہوا شرک
(D) a، b اور c تینوں

10. شرک عظیم میں جو گناہ آتا ہے وہ درج ذیل ہے؟
(A) غیر اللہ کی عبادت کرنا
(B) اپنی مدد کے لئے بتوں کو پوجنا اور ان سے مانگنا۔
(C) غیر اللہ کے آگے جھکنا اور غیر اللہ کی فرمانبرداری کے طور پر اس کے نام پر جانور ذبح کرنا۔
(D) a، b اور c تینوں

11. شرک صغیرہ سے مراد ہے کہ جیسے ......
(A) کچھ کاموں میں منافقت کرنا
(B) اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی منت ماننا۔

(C) اس قسم کا اظہار کرنا کہ اگر اس نے چاہا (اللہ کے علاوہ کسی اور کو ذہن میں رکھ کر یہ کہنا)

(D) a، b اور تینوں

12. شرک کی اس قسم کا نام بتائیں جو کہ شرک عظیم یا شرک کبیرہ دونوں کی شکل میں ہو سکتا ہے؟

(A) چھپا ہوا شرک (B) باطنی شرک

(C) ظاہری شرک (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

13. چھپا ہوا شرک، شرک عظیم کی شکل میں کیا کہلاتا ہے؟

(A) منافقت (B) ریاکاری

(C) شرک عظیم (D) شرک جلی

14. چھپا ہوا شرک، شرک صغیرہ کی شکل میں کیا کہلاتا ہے؟

(A) شرک صغیرہ (B) باطنی شرک

(C) ریا (دکھاوا) (D) کوئی نہیں

15. "کیا میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ بتادوں جس کے بارے میں، میں خوفزدہ ہوں کہ وہ تمہیں مسیح الدجال کے فتنے سے بھی زیادہ نقصان پہنچائے گی۔" لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتایئے۔ اس پر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ "وہ .... ہے جس میں کہ ایک شخص صبح نماز کے لئے اٹھے اور اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کی جدوجہد کریگا صرف اس لئے کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔" اس حدیث مبارکہ جسے ابوسعید خدریؓ نے روایت کیا ہے کی خالی جگہ کو پر کریں؟

(A) شرک عظیم (B) شرک صغیرہ

(C) چھپا ہوا شرک (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

16. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی کی ممانعت کا ذکر قرآن مجید کی کس سورۃ کی کس آیت میں آیا ہے؟

(A) سورۃ المائدہ آیت نمبر 3

(B) سورت النحل آیت نمبر 856

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

17. اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے۔

(A) نماز (B) روزہ

(C) کلمہ طیبہ (D) زکوٰۃ

18. کلمہ طیبہ کے حصے ہیں۔

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

19. افضل ذکر ہے۔

(A) تسبیح (B) تحمید

(C) تکبیر (D) تہلیل

20. کلمہ کا پہلا حصہ کہلاتا ہے۔

(A) توحید (B) رسالت

(C) شہادت (D) تمجید

21. کلمہ کا دوسرا حصہ کہلاتا ہے۔

(A) توحید (B) رسالت

(C) تحمید (D) تکبیر

22. پڑھنے والا دوزخ سے ضرور نکل آئے گا۔

(A) کلمہ (B) درود

(C) نماز (D) تسبیح

23. جتنی دفعہ کلمہ پڑھنے سے مغفرت ہو جاتی ہے۔

(A) 50ہزار (B) 60ہزار

(C) 70ہزار (D) 80ہزار

24. صدق و اخلاص سے کلمہ پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔

(A) آیت (B) حدیث

(C) قول صحابہؓ (D) قول صحابیہؓ

25. آقا ﷺ نے چچا کی موت کے وقت کلمہ پیش کیا تھا۔

(A) عباسؓ کی (B) حمزہؓ کی

(C) ابولہب کی (D) ابوطالب کی

26. کلمہ لا الہ الا اللہ کس پیغمبر کا ہے۔

(A) آدم علیہ السلام (B) ابراہیم علیہ السلام

(C) موسیٰ علیہ السلام (D) سب انبیاء کا

27. اللہ کا قلعہ جس میں داخل ہونے والا عذاب سے بچ جائے گا۔

(A) کلمہ (B) نماز

(C) روزہ (D) حج

28. کلمہ طیبہ کلمات (الفاظ) پر مشتمل ہے۔

(A) 5 (B) 6

(C) 7 (D) 8

جوابات

1. (A)	2. (B)	3. (B)	4. (A)	5. (D)	6. (C)	7. (D)	8. (D)
9. (D)	10. (D)	11. (D)	12. (A)	13. (A)	14. (C)	15. (C)	16. (C)
17. (C)	18. (B)	19. (D)	20. (A)	21. (B)	22. (A)	23. (C)	24. (B)
25. (D)	26. (D)	27. (A)	28. (C)				

نماز

1. اسلام کے دوسرے رکن کا نام بتائیں؟
(a) نماز (b) روزہ
(c) زکوٰۃ (d) حج

2. کس موقع پر نبی اکرمؐ کو تحفتاً نماز عطا کی گئی؟
(a) ہجرت مدینہ (b) میثاق مدینہ
(c) معراج (d) شب قدر

3. پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم کب ہوا؟
(a) 10 نبوی (b) 11 نبوی
(c) 12 نبوی (d) 13 نبوی

4. شروع میں صرف دو نمازیں فرض قرار دی گئی اور وہ تھیں ....
(a) فجر اور ظہر کی (b) مغرب اور عشاء کی
(c) فجر اور عصر کی (d) عصر اور مغرب کی

5. قرآن مجید میں کتنی بار نماز کا حکم آیا ہے؟
(a) 700 سے زیادہ مرتبہ (b) 800 سے زیادہ مرتبہ
(c) 900 سے زیادہ مرتبہ (d) 1000 سے زیادہ مرتبہ

6. اسلام کا وہ کون سا رکن ہے جو کہ ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم سے ممیز کرتا ہے؟
(a) روزہ (b) زکوٰۃ
(c) نماز (d) توحید

7. حضرت جبرائیلؑ نے نبی پاکؐ کو ____________
(a) نماز کے اوقات سکھائے (b) نماز کا طریقہ سکھایا
(c) دونوں (d) کوئی نہیں

8. قیامت کے دن انسان کے حساب کے وقت پوچھا جانے والا پہلا سوال کونسا ہوگا؟
(a) روزہ (b) زکوٰۃ
(c) نماز (d) حج

9. اللہ کے ماننے والوں پر کون سی بنیادی شرط عائد ہوتی ہے؟
(a) اللہ کو بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں۔
(b) نماز قائم کرتے ہیں
(c) جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں
(d) b'a اور c تینوں

10. اسلامی نقطہ نظر سے درج ذیل نجاستیں جیسے منی بہتا ہوا خون اور پیپ وغیرہ کیا کہلاتی ہیں؟
(a) نجاست (b) حرام
(c) نجاست غلیظہ (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

11. وضو میں ....
(a) کچھ عمل فرض ہوتے ہیں
(b) نبی پاک کی سنت پر مشتمل عمل ہوتے ہیں
(c) پسندیدہ عمل ہوتے ہیں جو کہ مستحب کہلاتے ہیں
(d) b'a اور c تینوں

12. قرآن مجید کے مطابق فرائض وضو کتنے ہیں؟
(a) 8 (b) 6
(c) 4 (d) 3

13. سنت وضو کی تعداد کیا ہے؟
(a) 15 (b) 14
(c) 13 (d) 12

14. درج ذیل میں سے کونسے وضو کے پسندیدہ یا مستحب عمل ہیں؟
(a) سیدھے عضو سے وضو شروع کرنا اور گردن پر مسح کرنا
(b) اونچی اور صاف جگہ پر بیٹھنا اور بغیر کسی کی مدد کے وضو کرنا

(c) قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا
(d) b'a اور c تینوں

15. وضو کے ناپسندیدہ عمل کیا کہلاتے ہیں؟
(a) مستحب (b) مفترط
(c) مکروہات (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

16. مکروہات وضو ہیں۔
(A) سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا
(B) ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا
(C) وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتیں کرنا
(D) تمام

17. فرائض وضو میں پورا چہرہ دھونے کے علاوہ درج ذیل میں سے اور کون سے فرائض آتے ہیں؟
(a) دونوں بازو کہنیوں تک دھونا (b) سر کا مسح کرنا
(c) دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا (d) b'a اور c تینوں

18. ہوا کے اخراج یا پھرتے وغیرہ آنے سے وضو کے ناکارہ ہو جانے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟
(a) حدث اصغر (b) حدث اکبر
(c) جنابت اصغر (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

19. جماع ایام حیض اور خون استحاضہ کے بعد ناپاکی کی وجہ سے وضو ناکارہ ہو جانے کا یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟
(a) حدث اصغر (b) حدث اکبر
(c) جنابت اصغر (d) جنابت اکبر

20. حدث اکبر اور حدث اصغر کے علاوہ درج ذیل میں سے وہ کون سے عمل ہیں جو کہ کسی شخص کے وضو کو ناکارہ بنا دیتے ہیں؟
(a) نیند کی وہ حالت جس میں انسان ہوش میں نہیں رہتا
(b) پاگل پن یا بے ہوشی کی وجہ سے حالت شعور میں نہ رہنا
(c) نماز میں قہقہے لگانے سے اور جسم کے کسی بھی حصے سے کسی نجاست کا نکلنا
(d) c'b'a تینوں

21. وضو تین ہجری کو فرض ہوا قرآن مجید کی کس سورۃ میں وضو کی فرضیت کا حکم آیا ہے؟
(a) سورۃ مریم (b) سورۃ نور
(c) المائدہ (d) البقرہ

22. عربی زبان کے لفظ غسل کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(a) نہانا (b) صاف کرنا
(c) دھونا (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

23. درج ذیل میں سے کون سے فرائض غسل ہیں؟
(a) پانی سے گلا صاف کرنا
(b) ناک میں پانی ڈالنا
(c) کم از کم ایک دفعہ پورے جسم پر اسطرح سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے
(d) b'a اور c تینوں

24. غسل کس حالت میں فرض ہوتا ہے؟
(a) منی کے اخراج کے بعد
(b) خون استحاضہ اور ایام حیض کے بعد
(c) ایک کافر کے مسلمان ہونے اور ایک مسلمان کے مرنے کے بعد
(d) b,a اور c تینوں

25. " اگر تم بیمار یا سفر پر ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پھر کچھ مٹی (زمین) یا ریت سے ہاتھ رگڑ کر اپنا چہرہ اور ہاتھ صاف کر لیا کرو۔ اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ پاک کرنا چاہتا ہے" قرآن مجید کی یہ آیت کس عمل کی نشاندہی کر رہی ہے؟
(a) تیمم (b) وضو
(c) غسل (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

26. تیمم ....
(a) وضو کی جگہ پر کیا جا سکتا ہے
(b) غسل کی جگہ پر کیا جا سکتا ہے
(c) b'a دونوں
(d) b'a دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

نماز

27. جب باجماعت نماز کیلئے نمازی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں تو موذن اذان کے الفاظ دہراتا ہے لیکن اس دفعہ اذان کے الفاظ دہراتے ہوئے نہ تو وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھتا ہے اور نہ ہی اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں موڑتا ہے یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟

(a) اذان (b) دعا
(c) اقامت (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

28. روزانہ ادا کی جانے والی نمازیں مشتمل ہوتی ہیں کچھ فرائض پر کچھ سنتوں پر اور.........

(a) کچھ واجبات پر (b) کچھ نوافل پر
(c) b'a دونوں
(d) b'a دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

29. نبی پاک کی سنت کو سنت موکدہ اور سنت غیر موکدہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سنت موکدہ سے کیا مراد ہے؟

(a) وہ عمل جو نبی پاکؐ نے ہمیشہ کیا
(b) وہ عمل جو نبی پاکؐ نے ہمیشہ کیا ماسوائے کسی ناگزیر وجہ کے
(c) وہ عمل جو نبی پاکؐ نے مکہ میں کئے
(d) وہ عمل جو نبی پاکؐ نے مدینہ میں کئے

30. سنت غیر موکدہ سے کیا مراد ہے؟

(a) وہ عمل جو نبی پاکؐ ہمیشہ کرتے تھے مگر کسی خاص وجہ سے چھوڑ بھی دیتے تھے
(b) وہ عمل جو نبی پاکؐ اکثر کرتے تھے مگر کسی خاص وجہ کے بغیر چھوڑ بھی دیتے تھے
(c) وہ عمل جو نبی پاکؐ خود تو کرتے تھے لیکن دوسروں کو کرنے کی تلقین نہیں کرتے تھے
(d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

31. فرائض نماز میں درج ذیل ارکان نماز آتے ہیں: القیام، تکبیر تحریمہ، الفاتحہ، رکوع اور.........

(a) سجود (b) تشہد
(c) تسلیم (d) c'b'a تینوں

32. اگر نماز کا کوئی فرض رکن ادا ہونے سے رہ جائے تو وہ پوری رکعت جس میں کوئی رکن ادا نہیں ہو سکا دوبارہ ادا کی جائے گی کس فرض رکن کی عدم ادائیگی سے پوری نماز دوبارہ ادا کی جائے گی؟

(a) تکبیر تحریمہ (پہلی تکبیر جس سے نماز ہونے سے رہ جاتی ہے)
(b) سجود (c) تسلیم
(d) تشہد

33. نماز کی ہر رکعت چھ فرائض پر مشتمل ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود اور.........

(a) تشہد پر (b) تسلیم پر
(c) قعدہ اخیرہ پر (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

34. ایک رکعت کے کتنے ارکان واجبات پر مشتمل ہوتے ہیں اور اگر ان میں سے ایک بھی واجب رکن ادا ہونے سے رہ جائے تو پھر اس غلطی کی تلافی کیلئے سجدہ سہو ادا کیا جاتا ہے؟

(a) 16 (b) 15
(c) 14 (d) 13

35. ایک رکعت کے سنت ارکان کی تعداد بتائیں جن میں سے کسی رکن کی عدم ادائیگی کی صورت میں بھی سجدہ سہو لازم نہیں آتا اور نماز مکمل ہو جاتی ہے؟

(a) 20 (b) 21
(c) 22 (d) 23

36. 6 فرائض، تیرہ واجبات اور بیس سنت ارکان کے علاوہ ایک رکعت کے آخری جزو کا نام بتائیں؟

(a) مستحب (b) مستحبات
(c) سنت غیر موکدہ (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

37. باقاعدہ نماز کے آغاز سے پہلے جن شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے ان میں نیت باندھنا، جسم کو ڈھانپنا اور.........

(a) پاکیزگی
(b) قبلہ رخ کرنا
(c) مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا
(d) c'b'a تینوں

38. اس شخص کیلئے کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو کہ باجماعت نہیں بلکہ اکیلا نماز ادا کرتا ہے؟

(a) واحد (b) مستحب

(c) منفرد (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

39. ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے والے نمازی کو کیا کہتے ہیں؟

(a) منفرد (b) مستحد

(c) مقتدی (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

40. نماز میں اگر نیت دو رکعت ادا کرنے کی ہو تو پھر دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا۔

(A) قعدہ اولیٰ کہلاتا ہے (B) قعدہ ثمنی کہلاتا ہے

(C) قعدہ آخیرہ کہلاتا ہے (D) کوئی نہیں

41. اگر نیت تین یا چار رکعت کیلئے ہو تو پھر دوسری رکعت میں تشہد کیلئے بیٹھنا کیا کہلاتا ہے؟

(a) قعدہ ثمنی (b) قعدہ ربع

(c) قعدہ اُولیٰ (d) قعدہ اخیرہ

42. اذان میں موذن کتنی بار تکبیریں ادا کرتا ہے؟

(a) 6 (b) 7

(c) 8 (d) 9

43. درج ذیل میں سے کون سی تسبیح رکوع میں ادا کی جاتی ہے؟

(a) سبحان ربی العظیم (b) سبحان اللہ

(c) سبحان ربی الاعلیٰ (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

44. نماز کے کس رکن کی ادائیگی کے وقت سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ادا کی جاتی ہے؟

(a) قعود (b) قیام

(c) سجود (d) جلسہ

45. کس نماز کے علاوہ ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے؟

(a) عیدالفطر (b) عیدالضحیٰ

(c) نماز جنازہ (d) c'b'a تینوں

46. حضرت بلالؓ نے کس سے اذان کے الفاظ سیکھے تھے؟

(271-60)

(a) حضرت ابوبکرؓ (b) حضرت عمرؓ

(c) حضرت جبرائیل (d) حضرت عبداللہ بن زیدؓ

47. کس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اذان کا حکم دیا ہے؟

(A) سورۃ توبہ (B) سورۃ البقرۃ

(C) سورۃ زخرف (D) سورۃ المائدہ

48. کس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے نشہ کی حالت میں اذان ادا کرنے کی ممانعت کی ہے؟

(a) سورۃ التوبہ (b) سورۃ النساء

(c) النور (d) الحلق

49. کس نماز کی اذان میں الصلوۃ خیر من النوم کے اضافی الفاظ ادا کیے جاتے ہیں؟

(a) فجر (b) ظہر

(c) عشاء (d) مغرب

50. ایک نماز میں تکبیر تحریمہ کتنی بار ادا کی جاتی ہے؟

(a) ایک (b) دو

(c) تین (d) چار

51. دو سجدوں کے درمیان کچھ دیر کا قیام جو کہ واجب ہے کیا کہلاتا ہے؟

(a) قومہ (b) قعدہ

(c) رکوع (d) جلسہ

52. رکوع کے بعد کچھ دیر قیام جو کہ واجب ہے کیا کہلاتا ہے؟

(a) قعدہ (b) جلسہ

(c) قیام (d) قومہ

53. نماز کے فرض رکن قعدہ سے کیا مراد ہے؟

(a) نماز میں سیدھا کھڑا ہونا (b) نماز میں بیٹھنا

(c) سجدوں کا عمل (d) جلسہ

54. دوران نماز اشہد ان لا الہ" کے الفاظ ادا کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی کونسی انگلی اٹھائی جاتی ہے؟

(a) درمیانی (b) شہادت کی انگلی
(c) دوسری انگلی (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

55. درج ذیل میں سے کون سا جزو نماز واجب ہے؟
(a) التحیات (b) تشہد
(c) b'a دونوں
(d) b'a میں سے کوئی بھی نہیں

56. درج ذیل میں سے کون سا رکن نماز سنت ہے؟
(a) درود پڑھنا (b) سبحان ربی الاعلیٰ کہنا
(c) تکبیر کہنا (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

57. نماز سلام پر ختم ہوتی ہے سلام کتنی بار ادا کیا جاتا ہے؟
(a) دو (b) تین
(c) چار (d) پانچ

58. پانچ فرض نمازوں کے کل فرائض کی تعداد کیا ہے؟
(a) 18 (b) 17
(c) 16 (d) 15

59. باجماعت نماز ادائیگی کیلئے کم از کم کتنے نمازیوں کا ہونا ضروری ہے؟
(a) دو (b) تین
(c) چار (d) پانچ

60. باجماعت نماز ادائیگی کو ایک اکیلے شخص کی نماز سے کتنی دفعہ بہتر قرار دیا گیا ہے؟
(a) 57 (b) 47
(c) 37 (d) 27

61. تمام فرض نمازوں میں کتنی رکعتیں شامل ہیں؟
(a) 78 (b) 68
(c) 58 (d) 48

62. نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟
(A) تحلیل (B) تسمیہ
(C) تعوذ (D) جلسہ

63. نماز میں بسم اللہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟
(a) تسمیہ (b) تشہد
(c) تحلیل (d) جلسہ

64. فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟
(a) دو (b) تین
(c) چار (d) پانچ

65. فرض کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(a) ضروری (b) اہم
(c) حکم (d) b'a اور c تینوں

66. تمام نمازوں میں سنت رکعتوں کی تعداد کیا ہے؟
(a) 20 (b) 21
(c) 22 (d) 23

67. نماز کی وہ رکعت کیا کہلاتی ہیں جو کہ اگر ادا کی جائیں تو باعث ثواب ہیں لیکن اگر ادا نہ کی جائیں تو باعث گناہ نہیں ہیں؟
(a) نفل (b) وتر
(c) واجب (d) اشراق

68. کون سی نماز سورج نکلنے سے پہلے اور پھوٹنے کے بعد ادا کی جاتی ہے؟
(a) فجر (b) چاشت
(c) اشراق (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

69. نماز عصر کب ادا کی جاتی ہے؟
(a) جب ایک شخص کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے
(b) جب ایک شخص کا سایہ اس کے قد سے دوگنا ہو جاتا ہے
(c) جب ایک شخص کا سایہ اس کے قد سے 1/3 ہو جاتا ہے
(d) جب ایک شخص کا سایہ اس کے قد سے 1/2 ہو جاتا ہے۔

70. کس نماز کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب دوپہر کے مقابلے میں ہر چیز کا سایہ دوگنا ہو جاتا ہے؟

(a) ظہر (b) عصر

(c) مغرب (d) عشاء

71. نماز مغرب کب ادا کی جاتی ہے؟

(a) غروب آفتاب کے فوراً بعد

(b) غروب آفتاب کے پندرہ منٹ بعد

(c) غروب آفتاب کے آدھے گھنٹے بعد

(d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

72. کس نماز کا وقت شام کے دھندلکے شروع ہوتا ہے اور پو پھوٹنے تک رہتا ہے؟

(a) تہجد (b) عشاء

(c) مغرب (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

73. نماز وتر نماز عشاء کا حصہ ہے۔ نماز وتر......

(a) فرض ہے (b) واجب ہے

(c) سنت ہے (d) نفل ہے

74. صلوۃ وتر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟

(a) دعائے قنوت (b) دعائے مغفرت

(c) قنوت نازلہ (d) کوئی بھی نہیں

75. نماز فجر میں فرضوں سے پیشتر پڑھی جانے والی دو سنتیں......

(a) واجب ہیں (b) موکدہ ہیں

(c) غیر موکدہ ہیں (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

76. صلوۃ ظہر کی کل رکعتیں______ ہیں۔

(A) 9 (B) 10

(C) 11 (D) 12

77. صلوۃ ظہر میں چار سنت، چار فرض اور______

(A) دو سنتیں شامل ہیں (B) دو نفل شامل ہیں

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

78. صلوۃ ظہر میں فرضوں سے پیشتر پڑھی جانے والی سنتیں......

(A) غیر موکدہ ہیں (B) موکدہ ہیں

(C) واجب ہیں (D) فرض ہیں

79. نماز ظہر میں فرضوں کے بعد پڑھی جانے والی دو سنتوں کا درجہ کیا ہے؟

(a) موکدہ (b) غیر موکدہ

(c) واجب (d) نفل

80. صلوۃ عصر چار سنت اور چار فرضوں کے ساتھ آٹھ رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ فرضوں سے پہلے پڑھی جانے والی چار سنتیں......

(a) موکدہ ہیں (b) غیر موکدہ ہیں

(c) واجب ہیں (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

81. نماز مغرب میں شامل فرضوں کے بعد پڑھی جانے والی سنتوں کا درجہ کیا ہے؟

(a) غیر موکدہ (b) موکدہ

(c) نفل (d) واجب

82. نماز مغرب______ رکعات پر مشتمل ہے۔

(A) 7 (B) 6

(C) 5 (D) 4

83. صلوۃ عشاء______ رکعات پر مشتمل ہے۔

(A) 10 (B) 13

(C) 17 (D) 20

84. صلوۃ عشاء، چار سنتوں، چار فرائض، دو سنتوں اور______

(A) تین وتر پر مشتمل ہے (B) دو نوافل پر مشتمل ہے

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

85. صلوۃ عشاء میں فرضوں کے بعد پڑھی جانے والی دو سنتیں

(A) واجب ہیں (B) فرض ہیں

(C) غیر موکدہ (D) موکدہ ہیں

86. صلوۃ عشاء میں فرضوں سے پیشتر پڑھی جانے والی چار سنتیں

(a) سوکدہ ہیں (b) غیر موکدہ ہیں
(c) واجب ہیں (d) مستحب ہیں

87. اس نماز کو کیا کہتے ہیں جس میں امام قرأت کرتا ہے؟
(a) جہری صلوۃ (b) چاشت
(c) اشراق (d) تہجد

88. وہ مقتدی جو مکمل نماز امام کے پیچھے ادا کرے کیا کہلاتا ہے؟
(A) مدرک (B) مسبوق
(C) مسروق (D) کوئی نہیں

89. وہ مقتدی کیا کہلاتا ہے جو کہ پہلی ایک یا دو رکعتیں امام کے ساتھ ادا نہ کر سکا ہو بلکہ دوسری یا تیسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا ہو؟
(a) مسبوق (b) مرضوق
(c) مسروق (d) مضوک

90. کس وقت پر ادائیگی نماز کی ممانعت ہے اس لئے اس وقت پڑھی جانے والی نماز مکروہ کہلاتی ہے؟
(a) آدھی رات کے وقت (b) زوال کے وقت
(c) چاند گرھن کے وقت (d) سورج گرھن کے وقت

91. زوال کے وقت..........
(a) کوئی نماز ادا نہیں کی جاتی
(b) تلاوت قرآن مجید نہیں کی جاتی
(c) b'a دونوں
(d) b'a میں سے کوئی بھی نہیں

92. نفلی نمازیں کتنی ہیں؟
(a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8

93. وہ کون سی نفلی نماز ہے جو کہ سورج طلوع ہونے کے وقت سے دن کے چوتھائی حصے تک ادا کی جا سکتی ہے؟
(a) چاشت (b) اشراق
(c) صلوۃ تسبیح (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

94. کون سی نفلی نماز کا ثواب حج یا عمرہ کے برابر ہے؟
(a) تہجد (b) اشراق
(c) چاشت (d) تراویح

95. اس نفلی نماز کا نام بتائیں جو کہ اشراق کے بعد آدھے دن تک پڑھی جا سکتی ہے؟
(a) استخارہ (b) اشراق
(c) چاشت (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

96. صلوۃ چاشت کی زیادہ سے زیادہ رکعتوں کی تعداد بتائیں جو کہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہیں؟
(a) دس (b) آٹھ
(c) بارہ (d) چودہ

97. صلوۃ چاشت کی کم از کم رکعتوں کی تعداد..........
(A) 2 ہے (B) 4 ہے
(C) 6 ہے (D) 8 ہے

98. زوال کا وقت کیا ہے؟
(a) چاشت کے بعد ظہر سے پہلے
(b) چاشت کے بعد عصر سے پہلے
(c) چاشت کے بعد مغرب سے پہلے
(d) چاشت کے بعد عشاء سے پہلے

99. نفلی نماز اوابین کب ادا کی جاتی ہے؟
(a) چاشت کے بعد مغرب سے پہلے
(b) مغرب کے بعد عشاء سے پہلے
(c) مغرب کے بعد تہجد سے پہلے
(d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

100. کون سی نفلی نماز آدھی رات سے لیکر پو پھٹنے تک ادا کی جا سکتی ہے؟
(a) اشراق (b) چاشت
(c) تہجد (d) اوابین

101. تہجد کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(a) پاک کرنا (b) جاگ جانا

(c) نیند چھوڑ دینا

(d) جاگ جانا اور نیند چھوڑ جانا

102. درج ذیل میں سے کون سا بیان نماز تہجد کے بارے میں درست ہے؟

(a) صلوٰۃ تہجد میں چار، آٹھ یا بارہ رکعتیں ادا کی جاتی ہیں

(b) تمام نفلی نمازوں میں سب سے پسندیدہ نفلی نماز تہجد ہے

(c) a اور b دونوں

(d) a اور b دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

103. کون سی نماز تمام نمازی ایک لائن میں صرف کھڑے کھڑے ادا کرتے ہیں؟

(a) نماز جنازہ (b) نماز استسقاء

(c) نماز خسوف (d) نماز کسوف

104. صلوٰۃ جنازہ ......

(a) فرض کفایہ ہے (b) واجب ہے

(c) نفل ہے (d) سنت ہے

105. کس نماز میں نہ تو آیات قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہیں اور نہ ہی کوئی سجدہ ادا کیا جاتا ہے؟

(a) صلوٰۃ کسوف (b) صلوٰۃ خسوف

(c) صلوٰۃ جنازہ (d) کسی میں بھی نہیں

106. صلوٰۃ جنازہ سے متعلق کون سا بیان درست ہے؟

(A) اس میں تین سنتیں ہوتی ہیں

(B) ایک تکبیر ایک رکعت کے برابر ہوتی ہے

(C) دونوں

(D) کوئی نہیں

107. صلوٰۃ جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟

(a) چار (b) پانچ

(c) چھ (d) آٹھ

108. قرآن مجید کی کس سورۃ میں صلوٰۃ جنازہ کا حکم دیا گیا ہے؟

(a) سورۃ التوبہ (b) سورۃ الکوثر

(c) سورۃ المریم (d) سورۃ النور

109. تکبیر تشریق کب پڑھی جاتی ہے؟

(a) عید الفطر کے موقع پر (b) عید الاضحیٰ کے موقع پر

(c) صلوٰۃ جنازہ کے موقع پر (d) ان میں کوئی بھی نہیں

110. ہجرت کے کس سال صلوٰۃ عیدین کا حکم آیا؟

(A) پانچویں (B) چوتھے

(C) تیسرے (D) دوسرے

111. دونوں نماز عیدین ......

(A) 3 رکعات پر مشتمل ہوتی ہیں

(B) 2 رکعات پر مشتمل ہوتی ہیں

(C) 4 رکعات پر مشتمل ہوتی ہیں

(D) 6 رکعات پر مشتمل ہوتی ہیں

112. عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں کل تکبیریں کتنی ہیں؟

(a) 18 (b) 12

(c) 13 (d) 14

113. مسلمانوں نے پہلی عید الفطر شوال کے مہینے میں دو ہجری کو منائی مسلمانوں نے عید الضحیٰ کب پہلی بار منائی؟

(a) ذی الحج 2 ہجری کو (b) ذی الحج 3 ہجری کو

(c) ذی الحج 4 ہجری کو (d) ذی الحج 5 ہجری کو

114. کس نماز میں چھ اضافی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟

(a) صلوٰۃ عیدین (b) صلوٰۃ کسوف

(c) صلوٰۃ خسوف (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

115. صلوٰۃ جمعہ کب فرض ہوئی؟

(a) ہجرت سے پہلے (b) ہجرت کے بعد

(c) ہجرت حبشہ کے بعد (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

116. صلوٰۃ تراویح صلوٰۃ عشاء اور صلوٰۃ فجر کے درمیان پڑھی جا سکتی ہے صلوٰۃ تراویح ......

(a) سنت موکدہ ہے (b) سنت غیر موکدہ ہے

(c) فرض ہے (d) نفلی نماز ہے

117. کس موقع پر صلوٰۃ خسوف ادا کی جاتی ہے؟

(a) چاند گرہن (b) سورج گرہن
(c) قحط (d) بارش کی کمی

118. پہلی دفعہ صلوۃ خسوف کب ادا کی گئی؟
(a) 5 ہجری (b) 6 ہجری
(c) 7 ہجری (d) 8 ہجری

119. بارش کی کمی کی صورت میں مسلمان ایک نفلی نماز ادا کرتے ہیں جس میں ان کے ہاتھ اوپر اور ہتھیلیاں زمین کی طرف ہوتی ہیں یہ نماز کیا کہلاتی ہے؟
(a) صلوۃ استخارہ (b) صلوۃ استسقاء
(c) صلوۃ خسوف (d) صلوۃ کسوف

120. نفلی نماز صلوۃ استخارہ کس مقصد کیلئے ادا کی جاتی ہے؟
(a) بارش کے لئے
(b) خوف سے نجات کے لئے
(c) صحت یابی کے لئے
(d) کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی رضا جاننے کے لئے

121. کون سی نماز اپنی موجودہ مشکلات کو حل کرنے کیلئے ادا کی جاتی ہے؟
(a) صلوۃ استخارہ (b) صلوۃ جمعہ
(c) صلوۃ حاجت (d) صلوۃ کسوف

122. انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کیلئے صلوۃ شکر ادا کرتا ہے صلوۃ شکر ایک......
(a) نفل ہے (b) واجب ہے
(c) فرض ہے (d) مستحب ہے

123. کس موقع پر مسلمانوں کو اپنی نمازوں کو مختصر کرنے کا حکم ہے؟
(a) دوران جنگ (b) دوران خوف
(c) دوران بیماری (d) دوران سفر

124. دوران سفر نماز مختصر کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟
(a) اختصار (b) واجب
(c) سنت (d) قصر

125. ایک مسلمان ظہر، عصر اور عشاء کے چار چار فرضوں کی جگہ پر دوران سفر کتنی فرض رکعتیں ادا کرتا ہے؟
(a) 2 (b) 3
(c) 1 (d) کوئی بھی نہیں

126. وہ کون سی نماز ہے جسکی فرض رکعتوں میں قصر کی صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟
(a) فجر (b) مغرب
(c) وتر (d) c'b'a تینوں

127. قصر نماز میں سنتیں ادا نہیں کی جاتی ماسوائے......
(a) فجر کی سنتوں کے (b) مغرب کی سنتوں کے
(c) عشاء کی سنتوں کے (d) ظہر کی سنتوں کے

128. اگر نماز میں کوئی مسلمان نادانستہ طور پر غلطی کرے یا کچھ بھول جائے تو وہ عمل کیا کہلاتا ہے جو کہ اس غلطی کی تلافی کرتا ہے؟
(a) سجدہ السہو (b) دو رکعت نماز کی ادائیگی
(c) نماز کا دہرانا (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

129. سجدہ السہو سے مراد ہے......
(a) بھول جانے کے دو سجدے (b) غلطی کے سجدے
(c) دو سجدے (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

130. نماز کے اس جزو کا نام بتائیں کہ جو اگر نماز میں ادا ہونے سے رہ جائے تو نماز دوبارہ ادا کی جائے گی؟
(a) نفل (b) فرض
(c) سنت (d) مستحب

131. نماز کے اس جزو کا نام بتائیں کہ جو اگر نماز میں ادا ہونے سے رہ جائے تو سجدہ السہو لازمی ہو جاتا ہے؟
(a) فرض (b) نفل
(c) سنت (d) واجب

132. نماز کے اس جزو کا نام بتائیں کہ جو اگر غلطی سے نماز میں ادا ہونے سے رہ جائے تو نہ تو سجدہ السہو لازمی ہوتا ہے اور نہ ہی نماز کی صحت پر اثر پڑتا ہے؟

(a) نفل (b) سنت

(c) واجب (d) وتر

133. یہ کس کے الفاظ ہیں "جان لو کہ تمہارے فرائض میں سب سے بہترین فرض تمہاری نماز ہے"؟

(a) اللہ تعالیٰ (b) حضرت محمد ﷺ

(c) حضرت ابوبکرؓ (d) حضرت عمرؓ

134. اسلام کے کس رکن کو جنت کی چابی قرار دیا گیا ہے؟

(a) نماز (b) روزہ

(c) حج (d) زکوۃ

135. صلوۃ کے لغوی معنی رحمت کے ہیں نماز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

(a) تمام بنی نوع انسان کو ایک مشترکہ روایت میں اکٹھا کرنا

(b) تمام بنی نوع انسان کو امن پہنچانا

(c) ان اعمال کی نشاندہی کرنا جن کا تعلق صرف انسان اور اللہ سے ہے

(d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

136. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے مسلمانوں کی پہلی مسجد کا نام بتائیں؟

(a) مسجد نبوی (b) مسجد حرام

(c) مسجد قبلتین (d) مسجد قبا

137. کس رکن نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے؟

(A) روزہ (B) زکوۃ

(C) نماز (D) جہاد

138. نماز کے بارے میں یہ کس نے کہا کہ "نماز قائم کرو زکوۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ"؟

(a) حدیث ہے (b) قرآنی آیت ہے

(c) روایت ہے (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

139. "اہل جہنم سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی ہے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے" قرآن مجید کی کس سورۃ میں یہ بیان آیا ہے؟

(a) سورۃ الکوثر (b) سورۃ المدثر

(c) سورۃ العلق (d) سورۃ النور

140. پہلی نماز جمعہ کے امام کون تھے؟

(a) حضرت محمد ﷺ

(b) حضرت ابوبکرؓ

(c) عبدالرحمن ابن عوفؓ

(d) حضرت مصعب ابن عمیرؓ

141. صلوۃ مکتوبہ کس نماز کو کہتے ہیں؟

(A) فرض کو (B) نفل کو

(C) تراویح کو (D) صلوۃ تسبیح کو

142. امام کے علاوہ کم از کم کتنے اشخاص کی حاضری نماز جمعہ کے لیے ضروری ہے؟

(A) 8 (B) 5

(C) 4 (D) 2

143. پہلی نماز جمعہ کہاں ادا کی گئی؟

(A) مکہ میں (B) مدینہ میں

(C) طائف میں (D) کوفہ میں

144. پہلی نماز جمعہ میں موجود نمازیوں کی تعداد کیا تھی؟

(a) 12 (b) 13

(c) 14 (d) 15

145. نبی اکرمؐ کی امامت میں مسلمانوں نے پہلی نماز جمعہ کہاں ادا کی تھی؟

(a) مسجد نبوی (b) مسجد قبا

(c) مسجد بنی سالم (d) قرئی

146. دوران نماز ایک عمل تسبیح کہلاتا ہے تسبیح سے کیا مراد ہے؟

(a) سبحان اللہ کہنا (b) تعوذ پڑھنا

(c) قیام کرنا (d) رکوع کرنا

147. نماز کے بعد نمازی 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمد للہ اور 33 بار اللہ اکبر کہتا ہے یہ تسبیحات کیا کہلاتی ہیں؟

(a) تسبیحات عائشہؓ
(b) تسبیحات زینبؓ
(c) تسبیحات فاطمہؓ
(d) تسبیحات کلثومؓ

148. اذان کی ابتدا کب ہوئی؟
(A) ہجرت مدینہ سے قبل
(B) ہجرت مدینہ کے بعد
(C) ہجرت کے دوران
(D) کوئی نہیں

149. کس نماز میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا؟
(A) نماز خسوف
(B) نماز کسوف
(C) نماز جنازہ
(D) ایسی کوئی نماز نہیں

150. وہ کام جو نبی پاک ﷺ نے خود تو نہ کیا لیکن دوسروں کے لیے پسند فرمایا۔
(A) جہاد
(B) طواف
(C) اذان
(D) کوئی نہیں

151. تیمم کب فرض ہوا؟ اس کا جواب آپشن 5 ہجری ہے
(A) 4 ہجری کو
(B) 3 ہجری کو
(C) 5 ہجری کو
(D) 1 ہجری کو

152. نماز تراویح کو سب سے پہلے کس نے باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ
(B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ
(D) حضرت علیؓ

153. کس موقع پر آپ ﷺ کو نماز کا تحفہ دیا گیا؟
(A) شب معراج
(B) شب قدر
(C) شق القمر
(D) کوئی نہیں

154. جہری نماز ہے۔
(A) جس میں امام بلند آواز سے قرأت کرے
(B) جس میں امام بلند آواز سے قرأت نہ کرے
(C) جس میں مقتدی سات سے زائد ہیں
(D) جس میں مقتدی 20 سے زائد ہوں

155. خفی نماز ہے۔
(A) جس میں نماز خسوف ادا کی جائے
(B) جو کفار کے شر سے چھپ کر ادا کی جائے
(C) جس میں امام بلند آواز سے قرأت نہ کرے
(D) کوئی نہیں

156. جہری نمازوں کی تعداد ہے۔
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

157. خفی نمازوں کی تعداد ہے۔
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

158. اسلام میں واجب نماز ہے۔
(A) عیدین کی نمازیں
(B) وتر
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

159. وتر کے معنی ہیں۔
(A) ایک
(B) دو
(C) طاق
(D) کوئی نہیں

160. رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ کی حالت میں ربنا لک الحمد کہنا کیا کہلاتا ہے؟
(A) تحلیل
(B) تعوذ
(C) تسبیح
(D) تحمید

161. نبی پاک ﷺ کو نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟
(A) حضرت جبرائیلؑ نے
(B) حضرت میکائیلؑ نے
(C) فرشتوں نے
(D) کوئی نہیں

162. نبی پاک ﷺ نے جمعہ کے دن کون سی سورۃ تلاوت کرنے کا حکم دیا؟
(A) سورۃ کہف
(B) سورۃ غاشیہ
(C) سورۃ الاعلیٰ
(D) تمام

163. "صلاۃ الخوف" کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟
(A) پریشانی کی حالت (B) حالت جنگ
(C) زلزلہ اور سیلاب کے وقت (D) سورج گرہن کے وقت

164. چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟
(A) صلوٰۃ الحاجت (B) صلوٰۃ الخسوف
(C) صلوٰۃ الکسوف (D) صلوٰۃ الوتر

165. نماز خسوف سے کیا مراد ہے؟
(A) چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز
(B) بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز
(C) قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے پڑھی جانے والی
(D) سورج گرہن کے وقت کے لیے نماز

166. بارش کی کمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟
(A) صلوٰۃ خسوف (B) صلوٰۃ استخارہ
(C) صلوٰۃ کسوف (D) صلوٰۃ استسقاء

167. نماز میں قومہ کسے کہتے ہیں؟
(A) تلاوت کے لیے قیام
(B) رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا
(C) دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا
(D) تشہد کے لیے بیٹھنا

168. نماز خسوف سے کیا مراد ہے؟
(A) بارش کے لیے نماز
(B) سورج گرہن کے وقت کے لیے نماز
(C) چاند گرہن کے وقت کے لیے نماز
(D) جنگ کے دوران پڑھی جانے والی نماز

169. نماز جمعہ کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟
(A) ایک ہجری (B) دو ہجری
(C) تین ہجری (D) چار ہجری

جوابات

1. (A)	2. (C)	3. (A)	4. (C)	5. (A)	6. (C)	7. (C)	8. (C)
9. (D)	10. (C)	11. (D)	12. (C)	13. (B)	14. (D)	15. (C)	16. (D)
17. (D)	18. (A)	19. (B)	20. (D)	21. (C)	22. (C)	23. (D)	24. (D)
25. (A)	26. (C)	27. (C)	28. (C)	29. (B)	30. (B)	31. (D)	32. (A)
33. (C)	34. (D)	35. (A)	36. (A)	37. (D)	38. (C)	39. (C)	40. (C)
41. (C)	42. (A)	43. (A)	44. (C)	45. (D)	46. (D)	47. (D)	48. (B)
49. (A)	50. (A)	51. (D)	52. (D)	53. (B)	54. (B)	55. (C)	56. (A)
57. (A)	58. (B)	59. (A)	60. (D)	61. (D)	62. (C)	63. (A)	64. (A)
65. (D)	66. (A)	67. (A)	68. (A)	69. (B)	70. (A)	71. (A)	72. (B)
73. (B)	74. (A)	75. (B)	76. (D)	77. (C)	78. (B)	79. (A)	80. (B)
81. (B)	82. (A)	83. (C)	84. (C)	85. (D)	86 (B)	87. (A)	88. (A)
89. (A)	90. (B)	91. (C)	92. (A)	93. (B)	94. (B)	95. (C)	96. (A)
97. (A)	98. (A)	99. (B)	100. (C)	101. (D)	102. (C)	103. (A)	104. (A)
105. (C)	106. (C)	107. (A)	108. (A)	109. (B)	110. (D)	111. (B)	112. (B)
113. (A)	114. (A)	115. (B)	116. (A)	117. (A)	118. (A)	119. (B)	120. (D)
121. (C)	122. (D)	123. (D)	124. (D)	125. (A)	126. (D)	127. (A)	128. (A)
129. (A)	130. (B)	131. (D)	132. (B)	133. (B)	134. (A)	135. (C)	136. (D)
137. (C)	138. (B)	139. (B)	140. (D)	141. (A)	142. (D)	143. (B)	144. (A)
145. (C)	146. (A)	147. (C)	148. (B)	149. (C)	150. (C)	151. (C)	152. (B)
153. (A)	154. (A)	155. (C)	156. (C)	157. (B)	158. (C)	159. (C)	160. (D)
161. (A)	162. (D)	163. (B)	164. (B)	165. (A)	166. (D)	167. (B)	168. (C)
169. (A)							

صوم (روزہ)

1. کس مہینے میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی؟
(A) محرم (B) صفر
(C) رمضان (D) رجب

2. روزہ کب فرض ہوا؟
(A) 10 شعبان دو ہجری (B) 10 شعبان 3 ہجری
(C) 10 شعبان 4 ہجری (D) 10 شعبان 5 ہجری

3. کس رکن اسلام کو ڈھال قرار دیا گیا ہے؟
(A) روزہ (B) نماز
(C) زکوۃ (D) جہاد

4. کس اسلامی رکن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دونگا؟
(A) روزہ (B) نماز
(C) زکوۃ (D) جہاد

5. یہ بات کس نے کہی ہے کہ ہر شے کی ایک زکوۃ ہے اور جسم کی زکوۃ روزہ ہے؟
(A) اللہ (B) حضرت محمد ﷺ
(C) حضرت ابو بکرؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

6. اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان کون سا مہینہ ہے؟
(A) نواں (B) دسواں
(C) گیارھواں (D) بارھواں

7. رمضان سے متعلق درج ذیل میں سے کونسا بیان درست ہے؟
(A) یہ پاکیزگی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔
(B) اس مہینے میں نیکیاں بڑھتی ہیں اور برائی دبتی ہے۔
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

8. کس نبی کی امت پر روزہ فرض ہوا؟
(A) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
(B) حضرت ابراہیمؑ
(C) حضرت موسیٰ
(D) تمام نبیوں کی امتوں پر

9. وہ کون لوگ ہیں جو کہ حضرت موسیٰ کا سینائی چٹان سے نیچے اترنے کے دن پر سالانہ روزہ رکھتے ہیں؟
(A) یہودی (B) عیسائی
(C) مسلمان (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

10. حضرت عیسیٰ نے صحرا میں کتنے دن روزے رکھے اور اپنے پیروکاروں کو بھی روزے رکھنے کی تلقین کی؟
(A) 50 دن (B) 40 دن
(C) 30 دن (D) 20 دن

11. ایک سال میں کتنے دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے؟
(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) کوئی بھی نہیں

12. ان دنوں کے بارے میں بتائیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے؟
(A) تشریق کے دن (B) عید کے دن
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

13. روزہ کے لغوی معنی ہیں۔
(A) بھوکا پیاسا رہنا (B) رک جانا
(C) صبر کرنا (D) کوئی نہیں

14. شریعت کے مطابق روزہ مطالبہ کرتا ہے؟

(A) اپنے آپ کو کھانے سے روک لینے کا
(B) اپنے آپ کو پانی سے روک لینے کا
(C) جماع سے روک لینے کا (D) b,a اور c تینوں

15. روزہ کا بنیادی مقصد اپنی ذات پر کنٹرول کرنا ہے اللہ تعالیٰ روزہ کے ذریعے ہمیں کیا سکھاتا ہے؟
(A) اپنے آپ کو روکنا (B) خوف خدا
(C) اپنے آپ کو راہ راست پر لانا (D) b'a اور c تینوں

16. روزہ کی کتنی قسمیں ہیں؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

17. رمضان کا پہلا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟
(A) عشرہ مغفرت (B) عشرہ رحمت
(C) عشرہ نجات نار جہنم (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

18. رمضان کا دوسرا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟
(A) عشرہ مغفرت (B) عشرہ رحمت
(C) عشرہ نجات نار جہنم (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

19. رمضان کا تیسرا عشرہ کیا کہلاتا ہے؟
(A) عشرہ نجات نار جہنم (B) عشرہ رحمت
(C) عشرہ مغفرت (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

20. کس رات کی عبادت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس رات کی عبادت ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے؟
(A) لیلۃ القدر (B) لیلۃ البرأت
(C) لیلۃ المعراج (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

21. کون سا اسلامی رکن کفارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟
(A) زکوٰۃ (B) روزہ
(C) حج (D) نماز

22. وہ عمل کیا کہلاتا ہے جس میں اگر کوئی شخص کسی خاص مجبوری کے تحت روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو چھوڑے ہوئے ایک روزہ کی جگہ پر ایک روزہ ہی رکھنا ہوتا ہے؟
(A) کفارہ (B) قضا
(C) توبہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

23. وہ شخص جو ضعیف و کمزور ہو اور روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہوں اس کو کیا کرنا چاہئے؟
(A) اناج خیرات کرے۔
(B) ہر ایک چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک ضرورت مند کو دن میں دو دفعہ کھانا کھلائے۔
(C) ہر ایک چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک ضرورت مند کو دن میں دو مرتبہ کھانے کے برابر پیسے ادا کرے۔
(D) ان میں سے کوئی بھی ایک فرض ادا کرے۔

24. قضا روزہ کس حالت میں ضروری ہو جاتا ہے؟
(A) ٹیکے کے ذریعے کسی مائع دوا کا جسم کے اندر جانا۔
(B) سگریٹ نوشی کے بعد۔
(C) قے کا آ جانا۔
(D) b'a اور c تینوں

25. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اسے کیا کرنا چاہئے؟
(A) قضا روزے رکھے (B) کفارہ ادا کرے
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

26. ارادتاً توڑے گئے روزے کا کفارہ کیا ہے؟
(A) لگاتار 60 روزے رکھے۔
(B) 60 ضرورت مندوں کو دن میں دو مرتبہ کھانا کھلائے۔
(C) اناج خیرات کرے۔
(D) a اور b اور c تینوں

27. کفارہ کے برابر نقد رقم کیا کہلاتی ہے؟
(A) خیرات (B) صدقۃ الفطر
(C) انفاق (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

28. ارادتاً توڑے گئے ایک روزہ کی جگہ پر اگر کوئی شخص نقد رقم میں کفارہ ادا کرنا چاہے تو وہ کتنے لوگوں کو کفارہ ادا کرے گا؟
(A) 60 (B) 70

(C) 80 (D) 90

29. روزے میں غلطی سے کھالینے یا پی لینے سے ....

(A) کفارہ ادا کرنا نہیں پڑتا (B) قضا روزہ نہیں رکھنا پڑتا

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

30. کس مہینے کے علاوہ تمام سال میں نفلی روزے رکھے جاسکتے ہیں؟

(A) صفر (B) شوال

(C) محرم (D) رمضان

31. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔ یہ ایک ....

(A) حدیث ہے (B) یہ قرآنی آیت ہے۔

(C) روایت ہے (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

32. رمضان کی خاص عبادت ہے۔

(A) تراویح (B) اعتکاف

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

33. اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟

(A) سجدہ (B) وضو

(C) تنہائی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

34. اعتکاف کے لیے لازم ہے کہ

(A) اس کی نیت کی جائے

(B) مسجد میں ٹھہرا جائے

(C) جنابت سے پاک ہوجائے

(D) تمام

35. دوران رمضان کی جانے والی عبادت اعتکاف واجب ہے۔ واجب سے کیا مراد ہے؟

(A) ٹھہرانا (B) تقرر کرنا

(C) معین کرنا (D) a' b' اور c تینوں

36. رمضان کے علاوہ اعتکاف کی عبادت نفل ہے۔ نفل سے کیا مراد ہے؟

(A) ٹھہرانا (B) تقرر کرنا

(C) معین کرنا (D) رضا کارانہ عمل

37. قیام رمضان سے کیا مراد ہے؟

(A) تمام روزے رکھنا

(B) مذہبی اہتمام کے ساتھ روزے رکھنا

(C) صلوٰۃ تراویح ادا کرنا

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

38. کس مذہب کے پیروکار روزے کے لئے سحری نہیں کھاتے؟

(A) یہودی (B) عیسائی

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

39. آخری دفعہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دنوں کیلئے اعتکاف بیٹھے تھے؟

(A) 10 دنوں کے لیے (B) 15 دنوں کے لیے

(C) 20 دنوں کے لیے (D) 25 دنوں کے لیے

40. کم از کم کتنے دنوں کے لیے کوئی شخص اعتکاف کے لئے بیٹھ سکتا ہے؟

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

41. سورۃ البقرہ کی کون سی آیت روزے کی فرضیت سے متعلق ہے؟

(A) 83 (B) 84

(C) 85 (D) 86

42. "اَلصَّوْمُ جُنَّۃٌ" میں جُنَّۃٌ سے کیا مراد ہے؟

(A) جنت (B) ڈھال

(C) کامیابی (D) روزہ

43. نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر مواسات قرار دیا ہے "شہر مواسات" سے کیا مراد ہے؟
(A) غم بانٹنے کا مہینہ (B) خوشی بانٹنے کا مہینہ
(C) کامیابی کا مہینہ (D) مغفرت مانگنے کا مہینہ

44. آپ ﷺ نے کس دن کے بارے میں فرمایا کہ "اس دن کا روزہ ایک سال گذشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے"۔
(A) ۲۷ رمضان
(B) آخری عشرہ رمضان کا کوئی روزہ
(C) شوال کے روزوں کا کوئی ایک روزہ
(D) یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج

45. کس عمل سے قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے؟
(A) احسان (B) روزہ
(C) جہاد (D) غصہ پی جانا

46. روزے کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟
(A) 1 ہجری (B) 2 ہجری
(C) 3 ہجری (D) 5 ہجری

47. ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے پر کتنے روزے مسلسل رکھنے پڑتے ہیں؟
(A) دس (B) بیس
(C) تیس (D) ساٹھ

48. "روزہ" کس سن ہجری میں فرض ہوا؟
(A) 1 ہجری (B) 2 ہجری
(C) 5 ہجری (D) 7 ہجری

49. اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟
(A) بیٹھ جانا (B) رک جانا
(C) سو جانا (D) بیدار رہنا

50. نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو "..............؟"
(A) وہ نماز کی پابندی کرے
(B) روزے رکھے
(C) جہاد میں مصروف ہو جائے
(D) دنیا کی رغبت کم کر دے

جوابات

1. (C)	2. (A)	3. (A)	4. (A)	5. (B)	6. (A)	7. (C)	8. (D)
9. (A)	10. (B)	11. (A)	12. (C)	13. (B)	14. (D)	15. (D)	16. (D)
17. (B)	18. (A)	19. (A)	20. (A)	21. (B)	22. (B)	23. (D)	24. (D)
25. (C)	26. (D)	27. (B)	28. (A)	29. (C)	30. (D)	31. (A)	32. (C)
33. (C)	34. (D)	35. (D)	36. (D)	37. (C)	38. (C)	39. (C)	40. (A)
41. (A)	42. (B)	43. (A)	44. (D)	45. (B)	46. (B)	47. (D)	48. (B)
49. (A)	50. (B)						

زکوۃ

1. اسلام کے اس بنیادی رکن کا نام بتائیں جس کا ذکر قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر نماز کے ساتھ آتا ہے؟

(A) زکوۃ (B) حج

(C) روزہ (D) توحید

2. عربی لفظ زکوۃ تزکیہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(A) چھوڑ دینا (B) دے دینا

(C) پاک کرنا (D) خیرات کرنا

3. زکوۃ سے متعلق درج ذیل میں سے کونسا بیان درست ہے؟

(A) یہ اسلام کا واحد رکن ہے جو کہ غریبوں پر عائد نہیں ہوتا

(B) یہ اسلام کا واحد رکن ہے جو کہ صرف مالی قربانی مانگتا ہے

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

4. زکوۃ کب فرض ہوئی؟

(A) 2 ہجری (B) 3 ہجری

(C) 4 ہجری (D) 5 ہجری

5. قرآن مجید میں زکوۃ کی ادائیگی سے متعلق احکامات کتنی بار آئے ہیں؟ (DZO 2002)

(A) 82 (B) 83

(C) 84 (D) 85

6. زکوۃ جمع شدہ مال پر کتنے عرصے بعد واجب ہوتی ہے؟

(A) ایک سال بعد (B) دو سال بعد

(C) تین سال بعد (D) چار سال بعد

7. قرآن مجید میں کتنی بار زکوۃ کا حکم نماز کے ذکر کے ساتھ آیا ہے؟

(A) 32 (B) 33

(C) 34 (D) 35

8. زکوۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ زکوۃ کو..........

(A) پاکیزہ عمل بھی کہتے ہیں

(B) پول ٹیکس بھی کہتے ہیں

(C) غریبوں کا معاوضہ بھی کہتے ہیں

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

9. زکوۃ سے متعلق قوانین کب وضع کیے گئے؟

(A) 1 ہجری (B) 2 ہجری

(C) 3 ہجری (D) 4 ہجری

10. کس جگہ پر زکوۃ کی تقسیم سے متعلق قوانین وضع کیے گئے؟

(A) مکہ (B) مدینہ

(C) کوفہ (D) بصرہ

11. مال کی وہ کم سے کم مقدار جس پر اللہ تعالیٰ نے زکوۃ فرض کی ہے کیا کہلاتا ہے؟

(A) حساب (B) نصاب

(C) تزکیہ (D) خیرات

12. وہ شخص کیا کہلاتا ہے جو مال کی کم از کم اتنی مقدار رکھتا ہے کہ جس پر زکوۃ عائد ہوتی ہے؟

(A) صاحب حساب (B) صاحب نصاب

(C) صاحب توفیق (D) صاحب اموال

13. کتنے قسم کے اموال پر شریعت نے زکوۃ فرض کی ہے؟

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

14. زکوۃ کے لیے چار اموال ہیں۔ دھاتیں (سونا اور چاندی) یا رقم، تجارتی مال، مویشی اور

(A) ذاتی مکان
(B) زرعی پیداوار
(C) ذاتی کاروبار
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

15. زکوۃ کی کتنی قسمیں ہیں؟

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

16. زکوۃ کی ایک قسم ....

(A) ظاہر کہلاتی ہے
(B) باطن کہلاتی ہے
(C) خفی کہلاتی ہے
(D) جلی کہلاتی ہے

17. زکوۃ کی دوسری قسم ہے۔

(A) باطن
(B) ظاہر
(C) تحلیل
(D) تجدید

18. زکوۃ کی ظاہری قسم میں ______

(A) سونا آتا ہے
(B) ذاتی مکان آتا ہے
(C) مویشی آتے ہیں
(D) نقد رقم آتی ہے

19. زکوۃ کی دوسری قسم باطن میں کس قسم کا مال شامل ہوتا ہے؟

(A) سونا اور چاندی
(B) تجارتی مال
(C) نقد مال
(D) a'b اور c تینوں

20. باطنی اموال کا کونسا حصہ زکوۃ کے طور پر وصول کیا جاتا ہے؟

(A) دسواں
(B) بیسواں
(C) تیسواں
(D) چالیسواں

21. زکوۃ غریب لوگوں کو دی جاتی ہے۔ ان میں سے وہ کون ہے جن کو زکوۃ نہیں دی جا سکتی؟

(A) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد
(B) والدین
(C) غیر مسلم
(D) a'b اور c تینوں

22. درج ذیل میں سے وہ کون ہیں جو زکوۃ لے سکتے ہیں؟

(A) مسافر
(B) قرض دار
(C) ضرورت مند
(D) a'b اور c تینوں

23. زکوۃ کا نصاب کتنا ہے؟

(A) ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے پر اڑھائی فیصد
(B) ساڑھے ساٹھ تولے چاندی یا ساڑھے نو تولے سونے پر اڑھائی فیصد
(C) ساڑھے پینسٹھ تولے چاندی یا ساڑھے دس تولے سونے پر اڑھائی فیصد
(D) ساڑھے ستر تولے چاندی یا ساڑھے گیارہ تولے سونے پر اڑھائی فیصد

24. چاندی کا گراموں میں نصاب کیا ہے؟

(A) 606 گرام
(B) 607 گرام
(C) 608 گرام
(D) 612 گرام

25. سونے کا گراموں میں نصاب کتنا ہے؟

(A) 87.5 گرام
(B) 90.5 گرام
(C) 91.5 گرام
(D) 92.5 گرام

26. کم سے کم کتنے اونٹ کسی مالک کو صاحب نصاب بناتے ہیں؟

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

27. کم سے کم کتنی بکریاں کسی مالک کو صاحب نصاب بناتی ہیں؟

(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 40

28. بھیڑوں کا نصاب کتنا ہے؟

(A) 40
(B) 30
(C) 20
(D) 10

29. کم سے کم کتنے بیل کسی مالک کو صاحب نصاب بناتے ہیں؟

(A) 30 سے 50
(B) 30 سے 40
(C) 30 سے 60
(D) 30 سے 55

30. کم سے کم کتنی گائے کسی مالک کو صاحب نصاب بناتی ہیں؟

(A) 30 سے 40 (B) 20 سے 30

(C) 10 سے 20 (D) 15 سے 25

31. بھینسوں کا نصاب کیا ہے؟

(A) 10 سے 20 (B) 30 سے 40

(C) 40 سے 50 (D) 15 سے 25

32. فے سے کیا مراد ہے؟

(A) سرکاری زمین سے حاصل ہونے والی آمدن

(B) غیر سرکاری زمین سے حاصل ہونے والی آمدن

(C) آباد زمین سے حاصل ہونے والی آمدن

(D) کوئی نہیں

33. وہ کون سا لازمی محصول ہے جو زرعی زمینوں پر عائد ہوتا ہے؟

(A) عشر (B) خراج

(C) جزیہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

34. مصنوعی طریقے سے سیراب کی گئی زمین کی پیداوار پر شرح عشر کیا ہے؟

(A) 1/15 (B) 1/20

(C) 1/10 (D) 1/5

35. قدرتی طریقے یعنی بارش وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر شرح عشر کیا ہے؟

(A) 1/10 (B) 1/20

(C) 1/25 (D) 1/30

36. عشر ......

(A) زمین کی پیداوار کا 1/10 بھی کہلاتا ہے

(B) بڑی زمینوں کی پیداوار کا 1/10 بھی کہلاتا ہے

(C) قیمتی پتھروں کے 1/10 محصول کو بھی کہتے ہیں

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

37. اسلامی حکومت امت مسلمہ کے غلبے میں آنے والے غیر مسلموں پر کون سا محصول عائد کرتی ہے؟

(A) جزیہ (B) خراج

(C) خمس (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

38. جزیہ کو ______ بھی کہتے ہیں جو کہ ذمیوں سے وصول کیا جاتا ہے۔

(A) محصول خاص (B) محصول غیر مسلم

(C) محصول عام (D) کوئی نہیں

39. ذمی سے کیا مراد ہے؟

(A) اسلامی ریاست کے غریب لوگ

(B) اسلامی ریاست کے یہودی

(C) اسلامی ریاست کے عیسائی

(D) اسلامی ریاست کے تمام غیر مسلم

40. غیر مسلموں میں جزیہ کون ادا کرتا ہے؟

(A) ایک گھرانے کے تمام کمانے والے مرد

(B) تمام کمانے والے صحت مند مرد

(C) صحت مند کمانے والے وہ مرد جو کہ فوجی خدمات سرانجام نہ دیتے ہو

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

41. جزیہ کو......

(A) معاوضہ سلامتی بھی کہتے ہیں

(B) معاوضہ فقرا بھی کہتے ہیں

(C) معاوضہ غربا بھی کہتے ہیں

(D) معاوضہ غلامی بھی کہتے ہیں

42. خمس سے کیا مراد ہے؟

(A) 1/4 (B) 1/5

(C) 1/6 (D) 1/7

43. جنگی قیدیوں سے ایک محصول وصول کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟

(A) زکوٰۃ (B) فے

(C) فدیہ (D) عشر

44. قصبوں کی زمینوں کی پیداوار سے جو محصول وصول کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
(A) خراج (B) فے
(C) عشر (D) زکوۃ

45. کم سے کم پانچ وسق فصلوں کی اس پیداوار کا وزن ہونا چاہیے جس پر زکوۃ عائد ہوتی ہے۔ وسق برابر ہوتا ہے ....
(A) 40 کلوگرام (B) 45 کلوگرام
(C) 50 گرام (D) 55 کلوگرام

46. قرآن کے احکامات کے مطابق کتنے لوگ زکوۃ اور عشر قبول کرنے کے قابل ہیں؟
(A) 10 (B) 8
(C) 6 (D) 4

47. مسلمانوں کی وہ پہلی قسم کیا کہلاتی ہے جو کہ غریب ہوتے ہیں اور نصاب کے برابر دولت نہیں رکھتے اس لئے زکوۃ لینے کے قابل ہوتے ہیں؟
(A) فقراء (B) مساکین
(C) الرقاب (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

48. قابل زکوۃ دوسری قسم کے وہ مسلمانوں کیا کہلاتے ہیں جو کہ اس قدر غریب ہوتے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ کی خوراک کے لئے بھی مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں؟
(A) مساکین (B) فقراء
(C) ابن سبیل (D) الرقاب

49. اسلامی ریاست کا سربراہ زکوۃ وصول کرنے کے لئے اپنے نمائندے مقرر کرتا ہے۔ یہ نمائندے بھی زکوۃ لینے کے قابل ہوتے ہیں چاہے وہ ضرورت مند نہ ہوں۔ اس قسم کے افراد کو کیا کہتے ہیں؟
(A) ابن سبیل (B) عاملین
(C) فقراء (D) الرقاب

50. قابل زکوۃ لوگوں کی ایک قسم مولفۃ القلوب سے کیا مراد ہے؟
(A) جنہوں نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں عارضی ہجرت کی ہو
(B) جن کو حالیہ جنگ میں سخت نقصان ہوا ہو
(C) جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہو اور ان کو اپنی بنیادی ضروریات کیلئے پیسوں کی ضرورت ہو
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

51. الرقاب بھی قابل زکوۃ ہیں' الرقاب کون لوگ ہوتے ہیں؟
(A) وہ غلام جو معاوضے کیلئے کام کرتے ہیں
(B) وہ غلام جنہوں نے اپنے مالکوں سے آزادی کیلئے ایک مقررہ پیسوں کی مقدار کا وعدہ کیا ہو۔
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

52. الغارمین بھی زکوۃ وصول کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ الغارمین سے کیا مراد ہے؟
(A) مقروض (B) غریب
(C) ضرورت مند (D) مسافر

53. وہ لوگ جنہوں نے اپنا کوئی مقصد پورا کرنا ہو لیکن غربت کی وجہ سے نہ کر سکتے ہوں مثلاً سماجی کارکن' تنظیمیں یا مجاہدین وغیرہ بھی زکوۃ کے اہل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو زکوۃ دینا کیا کہلاتا ہے؟
(A) ابن السبیل (B) فی سبیل اللہ
(C) مولفۃ القلوب (D) الرقاب

54. وہ مسافر بھی زکوۃ کے قابل ہوتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں لیکن سفر کے دوران ان کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پورا کرنے کیلئے رقم موجود نہ ہو۔ ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟
(A) ابن السبیل (B) فی سبیل اللہ
(C) الرقاب (D) مولفۃ القلوب

55. اس فرض خیرات کا نام بتائیں جو کہ رمضان کا مہینہ پورا ہونے پر ادا کی جاتی ہے؟
(A) صدقۃ الفطر (B) عشر
(C) جزیہ (D) خمس

56. صدقۃ الفطر فرض ہے ....

(A) امیر مسلمانوں پر

(B) تمام صاحب نصاب مسلمانوں پر

(C) ان مسلمانوں پر جن پر زکوٰۃ فرض ہے

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

57. صدقۃ الفطر کا حکم کب ہوا؟

(A) 2 ہجری (B) 3 ہجری

(C) 4 ہجری (D) 5 ہجری

58. ''دولت صرف ان لوگوں کے درمیان نہ رہے جو امیر ہیں'' یہ ایک .... مقصد ہے

(A) زکوٰۃ کا (B) عشر کا

(C) نماز کا (D) حج کا

59. زکوٰۃ نہ دینے والے کو __________

(A) فاسق کہا گیا ہے (B) کافر کہا گیا ہے

(C) خارجی کہا گیا ہے (D) کوئی نہیں

60. زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے' گناہ کبیرہ سے کیا مراد ہے؟

(A) گناہ (B) بڑا گناہ

(C) اہم گناہ (D) منافقت

61. زکوٰۃ کا مکمل نظام کب نافذ کیا گیا؟

(A) 6 ہجری (B) 7 ہجری

(C) 8 ہجری (D) 9 ہجری

62. ''اور ان سے زکوٰۃ وصول کرو تاکہ تم ان کو پاک اور صاف کر سکو'' قرآن مجید کی کس سورۃ میں یہ آیت موجود ہے؟

(A) سورۃ توبہ (B) سورۃ رحمٰن

(C) سورۃ بنی اسرائیل (D) سورۃ لقمان

63. قرآن مجید کی کس سورۃ میں زکوٰۃ کے نظام سے متعلق تمام احکامات بیان ہوئے ہیں؟

(A) سورۃ توبہ (B) سورۃ ملک

(C) سورۃ محمد (D) سورۃ طلاق

64. زکوٰۃ اور عشر کے موجودہ قانون کا نفاذ 1980ء میں عمل میں آیا۔ تاریخ بتائیں؟

(A) 20 جون (B) 30 جون

(C) 20 مئی (D) 30 مئی

65. اسلامی کیلنڈر کے مطابق زکوٰۃ کا موجودہ قانون 4 شعبان کو نافذ العمل ہوا۔ سال بتائیں؟

(A) 1400 ہجری (B) 1405 ہجری

(C) 1410 ہجری (D) 1415 ہجری

66. پاکستان میں مرکزی زکوٰۃ فنڈ کے حساب کتاب کو کون چلاتا ہے؟

(A) ایڈمنسٹریٹر جنرل (B) آڈیٹر جنرل

(C) اکاؤنٹنٹ جنرل (D) مذہبی امور کا وزیر

67. آڈیٹر جنرل مرکزی زکوٰۃ فنڈ کی سالانہ رپورٹ کس کو پیش کرتا ہے؟

(A) مرکزی زکوٰۃ کمیٹی کو

(B) مرکزی زکوٰۃ کمیٹی کے سربراہ کو

(C) مرکزی زکوٰۃ کمیٹی کے صدر کو

(D) پارلیمنٹ کو

68. مرکزی زکوٰۃ کونسل کا چیئرمین کون ہو سکتا ہے؟

(A) سپریم کورٹ کا سابقہ یا موجودہ جج

(B) مذہبی امور کا وزیر

(C) مذہبی امور کے وزیر کا سیکرٹری

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

69. مرکزی زکوٰۃ فنڈ کے ایڈمنسٹریٹر جنرل کی حیثیت سے کون کام کرتا ہے؟

(A) مرکزی حکومت (B) قومی اسمبلی

(C) مذہبی امور کا سیکرٹری (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

70. پاکستان میں 1973ء کے آئین میں کون سا آرٹیکل زکوٰۃ سے متعلق ہے؟

(A) 34 (B) 33

(C) 32 (D) 31

71. زکوٰۃ کے حکم کے اندر 1973ء کے آئین کا کون سا آرٹیکل ضلع زکوٰۃ اور عشر کمیٹیوں سے متعلق ہے؟

(A) 16　(B) 17

(C) 18　(D) 19

72. زکوٰۃ کے موثر نظام سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔

(A) غربت کا　(B) سود کا

(C) طبقاتی نظام کا　(D) جہالت کا

73. زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980ء کے سیکشن II کی کلاز xxxiv-a کے مطابق تعلقہ (Taluqa) کمیٹی۔

(A) پٹوار سرکل لیول کی سیکشن 17 کے تحت قائم کردہ کمیٹی ہے۔

(B) تھانہ لیول کی سیکشن 17 کے تحت قائم کردہ کمیٹی ہے۔

(C) دیہات لیول کی سیکشن 17 کے تحت قائم کردہ کمیٹی ہے۔

(D) تحصیل لیول کی سیکشن 17 کے تحت قائم کردہ کمیٹی ہے۔

74. 1980ء کے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس میں سونے سے متعلق متعین نصاب ہے۔

(A) 612.32 گرام　(B) 305.25 گرام

(C) 87.48 گرام　(D) 100 گرام

75. ایک سرکاری کارپوریشن ایک سال میں ایک بلین روپے کا فائدہ حاصل کرتی ہے تو وہ ______ زکوٰۃ دینے کی ذمہ دار ہے۔

(A) 25 ملین روپے　(B) 2.5 ملین روپے

(C) زیرو　(D) کوئی نہیں

76. نبی پاکؐ نے یمن سے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کس کو سونپی؟

(A) حضرت عبداللہ بن عمرؓ　(B) حضرت معاذ بن جبلؓ

(C) حضرت اسامہ بن زیدؓ　(D) حضرت خالد بن ولیدؓ

77. زکوٰۃ کے سال (Zakat year) کا مطلب ہے۔

(A) جنوری کے پہلے دن سے شروع ہونے والا کیلنڈر سال

(B) یکم رمضان سے شروع ہونے والا ہجری سال

(C) یکم جولائی سے شروع ہونے والا مالی سال

(D) زراعتی سال

78. 1980ء کے ترمیم شدہ ''زکوٰۃ اور عشر'' آرڈیننس کے تحت کون اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ سیکشن 3 کے مطابق زکوٰۃ سے استثنیٰ کا اعلامیہ درست ہے؟

(A) ایڈمنسٹریٹو جنرل　(B) صوبائی زکوٰۃ کونسل

(C) متعلقہ ہائی کورٹ　(D) فیڈرل شریعت کورٹ

79. زمین کا مالک عشر سے مستثنیٰ ہوگا جس کی زمین کی پیداوار کم ہوگی۔

(A) 948 کلوگرام گندم یا اس کے برابر

(B) 2000 کلوگرام گندم یا اس کے برابر

(C) 3000 کلوگرام گندم یا اس کے برابر

(D) استثنیٰ کی کوئی حد نہیں۔

80. نبی پاکؐ نے زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے کو ہدایت کی کہ وہ زکوٰۃ کو اکٹھا کریں بذریعہ

(A) زکوٰۃ کے Affidavit کے جو کہ مالکان اس کو اس کے آفس میں فراہم کریں۔

(B) اس کی جگہ کا معائنہ کر کے جہاں پر جانور رکھے گئے ہیں۔

(C) مویشیوں کو متعین شدہ جگہ پر بلوا کر۔

(D) ریوڑ میں جانوروں کی تعداد کے بارے میں زبانی شہادت اکٹھا کر کے۔

81. انتظامی ڈویژن اور مرکزی کونسل کے اخراجات کو ______ سے پورا کیا جائے گا۔

(A) مرکزی زکوٰۃ فنڈ

(B) وفاقی حکومت

(C) بذریعہ گرانٹ وعطیات
(D) صوبائی زکوٰۃ فنڈ

82. مرکزی زکوٰۃ فنڈ کے اکاؤنٹ کو ____ چلائے گا۔
(A) صوبائی زکوٰۃ کونسل کا چیئرمین
(B) سیکرٹری زکوٰۃ اور زکوٰۃ کونسل کا چیئرمین
(C) مالی ادارے کے نمائندے
(D) چیف ایڈمنسٹریٹر

83. صوبائی زکوٰۃ کونسل کی آڈٹ رپورٹ ____ کے سامنے پیش کی جائے گی۔
(A) گورنر (B) چیف منسٹر
(C) صوبائی اسمبلی (D) مرکزی زکوٰۃ کونسل

84. ابتدائی مسلم دور میں غیر آباد جگہوں پر دفن خزانوں پر زکوٰۃ
(A) ٹوٹل خزانے کا نصف مقرر تھی۔
(B) ٹوٹل خزانے کا چوتھائی مقرر تھی۔
(C) ٹوٹل خزانے کا ایک تہائی مقرر تھی۔
(D) ٹوٹل خزانے کا پانچواں حصہ مقرر تھی۔

85. زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980ء کے مطابق عوامی ہسپتال سے علاج کے استحقاق کو ____ متعین کرے گی/گا؟
(A) لوکل زکوٰۃ اور عشر کمیٹی
(B) ضلعی زکوٰۃ اور عشر کمیٹی
(C) ضلعی زکوٰۃ آفیسر
(D) ہسپتال کا ایڈمنسٹریٹر

86. لوکل زکوٰۃ اور عشر کمیٹی کے ممبران کو ____
(A) ضلعی کمیٹی منتخب کرے گی۔
(B) لوکل عوام انہیں ووٹ کے ذریعے منتخب کرے گی۔
(C) نیک بزرگ مسلمان منتخب کریں گے۔
(D) بزرگ مسلمانوں کے اجتماع میں چنیں جائیں گے۔

87. تحصیل کمیٹی مشتمل ہے۔
(A) علاقہ مجسٹریٹ، منتخب کردہ تین خواتین اراکین اور 8 مرد اراکین
(B) اسسٹنٹ کمشنر، منتخب کردہ دو خواتین اراکین اور 6 مرد اراکین
(C) دو خواتین اراکین اور 8 مرد اراکین
(D) 12 اراکین جن میں 4 خواتین

88. زکوٰۃ اور عشر کے معاملات سے متعلق چیف ایگزیکٹیو ہے۔
(A) مرکزی زکوٰۃ کونسل کا چیئرمین۔
(B) ایڈمنسٹریٹر جنرل۔
(C) مذہبی امور کا وزیر۔
(D) کوئی نہیں۔

89. زکوٰۃ کے احکامات قرآن مجید میں کن آیات میں ہیں؟
(A) الکہف آیت: ۱۹
(B) البقرہ آیت: ۴۳،۳
(C) التوبہ آیت: ۶۰
(D) الف، ب اور ج

90. زکوٰۃ کے مؤثر نظام سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔
(A) غربت کا (B) سود کا
(C) طبقاتی نظام کا (D) جہالت کا

91. کان سے نکلنے والی دولت پر وصولی کی جاتی ہے۔
(A) زکوٰۃ (B) خمس
(C) ثلث (D) ربع

92. مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کی کس آیت میں بیان ہوئے ہیں؟
(A) آیت نمبر 30 میں (B) آیت نمبر 50 میں
(C) آیت نمبر 60 میں (D) آیت نمبر 100 میں

93. بارانی زمین کی فصل پر کتنی زکوٰۃ ادا ہوگی؟
(A) پانچواں حصہ (B) دسواں حصہ
(C) بیسواں حصہ (D) چالیسواں حصہ

94. غارمین سے کیا مراد ہے؟
(A) مقروض (B) غار میں رہنے والا
(C) ناپسندیدہ (D) فاتحین

95. سورہ توبہ کی کس آیت میں مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں؟
(A) 75 (B) 60
(C) 30 (D) 22

96. کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟
(A) آٹھ تولے (B) ساڑھے سات تولے
(C) سات تولے (D) پانچ تولے

97. اسلامی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کسے کہا جاتا ہے؟
(A) عشر (B) جزیہ
(C) زکوٰۃ (D) صدقہ خیرات

98. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟
(A) 2 ہجری (B) 7 ہجری
(C) 9 ہجری (D) ان میں سے کوئی نہیں

99. درج ذیل میں سے کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔
(A) قرض دار (B) مسافر
(C) فی سبیل اللہ (D) غیر مسلم

100. قرآن پاک میں کتنی مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے؟
(A) 12 مرتبہ (B) 32 مرتبہ
(C) 42 مرتبہ (D) 22 مرتبہ

101. قرآن پاک کے مطابق مصارف زکوٰۃ کی تعداد کیا ہے؟
(A) پانچ (B) سات
(C) آٹھ (D) نو

102. نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟
(A) ساڑھے سات تولہ سونا
(B) ساڑھے باون تولہ چاندی
(C) ساڑھے سات تولہ سونا/ساڑھے باون تولہ چاندی
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

جوابات

1. (A)	2. (C)	3. (C)	4. (A)	5. (A)	6. (A)	7. (A)	8. (C)
9. (B)	10. (B)	11. (B)	12. (B)	13. (D)	14. (B)	15. (A)	16. (A)
17. (A)	18. (C)	19. (D)	20. (D)	21. (D)	22. (D)	23. (A)	24. (D)
25. (A)	26. (D)	27. (D)	28. (A)	29. (B)	30. (A)	31. (B)	32. (A)
33. (A)	34. (B)	35. (A)	36. (A)	37. (A)	38. (C)	39. (D)	40. (C)
41. (A)	42. (B)	43. (C)	44. (B)	45. (A)	46. (B)	47. (A)	48. (A)
49. (B)	50. (C)	51. (C)	52. (A)	53. (B)	54. (A)	55. (A)	56. (B)
57. (A)	58. (A)	59. (B)	60. (B)	61. (D)	62. (A)	63. (A)	64. (A)
65. (A)	66. (A)	67. (C)	68. (A)	69. (C)	70. (A)	71. (A)	72. (C)
73. (A)	74. (C)	75. (A)	76. (B)	77. (B)	78. (D)	79. (B)	80. (A)
81. (A)	82. (A)	83. (D)	84. (A)	85. (D)	86. (D)	87. (D)	88. (A)
89. (C)	90. (C)	91. (B)	92. (C)	93. (B)	94. (A)	95. (B)	96. (B)
97. (C)	98. (A)	99. (D)	100. (B)	101. (C)	102. (C)		

حج

1. اسلام کے اس بنیادی رکن کا نام بتائیں جو جسمانی اور مالی دونوں قسم کی قربانی مانگتا ہے؟
(A) روزہ (B) نماز
(C) زکوٰۃ (D) حج

2. حج ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) زیارت کا ارادہ کرنا (B) تیزی سے چلنا
(C) اپنے آپ کو پاک کرنا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

3. حج کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
(A) گناہوں کا دھونا
(B) مقدس جگہوں کی زیارت
(C) مسلم دنیا میں باہمی تعلقات اور بھائی چارہ کا فروغ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

4. فرشتوں نے اللہ کا گھر حضرت آدمؑ کی پیدائش سے کتنے سال پہلے تعمیر کیا تھا؟
(A) دو ہزار سال پہلے (B) تین ہزار سال پہلے
(C) چار ہزار سال پہلے (D) پانچ ہزار سال پہلے

5. فرشتوں کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کا ڈھانچہ کس نے کھڑا کیا تھا؟
(A) حضرت ابراہیمؑ (B) حضرت اسماعیلؑ
(C) حضرت آدمؑ (D) حضرت لقمانؑ

6. خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کے تقریباً 4500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کو خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا؟
(A) حضرت ابراہیمؑ (B) حضرت اسماعیلؑ
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

7. حضرت نوحؑ کے دور نبوت میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل تباہ ہو گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟
(A) سیلاب (B) آگ
(C) زلزلہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

8. خانہ کعبہ مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ اللہ کے اس گھر کو............
(A) بیت العتیق بھی کہتے ہیں (B) بیت اللحم بھی کہتے ہیں
(C) بیت اکبر بھی کہتے ہیں (D) بیت الرحمن بھی کہتے ہیں

9. اس مقدس علاقے کا نام بتائیں جو کہ مکہ کے اردگرد پایا جاتا ہے؟
(A) عرفات (B) منیٰ
(C) حرم (D) میقات

10. حرم کی حد بندی کے لئے کس نے ستون کھڑے کئے تھے؟
(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت ابراہیمؑ
(C) حضرت اسماعیلؑ (D) حضرت محمد ﷺ

11. خانہ کعبہ کے گرد پائے جانے والے دائروں میں سب سے پہلا اور اندر والا دائرہ کیا کہلاتا ہے؟
(A) عرفات (B) حرم
(C) مسجد حرام (D) کوئی بھی نہیں

12. درج ذیل میں سے کعبہ کے گرد پائے جانے والے دائروں میں سے کونسا دوسرا دائرہ ہے؟
(A) حطیم (B) مزدلفہ
(C) صفا (D) مکہ مکرمہ

13. کعبہ کے گرد پائے جانے والے دائروں میں وہ کونسا دائرہ ہے جہاں پر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا اور جہاں پر ہر جاندار چیز کو جان کا تحفظ حاصل ہے؟

(A) مزدلفہ (B) مکہ مکرمہ

(C) حطیم (D) مواقیت

14. کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟

(A) ہرن کا شکار (B) سمندر کا شکار

(C) خشکی کا شکار (D) جنگلی گائے کا شکار

15. کعبہ کے گرد پائے جانے والا تیسرا دائرہ ہے۔

(A) مواقیت (B) حرم کعبہ

(C) مزدلفہ (D) کوئی نہیں

16. سب سے پہلے حرم نامی دائرے کو کس نے بنایا تھا؟

(A) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

(B) حضرت آدم

(C) حضرت ابراہیم (D) حضرت اسماعیل

17. حج کی تین اقسام میں شامل ہیں افراد، قران اور ______

(A) پاک (B) تمتع

(C) مبرور (D) صدق

18. خانہ کعبہ کے گرد چوتھا دائرہ ...... کہلاتا ہے۔

(A) مواقیت (B) مکہ

(C) مدینہ (D) حرم

19. مواقیت وہ جگہ ہے ......

(A) جس کی دوسری طرف سے کوئی بھی حج کے لیے مکہ کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا

(B) جہاں سے کوئی شخص بھی احرام باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

20. اس دروازے کا نام بتائیں جس کے ذریعے حاجیوں کا کعبہ میں داخل ہونا مستحسن تصور کیا جاتا ہے؟

(A) باب آدم (B) باب ابراہیم

(C) باب سلام (D) باب اسلام

21. وہ جگہ کیا کہلاتی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے؟

(A) مقام ابراہیم (B) مقام اسماعیل

(C) مقام سلام (D) مقام رسول

22. اس جگہ کا نام بتائیں جہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا؟

(A) مقام ابراہیم (B) مکہ

(C) حطیم (D) حرام

23. حطیم ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے جو کہ رکن عراقی اور......

(A) رکن آدم کے درمیان واقع ہے

(B) رکن شامی کے درمیان واقع ہے

(C) رکن حجازی کے درمیان واقع ہے

(D) رکن رمی کے درمیان واقع ہے

24. طواف کعبہ میں ان سات چکروں میں سے ہر ایک چکر کو کیا کہتے ہیں جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے؟

(A) مواقیت (B) شوط

(C) حرام (D) میقات

25. حاجیوں کا کعبہ کے گرد چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟

(A) طواف (B) سعی

(C) رمی (D) وقوف

26. خانہ کعبہ کے گرد طواف کی ______

(A) 5 قسمیں ہیں (B) 4 قسمیں ہیں

(C) 3 قسمیں ہیں (D) 2 قسمیں ہیں

27. طواف زیارت طواف کی پہلی قسم ہے اور یہ......

(A) طواف افادہ بھی کہلاتا ہے

(B) طواف رکن بھی کہلاتا ہے

(C) a اور b دونوں

(D) a اور b دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

28. حاجیوں کو کب طواف زیارت کے فرض کی ادائیگی کا حکم ہے؟
(A) 9ذی الحج سے 10ذی الحج کے درمیان
(B) 10ذی الحج سے 11ذی الحج کے درمیان
(C) 10ذی الحج سے 12ذی الحج کے درمیان
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

29. درج ذیل میں سے کونسا طواف فرض نہیں بلکہ سنت ہے؟
(A) طواف زیارت (B) طواف افادہ
(C) طواف قدوم (D) طواف افادہ

30. طواف قدوم کب ادا کیا جاتا ہے؟
(A) حطیم میں داخل ہوتے وقت
(B) مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت
(C) مکہ میں داخل ہوتے وقت
(D) مزدلفہ میں داخل ہوتے وقت

طواف قدوم آفاقی کیلئے جب وہ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں

31. حج سے واپسی پر کون سا طواف کیا جاتا ہے؟
(A) طواف عمرہ (B) طواف صدر
(C) طواف قدوم (D) طواف زیارت

32. طواف صدر........
(A) طواف وداع بھی کہلاتا ہے
(B) طواف مکہ بھی کہلاتا ہے
(C) طواف اخیر بھی کہلاتا ہے
(D) طواف زیارت بھی کہلاتا ہے

33. عمرہ کرنے والوں پر کونسا طواف فرض ہے؟
(A) طواف عمرہ (B) طواف زیارت
(C) طواف وداع (D) کوئی بھی نہیں

34. خانہ کعبہ کے سات چکر لگانے کے بعد حجاج کہاں جاتے ہیں؟
(A) مزدلفہ (B) عرفات
(C) منیٰ (D) الملتزم

35. خانہ کعبہ کی دیوار کا وہ حصہ جو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ہے کیا کہلاتا ہے؟
(A) حطیم (B) الملتزم
(C) حرام (D) صفا

36. ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا......
(A) نواں مہینہ ہے (B) دسواں مہینہ ہے
(C) گیارہواں مہینہ ہے (D) بارہواں مہینہ ہے

37. حج اور عمرے کا درج ذیل فرائض میں سے کونسا سب سے پہلا فرض ہے؟
(A) سعی کرنا (B) طواف زیارت
(C) احرام باندھنا (D) رمی کرنا

38. ان سلے کپڑے کی دو سفید چادروں کو احرام کہتے ہیں۔ احرام کے فرائض کتنے ہیں؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

39. احرام کے ناپسندیدہ عمل کتنے ہیں؟
(A) چھ (B) سات
(C) آٹھ (D) نو

40. احرام کے ساتھ کتنی چیزوں کی ممانعت اور پابندی لگائی گئی ہے؟
(A) گیارہ (B) بارہ
(C) چودہ (D) اٹھارہ

41. مردوں کے لیے احرام کے کپڑے کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

42. عورتوں کے لیے احرام میں کتنے کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں؟
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

43. وہ جگہ کیا کہلاتی ہے جہاں حجاج احرام باندھتے ہیں؟
(A) میقات (B) مزدلفہ
(C) صفا (D) عرفات

44. مختلف جگہوں اور مختلف سمتوں سے آنے والے حجاج کرام کے لئے دوران حج کتنے میقات ہوتے ہیں؟
(A) 8 (B) 5
(C) 10 (D) 15

45. کس ملک کے حجاج کرام کے لیے یلملم میقات ہے؟
(A) پاکستان (B) انڈیا
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

46. یلملم مکہ سے۔
(A) 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے
(B) 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے
(C) 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے
(D) 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے

47. ''اے میرے اللہ میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یقیناً تمام تعریفیں مدد اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں'' حج کے دوران پڑھی جانے والی یہ دعا کیا کہلاتی ہے؟
(A) تسمیہ (B) تحلیل
(C) تجدید (D) تلبیہ

48. تلبیہ کس مقام سے حجاج کرام پڑھنا شروع کرتے ہیں؟
(A) جب وہ ساتواں طواف ختم کرتے ہیں
(B) جب وہ سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں
(C) جب وہ میقات میں احرام باندھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں
(D) جب وہ منیٰ سے واپس آتے ہیں

49. سعی سے کیا مراد ہے؟
(A) دو پہاڑی چوٹیوں صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کو
(B) حج کے لیے احرام باندھنے کو
(C) اس جدوجہد کو جو کہ ایک حاجی حج کے دوران کرتا ہے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

50. سعی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟
(A) صفا (B) الملتزم
(C) حرام (D) عرفات

51. سعی ختم کہاں ہوتی ہے؟
(A) مزدلفہ (B) حطیم
(C) مروہ (D) کوئی نہیں

52. احرام باندھنے کے بعد اور عرفات جانے سے پہلے حجاج کرام کونسا عمل کرتے ہیں؟
(A) جمرہ
(B) صفا اور مروہ کے درمیان سعی
(C) طواف زیارت
(D) مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز

53. منیٰ ایک میدان ہے جو کہ..........
(A) مزدلفہ اور مکہ کے درمیان ہے
(B) مزدلفہ اور عرفات کے درمیان ہے
(C) عرفات اور مکہ کے درمیان ہے
(D) مزدلفہ اور مکہ کے درمیان ہے۔

54. کب حجاج کرام منیٰ کے لئے روانہ ہوتے ہیں؟
(A) 8ذی الحج (B) 9ذی الحج
(C) 10ذی الحج (D) 11ذی الحج

55. وہ دن کیا کہلاتا ہے جو کہ حجاج کرام منیٰ میں گزارتے ہیں؟
(A) یوم النحر (B) یوم الحج
(C) یوم الترویہ (D) یوم العظیم

56. درج ذیل میں سے کونسی نماز منیٰ میں ادا کی جاتی ہے؟
(A) 8ذی الحج کی چار نمازیں اور 9ذی الحج کی فجر کی نماز
(B) 8ذی الحج کی پانچوں نمازیں اور 9ذی الحج کی فجر اور ظہر کی نمازیں
(C) 8ذی الحج کی پانچوں نمازیں اور 9ذی الحج کی فجر ظہر اور عصر کی نمازیں

(D) 8ذی الحج کی پانچوں نمازیں اور 9ذی الحج کی فجر، ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں

57. حجاج کرام کی کب منیٰ سے عرفات کے لیے روانگی شروع ہوتی ہے اور ان کو زوال سے پہلے عرفات پہنچنا ہوتا ہے؟

(A) 8ذی الحج (B) 9ذی الحج

(C) 10ذی الحج (D) 11ذی الحج

58. 9ذی الحج سے حجاج کرام کے لئے وقوف عرفات کے دوران کونسی دو نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟

(A) فجر، ظہر (B) ظہر، عصر

(C) مغرب، عشاء (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

59. درج ذیل میں سے کونسا حج کا سب سے اہم رکن ہے؟

(A) وقوف عرفات (B) وقوف منیٰ

(C) وقوف مزدلفہ (D) وقوف میقات

60. وقوف عرفات سے کیا مراد ہے؟

(A) میدان عرفات میں قیام

(B) میدان عرفات میں نمازوں کا قیام

(C) میدان عرفات میں تلبیہ کا پڑھنا

(D) میدان عرفات میں کلمہ کا پڑھنا

61. 9ذی الحج کو.........

(A) یوم عرفہ بھی کہتے ہیں (B) یوم منیٰ بھی کہتے ہیں

(C) وقوف عرفات بھی کہتے ہیں

(D) وقوف منیٰ بھی کہتے ہیں

62. مکہ سے میدان عرفات کتنے فاصلے پر واقع ہے؟

(A) 9 میل (B) 10 میل

(C) 11 میل (D) 12 میل

63. منیٰ سے میدان عرفات کتنے فاصلے پر واقع ہے؟

(A) 7 میل (B) 6 میل

(C) 5 میل (D) 4 میل

64. اس جگہ کا نام بتائیں جہاں حضرت آدمؑ اور ان کی زوجہ محترمہ کئی سالوں کی مسافت کے بعد ملے تھے؟

(A) منیٰ (B) حطیم

(C) عرفات (D) مزدلفہ

65. نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کی اس اونٹنی کا نام بتائیں جس پر انہوں نے بیٹھ کر عرفات کے میدان میں آخری خطبہ دیا تھا؟

(A) قصویٰ (B) جبل

(C) جمل (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

66. جس جگہ آپؐ نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟

(A) جبل النور (B) جبل رحمت

(C) جبل محمدؐ (D) کوئی نہیں

67. جبل رحمت کہاں واقع ہے؟

(A) عرفات (B) منیٰ

(C) مزدلفہ (D) صفا

68. میدان عرفات میں غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام تلبیہ پڑھتے ہوئے اور بغیر مغرب کی نماز ادا کئے ہوئے کس مقام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں؟

(A) منیٰ (B) صفا

(C) مزدلفہ (D) حطیم

69. مزدلفہ کیا ہے؟

(A) میدان (B) جنگل

(C) ندی (D) صحرا

70. مزدلفہ.........

(A) عرفات اور مکہ کے درمیان واقع ہے

(B) مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے

(C) منیٰ اور عرفات کے درمیان واقع ہے

(D) منیٰ اور مکہ کے درمیان واقع ہے

71. مزدلفہ مکہ سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع ہے؟

(A) 6 میل (B) 7 میل

(C) 8 میل (D) 9 میل

72. مزدلفہ منیٰ سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع ہے؟
(A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 1

73. قرآن مجید نے درج ذیل میں سے کونسی جگہ کو مقدس یادگار کہہ کر پکارا ہے؟
(A) عرفات (B) مزدلفہ
(C) منیٰ (D) حطیم

74. کس مقام پر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں؟
(A) منیٰ (B) میقات
(C) حطیم (D) مزدلفہ

75. مقام پر مزدلفہ پر مغرب کی فرض نماز ادا کی جاتی ہے پھر عشاء کی فرض نماز ادا کی جاتی ہے اور پھر ....
(A) مغرب کی سنت نماز ادا کی جاتی ہے
(B) عشاء کی سنت نماز ادا کی جاتی ہے
(C) وتر ادا کیے جاتے ہیں
(D) b،a اور c تینوں

76. مقام مزدلفہ سے متعلق درج ذیل میں سے کونسا بیان درست ہے؟
(A) 10 ذی الحج کی نماز فجر یہاں پر ادا کی جاتی ہے
(B) شیطان پر پھینکی جانے والی کنکریاں اس مقام سے اکٹھی کی جاتی ہیں
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

77. شیطان کو ماری جانے والی کنکریاں کہاں سے اکٹھی کی جاتی ہیں؟
(A) عرفات سے (B) مزدلفہ سے
(C) میقات سے (D) صفا سے

78. مزدلفہ سے حجاج کرام کہاں کے لئے روانہ ہوتے ہیں؟
(A) منیٰ (B) عرفات
(C) صفا (D) مکہ

79. حجاج کرام تین پتھر کے ستونوں کو کنکر مارنے کے بعد راتیں منیٰ میں قیام کرتے ہیں؟
(A) 2 (B) 4
(C) 5 (D) 6

80. پتھر کے ستون (شیاطین) کیا کہلاتے ہیں؟
(A) رمی (B) جمرات
(C) رمل (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

81. جس جمرہ کو سب سے پہلے ایک ایک کر سات کنکر مارے جاتے ہیں وہ مکہ سے سب سے قریب ہے۔ اس جمرہ کو کیا کہتے ہیں؟
(A) جمرہ صغریٰ (B) جمرہ وسطیٰ
(C) جمرہ اول (D) جمرہ عقبیٰ

82. جمرہ عقبیٰ کے بعد جس جمرہ کو کنکر مارے جاتے ہیں وہ منیٰ کے سب سے قریب ہے۔ اس جمرہ کا نام بتائیں؟
(A) جمرہ وسطیٰ (B) جمرہ صغریٰ
(C) جمرہ اول (D) جمرہ عقبیٰ

83. کون سا جمرہ سب سے چھوٹا ہے اور اس کو آخر میں کنکر مارے جاتے ہیں؟
(A) جمرہ وسطیٰ (B) جمرہ عقبیٰ
(C) جمرہ صغریٰ (D) جمرہ اول

84. کس مقام پر حضرت آدمؑ شیطان کے دھوکے میں آ گئے تھے؟
(A) جمرہ عقبیٰ (B) جمرہ وسطیٰ
(C) جمرہ صغریٰ (D) b،a اور c تینوں

85. شیطان کو کنکر مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟
(A) طواف (B) سعی
(C) رمی (D) وقوف

86. حجاج کرام کا وہ کونسا عمل ہے جو کہ رمی کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟
(A) تلبیہ کا پڑھنا (B) کلمہ کا پڑھنا
(C) دعاؤں کا پڑھنا (D) درود کا پڑھنا

87. حج کے کس رکن کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام پر سے حج کے بہت سارے فرائض ختم ہو جاتے ہیں؟

(A) طواف (B) وقوف

(C) سعی (D) رمی

88. احرام باندھنے کے بعد حجاج کرام کا سب سے اہم قدم ____

(A) رمی ہوتا ہے (B) قربانی ہوتا ہے

(C) سعی ہوتا ہے (D) وقوف ہوتا ہے

89. احرام باندھنے کے بعد حجاج کرام کا دوسرا اہم قدم

(A) طواف ہوتا ہے (B) وقوف ہوتا ہے

(C) جمرات ہوتا ہے (D) سعی ہوتا ہے

90. حجاج کرام کا منیٰ میں پہلے دن کا قیام' عرفات میں دوسرے دن کا قیام اور تیسرے دن مزدلفہ میں قیام کیا کہلاتا ہے؟

(A) سعی (B) جمرہ

(C) وقوف (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

91. دوران حج ہدی سے کیا مراد ہے؟

(A) مقبول حج (B) قربانی کا جانور

(C) شیطان کو کنکر مارنا

(D) صفا اور مروہ کے درمیان سعی

92. مزدلفہ سے ہر حاجی شیطان کو مارنے کے لیے کتنی کنکریاں اکٹھی کرتا ہے؟

(A) 10 (B) 22

(C) 33 (D) 49

93. 10 ذی الحج کو 49 میں سے کتنے کنکر جمرات عقبیٰ کو ہر حاجی مارتا ہے؟

(A) 8 (B) 7

(C) 6 (D) 5

94. حجاج کرام جمرہ عقبیٰ کو کنکر مارنے کے بعد کونسا عمل کرتے ہیں؟

(A) قربانی (B) طواف وداع

(C) سعی (D) حلق

95. حج کے دوران کون سا نام قربانی کے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

(A) یوم النحر (B) یوم الجمل

(C) یوم اکبر (D) یوم الہدی

96. درج ذیل میں سے کونسا بیان ہدی سے متعلق درست ہے؟

(A) ہدی کے لیے اونٹ چھ سال کا ہونا چاہیے

(B) ہدی کے لیے اونٹ پانچ سال کا ہونا چاہیے

(C) ہدی کے لیے اونٹ چار سال کا ہونا چاہیے

(D) ہدی کے لیے اونٹ تین سال کا ہونا چاہیے

97. کونسے دن قربانی کے لیے دوران حج میں مخصوص ہیں؟

(A) 10 ذی الحج (B) 11 ذی الحج

(C) 12 ذی الحج (D) b' a اور c تینوں

98. کس جگہ پر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے جب لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دنبہ قربانی کے لیے بھیج دیا؟

(A) عرفات (B) منیٰ

(C) مزدلفہ (D) میقات

99. قربانی کے بعد حجاج کرام کون سا عمل کرتے ہیں؟

(A) تحلیل (B) تحلیق

(C) رمی (D) طواف زیارت

100. تحلیق سے کیا مراد ہے؟

(A) احرام کھولنا (B) طواف وداع کرنا

(C) بال کٹوانا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

101. تحلیق کے عمل کے سلسلے میں مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟

(A) بال چھوٹے کروائیں (B) قلمیں کٹوا دیں

(C) سارے بال منڈوا دیں (D) کوئی نہیں

102. تحلیق کے عمل کے سلسلے میں عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟

(A) عورتیں چوتھائی بال منڈوائیں

(B) عورتیں ایک لٹ منڈوائیں

(C) عورتیں تین چوتھائی بال منڈوائیں

(D) عورتیں بال نہ منڈوائیں

103. قربانی اور تحلیق کے بعد کس عمل کے لئے حجاج کرام جلد از جلد مکہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟

(A) وقوف عرفات (B) طواف وداع

(C) طواف زیارت (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

104. طواف زیارت کے بغیر ____

(A) حج مقبول نہیں ہوتا

(B) قربانی قبول نہیں ہوتی

(C) تحلیق کا عمل مکمل نہیں ہوتا

(D) کوئی نہیں

105. طواف زیارت کے بعد حجاج کرام کہاں لوٹتے ہیں؟

(A) عرفات میں (B) منیٰ میں

(C) مزدلفہ میں (D) کوئی نہیں

106. طواف زیارت کے بعد کب حجاج مخصوص وقت مغرب کے بعد شیاطین کو کنکر مارتے ہیں؟

(A) 10 ذی الحج (B) 11 ذی الحج

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

107. کس عمل کے لئے بعد وہ تمام پابندیاں جو احرام سے وابستہ ہوتی ہیں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں؟

(A) طواف وداع (B) طواف زیارت

(C) طواف قدوم (D) طواف صدر

108. مکہ روانگی سے قبل حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ ____

(A) الملتزم جائیں (B) منیٰ جائیں

(C) عرفات جائیں (D) کوئی نہیں

109. الملتزم میں حجاج کرام کونسا عمل کرتے ہیں جو کہ حج مکمل ہو جانے کی دلیل ہوتا ہے؟

(A) مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں

(B) حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں

(C) آب زمزم پیتے ہیں

(D) a، b اور c تینوں

110. حجر اسود کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(A) بوسہ دینا (B) گناہوں کی بخشش

(C) کالا پتھر (D) سفید پتھر

111. حجر اسود کو بوسہ دینے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟

(A) استلام (B) قصر

(C) ہدی (D) رمل

112. حجر اسود کا اصل رنگ کیا تھا؟

(A) کالا (B) سفید

(C) نیلا (D) سبز

113. کعبہ کی تعمیر کے دوران کس نے حجر اسود حضرت اسماعیلؑ کے حوالے کیا تھا؟

(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت ابراہیمؑ

(C) حضرت جبرائیلؑ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

114. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

115. درج ذیل میں سے کون سے فرائض حج ہیں؟

(A) احرام باندھنا، حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا

(B) وقوف عرفات

(C) طواف زیارت تحلیق کے بعد

(D) a، b اور c تینوں

116. حج کے فرائض ____

(A) ایک ہے (B) دو ہیں۔

(C) تین ہیں۔ (D) چار ہیں۔

117. واجبات حج ____

(A) چھ ہیں (B) سات ہیں

(C) آٹھ ہیں (D) نو ہیں

118. درج ذیل میں سے کون سے واجبات حج ہیں؟

(A) مزدلفہ میں قیام اور سعی (B) رمی اور قربانی

(C) تحلیق اور طواف وداع (D) a'b اور c تینوں

119. درج ذیل میں سے سنت حج کون سی ہیں؟

(A) طواف قدوم اور 9 ذی الحج کی رات کو منیٰ میں قیام

(B) منیٰ سے 9 ذی الحج کی صبح کو عرفات کی طرف سفر اور پھر عرفات سے امام کے جانے کے بعد واپسی

(C) عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں ایک رات کا قیام

(D) a'b اور c تینوں

120. سنت حج کتنی ہیں؟

(A) 2 (B) 4

(C) 6 (D) 8

121. حج اصغر کس کو کہتے ہیں؟

(A) طواف وداع (B) عمرہ

(C) جمرہ (D) کوئی بھی نہیں

122. کن تاریخوں کے درمیان عمرہ ادا کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے؟

(A) 9 اور 13 ذی الحج کے درمیان

(B) 9 اور 12 ذی الحج کے درمیان

(C) 9 اور 11 ذی الحج کے درمیان

(D) 9 اور 10 ذی الحج کے درمیان

123. صاحب حیثیت شخص پر زندگی میں ______ حج فرض ہے؟

(A) 2 بار (B) 3 بار

(C) 1 بار (D) 4 بار

124. نبی پاک ؐ نے کتنے حج کیے تھے؟

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

125. حج میں کتنے خطبے ہوتے ہیں؟

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

126. درج ذیل میں سے کیا وادی نمرہ میں واقع ہے؟

(A) مزدلفہ (B) عرفات

(C) مسجد نمرہ (D) تمام

127. 9 ذی الحج کا دوسرا خطبہ کہاں دیا جاتا ہے؟

(A) مسجد نبوی (B) مسجد نمرہ

(C) مسجد خیف (D) کوئی نہیں

128. حج کا تیسرا خطبہ کب منیٰ کی ایک مسجد میں دیا جاتا ہے؟

(A) 9 ذی الحج (B) 10 ذی الحج

(C) 11 ذی الحج (D) 12 ذی الحج

129. حج کا تیسرا خطبہ منیٰ کی کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟

(A) نبوی (B) قبا

(C) خیف (D) حرام

130. تکبیرات تشریق تشریق کے دنوں میں واجب ہیں، تشریق کے دن کونسے ہیں؟

(A) 11 ذی الحج (B) 12 ذی الحج

(C) 13 ذی الحج (D) a'b اور c تینوں

131. جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے اسے چاہئے کہ لغو زبان نہ استعمال کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اگر وہ اس طرح کریگا تو "اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جس طرح ایک بچہ" یہ کس کے الفاظ ہیں؟

(A) حضرت محمد ﷺ (B) القرآن

(C) حضرت ابراہیم (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

132. درج ذیل میں سے کون سا بیان مکہ سے متعلق درست ہے؟

(A) یہ بلد الامین کہلاتا ہے (B) یہ ام القریٰ کہلاتا ہے

(C) a اور b دونوں (D) a اور b میں سے کوئی نہیں

133. مسجد اقصیٰ کہاں واقع ہے؟
(A) بیت المقدس (B) بیت اللحم
(C) بیت اللہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

134. حج کب فرض ہوا؟
(A) 8 ہجری (B) 9 ہجری
(C) 10 ہجری (D) 11 ہجری

135. "مقبول حج کا انعام جنت سے بہتر کوئی نہیں" یہ کیا ہے؟
(A) حدیث نبوی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
(B) قرآنی آیت (C) روایت
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

136. "اگر ایک شخص کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو نہ ہی اس کی کوئی خاص ضرورت ہو اور نہ ہی اسے ظالم حکمران نے روک رکھا ہو تو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کی موت ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی یہودی مرے یا عیسائی" یہ..........
(A) قرآنی آیت ہے
(B) حدیث نبوی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
(C) روایت ہے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

137. کس رکن اسلام کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے؟
(A) زکوٰۃ (B) حج
(C) روزہ (D) نماز

138. کس دن کے روزے کے بارے میں حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے؟
(A) یوم عرفہ (9 ذی الحج کا روزہ)
(B) شب قدر کا روزہ
(C) شب برات کا روزہ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

139. حج مبرور سے کیا مراد ہے؟
(A) مقبول حج (B) مکمل حج
(C) قربانی کے بغیر حج (D) کوئی نہیں

140. دوران حج عرفات میں اجتماع ہوتا ہے۔
(A) ۸۔ذی الحج کو (B) ۹۔ذی الحج کو
(C) ۱۰۔ذی الحج کو (D) ۱۲۔ذی الحج کو
(E) کوئی نہیں

141. خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟
(A) مسجد نمرہ (B) مسجد الحرام
(C) مسجد قرطبہ (D) مسجد قبا

142. حج کے دن کس میدان میں حاضری ضروری ہے؟
(A) میدان عرفات (B) میدان منیٰ
(C) میدان مزدلفہ (D) میدان بدر

143. کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟
(A) ہرن کا شکار (B) سمندر کا شکار
(C) خشکی کا شکار (D) جنگلی گائے کا شکار

144. حج کا لفظی مطلب کیا ہے؟
(A) سعی کرنا (B) میدان عرفات میں جانا
(C) ارادہ کرنا (D) کنکریاں مارنا

145. میقات سے کیا مراد ہے؟
(A) احرام باندھنے کی جگہ (B) اوقات الصلوٰۃ
(C) چاند کا بڑھنا (D) ایام حج

146. مشعر الحرام سے کیا مراد ہے؟
(A) منیٰ (B) عرفات
(C) مزدلفہ (D)

147. خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟
(A) مسجد نمرہ (B) مسجد قرطبہ

(C) مسجد قباء
(D) مسجد الحرام

148. حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟
(A) جمرات
(B) سعی
(C) شوط
(D) استلام

149. حج کے لغوی معنی ہیں؟
(A) زیارت کا ارادہ کرنا
(B) حج کے لیے جانا
(C) پتھر کا چومنا
(D) حاضری دینا

150. حج کی فرضیت کے احکام کس سورۃ میں ہیں؟
(A) سورۃ مومنین
(B) سورۃ آل عمران
(C) سورۃ البقرہ
(D) سورۃ الجمعہ

151. حضرت محمد ﷺ نے کل کتنے عمرے کیے؟
(A) ایک
(B) دو
(C) تین
(D) چار

152. حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) زیارت کا ارادہ کرنا
(B) طواف کرنا
(C) جدوجہد کرنا
(D) عبادت کرنا

153. رسول اکرم ﷺ نے کتنی مرتبہ فریضہ حج ادا کیا؟
(A) ایک
(B) دو
(C) تین
(D) چار

154. حج کا لفظی مطلب ہے؟
(A) عمل کرنا
(B) جدوجہد کرنا
(C) ارادہ کرنا
(D) تمام جواب درست ہیں

155. اگر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟
(A) دو نفل ادا کرنا
(B) بکرے کی قربانی دینا
(C) اونٹ کی قربانی دینا
(D) گائے کی قربانی دینا

156. آنحضور ﷺ نے چار عمرے کیے کون سے مہینے ہیں؟
(A) ذیقعد
(B) ذوالحج
(C) شوال
(D) رمضان

157. طواف قدوم کیا ہے؟
(A) بیت اللہ پہنچنے کے بعد پہلا طواف
(B) ادائیگی حج کے دوران طواف کعبہ
(C) عمرہ کے دوران ادا کیا جانے والا طواف
(D) خانہ کعبہ سے روانگی کے وقت کیا جانے والا طواف

158. حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟
(A) 8 ہجری
(B) 9 ہجری
(C) 10 ہجری
(D) 11 ہجری

159. قرن المنازل کن لوگوں کے لیے میقات ہے؟
(A) اہل مدینہ
(B) اہل طائف
(C) اہل عراق
(D) اہل نجد

160. طواف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟
(A) رکن عراقی
(B) رکن شامی
(C) رکن یمنی
(D) حجر اسود سے

161. 9 ذی الحجہ کو حاجی کہاں ہوتے ہیں؟
(A) منیٰ میں
(B) مکہ میں
(C) مزدلفہ میں
(D) عرفات میں

جوابات

1. (D)	2. (A)	3. (C)	4. (B)	5. (C)	6. (C)	7. (A)	8. (A)
9. (D)	10. (C)	11. (C)	12. (D)	13. (B)	14. (B)	15. (B)	16. (B)
17. (B)	18. (A)	19. (B)	20. (C)	21. (A)	22. (C)	23. (B)	24. (B)
25. (A)	26. (B)	27. (C)	28. (C)	29. (C)	30. (B)	31. (B)	32. (A)
33. (A)	34. (D)	35. (B)	36. (D)	37. (C)	38. (D)	39. (A)	40. (B)
41. (B)	42. (A)	43. (A)	44. (B)	45. (C)	46. (A)	47. (D)	48. (C)
49. (A)	50. (A)	51. (C)	52. (B)	53. (D)	54. (A)	55. (C)	56. (A)
57. (B)	58. (B)	59. (A)	60. (A)	61. (A)	62. (A)	63. (B)	64. (C)
65. (A)	66. (B)	67. (A)	68. (C)	69. (A)	70. (C)	71. (A)	72. (B)
73. (B)	74. (D)	75. (D)	76. (C)	77. (B)	78. (A)	79. (A)	80. (B)
81. (D)	82. (A)	83. (C)	84. (D)	85. (C)	86 (A)	87. (D)	88. (D)
89. (A)	90. (C)	91. (B)	92. (D)	93. (B)	94. (A)	95. (A)	96. (B)
97. (D)	98. (B)	99. (B)	100. (C)	101. (C)	102. (B)	103. (C)	104. (A)
105. (B)	106. (C)	107. (B)	108. (A)	109. (D)	110. (C)	111. (A)	112. (B)
113. (C)	114. (C)	115. (D)	116. (C)	117. (A)	118. (D)	119. (D)	120. (C)
121. (B)	122. (A)	123. (C)	124. (A)	125. (C)	126. (D)	127. (B)	128. (C)
129. (C)	130. (D)	131. (A)	132. (C)	133. (A)	134. (B)	135. (A)	136. (B)
137. (B)	138. (A)	139. (A)	140. (B)	141. (A)	142. (A)	143. (B)	144. (C)
145. (A)	146. (C)	147. (A)	148. (D)	149. (A)	150. (B)	151. (D)	152. (A)
153. (A)	154. (C)	155. (B)	156. (B)	157. (A)	158. (B)	159. (D)	160. (D)
161. (D)							

اسلامی کیلنڈر

1. اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کا نام بتائیں؟
(A) محرم (B) صفر
(C) رجب (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

2. صفر ......
(A) اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کا نام ہے
(B) اسلامی کیلنڈر کے دوسرے مہینے کا نام ہے
(C) اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے کا نام ہے
(D) اسلامی کیلنڈر کے چوتھے مہینے کا نام ہے

3. اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ کیا کہلاتا ہے؟
(A) ربیع الاول (B) ربیع الثانی
(C) صفر (D) ذی الحج

4. اسلامی کیلنڈر کے چوتھے مہینہ کا نام بتائیں؟
(A) رجب (B) جمادی الاول
(C) ربیع الثانی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

5. اسلامی کیلنڈر کے مطابق جمادی الاول ......
(A) 5واں مہینہ ہے۔ (B) چھٹا مہینہ ہے۔
(C) 7واں مہینہ ہے۔ (D) آٹھواں مہینہ ہے۔

6. اسلامی کیلنڈر کے چھٹے مہینے کا نام بتائیں؟
(A) ربیع الثانی (B) جمادی الثانی
(C) شوال (D) رمضان

7. درج ذیل میں سے کونسا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا ساتواں مہینہ ہے؟
(A) رجب (B) شعبان
(C) رمضان (D) صفر

8. شعبان ......
(A) اسلامی کیلنڈر کا آٹھواں مہینہ ہے
(B) اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے
(C) اسلامی کیلنڈر کا دسواں مہینہ ہے
(D) اسلامی کیلنڈر کا گیارھواں مہینہ ہے

9. اسلامی کیلنڈر کے نویں مہینہ کا نام بتائیں؟
(A) رمضان (B) صفر
(C) شوال (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

10. اسلامی کیلنڈر کا دسواں مہینہ ......
(A) ذی الحج ہے (B) رمضان ہے
(C) شوال ہے (D) صفر ہے

11. درج ذیل میں سے کون سا اسلامی کیلنڈر کا گیارھواں مہینہ ہے؟
(A) ذی الحج (B) رمضان
(C) صفر (D) ذی القعد

12. ذی الحج ......
(A) اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے
(B) اسلامی کیلنڈر کا دسواں مہینہ ہے
(C) اسلامی کیلنڈر کا گیارھواں مہینہ ہے
(D) اسلامی کیلنڈر کا بارھواں مہینہ ہے

13. عربی میں الخمیس سے کیا مراد ہے؟
(A) بدھ (B) جمعرات
(C) جمعہ (D) ہفتہ

14. الاربع سے کیا مراد ہے؟
(A) ہفتہ (B) اتوار
(C) منگل (D) بدھ

15. عربی میں منگل کے لئے ......

(A) الثلاثاء کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے
(B) اربعہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے
(C) الخمیس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

16. عربی میں اتوار کو کیا کہتے ہیں؟
(A) اربعہ (B) السبت
(C) الاحد (D) الخمیس

17. پیر کو عربی میں ......
(A) الثانی کہتے ہیں (B) الخمیس کہتے ہیں
(C) اربعہ کہتے ہیں (D) الاحد کہتے ہیں

18. عربی میں السبت ......
(A) منگل کے دن کو کہتے ہیں (B) ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں
(C) اتوار کے دن کو کہتے ہیں
(D) پیر کے دن کو کہتے ہیں

19. اسلامی سال کا دوسرا نام ہے۔
(A) قمری (B) شمسی
(C) عیسوی (D) بکری

20. اسلامی سال دنوں کا ہوتا ہے۔
(A) 350 (B) 351
(C) 352 (D) 353

21. اسلامی سال عیسوی سن سے کتنے دن چھوٹا ہوتا ہے۔
(A) 10 دن (B) 11 دن
(C) 12 دن (D) 13 دن

22. عیسوی سال قمری سال سے ایک سال بڑھ جاتا ہے کتنے سال بعد۔
(A) 31 سال (B) 32 سال
(C) 33 سال (D) 34 سال

23. شمسی سال منسوب ہے۔
(A) آدمؑ سے (B) ابراہیمؑ سے
(C) موسیٰؑ سے (D) عیسیٰؑ سے

24. عیسوی سال کا دوسرا نام ہے۔
(A) قمری (B) شمسی
(C) بکری (D) دیسی

25. اسلامی سال کا آغاز کیا گیا۔
(A) 16ھ (B) 17ھ
(C) 18ھ (D) 19ھ

26. اسلامی سال کا آغاز کیا۔
(A) خلیفہ I نے (B) خلیفہ II نے
(C) خلیفہ III نے (D) خلیفہ IV نے

27. حضور علیہ السلام کی پیدائش اور وصال کا اسلامی مہینہ ہے۔
(A) پہلا (B) دوسرا
(C) تیسرا (D) چوتھا

28. اسلامی ماہ ہوتا ہے۔
(A) 28 دن کا (B) 29 دن کا
(C) 30 دن کا (D) 29 یا 30 دن کا

29. قبل از اسلام متبرک مہینوں میں شامل تھا۔
(A) ربیع الاول (B) رجب
(C) شعبان (D) رمضان

30. سب سے چھوٹا انگریزی مہینہ ہوتا ہے۔
(A) مئی (B) جون
(C) جنوری (D) فروری

31. حرمت والے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟
(A) دو (B) چار
(C) آٹھ (D) دس

32. اسلامی کیلنڈر کے دسویں مہینے کا نام کیا ہے۔
(A) رجب (B) جمادی الثانی
(C) ذوالحجہ (D) شوال

33. اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینہ کا نام کیا ہے؟
(A) رجب
(B) رمضان
(C) شوال
(D) محرم

34. اشہر حرم کی تعداد ہے؟
2 (A)
3 (B)
4 (C)
6 (D)

35. نزول قرآن مجید کس اسلامی مہینہ میں شروع ہوا؟
(A) ماہ صفر
(B) ماہ شعبان
(C) ماہ رمضان
(D) ماہ ذوالحج

جوابات

1. (A)	2 (B)	3. (A)	4. (C)	5. (A)	6. (B)	7. (A)	8. (A)
9. (A)	10. (C)	11. (D)	12. (D)	13. (B)	14. (D)	15. (A)	16. (C)
17. (A)	18. (B)	19. (A)	20. (D)	21. (B)	22. (C)	23. (D)	24. (B)
25. (A)	26. (B)	27. (C)	28. (D)	29. (B)	30. (D)	31. (B)	32. (D)
33. (D)	34. (C)	35. (C)					

کلمات

1. درج ذیل میں سے کون سے کلمہ طیبہ کے جزو ہیں؟
(A) اللہ ایک ہے
(B) حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

2. مسلمان ہوتے وقت کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟
(A) کلمہ طیبہ (B) کلمہ شہادت
(C) تمجید (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

3. کلموں کی تعداد کیا ہے؟
(A) 2 (B) 4
(C) 6 (D) 8

4. کلمہ طیبہ پہلا کلمہ ہے دوسرے کلمہ کا نام بتائیں؟
(A) کلمہ تمجید (B) کلمہ طیبہ
(C) کلمہ توحید (D) کلمہ شہادت

5. درج ذیل میں سے کون سا تیسرا کلمہ ہے؟
(A) کلمہ طیبہ (B) کلمہ استغفار
(C) کلمہ شہادت (D) کلمہ تمجید

6. چوتھے کلمہ کا نام بتائیں؟
(A) کلمہ تمجید (B) کلمہ توحید
(C) کلمہ توبہ (D) کلمہ توبہ

7. پانچویں کلمہ کا نام کیا ہے؟
(A) کلمہ توحید (B) کلمہ تمجید
(C) کلمہ توبہ (D) کلمہ استغفار

8. کلمہ ردکفر ....
(A) چوتھا کلمہ ہے (B) پانچواں کلمہ ہے
(C) چھٹا کلمہ ہے (D) تیسرا کلمہ ہے

9. تہلیل سے کیا مراد ہے؟
(A) چوتھا کلمہ اونچی آواز سے پڑھنا
(B) تیسرا کلمہ اونچی آواز میں پڑھنا
(C) دوسرا کلمہ اونچی آواز میں پڑھنا
(D) پہلا کلمہ اونچی آواز میں پڑھنا

10. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) حج کے دوران منیٰ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں چوتھے کلمہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔
(B) حج کے دوران منیٰ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تیسرے کلمہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔
(C) حج کے دوران منیٰ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں دوسرے کلمہ کی تلاوت کی جاتی ہے
(D) حج کے دوران منیٰ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پانچویں کلمہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔

11. کلمہ شہادت ....
(A) روزہ کے بعد پڑھا جاتا ہے
(B) نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے
(C) جنازے میں پڑھا جاتا ہے
(D) صلوۃ تراویح میں پڑھا جاتا ہے

12. وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟
(A) کلمہ تمجید (B) کلمہ شہادت
(C) کلمہ طیبہ (D) کلمہ استغفار

13. نکاح کے وقت ....
(A) پہلا دوسرا اور تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے
(B) چوتھا پانچواں اور چھٹا کلمہ پڑھا جاتا ہے
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

14. طیبہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) پاکیزگی (B) اتحاد
(C) اقرار (D) اقبال

15. پہلے کلمہ میں کتنے الفاظ ہیں؟
(A) پانچ (B) چھ
(C) سات (D) آٹھ

16. پہلے کلمہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے پہلے کلمہ میں کتنے حروف تہجی ہیں؟
(A) 21 (B) 22
(C) 23 (D) 24

17. شہادت سے کیا مراد ہے؟
(A) گواہی (B) تصدیق
(C) طلفی بیان (D) c اور b,a تینوں

18. تمجید کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) حمد و ثناء (B) تکبیر
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

19. توحید سے مراد ....
(A) وحدانیت ہے (B) حمد و ثناء ہے
(C) طلفی بیان ہے (D) تصدیق ہے

20. استغفار سے کیا مراد ہے؟
(A) توبہ کرنا (B) حمد و ثناء بیان کرنا
(C) تکبیر کہنا (D) طلفی بیان دینا

21. رد کفر کا مطلب ....
(A) پاکیزگی بیان کرنا ہے
(B) وحدانیت کا اقرار کرنا ہے
(C) حمد و ثناء بیان کرنا ہے
(D) کفر سے دست بردار ہونا ہے

22. وہ شخص کیا کہلاتا ہے جو کہ زبان سے کلمہ پڑھے لیکن دل سے اس کا اقرار نہ کرے؟
(A) مشرک (B) منافق
(C) مرتد (D) مباح

23. شریعت کی رو سے حد سے گزر جانے والا کس کو کہا جاتا ہے؟
(A) جو چھپ کر گناہ کرے (B) جو سر عام گناہ کرے
(C) جو نیکی کی طرف راغب نہ ہو
(D) جو بری صحبت رکھتا ہو

24. مرتد کون کہلاتا ہے؟
(A) جو توبہ کے بعد پھر گناہ کرے
(B) جو کسی دوسری جگہ پر جا کر دین اسلام چھوڑ دے
(C) جو اسلام قبول کرنے کے بعد مذہب تبدیل کرے
(D) جو کسی خوف سے اسلام چھوڑ دے

25. ایک مرتد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟
(A) اسے گرفتار کر کے اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک کہ وہ دوبارہ ایمان نہ لے آئے
(B) اسے جلا وطن کر دیا جائے
(C) اسے قتل کر دیا جائے
(D) اس کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے

26. اذان میں اللہ اکبر کے الفاظ کتنی مرتبہ آتے ہیں؟

(A) چار (B) پانچ

(C) چھ (D) سات

27. نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب ایک مسلمان کو چھینک آئے تو وہ کہے ....؟

(A) سبحان اللہ (B) الحمد للہ

(C) استغفر اللہ (D) اللہ اکبر

28. افضل الذکر کیا ہے؟

(A) سبحان اللہ (B) الحمد للہ

(C) اللہ اکبر (D) لا الہ الا اللہ

جوابات

1. (C)	2. (A)	3. (C)	4. (D)	5. (D)	6. (B)	7. (D)	8. (C)
9. (D)	10. (B)	11. (C)	12. (B)	13. (C)	14. (A)	15. (C)	16. (D)
17. (D)	18. (C)	19. (A)	20. (A)	21. (D)	22. (B)	23. (B)	24. (C)
25. (C)	26. (C)	27. (B)	28. (D)				

اسلامی قانون کے ماخذ: قرآن

1. لفظ قرآن قرء سے نکلا ہے۔ قرء سے کیا مراد ہے؟
(A) اس نے پڑھا (B) اس نے جمع کیا
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

2. قرآنی تعلیمات کے مطابق حضرت محمد ﷺ پر کس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی؟
(A) وحی (B) کشف
(C) رؤیا (D) a، b اور c تینوں

3. قرآن پاک کے نزول کا پہلا طریقہ ______
(A) وحی کہلاتا ہے (B) متلو کہلاتا ہے
(C) تنزیل کہلاتا ہے (D) کوئی نہیں

4. وحی سے کیا مراد ہے؟
(A) الہام (B) اظہار
(C) آمد (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

5. قرآن پاک کے نزول کا وہ طریقہ جو کہ پردے کے پیچھے سے ہوتا تھا کیا کہلاتا تھا؟
(A) کشف (B) رؤیا
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

6. کشف کا مطلب ہے۔
(A) بصارت (B) بینائی
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

7. رؤیا سے کیا مراد ہے؟
(A) دیکھنا (B) جاگنا
(C) خواب دیکھنا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

8. وحی کی سب سے اعلیٰ شکل کون سی تھی؟
(A) پردے کے پیچھے سے
(B) خواب کی صورت میں
(C) کسی خوبصورت صحابی کی شکل میں فرشتے کا آنا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

9. نبی پاکؐ پر وحی کے نزول کی سب سے مشکل شکل کونسی تھی؟
(A) کسی خوبصورت صحابی کی شکل میں فرشتے کا آنا
(B) خواب کی صورت میں
(C) گھنٹیوں کا بجنا اور فرشتے کی آواز کو صرف نبی پاک کا سننا
(D) پردے کے پیچھے سے

10. وحی کی قسم / قسموں کے نام بتائیں؟
(A) وحی متلو (B) وحی غیر متلو
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

11. نبی پاکؐ پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟
(A) 17 رمضان (B) 18 رمضان
(C) 19 رمضان (D) 20 رمضان

12. نبی پاکؐ پر پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟
(A) منگل (B) بدھ
(C) جمعرات (D) جمعہ

13. نبی پاکؐ پر پہلی وحی کس وقت نازل ہوئی؟
(A) صبح (B) شام
(C) رات (D) کوئی نہیں

14. پہلی وحی کا پہلا لفظ تھا۔
(A) ادب (B) الذی

(C) اقراء (D) کوئی نہیں

15. آپؐ پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟
(A) غارِ ثور میں (B) غارِ حرا میں
(C) غارِ صفا (D) غارِ مروہ میں

16. نبی پاکؐ پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟
(A) غارِ حرا میں (B) مسجد نبوی میں
(C) اپنے گھر میں (D) صحابہؓ کی مجلس میں

17. جبل نور کے مقام پر مکہ سے تین میل کے فاصلے پر کون سی اہم جگہ واقع ہے؟
(A) الملتزم (B) غارِ حرا
(C) میکات (D) کوئی نہیں

18. حضرت محمد ﷺ کی عمر مبارک کیا تھی جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی؟
(A) 40سال (B) 41سال
(C) 42سال (D) 43سال

19. پہلی وحی کے بعد آپؐ نے گھر آ کر حضرت خدیجہؓ سے کیا الفاظ کہے؟
(A) زملونی زملونی (B) مدثر
(C) دثرونی (D) کوئی نہیں

20. دوسری وحی کے بعد گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ نے حضرت خدیجہؓ سے کیا الفاظ کہے؟
(A) المدثر المدثر (B) دثرونی دثرونی
(C) العلق العلق (D) کچھ بھی نہیں کہا

21. قرآن مجید کتنی صورتوں میں نازل ہوا؟
(A) ایک (B) 2
(C) تین (D) 4

22. ایک صورت میں قرآن مختلف موقعوں پر حالات کے تناظر میں ______ کی شکل میں نازل ہوا۔
(A) سورتوں (B) رکوع
(C) آیات (D) منازل

23. دوسری شکل میں پورا قرآن ایک خاص رات کو دنیا پر نازل کیا گیا۔ اس رات کو کیا کہتے ہیں؟
(A) شب برات (B) شب قدر
(C) شب نازلہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

24. آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) نشانی (B) لکیر
(C) حصہ (D) راستہ

25. قرآن مجید کی آیات کی کل تعداد ہے؟
(A) 6000 (B) 6236
(C) 7000 (D) 7776

26. قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔
(A) آیت الکرسی (B) آیت کریمہ
(C) آیت برات (D) کوئی نہیں

27. آیت الکرسی کس سورۃ کی 255ویں آیت ہے؟
(A) العمران (B) النساء
(C) زخرف (D) البقرۃ

28. قرآن مجید کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟
(A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) 10

29. اس پہلی خاتون کا نام بتائیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کی گنتی کر کے ان کی تعداد 6666 بتائی؟
(A) حضرت خدیجہؓ (B) حضرت زینبؓ
(C) حضرت سودہؓ (D) حضرت عائشہؓ

30. قرآن مجید 1000 آیات وعدہ، 1000 آیات وعید، 1000 آیات نہی، 1000 آیات امر، 1000 آیات مثال، 1000 آیات قصاص، 250 آیات تحلیل اور ......
(A) 250 آیات تحریم پر مشتمل ہے
(B) 100 آیات تسبیح پر مشتمل ہے

(C) 66 آیات متفرقہ پر مشتمل ہے
(D) a، b اور c تینوں

31. قرآن مجید کی کونسی آیت افضل آیت کہلاتی ہے؟
(A) سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255
(B) سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 260
(C) سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265
(D) سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 270

32. سب سے پہلے آیات کے گرد دائرے کس نے لگائے؟
(A) ابوالاسود الدؤلی (B) امام ابوحنیفہ
(C) امام مالک (D) حضرت عثمان

33. درج ذیل میں سے کون سا بیان کلمہ طیبہ سے متعلق درست ہے؟
(A) یہ سورۃ البقرہ کی 163 ویں آیت میں موجود ہے
(B) یہ سورۃ البقرہ کی 169 ویں آیت میں موجود ہے
(C) یہ سورۃ البقرہ کی 173 ویں آیت میں موجود ہے
(D) یہ سورۃ البقرہ کی 180 ویں آیت میں موجود ہے

34. نبی پاک کا نام قرآن مجید کی کس سورۃ میں آیا ہے؟
(A) آل عمران (B) الاحزاب
(C) الفتح (D) تمام

35. قرآن مجید آپ کا نام کتنی بار آیا ہے؟
(A) 3 (B) 4
(C) 6 (D) 8

36. کس کا نام نبی یا رسول نہ ہونے کے باوجود ان کی نیکی کے باعث قرآن میں آیا ہے؟
(A) لقمان (B) عزیز مصر
(C) ذوالقرنین (D) a، b اور c تینوں

37. قرآن مجید کی کتنی آیات ختم نبوت کی نشاندہی کرتی ہیں؟
(A) 32 (B) 33
(C) 34 (D) 35

38. قصاص کے بارے میں احکامات قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی.....
(A) 128 ویں آیت میں آئے ہیں
(B) 129 ویں آیت میں آئے ہیں
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

39. "کیا عورتیں منصف ہو سکتی ہیں" اس موضوع کا بیان سورۃ النساء کی کونسی آیت میں آیا ہے؟
(A) 16 (B) 34
(C) a اور b دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

40. سورۃ النساء کی کونسی آیت عورتوں کو مارنے کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے؟
(A) 34 (B) 59
(C) 60 (D) 61

41. زنا کا جھوٹا الزام ایک گناہ ہے اور اس کی سزا کا ذکر کس سورۃ کی آیت 58 میں ہے؟
(A) سورۃ القمر (B) سورۃ النساء
(C) سورۃ نجم (D) سورۃ الاحزاب

42. قرآن مجید کی کس آیت میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے؟
(A) سورہ نساء کی 15 ویں آیت میں
(B) سورہ نساء کی 16 ویں آیت میں
(C) سورہ نساء کی تیسری ویں آیت میں
(D) a، b اور c تینوں

43. زکوۃ سے متعلق احکامات ....
(A) سورہ کہف کی 19 ویں آیت میں آئے ہیں
(B) سورۃ البقرہ کی تیسری اور 43 ویں آیات میں آئے ہیں
(C) سورہ توبہ کی 60 ویں آیات میں آئے ہیں
(D) a، b اور c تینوں

44. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی کون سی آیت لوگوں میں شراکت داری کے بارے میں دلالت کرتی ہے؟
(A) 270 ویں (B) 273 ویں

(C) 75 ویں (D) 280 ویں

45. کس صحابی کو ترجمان القرآن ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

46. اپنی کنیت کے ساتھ کس شخص کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟
(A) ابولہب (B) حضرت حمزہؓ
(C) ابوطالب (D) ابوعباس

47. کس صحابی سے نبی اکرمؐ نے اپنی وفات سے پہلے پورا قرآن سنا تھا؟
(A) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ
(B) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ
(C) حضرت عبداللہ ابن عثمانؓ
(D) حضرت عبداللہ ابن حذیفہؓ

48. کس صحابی کو تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے کا اعزاز حاصل ہے؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

49. اس صحابی کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے مکہ میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا تھا؟
(A) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ
(B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عبداللہ ابن حذیفہؓ
(D) حضرت علیؓ

50. قرآن کی حفاظت سے متعلق کون سا بیان درست ہے؟
(A) حفظ (B) تحریری شکل میں
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

51. قرآن مجید کی سب سے لمبی سورۃ البقرۃ قرآن کے ______ ویں حصے پر مشتمل ہے۔
(A) 1/9 (B) 1/10
(C) 1/11 (D) 1/12

52. قرآن مجید کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟
(A) 20 (B) 25
(C) 30 (D) 31

53. کس کی راہنمائی میں آپؐ نے قرآن کو مرتب کیا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت جبرائیل

54. قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟
(A) 23 سال (B) 24 سال
(C) 25 سال (D) 26 سال

55. قرآن مجید میں اوقاف کی علامتیں کس نے لگائیں؟
(A) حجاج ابن یوسف (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت علیؓ (D) امام ابوحنیفہؒ

56. قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟
(A) 550 (B) 558
(C) 548 (D) 530

57. کس زبان میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ہوا؟
(A) فارسی (B) لاطینی
(C) پرتگالی (D) انگریزی

58. برصغیر میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟
(A) اردو (B) فارسی
(C) بلوچی (D) سندھی

59. قرآن مجید کی موجودہ شکل .... ہے۔
(A) توقیفی (B) توصیفی
(C) نزولی (D) کوئی نہیں

60. درج ذیل میں سے کونسا لفظ قرآن مجید میں شراب کے لئے استعمال ہوتا ہے؟
(A) رجس (B) خمر

(B) میسر (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

61. قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ کو کتنے کرشمے عطا کیے گے تھے؟

(A) 9 (B) 10

(C) 11 (D) 12

62. قرآن مجید میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟

(A) یاقوت (B) نیلم

(C) کوہ نور (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

63. قرآن مجید کے کل کتنے نام ہیں؟

(A) 50 (B) 56

(C) 58 (D) 60

64. ''قرآن'' قرآن مجید کا ذاتی نام ہے جبکہ باقی 55 اس کے ______

(A) عملی نام کہلاتے ہیں (B) تعریفی نام کہلاتے ہیں

(C) صفاتی نام کہلاتے ہیں (D) کوئی نہیں

65. قرآن مجید میں لفظ القرآن کتنی بار آیا ہے؟

(A) 55 (B) 59

(C) 66 (D) 70

66. اصحاب سبت کا مطلب ہے۔

(A) یہودی (B) عیسائی

(C) مسلمان (D) صابئین

67. قرآن پاک کے مطابق زنا کی سزا کتنے کوڑے ہیں؟

(A) 50 (B) 50

(C) 70 (D) 100

68. تفسیر بلرائی کا مطلب ہے۔

(A) اجتہاد (B) نقل

(C) پڑھنا (D) سننا

69. ایمان مفصل کے معنی ہیں۔

(A) مختصر ایمان (B) تفصیلی ایمان

(C) ہر چیز پر ایمان (D) غیر مرئی چیزوں پر ایمان

70. ایمان مجمل کے معنی ہیں۔

(A) مختصر ایمان (B) تفصیلی ایمان

(C) ہر چیز پر ایمان (D) غیر مرئی چیزوں پر ایمان

71. قرآن پاک کے وہ حروف جو انسانوں کی سمجھ سے مخفی رکھے گئے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟

(A) حروف مقطعات (B) حروف قمری

(C) حروف شمسی (D) کوئی نہیں

72. قرآن میں کس کو روح القدس کہا گیا ہے۔

A۔ حضرت اسرافیل

B۔ حضرت جبرائیل

C۔ حضرت میکائیل

D۔ حضرت عزرائیل

73. روح الامین کا لقب قرآن نے حضرت۔

(A) اسرافیل کو دیا (B) جبرائیل کو دیا

(C) میکائیل کو دیا (D) عزرائیل کو دیا

74. جہاد فی سبیل اللہ سے مراد ہے۔

(A) ملک کے لیے لڑنا

(B) اللہ کی راہ میں لڑنا

(C) عزت کی خاطر لڑنا

(D) دشمن کو زیر کرنے کے لیے لڑنا

75. اسلامی قانون وراثت کے مطابق بچوں کی موجودگی میں بیوی کا شوہر کی جائداد میں کتنے فیصد حصہ ہوگا؟

(A) نصف (B) ایک تہائی

(C) آٹھواں (D) چوتھائی

76. ''دین میں کوئی جبر نہیں'' یہ آیت کس سورۃ میں ہے؟

(A) سورۃ البقرہ (B) سورۃ العلق

(C) سورۃ العمران (D) سورۃ الفلق

77. والعصر ان الانسان لفی خسر ، اس میں ''عصر'' سے مراد

ہے۔

(A) عصر کی نماز (B) زمانہ

(C) روح (D) دین

78. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ. اس میں "کرسی" سے مراد ہے۔

(A) اللہ کی سیٹ (B) اللہ کا علم وقدرت

(C) اللہ کی قوت (D) اللہ کی حاکمیت

79. اسلامی قانون کے مطابق خلع میں۔

(A) بیوی طلاق کا تقاضا کرتی ہے۔

(B) عدالت میاں بیوی کے درمیان طلاق کا فیصلہ کرتی ہے۔

(C) میاں بیوی طلاق کا تقاضا کرتے ہیں۔

(D) کوئی نہیں۔

80. اسلام کی سود سے پاک بنکاری میں درج ذیل میں سے کس کی اجازت ہے؟

(A) پی ایل ایس اکاؤنٹ۔

(B) مضاربہ

(C) گھر کی تعمیر کے لئے قرضہ۔

(D) کوئی نہیں۔

81. "مہر" عورت کو بطور ____ دیا جاتا ہے۔

(A) عزت کے ٹوکن کے طور پر۔

(B) بیوی کی معاونت۔

(C) قانونی قرض۔

(D) شادی کے معاہدے کی قیمت۔

82. دیت سے مراد ہے۔

(A) مالی تلافی

(B) قرآن کی متعین کردہ سزا

(C) سول نقصان

(D) کسی شخص کو نقصان دینے پر جرمانہ

83. قرآن مجید میں مقدس مسجد الاقصیٰ کا ذکر ہے جس کا مطلب ہے۔

(A) فلسطین میں موجود ایک چٹان

(B) مکہ کی مسجد حرام

(C) یروشلم کی ایک مسجد

(D) حضرت سلیمانؑ کی مسجد

84. قرآن پاک کی کون سورۃ "فسطاط القرآن" کہلاتی ہے؟

(A) سورۃ اخلاص (B) سورۃ البقرہ

(C) سورۃ یٰسین (D) سورۃ الرحمٰن

85. وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران 92)، اس آیت کی رو سے حج فرض ہے۔

(A) جو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس پر

(B) جو امیر ہے اس پر

(C) جو مسکین نہیں ہے اس پر

(D) جو سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اس پر

86. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة (مسلم)، اس حدیث کی رو سے اسلام کے قانون کی درست پوزیشن بتائیں؟

(A) تمام صغیرہ وکبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

(B) حقوق اللہ معاف کر دیے جائیں گے۔

(C) حقوق العباد معاف کر دیے جائیں گے۔

(D) کوئی نہیں۔

87. وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران۔103)، اس آیت میں 'بحبل اللہ' (اللہ کی رسی) سے مراد ہے۔

(A) کعبہ (B) قرآن

(C) نبی پاکؐ کی سنت

(D) تشبیہ یہ ہے کہ لوگ گہرے پانی میں جدوجہد کر رہے ہیں جہاں پر ایک مہربان ان کی مدد کے لئے مضبوط اور نہ ٹوٹنے والی رسی فراہم کرتا ہے۔

88. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آیت کس سورۃ میں ہے۔

(A) سورۃ البقرہ (B) سورۃ احزاب
(C) سورۃ محمد (D) سورۃ حج

89. لا اکراہ فی الدین (البقرۃ-256) کا مطلب ہے۔
(A) زبردستی دوسروں کو اسلام میں داخل کرنا منع ہے۔
(B) مذہب میں کوئی زبردستی نہیں۔
(C) اسلامی ریاست میں اقلیتوں کا خیال
(D) اسلام کی تبلیغ کے دوران ڈرانا جائز نہیں۔

90. وجعلنا البیت مثابۃ الناس (القرآن)۔اس کا مطلب ہے۔
(A) مقدس کعبہ زمین کا مرکز ہے۔
(B) مقدس کعبہ مسلم امت کا نیوکلیس ہے۔
(C) یہ مسلم امت کی معاشی و معاشرتی زندگی کا گہوارہ ہے۔
(D) یہ امت کے اتحاد کی علامت ہے۔

91. ومن جاھد فانما یجاھد لنفسہ (العنکبوت)۔اس سے مراد ہے۔
(A) قتال (B) جہاد بالنفس
(C) جہاد بالمال (D) کوئی نہیں

92. ادخلو فی السلم کافۃ (البقرۃ-208)۔اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو۔۔۔
(A) مذہب کی جانب کامل توجہ دینی چاہیے۔
(B) مذہب کا مکمل علم رکھنا چاہیے۔
(C) اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔
(D) مذہب کے سامنے مکمل ہتھیار ڈال دے۔

93. ھو الذی ارسل رسولہ بالھدیٰ و دین الحق لیظھرہ علی الدین کلہ و لو کرہ المشرکون (التوبہ-33)۔
اس آیت کا مرکزی خیال کیا ہے؟
(A) اسلام ایک مکمل مذہب کے طور پر ابھرے گا۔
(B) پوری دنیا میں اس کی تبلیغ فرض ہے۔
(C) اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔
(D) اسلام سچا دین ہے۔

94. "واطیعو اللہ و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم" میں "اولی الامر" سے مراد ہے۔
(A) اسلامی ریاست میں سول ملازمین
(B) اتھارٹی رکھنے والا شخص
(C) اسلامی ریاست کا ہیڈ
(D) مذہبی سکالرز

95. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون (القرآن)، اس میں الذکر سے مراد ہے۔
(A) مذہب اسلام (B) جبرائیل کے ذریعے پیغام
(C) تعلیمات نبی (D) قرآن

96. الماویٰ سے کیا مراد ہے؟
(A) رہنے کی جگہ (B) جنت
(C) دوزخ (D) عالم برزخ

97. الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟
(A) چار بار (B) پانچ بار
(C) چھ بار (D) سات بار

98. قرآن مجید میں کہاں نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟
(A) سورۃ البقرہ (B) سورۃ العمران
(C) سورۃ الکافرون (D) سورۃ نحل

99. معروف قراۃ کتنی ہیں؟
6 (A) 7 (B)
8 (C) 9 (D)

100. اللہ ہو کا لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟
980 (A) 1000 (B)
1100 (C) 1180 (D)

101. لفظ الٰہی قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟
120 (A) 122 (B)
123 (C) 125 (D)

102. قرآن میں کتنی جگہ پر cure کی آیات ہیں؟

(A) 3 (B) 4

(C) 6 (D) 8

103. لفظ الحمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

(A) 30 (B) 33

(C) 36 (D) 38

104. حضرت ابراہیمؑ کا نام قرآن میں کتنی بار مذکور ہے؟

(A) 63 (B) 65

(C) 69 (D) 70

105. حضرت آدمؑ کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

(A) 25 (B) 20

(C) 15 (D) 10

106. حضرت الیاسؑ کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

107. حضرت موسیٰؑ کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

(A) 130 (B) 133

(C) 136 (D) 138

108. کس سورۃ کا نام دین کے ایک ستون پر ہے؟

(A) الحج (B) فاتحہ

(C) البقرۃ (D) غاشیہ

109. کس نماز کے نام پر قرآن میں سورۃ موجود ہے؟

(A) العصر (B) الفجر

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

110. قرآن پاک میں کس نے ایک جیسے نظر آنے والے letters کے درمیان فرق قائم کرنے کے لیے نقاط لگائے؟

(A) نصر ابن علی لیاسی (B) نصر ابن خادم لیاسی

(C) نصر ابن حارث لیاسی (D) نصر ابن عاصم لیاسی

111. خیرات پر قرآن مجید میں کتنی بار زور دیا گیا ہے؟

(A) 150 (B) 155

(C) 160 (D) 165

112. قرآن پاک میں کس جگہ آپ کو احمد کہہ کر پکارا گیا ہے؟

(A) پارہ 28 سورۃ الصف آیت 6

(B) پارہ 29 سورۃ الکوثر آیت 8

(C) پارہ 30 سورۃ الکوثر آیت 2

(D) کوئی نہیں

113. آپ ﷺ کس سورۃ کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جسے سن کر حضرت جبیر بن مطعمؓ نے اسلام قبول کیا؟

(A) سورۃ الناس (B) سورۃ العمران

(C) سورۃ طور (D) سورۃ کافرون

114. آپ ﷺ کو کس سورۃ کی تلاوت کرتے سن کر آپ کا دشمن عتبہ سجدے میں گر گیا؟

(A) سورۃ حم سجدہ (B) سورۃ النور

(C) سورۃ الکہف (D) سورۃ البقرۃ

115. قرآن کے مطابق کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نصیحت کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے؟

(A) فرعون کی لاش (B) حضرت نوحؑ کی کشتی

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

116. قرآن میں شیطان کے لیے کیا نام استعمال ہوا ہے؟

(A) ابلیس (B) الشیطان

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

117. کب قرآن میں (vowels) لگائے گئے؟

(A) 40 ہجری (B) 41 ہجری

(C) 42 ہجری (D) 43 ہجری

118. غیر مسلموں کی کس کتاب میں قرآن کا بار بار ذکر کیا گیا ہے؟

(A) سکھوں کی کتاب گرانتھ صاحب

(B) پارسیوں کی کتاب گرانتھ صاحب

(C) مجوسیوں کی کتاب گرانتھ صاحب

(D) زرتشتوں کی کتاب گرانتھ صاحب

119. قرآن میں کس قسم کی آیات موجود ہیں؟
(A) محکمات (احکامات) (B) متشابہات (سبق)
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

120. دنیا کی تقریباً کتنی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے؟
(A) 100 (B) 102
(C) 103 (D) 104

121. قرآن میں کس مسجد کا ذکر آیا ہے؟
(A) مسجد حرام اور مسجد ضرار (B) مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ
(C) مسجد قبا (D) تمام

122. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ کلمہ طیبہ دہرایا گیا ہے؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

123. قیموں سے متعلق قوانین کب نازل کیے گئے؟
(A) 1 ہجری (B) 2 ہجری
(C) 3 ہجری (D) 4 ہجری

124. زنا سے متعلق قوانین کب نازل کیے گئے؟
(A) 2 ہجری (B) 3 ہجری
(C) 4 ہجری (D) 5 ہجری

125. وراثت سے متعلق قوانین کب نازل کیے گئے؟
(A) 1 ہجری (B) 2 ہجری
(C) 3 ہجری (D) 4 ہجری

126. کس ہجری میں عورتوں کے لیے پردے کے احکامات جاری کے لیے گئے؟
(A) 2 ہجری (B) 3 ہجری
(C) 4 ہجری (D) 5 ہجری

127. حضرت جبرائیلؑ کتنی بار آپؐ کے دربار میں تشریف لائے؟
(A) 20000 (B) 22000
(C) 24000 (D) 26000

128. قرآن مجید میں "ام الخبائث" کا نام کس شے کو دیا گیا ہے؟
(ا) جھوٹ (ب) شراب
(ج) چوری (د) شرک

129. "الفرقان" قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟
(ا) پانچ (ب) چھ
(ج) سات (د) تین

130. نماز باجماعت پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟
(ا) سورہ بقرہ (ب) سورہ بنی اسرائیل
(ج) سورہ المومنین (د) سورہ حج

131. حضورﷺ کو یاایہا النبی کے الفاظ سے قرآن مجید میں کتنی بار مخاطب کیا گیا ہے؟
(ا) گیارہ مرتبہ (ب) بارہ مرتبہ
(ج) چار مرتبہ (د) پانچ مرتبہ

132. عربی زبان میں "خاتم" کے کیا معنی ہیں؟
(ا) آخری (ب) سب سے آخری
(ج) ختم کرنے والا (د) مہر لگانا اور بند کرنا

133. پارے کے لغوی معنی ہیں۔
(a) ٹکڑے (b) مقدس
(c) صحیفہ (d) کوئی نہیں

134. "حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے" یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورہ میں ہیں۔
(A) سورہ یسین (B) سورہ حشر
(C) سورہ الدھر (D) سورہ فتح

135. اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟
(A) اردن (B) عراق
(C) سعودی عرب (D) شام

136. قرأت واجبہ قرآن پاک میں کسے کہتے ہیں؟
(A) سورہ اخلاق (B) سورہ فاتحہ
(C) سورہ نصر (D) قرآن پاک کی ہر آیت کو

137. ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ہے؟
(A) سورہ آل عمران (B) سورہ نساء
(C) سورہ کہف (D) سورہ یوسف

138. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اے خدا مجھے سیدھی راہ دکھا۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کس سورہ سے لیا گیا ہے؟
(A) سورہ بقرہ (B) سورہ فاتحہ
(C) سورہ کافرون (D) سورہ ق

139. قران پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟
(A) دو (B) تین
(C) چار (D) پانچ

140. قرآن میں مرد و عورت دونوں کو حکم ہے غض بصر کا جس کا مطلب ہے:
(A) سر ڈھانکنا (B) حج کرنا
(C) نگاہیں نیچی رکھنا (D) تلاوت کرنا

141. قرآن میں کتنی بار حلال کمائی پر زور دیا گیا ہے؟
(A) 300 بار (B) 320 بار
(C) 360 بار (D) 380

142. مورخین کے مطابق قرآن پاک کی کتابت کتنے اشخاص نے کی؟
(A) 40 (B) 50
(C) 60 (D) 70

143. کن لوگوں نے قرآن کو مخلوق قرار دیا؟
(A) معتزلہ نے (B) شیعوں نے
(C) مجوسیوں نے (D) احمدیوں نے

144. مذاہب اربعہ سے مراد ہے۔
(A) حنفی مذہب (B) مالکی و حنبلی
(C) شافعی مذہب (D) تمام

145. چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کب مقرر ہوئی؟
(A) 5 ہجری (B) 6 ہجری
(C) 7 ہجری (D) 8 ہجری

146. جانور جو حلال کیے بغیر کھایا جا سکتا ہے۔
(A) مچھلی (B) ٹڈی
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

147. قرآن کی کس سورۃ میں صرف ایک زیر آتی ہے؟
(A) النصر (B) النور
(C) الاخلاص (D) الکوثر

148. فرشتہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔
(A) حضرت جبرائیل (B) حضرت میکائیل
(C) حضرت ہاروت و ماروت (D) تمام

149. نبی جن کو قرآن میں ان کی ماں کے نام سے پکارا گیا ہے۔
(A) حضرت یعقوبؑ (B) حضرت موسیٰ
(C) حضرت ذوالکفل (D) حضرت عیسیٰ

150. قرآن میں لفظ اسلام کتنی بار آیا ہے؟
(A) 2 بار (B) 4 بار
(C) 6 بار (D) 8 بار

151. ابلیس (شیطان) کا پہلا نام تھا۔
(A) عزازیل (B) مسلم الجامع
(C) مسلم الملتزم (D) کوئی نہیں

152. سود کا متبادل نظام ____
(A) بیع الحاقہ (B) بیع الوفا
(C) بیع الرجع (D) بیع القامہ

153. قرآن کی وہ آیت جس کے ساتھ فرشتوں کا بھی نزول ہوا۔۔۔۔۔۔
(A) واسئل من ارسلنا من قبلک من رسلنا
(B) آیت الکرسی
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

154. ابلیس کا مطلب ہے۔
(A) متکبر (B) منحوس

(C) مایوس (D) وعدہ خلافی

155. قرآن میں لفظ سورۃ کتنی بار آیا ہے؟

(A) 5 (B) 6

(C) 7 (D) 8

156. 15 اگست 1947ء کو قیام پاکستان کے وقت کون سی سورۃ ریڈیو پاکستان پر تلاوت کی گئی؟

(A) سورۃ الجمعہ (B) سورۃ الفتح

(C) سورۃ المدثر (D) سورۃ البقرۃ

157. حضرت آدم کو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

(A) 2 بار (B) 5 بار

(C) 7 بار (D) 9 بار

158. شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟

(A) 5 آیات (B) 10 آیات

(C) 20 آیات (D) 50 آیات

159. قرآن مجید کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت کتنی ہے؟

(A) ایک سال (B) ڈیڑھ سال

(C) دو سال (D) اڑھائی سال

160. بیٹا اگر اپنے باپ کا قاتل ہو تو اسے کتنی وراثت ملے گی؟

(A) آدھا حصہ (B) پورا حصہ

(C) 1/8 حصہ (D) نہیں ملے گی

161. حروف جارہ کی کل تعداد کتنی ہے؟

(A) چودہ (B) سترہ

(C) بیس (D) پچیس

162. زیادہ سے زیادہ حق مہر کی مقدار کتنی ہے؟

(A) سو درہم (B) پانچ سو درہم

(C) ہزار دینار (D) کوئی حد نہیں

163. قرآن مجید میں شادی شدہ زانی مرد کی سزا کیا بیان ہوئی ہے؟

(A) 80 کوڑے (B) 100 کوڑے

(C) رجم (D) سزا بیان نہیں ہوئی

164. مختلف جرائم کی جو سزائیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟

(A) مستحبات (B) عقوبات

(C) تعزیرات (D) حدود

165. ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ کس سورہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے؟

(A) سورہ ھود (B) سورہ نور

(C) سورہ فاطر (D) سورہ مومنون

166. قرآن مجید میں کس گروہ کو "مباہلہ" کی دعوت دی گئی تھی۔

(A) یہود (B) نصاریٰ

(C) مجوس (D) مشرکین مکہ

167. "ماسیق الکلام لا جلہ" نص کی کس قسم کی تعریف ہے؟

(A) عبارۃ النص (B) اشارۃ النص

(C) اقتضاء النص (D) دلالۃ النص

168. مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟

(A) مہر معجل (B) مہر مسمّٰی

(C) مہر مثل (D) مہر موجل

169. "حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وھم صاغرون" آیت میں مذکور فعل یعطوا کا اعراب کیا ہے؟

(A) مجزوم (B) منصوب

(C) مرفوع (D) مجرور

170. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کس سورہ میں آیا ہے؟

(A) سورہ حم السجدہ (B) سورہ ابراہیم

(C) سورہ الانبیاء (D) سورہ مومنین

171. آیت کریمہ ہے کہ عدل کا دامن نہ چھوڑو چاہے تمہارا۔۔۔۔۔۔

(A) قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو

(B) بہترین دوست ہی کیوں نہ ہو
(C) اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو
(D) اپنا ہمسایہ ہی کیوں نہ ہو

172. قرآن پاک میں کتنے فرشتوں کا ذکر آیا ہے؟
(A) 10 (B) 11
(C) 4 (D) 13

173. کس قبیلے کا نام قرآن میں آیا ہے؟
(A) یاجوج ماجوج (B) عاد و ثمود
(C) مدین و قریش (D) تمام

174. بت جن کا نام قرآن میں ہے۔۔۔۔۔۔
(A) ود و سواع (B) یغوث و یعوق
(C) نسریہ (D) تمام

175. قرآن میں موجود پانچ بتوں کی پوجاری۔۔۔۔۔۔تھی۔
(A) قوم عاد (B) قوم ثمود
(C) قوم لوط (D) قوم نوح

176. قرآن کی آیت یسبح للہ ما فی السموت..... العزیز الحکیم کا مرتبہ کس آسمانی کتاب میں ساتھ سو آیات کے برابر ہے۔
(A) زبور (B) انجیل
(C) تورات (D) کوئی نہیں

177. قرآن کی وہ کونسی آیت ہے جو کہ حضرت سلیمان کے علاوہ کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی؟
(A) بسم اللہ الرحمن الرحیم (B) قل ھو اللہ احد
(C) یسبح للہ (D) کوئی نہیں

178. قرآن کی وہ کونسی آیت ہے جو کہ حضرت یوسف پر بھی نازل ہوئی؟
(A) وان علیکم لحافظین
(B) وما تکون فی شان الایۃ
(C) افمن ھو قائم علی کل نفس الایۃ
(D) تمام

179. وہ کونسی آیت ہے جو کہ آنحضرت کی زبان مبارک پر جاری ہوئی پھر اسی طرح آسمان سے نازل کی گئی؟
(A) قد جائکم بصائر من ربکم
(B) افغیر اللہ ابتغی حکما
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

180. وہ کونسی آیت ہیں جو کہ فرشتوں کی زبان پر جاری ہوئی اور پھر اسی طرح آسمان سے نازل ہوئی؟
(A) وما نتنزل الا بامر ربک
(B) وما منا الا لہ مقام
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

181. قرآن کریم کی وہ سورت جس کے ساتھ فرشتوں کا بھی نزول ہوا۔۔۔۔۔۔
(A) سورۃ انعام (B) سورۃ یونس
(C) سورۃ فاتحہ (D) تمام

182. قرآن مجید کی سب سے بڑی (طویل) آیت ہے۔
(A) بقرہ آیت نمبر 255 (B) آیت الکرسی
(C) بقرہ آیت نمبر 282 (D) بقرہ آیت نمبر 286

183. آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے۔
(A) طویل ترین آیت (B) افضل ترین آیت
(C) مقدس آیت (D) مختصر ترین آیت

184. قرآن پاک میں اسم مبارک محمد ﷺ کتنی دفعہ آیا ہے۔
(A) دو بار (B) چار بار
(C) چھ بار (D) سات بار
(E) کوئی نہیں

185. قرآنی آیت میں نام آیا ہے۔
(A) حضرت معاذ کا (B) حضرت بلال کا
(C) حضرت سعد کا (D) حضرت زید کا

186. اصحاب الایکہ (Ashab-al-Aikah) قوم تھے۔

(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت شیثؑ
(C) حضرت نوحؑ (D) حضرت شعیبؑ

187. عبدتم (Abadatum) کا مطلب ہے۔

(A) تمہارا گھر تمہارے لیے
(B) تمہارا دین تمہارے لیے
(C) تمہارا کاروبار تمہارے لیے
(D) کوئی نہیں

188. قرآن میں کس معروف شہر کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔

(A) مکہ (B) مدینہ
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

189. اصحاب سبت سے مراد ہے۔

(A) ہندو (B) مسلمان
(C) عیسائی (D) یہودی

190. معراج کے واقعہ کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

1 (A) 2 (B)
3 (C) 4 (D)

191. قرآن پاک پر اعراب کس نے لگوائے؟

(A) حجاج بن یوسف (B) حضرت عثمان غنیؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عمر بن عبدالعزیز

192. قرآن نے کس کے گھروندے کو سب سے کمزور کہا ہے؟

(A) العنکبوت (B) النحل
(C) النمل (D) الذباب

193. قرآن مجید میں کس گروہ کو "مباهلة" کی دعوت دی گئی تھی۔

(A) یہود (B) نصاریٰ
(C) مجوس (D) مشرکین مکہ

194. قرآن مجید میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا؟

(A) احتکار (B) ربا
(C) میسر (D) زنا

195. شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات کی تعداد ہے۔

5 (A) 10 (B)
15 (C) 20 (D)

196. شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟

(A) 5 آیات (B) 10 آیات
(C) 20 آیات (D) 50 آیات

197. برصغیر میں قرآن مجید کا پہلا اُردو ترجمہ کس نے کیا؟

(A) شاہ ولی اللہ (B) شاہ عبدالقادر
(C) شاہ رفیع الدین (D) شاہ اسماعیل

198. قرآن مجید کا مکی حصہ کون سا ہے؟

(A) جو مکہ میں نازل ہوا
(B) جو طائف میں نازل ہوا
(C) جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا
(D) جو ہجرت کے بعد نازل ہوا

199. قرآن مجید میں کل کتنی مساجد کا نام آیا ہے؟

2 (A) 4 (B)
6 (C) 8 (D)

200. قرآن مجید کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت کتنی ہے؟

(A) ایک سال (B) ڈیڑھ سال
(C) دو سال (D) اڑھائی سال

201. قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟

(A) ترتیب اصولی (B) ترتیب حجازی
(C) ترتیب نزولی (D) ترتیب توقیفی

202. پہلی وحی کل کتنی آیات پر مشتمل تھی؟

(A) تین آیات (B) پانچ آیات
(C) سات آیات (D) نو آیات

203. قرآن مجید میں شادی زانی مرد کی سزا کیا بیان ہوئی ہے؟

(A) 80 کوڑے (B) 100 کوڑے
(C) رجم (D) سزا بیان نہیں ہوئی

204. قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے۔
(A) والدین
(B)
(C) زوجین
(D) اولاد

205. قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے۔
(A) محاربہ
(B) زنا
(C) طلاق
(D) فتنہ و فساد

206. قرآن میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا؟
(A) چوری
(B) ربا
(C) جوا
(D) زنا

207. شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟
(A) 5 آیات
(B) 10 آیات
(C) 20 آیات
(D) 50 آیات

208. برصغیر میں قرآن کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟
(A) شاہ ولی اللہ
(B) شاہ عبدالقادر
(C) شاہ رفیع الدین
(D) اکبر شاہ

209. قرآن میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟
(A) عیسیٰ
(B) موسیٰ
(C) ابراہیم
(D) نوح

210. قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟
(A) حضورﷺ نے
(B) اللہ نے
(C) صحابہ نے
(D) ریاست نے

211. قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے: اپنی اولاد کو قتل نہ کرو؟
(A) [illegible]
(B) [illegible]
(C) غربت اور افلاس کے ڈر سے
(D) شرم و حیا کے باعث

212. قرآن مجید میں حروف مقطعات کی کل تعداد کتنی ہے؟
(A) 21
(B) 25
(C) [illegible]
(D) 29

213. قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟
(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 16

214. قرآن حکیم کے لفظی معنی ہیں۔
(A) تلاوت کیا گیا
(B) ہدایت نامہ
(C) اللہ کی کتاب
(D) ضابطہ اخلاق

215. قرآن پاک میں کون سے صحابی کا ذکر آیا ہے؟
(A) حضرت بلالؓ
(B) ہدایت نامہ
(C) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ
(D) حضرت زید بن حارثہؓ

216. قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی کل کتنی تعداد ہے؟
(A) 1113
(B) 113
(C) 6000
(D) 6236

217. قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟
(A) 538
(B) 558
(C) 550
(D) 560

218. پہلا سجدہ قرآن پاک کے کون سے پارہ میں آیا ہے؟
(A) آٹھویں
(B) نویں
(C) دسویں
(D) ساتویں

219. قرآن مجید کا ایک نام البرہان بھی ہے۔ اس کے معنی ہیں:
(A) خوشخبری دینے والی کتاب
(B) نصیحت کرنے والی کتاب
(C) حجت کرنے والی کتاب
(D) بزرگی والی کتاب

220. قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟
(A) دس
(B) چندرہ
(C) چھ
(D) چودہ

221. قرآن پاک میں کس چیز کو ظلم عظیم کہا گیا؟
(A) کفر
(B) شرک
(C) جھوٹ
(D) قتل عمد

222. قرآن پاک میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ان کی ہوا اکھڑ جائے گی کس وجہ سے............؟

(A) جھوٹ بولنے سے
(B) آپس میں جھگڑنے سے
(C) ناپ تول میں کمی سے
(D) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے سے

223. اللہ نے قرآن پاک میں کن کے بارے میں صراحت فرمائی کہ وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے؟

(A) کافر و مشرک (B) فاسق و فاجر
(C) یہودی و عیسائی (D) منافق و غدار

224. قرآن پاک میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے؟

(A) 12 (B) 15
(C) 17 (D) 22

225. قرآن کریم میں میاں بیوی کو کیا قرار دیا ہے؟

(A) دوست (B) ہمدرد
(C) راہنما (D) لباس

326. آیات منسوخ 5 ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟

(A) شاہ عبدالرحیم (B) شاہ ولی اللہ
(C) ابن صلاح (D) شاہ عبدالحق

227. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کتنے دنوں میں تخلیق کیے؟

(A) پانچ (B) چھ
(C) سات (D) آٹھ

جوابات

1. (C)	2. (D)	3. (A)	4. (A)	5. (C)	6. (C)	7. (C)	8. (C)
9. (C)	10. (C)	11. (A)	12. (D)	13. (C)	14. (C)	15. (B)	16. (A)
17. (B)	18. (A)	19. (A)	20. (B)	21. (B)	22. (C)	23. (B)	24. (A)
25. (B)	26. (A)	27. (D)	28. (A)	29. (D)	30. (D)	31. (A)	32. (A)
33. (A)	34. (D)	35. (B)	36. (D)	37. (A)	38. (C)	39. (C)	40. (A)
41. (D)	42. (D)	43. (D)	44. (C)	45. (C)	46. (A)	47. (B)	48. (D)
49. (A)	50. (C)	51. (D)	52. (C)	53. (D)	54. (A)	55. (A)	56. (B)
57. (B)	58. (D)	59. (A)	60. (B)	61. (A)	62. (A)	63. (B)	64. (C)
65. (C)	66. (A)	67. (D)	68. (A)	69. (B)	70. (A)	71. (A)	72. (B)
73. (B)	74. (B)	75. (C)	76. (A)	77. (B)	78. (B)	79. (A)	80. (B)
81. (A)	82. (B)	83. (C)	84. (B)	85. (D)	86 (A)	87. (B)	88. (B)
89. (B)	90. (D)	91. (B)	92. (D)	93. (C)	94. (D)	95. (D)	96. (A)
97. (C)	98. (A)	99. (B)	100. (A)	101. (D)	102. (C)	103. (D)	104. (C)
105. (A)	106. (B)	107. (C)	108. (A)	109. (C)	110. (D)	111. (A)	112. (A)
113. (C)	114. (A)	115. (C)	116. (C)	117. (D)	118. (A)	119. (C)	120. (C)
121. (D)	122. (B)	123. (B)	124. (D)	125. (C)	126. (D)	127. (B)	128. (B)
129. (B)	130. (A)	131. (A)	132. (D)	133. (A)	134. (D)	135. (A)	136. (B)
137. (C)	138. (B)	139. (D)	140. (C)	141. (C)	142. (C)	143. (A)	144. (D)
145. (D)	146. (C)	147. (C)	148. (D)	149. (D)	150. (C)	151. (A)	152. (B)
153. (B)	154. (C)	155. (C)	156. (B)	157. (D)	158. (A)	159. (C)	160. (D)
161. (B)	162. (D)	163. (C)	164. (D)	165. (B)	166. (B)	167. (A)	168. (C)
169. (B)	170. (C)	171. (C)	172. (C)	173. (D)	174. (D)	175. (D)	176. (C)
177. (A)	178. (D)	179. (C)	180. (C)	181. (D)	182. (C)	183. (B)	184. (B)
185. (D)	186. (D)	187. (B)	188. (C)	189. (D)	190. (B)	191. (A)	192. (A)
193. (B)	194. (B)	195. (A)	196. (A)	197. (B)	198. (C)	199. (4)	200. (C)
201. (D)	202. (B)	203. (C)	204. (C)	205. (D)	206. (B)	207. (A)	208. (B)
209. (B)	210. (B)	211. (C)	212. (D)	213. (C)	214. (C)	215. (D)	216. (D)
217. (B)	218. (B)	219. (C)	220. (D)	221. ()	222. (B)	223. (C)	224. (A)
225. (D)	226. (B)	227. (B)					

سورۃ ہائے قرآن مجید

1. درج ذیل میں سے کون سی سورۃ قرآن مجید کے مقدمہ اور دیباچہ کی حیثیت رکھتی ہے؟
(A) فاتحہ (B) فرقان
(C) فجر (D) فاطر

2. سورۃ الفاتحہ کا نزول کہاں ہوا؟
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) 4 آیات مکہ اور 3 مدینہ میں
(D) B،A دونوں جگہ

3. پہلی مکمل نازل ہونے والی سورۃ ہے۔
(A) سورۃ فلق (B) سورۃ الناس
(C) سورۃ فاتحہ (D) سورۃ علق

4. سورۃ الفاتحہ کی ترتیب نزولی کیا ہے؟
(A) 1 (B) 3
(C) 5 (D) 8

5. موجودہ ترتیب میں قرآن مجید کی دوسری سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) آل عمران (B) البقرہ
(C) غاشیہ (D) مریم

6. سورۃ البقرہ کی کل آیات ہیں؟
(A) 200 (B) 220
(C) 265 (D) 286

7. سورۃ البقرہ کے کل رکوع ہیں۔
(A) 10 (B) 20
(C) 30 (D) 40

8. سورۃ البقرہ..........
(A) مکی سورۃ ہے
(B) مدنی سورۃ ہے
(C) آدھی مکی اور آدھی مدنی سورۃ ہے
(D) 200 آیات مکی اور 86 مدنی ہیں

9. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ البقرہ..........
(A) 80 ویں سورۃ ہے (B) 81 ویں سورۃ ہے
(C) 82 ویں سورۃ ہے (D) 87 ویں سورۃ ہے

10. سورۃ البقرہ کس پارے میں موجود ہے؟
(A) پارہ نمبر 1 (B) پارہ نمبر 2
(C) پارہ نمبر 3 (D) B،A اور C تینوں

11. قرآن مجید کی تیسری سورۃ "سورۃ آل عمران" مدنی سورۃ ہے۔ یہ مشتمل ہے 20 رکوع اور..........
(A) 100 آیات پر (B) 200 آیات پر
(C) 300 آیات پر (D) 400 آیات پر

12. آل عمران مشتمل ہے۔
(A) پارہ 3 کچھ حصہ پر (B) پارہ 4 کے کچھ حصہ پر
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

13. سورۃ آل عمران کی ترتیب نزولی بتائیں؟
(A) 80 (B) 82
(C) 86 (D) 89

14. قرآن مجید کی کون سی مدنی سورۃ پارہ نمبر 4 سے پارہ نمبر 6 تک پھیلی ہوئی ہے؟
(A) الناس (B) مزمل
(C) النساء (D) آل عمران

15. موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سورۃ النساء کا نمبر ہے۔

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

16. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ النساء کا نمبر ہے۔
(A) 90
(B) 91
(C) 92
(D) 93

17. سورۃ النساء کی آیات اور رکوع کی تعداد بتائیں؟
(A) 180 آیات اور 14 رکوع
(B) 183 آیات اور 14 رکوع
(C) 176 آیات اور 24 رکوع
(D) 165 آیات اور 14 رکوع

18. سورۃ المائدہ کی ترتیب نزولی کیا ہے؟
(A) 80
(B) 92
(C) 100
(D) 112

19. قرآن مجید کی پانچویں سورۃ المائدہ میں۔
(A) 16 رکوع اور 120 آیات ہیں
(B) 17 رکوع اور 121 آیات ہیں
(C) 18 رکوع اور 122 آیات ہیں
(D) 19 رکوع اور 123 آیات ہیں

20. مدنی سورۃ المائدہ کس پارے میں ہے؟
(A) 6
(B) 7
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

21. درج ذیل میں سے کون سی سورۃ مکہ میں 165 آیات اور 20 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی؟
(A) اعراف
(B) انفال
(C) انعام
(D) انبیاء

22. سورۃ انعام کی ترتیب نزولی ہے۔
(A) 50
(B) 52
(C) 54
(D) 55

23. موجودہ ترتیب میں سورۃ انعام۔
(A) پانچویں نمبر پر ہے
(B) چھٹے نمبر پر ہے
(C) ساتویں نمبر پر ہے
(D) آٹھویں نمبر پر ہے

24. قرآن مجید کے کس پارہ میں سورۃ انعام موجود ہے؟
(A) ساتویں
(B) آٹھویں
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

25. قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے ساتویں نمبر پر موجود سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) انعام
(B) العلق
(C) الاعراف
(D) یوسف

26. 8 ویں اور 9 ویں پارے پر پھیلی ہوئی سورۃ اعراف۔
(A) 25 رکوع اور 207 آیات پر مشتمل ہے
(B) 26 رکوع اور 208 آیات پر مشتمل ہے
(C) 24 رکوع اور 206 آیات پر مشتمل ہے
(D) 23 رکوع اور 205 آیات پر مشتمل ہے

27. درج ذیل میں سے کون سی سورۃ 9 ویں اور 10 ویں سپاروں کے حصوں پر مشتمل ہے۔
(A) سورۃ الانفال
(B) سورۃ الکوثر
(C) سورۃ البقرہ
(D) سورۃ التکویر

28. قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں کون سی سورۃ آٹھویں نمبر پر ہے؟
(A) الانعام
(B) الانفال
(C) یوسف
(D) الحج

29. کون سا بیان سورۃ الانفال سے متعلق درست ہے؟
(A) یہ مدینہ میں نازل ہوئی
(B) ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 88 ویں سورۃ ہے
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

30. سورۃ الانفال کی آیات اور رکوع کی تعداد بتائیں؟
(A) 75 آیات اور 10 رکوع

(B) 80 آیات اور 15 رکوع
(C) 85 آیات اور 20 رکوع
(D) 90 آیات اور 25 رکوع

31. قرآن مجید کی نویں سورۃ التوبہ کہاں نازل ہوئی؟
(A) مکہ
(B) مدینہ
(C) کچھ حصہ مکہ اور کچھ مدینہ میں
(D) کوئی نہیں

32. سورۃ التوبہ ______
(A) 29 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے
(B) ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 113 ویں سورۃ ہے
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

33. سورۃ التوبہ سورۃ ہے۔ قرآن مجید کے کس پارے میں موجود ہے؟
(A) پارہ نمبر 10 (B) پارہ نمبر 11
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

34. قرآن مجید کی دسویں سورۃ یونس کتنی آیات اور رکوع پر مشتمل ہے؟
(A) 109 آیات اور 11 رکوع
(B) 111 آیات اور 12 رکوع
(C) 113 آیات اور 14 رکوع
(D) 115 آیات اور 16 رکوع

35. سورۃ یونس کس پارہ میں موجود ہے؟
(A) 11 ویں (B) 12 ویں
(C) 11 ویں اور 12 ویں (D) 12 میں اور 13 ویں

36. کون سی سورۃ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 51 ویں سورۃ ہے؟
(A) التوبہ (B) یوسف
(C) یونس (D) النساء

37. ترتیب نزولی کے لحاظ سے 52 میں اور موجودہ ترتیب میں
11 ویں سورۃ ہے۔
(A) سورۃ غاشیہ (B) سورۃ العمران
(C) سورۃ النساء (D) سورۃ الھود

38. درج ذیل میں سے کون سی مکی سورۃ پارہ نمبر 11 سے پارہ نمبر 12 تک 123 آیات اور 10 رکوع کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے؟
(A) غاشیہ (B) فجر
(C) ہود (D) فاطر

39. قرآن مجید کی 12 ویں سورۃ کا نام بتائیں جو کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید کی 53 ویں سورۃ ہے؟
(A) یونس (B) طارق
(C) یٰسین (D) یوسف

40. سورۃ یوسف کا کچھ حصہ پارہ نمبر 12 اور کچھ حصہ پارہ نمبر 13 پر مشتمل ہے۔ اس کی آیات اور رکوع کی تعداد بتائیں؟
(A) 115 آیات اور 12 رکوع
(B) 111 آیات اور 12 رکوع
(C) 100 آیات اور 12 رکوع
(D) 90 آیات اور 12 رکوع

41. سورۃ یوسف کہاں نازل ہوئی؟
(A) مدینہ
(B) مکہ
(C) آدھی مکہ اور آدھی مدینہ میں
(D) 3 چوتھائی مکہ اور ایک چوتھائی مدینہ میں

42. قرآن مجید کی 13 میں سورۃ کا نام بتائیں جو کہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے 96 ویں سورۃ ہے؟
(A) سورۃ یوسف (B) سورۃ ملک
(C) سورۃ الرعد (D) سورۃ انفال

43. سورۃ الرعد مدینہ میں 43 آیات اور 6 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی۔ یہ سورۃ کس پارہ میں ہے؟
(A) 13 (B) 14
(C) 15 (D) 16

44. قرآن مجید کی 14 ویں سورۃ کا نام بتائیں جو کہ 13 ویں پارے

میں 52 آیات اور 7 رکوع کے ساتھ موجود ہے؟

(A) آل عمران (B) ابراہیم

(C) الرعد (D) یوسف

45. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ ابراہیم قرآن مجید کی 72 ویں سورۃ ہے۔ یہ کہاں نازل ہوئی؟

(A) مکہ (B) مدینہ

(C) ایک آیت مکہ میں اور باقی سورۃ مدینہ میں

(D) ایک آیت مدینہ میں اور باقی سورۃ مکہ میں

46. درج ذیل میں سے کون سی سورۃ قرآن مجید کی 15 ویں سورۃ ہے۔

(A) الحجر (B) ابراہیم

(C) ہود (D) یونس

47. ترتیب نزولی کے اعتبار سے 103 میں سورۃ الحج مکہ میں کتنے رکوع و آیات کے ساتھ نازل ہوئی؟

(A) 78 آیات 10 رکوع (B) 80 آیات 7 رکوع

(C) 85 آیت 8 رکوع (D) 90 آیات 9 رکوع

48. ترتیب نزولی کے لحاظ سے سورۃ نحل قرآن کی ______

(A) 60 ویں سورۃ ہے (B) 70 ویں سورۃ ہے

(C) 80 ویں سورۃ ہے (D) 90 ویں سورۃ ہے

49. موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سورۃ نحل قرآن مجید کے 14 ویں پارے میں کس نمبر پر واقع ہے؟

(A) 14 (B) 15

(C) 16 (D) 17

50. سورۃ نحل کے رکوع کی تعداد 16 ہے اور آیات کی تعداد ......

(A) 120 (B) 128

(C) 135 (D) 140

51. قرآن مجید کی 17 ویں اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 50 ویں سورۃ کا نام بتائیں۔

(A) سورۃ العمران (B) سورۃ بنی اسرائیل

(C) سورۃ الکہف (D) سورۃ الحج

52. سورۃ بنی اسرائیل مکہ میں 111 آیات اور 12 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی۔ یہ کون سے پارے میں موجود ہے؟

(A) 14 ویں (B) 15 ویں

(C) 18 ویں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

53. سورۃ کہف کتنے رکوع و آیات کے ساتھ مکہ میں نازل ہوئی ہے؟

(A) 100 آیات 10 رکوع (B) 110 آیات 12 رکوع

(C) 100 آیات 14 رکوع (D) 100 آیات 16 رکوع

54. ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید 69 ویں سورۃ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں کہاں آتی ہے؟

(A) 19 ویں (B) 18 ویں

(C) 17 ویں (D) 16 ویں

55. سورۃ کہف قرآن مجید میں کس پارہ میں موجود ہے؟

(A) 15 ویں (B) 16 ویں

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

56. قرآن مجید کی 19 ویں سورۃ مریم ترتیب نزولی کے اعتبار سے ....

(A) 42 ویں سورۃ ہے (B) 43 ویں سورۃ ہے

(C) 44 ویں سورۃ ہے (D) 45 ویں سورۃ ہے

57. سورۃ مریم مشتمل ہے 6 رکوع اور ....

(A) 90 آیات پر (B) 94 آیات پر

(C) 98 آیات پر (D) 100 آیات پر

58. قرآن مجید کی 20 ویں سورۃ کا نام بتائیں جو کہ مکہ میں 135 آیات اور 8 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی؟

(A) سبا (B) شمس

(C) فجر (D) طٰہٰ

59. درج ذیل میں سے کون سی سورۃ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید کی 45 ویں سورۃ ہے؟

(A) طٰہٰ (B) یونس

(C) التین (D) کوثر

60. اس سورۃ کا نام بتائیں جو کہ مکہ میں 112 آیات اور 7 رکوع کے ساتھ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 73 ویں نمبر پر نازل ہوئی؟

(A) الانفال (B) الانعام

(C) الانبیاء (D) الاعراف

61. موجودہ ترتیب میں سورۃ الانبیاء کا نمبر ہے۔

(A) 20 (B) 21

(C) 22 (D) 23

62. قرآن مجید کے کس پارے میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج موجود ہیں؟

(A) 16 ویں (B) 17 ویں

(C) 18 ویں (D) 19 ویں

63. درج ذیل میں سے کون سی سورۃ قرآن مجید کے 18 ویں پارے میں موجود ہے؟

(A) المومنون (B) النور

(C) فرقان (D) A، B اور C تینوں

64. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ المومنون قرآن کی ______

(A) 72 ویں سورۃ ہے (B) 73 ویں سورۃ ہے

(C) 74 ویں سورۃ ہے (D) 75 ویں سورۃ ہے

65. قرآن مجید کی 23 ویں سورۃ المومنون مکہ میں کتنی آیات اور رکوع کے ساتھ نازل ہوئی؟

(A) 115 آیات اور 6 رکوع

(B) 116 آیات اور 6 رکوع

(C) 117 آیات اور 6 رکوع

(D) 118 آیات اور 6 رکوع

66. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ النور قرآن کی ....

(A) 102 ویں سورۃ ہے (B) 103 ویں سورۃ ہے

(C) 104 ویں سورۃ ہے (D) 105 ویں سورۃ ہے

67. موجودہ ترتیب میں 24 ویں سورۃ النور مدینہ میں 64 آیات اور ....

(A) 6 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

(B) 7 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

(C) 8 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

(D) 9 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

68. ترتیب نزولی کے اعتبار سے 42 ویں سورۃ الفرقان مکہ میں 77 آیات اور ....

(A) 3 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

(B) 4 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

(C) 5 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

(D) 6 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

69. الفرقان کس پارے میں ہے؟

(A) 18 ویں (B) 19 ویں

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

70. سورۃ الفرقان کا ترتیب توقیفی کے اعتبار سے نمبر کیا ہے؟

(A) 23 (B) 24

(C) 25 (D) 26

71. سورۃ الشعراء قرآن کی ______ سورۃ ہے۔

(A) 20 ویں (B) 26 ویں

(C) 22 ویں (D) 23 ویں

72. سورۃ الشعراء کس پارے میں موجود ہے؟

(A) 19 ویں (B) 18 ویں

(C) 17 ویں (D) 16 ویں

73. درج ذیل میں سے کون سی سورۃ مکہ میں 93 آیات اور 7 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی؟

(A) القمر (B) الرعد

(C) النمل (D) کہف

74. سورۃ النمل قرآن کی ______ ویں سورۃ ہے۔

(A) 25 (B) 26

(C) 27 (D) 28

75. قرآن مجید کی 28 ویں سورۃ کا نام بتائیں جو کہ ترتیب نزولی کے

اعتبار سے 49ویں نمبر پر ہے؟

(A) ق (B) القدر

(C) القصص (D) القلم

76. سورۃ العنکبوت 29ویں سورۃ کا نام ہے یہ کس پارے کا حصہ ہے؟

(A) 20 (B) 21

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

77. درج ذیل میں سے کون سی سورۃ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں موجود ہے؟

(A) روم (B) لقمان

(C) سجدہ (D) A، B اور C تینوں

78. قرآن مجید کی 30ویں سورۃ کا نام بتائیں جو کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 84ویں نمبر پر ہے؟

(A) روم (B) قصص

(C) الناس (C) النور

79. قرآن مجید کی 31ویں اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 57ویں سورۃ لقمان میں کتنی آیات اور رکوع ہیں؟

(A) 30 آیات اور 3 رکوع (B) 34 آیات اور 4 رکوع

(C) 32 آیات اور 2 رکوع (C) 30 آیات اور 6 رکوع

80. قرآن مجید کی 32ویں سورۃ کا نام بتائیں؟

(A) لقمان (B) النمل

(C) السجدہ (C) فاطر

81. سورۃ السجدہ کس پارے میں ہے؟

(A) 20 (B) 21

(C) 22 (D) 23

82. درج ذیل میں سے کون سی سورۃ قرآن مجید کی 33ویں سورۃ ہے؟

(A) الفاطر (B) النمل

(C) الاحزاب (D) الحج

83. درج ذیل میں سے کون سی سورۃ 22ویں پارے کا حصہ ہے؟

(A) سبا (B) فاطر

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

84. قرآن کی 34ویں سورۃ سبا میں موجود آیات اور رکوع کی تعداد بتائیں؟

(A) 54 آیات اور 6 رکوع (B) 50 آیات اور 5 رکوع

(C) 45 آیات اور 4 رکوع (D) 40 آیات اور 3 رکوع

85. ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 35ویں اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 43ویں سورۃ کا نام بتائیں؟

(A) الروم (B) النحل

(C) الفاطر (D) النور

86. سورۃ فاطر مکہ میں 45 آیات اور.................

(A) 4 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

(B) 5 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

(C) 6 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

(D) 7 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی

87. سورۃ یٰسین کس پارے میں ہے؟

(A) 22ویں (B) 23ویں

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

88. سورہ یٰسین جو کہ قرآن مجید کی 36ویں سورۃ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی کونسی سورۃ ہے؟

(A) 39 (B) 40

(C) 41 (D) 42

89. سورۃ یٰسین مکی سورۃ ہے اور پانچ رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ کی کل آیات کی تعداد بتائیں؟

(A) 80 (B) 81

(C) 82 (D) 83

90. درج ذیل میں کون سی سورۃ پارہ نمبر 23 میں شامل ہے؟

(A) الصافات (B) ص

(C) A اور B دونوں

(D) B'A میں سے کوئی نہیں

91. قرآن مجید کی 37ویں سورۃ کا نام بتائیں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 56ویں سورت ہے؟

(A) الصافات (B) السبا

(C) انعام (D) فرقان

92. درج ذیل میں سے کون سی سورۃ مکی ہے؟

(A) حج (B) احزاب

(C) الصافات (D) محمد

93. درج ذیل میں سے سورتوں کا کون سا گروپ مکی سورتوں پر مشتمل ہے؟

(A) ص زمر مومن (B) حم السجدہ شوریٰ زخرف

(C) دخان جاثیہ احقاف (D) B'A اور C تینوں

94. سورۃ ص قرآن مجید کی 38ویں سورۃ ہے اس کی ترتیب نزولی کیا ہے؟

(A) 35 (B) 36

(C) 37 (D) 38

95. قرآن مجید کی 39ویں سورۃ کا نام بتائیں جسکا کچھ حصہ پارہ نمبر23 اور کچھ حصہ پارہ نمبر 24 میں پھیلا ہوا ہے؟

(A) زمر (B) یونس

(C) التین (D) طور

96. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ زمر قرآن مجید کی 59ویں سورۃ ہے جو کہ........

(A) 75 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل ہے

(B) 75 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل ہے

(C) 75 آیات اور 8 رکوع پر مشتمل ہے

(D) 75 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل ہے

97. قرآن مجید کی 40ویں سورۃ مومن ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید کی 60ویں سورۃ ہے جو........

(A) 24ویں پارہ کا حصہ ہے (B) 25ویں پارہ کا حصہ ہے

(C) 26ویں پارہ کا حصہ ہے (D) 27ویں پارہ کا حصہ ہے

98. سورۃ مومن........

(A) 80 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل ہے

(B) 85 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل ہے

(C) 89 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل ہے

(D) 95 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل ہے

99. قرآن مجید کی 41ویں سورۃ کا نام بتائیں؟

(A) ص (B) النور

(C) حم السجدہ (D) طور

100. قرآن مجید کے کس پارہ میں سورۃ حم السجدہ پائی جاتی ہے؟

(A) 24ویں 25ویں پاروں میں

(B) 25ویں 26ویں پارہ میں

(C) 26ویں 27ویں پارروں میں

(D) 27ویں 28ویں پارہ میں

101. درج ذیل میں سے کونسی سورتوں کا جوڑا قرآن مجید کے 25ویں پارے میں موجود ہے؟

(A) شوریٰ اور زخرف (B) جاثیہ اور دخان

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

102. قرآن مجید کی 42ویں سورۃ شوریٰ میں کتنی آیات و رکوع ہیں؟

(A) 53 آیات اور 5 رکوع (B) 50 آیات اور 4 رکوع

(C) 45 آیات اور 3 رکوع (D) 10 آیاتاور 2 رکوع

103. قرآن مجید کی 43ویں سورۃ کا نام بتائیں جو کہ 89 آیات اور 7 رکوع کے ساتھ نازل ہوئی؟

(A) واقعہ (B) زخرف

(C) یونس (D) یٰسین

104. ترتیب نزولی کے لحاظ سے قرآن مجید کی 44ویں سورۃ کا نام بتائیں؟

(A) دہر (B) دخان
(C) مریم (D) تین

105. قرآن مجید کی 45ویں سورۃ جاثیہ میں کتنی آیات اور رکوع ہیں؟
(A) 37 آیات اور 4 رکوع (B) 35 آیات اور 3 رکوع
(C) 22 آیات اور 2 رکوع (D) 10 آیات اور 1 رکوع

106. قرآن مجید کی 46ویں سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) زخرف (B) احقاف
(C) شوریٰ (D) طٰہٰ

107. سورۃ احقاف 4 رکوع اور ....
(A) 33 آیات پر مشتمل ہے (B) 34 آیات پر مشتمل ہے
(C) 35 آیات پر مشتمل ہے (D) 36 آیات پر مشتمل ہے

108. درج ذیل میں سے کونسی سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی؟
(A) محمد (B) حجرات
(C) فتح (D) A، B اور C تینوں

109. درج ذیل میں سے کون سی سورتوں کا جوڑا 26ویں پارہ میں پایا جاتا ہے؟
(A) محمد اور فتح (B) حجرات اور ق
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B دونوں میں کوئی بھی نہیں

110. قرآن مجید کی 47ویں سورۃ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید کی 95ویں سورۃ ہے۔ سورۃ کا نام بتائیں:
(A) قلم (B) نوح
(C) محمد (D) طور

111. قرآن مجید کی 48ویں سورۃ فتح کی آیات اور رکوع کی تعداد بتائیں؟
(A) 40 آیات اور 4 رکوع (B) 35 آیات اور 4 رکوع
(C) 30 آیات اور 4 رکوع (D) 29 آیات اور 4 رکوع

112. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ حجرات قرآن مجید کی 106 سورۃ ہے موجودہ ترتیب میں یہ قرآن مجید میں کس نمبر پر ہے؟
(A) 49ویں (B) 50ویں
(C) 34ویں (D) 35ویں

113. قرآن مجید کی 50ویں سورۃ کا نام بتائیں جو کہ قرآن میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے 34ویں نمبر پر نازل ہوئی؟
(A) الناس (B) نصر
(C) ق (D) القدر

114. سورۃ ق ....
(A) 45 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے
(B) 45 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے
(C) 45 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے
(D) 45 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے

115. قرآن مجید کی 51ویں سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) واقعہ (B) یٰسین
(C) الذاریات (D) تین

116. سورۃ الذاریات کس پارے میں موجود ہے؟
(A) 26ویں (B) 27ویں
(C) دونوں
(D) A اور B میں کوئی بھی نہیں

117. درج ذیل میں سے کونسی سورتیں قرآن مجید کے 27ویں پارے میں پائی جاتی ہیں؟
(A) الطور اور النجم (B) القمر اور الرحمٰن
(C) واقعہ اور حدید (D) A، B اور C تینوں

118. الطور قرآن مجید کی 52ویں سورۃ ہے۔ اس میں کتنی آیات و رکوع ہیں؟
(A) 40 آیات اور 2 رکوع (B) 45 آیات اور 2 رکوع
(C) 49 آیات اور 2 رکوع (D) 51 آیات اور 2 رکوع

119. قرآن مجید کی 54ویں سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) النجم (B) حدید
(C) القمر (D) طور

120. الرحمٰن قرآن مجید کی 55ویں سورۃ کہاں نازل ہوئی؟
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) کچھ مدینہ کچھ مکہ میں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

121. سورۃ الرحمٰن ________ پر مشتمل ہے۔
(A) 78 آیات اور 3 رکوع (B) 80 آیات اور 5 رکوع
(C) 85 آیات اور 7 رکوع (D) 90 آیات اور 9 رکوع

122. مکی سورۃ واقعہ قرآن مجید کی 56ویں سورۃ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے اسکا نمبر کیا ہے؟
(A) 41 (B) 43
(C) 46 (D) 49

123. 29 آیات اور 4 رکوع کے ساتھ قرآن مجید کی 57ویں سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) حدید (B) انفطار
(C) لقمان (D) الیل

124. حدید ترتیب نزولی کے اعتبار سے 94ویں سورۃ ہے۔ یہ کہاں نازل ہوئی؟
(A) اس کی 20 آیات مکہ اور 9 مدینہ میں نازل ہوئیں
(B) اس کی 15 آیات مکہ اور 4 مدینہ میں نازل ہوئیں
(C) مکمل سورۃ مکہ میں نازل ہوئیں
(D) مکمل سورۃ مدینہ میں نازل ہوئیں

125. درج ذیل میں سے کون سی سورتیں قرآن مجید کے 28ویں پارے میں پائی جاتی ہیں؟
(A) المجادلہ، الحشر، الممتحنہ (B) الصف، الجمعہ، المنافقون
(C) التغابن، الطلاق، تحریم (D) A، B اور C تینوں

126. سورۃ المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، التغابن، الطلاق اور تحریم کہاں نازل ہوئیں؟
(A) المجادلہ کے علاوہ باقی سب مدینہ میں نازل ہوئیں
(B) سورۃ الجمعہ کے علاوہ باقی سب مکی سورتیں ہیں
(C) تمام مکی سورتیں ہیں (D) تمام مدنی سورتیں ہیں

127. المجادلہ قرآن مجید کی 58ویں سورۃ ہے جو کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید کی ....
(A) سورۃ نمبر 100 ہے (B) سورۃ نمبر 102 ہے
(C) سورۃ نمبر 105 ہے (D) سورۃ نمبر 110 ہے

128. سورۃ المجادلہ کتنی آیات و رکوع پر مشتمل ہے؟
(A) 22 آیات اور 3 رکوع (B) 22 آیات اور 2 رکوع
(C) 22 آیات اور 4 رکوع (D) 22 آیات اور 5 رکوع

129. قرآن مجید کی 60ویں سورۃ الممتحنہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے کتنویں سورۃ ہے؟
(A) 90 (B) 91
(C) 92 (D) 93

130. قرآن مجید کی 61ویں سورۃ الصف کا ترتیب نزولی کے اعتبار سے نمبر کیا ہے؟
(A) 107 (B) 108
(C) 109 (D) 111

131. قرآن مجید کی 62ویں سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) الجمعہ (B) المعارج
(C) مزمل (D) المدثر

132. قرآن مجید کی 63ویں سورۃ المنافقون ہے میں کتنی آیات و رکوع ہیں؟
(A) 11 آیات اور 2 رکوع (B) 12 آیات اور 3 رکوع
(C) 13 آیات اور 3 رکوع (D) 14 آیات اور 4 رکوع

133. سورۃ التغابن قرآن مجید میں کس نمبر پر ہے؟
(A) 60 (B) 62
(C) 64 (D) 66

134. الطلاق قرآن مجید کی 65ویں سورۃ کا نام ہے یہ 2 رکوع اور ......
(A) 15 آیات پر مشتمل ہے
(B) 14 آیات پر مشتمل ہے
(C) 13 آیات پر مشتمل ہے
(D) 12 آیات پر مشتمل ہے

135. درج ذیل میں سے کونسی سورۃ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی 66ویں سورۃ ہے؟

(A) تحریم (B) تغابن
(C) التکاثر (D) تبیین

136. سورۃ تحریم..............

(A) 12 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے
(B) 13 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے
(C) 14 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے
(D) 14 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے

137. درج ذیل سورتیں قرآن مجید کے کس پارے میں پائی جاتی ہیں سورۃ الملک، القلم، الحاقۃ، المعارج، نوح، جن، مزمل، مدثر، قیامہ، الدھر اور مرسلات؟

(A) 29ویں (B) 28ویں
(C) 27ویں (D) 30ویں

138. سورۃ الملک، القلم، الحاقۃ، الدھر، قیامہ، المعارج، نوح، جن، مزمل، مدثر اور مرسلات میں سے کون سی سورۃ کے علاوہ تمام سورتیں مکی سورتیں ہیں؟

(A) الحاقۃ (B) القلم
(C) الملک (D) الدھر

139. سورۃ الملک قرآن مجید کی 67ویں سورۃ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے اسکا نمبر کیا ہے؟

(A) 75 (B) 76
(C) 77 (D) 78

140. قرآن کی 68ویں سورۃ القلم کتنے رکوع و آیات پر مشتمل ہے؟

(A) 50 آیات اور 2 رکوع (B) 51 آیات اور 2 رکوع
(C) 52 آیات اور 2 رکوع (D) 53 آیات اور 2 رکوع

141. قرآن مجید کی 69ویں سورۃ کا نام بتائیں؟

(A) القلم (B) مزمل
(C) الحاقۃ (D) نوح

142. المعارج قرآن مجید کی 70ویں سورۃ ہے یہ 2 رکوع اور

(A) 40 آیات پر مشتمل ہے
(B) 44 آیات پر مشتمل ہے
(C) 49 آیات پر مشتمل ہے
(D) 55 آیات پر مشتمل ہے

143. سورۃ نوح کتنی آیات و رکوع پر مشتمل ہے؟

(A) 28 آیات 2 رکوع (B) 30 آیات 4 رکوع
(C) 38 آیات 6 رکوع (D) 36 آیات 4 رکوع

144. نزولی لحاظ سے قرآن مجید کی 71ویں سورۃ نوح ہے۔ موجودہ ترتیب میں قرآن مجید میں کس نمبر پر ہے؟

(A) 69 (B) 70
(C) 71 (D) 72

145. قرآن مجید کی 73ویں سورۃ مزمل میں کتنی آیات اور رکوع ہیں؟

(A) 18 آیات اور 2 رکوع (B) 13 آیات اور 2 رکوع
(C) 20 آیات اور 2 رکوع (D) 21 آیات اور 2 رکوع

146. سورۃ مدثر قرآن مجید کی 74ویں سورۃ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے؟

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

147. قرآن مجید کی 75ویں سورۃ القیامہ کا ترتیب نزولی کے لحاظ سے اس کا نمبر کیا ہے؟

(A) 30 (B) 31
(C) 32 (D) 33

148. قرآن مجید کی 76ویں سورۃ کا نام بتائیں؟

(A) مرسلات (B) الدھر
(C) قیامہ (D) المدثر

149. درج ذیل میں سے قرآن مجید کی 77ویں سورۃ کون سی ہے؟

(A) الکہف (B) القلم
(C) مرسلات (D) طور

150. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ مرسلات قرآن مجید کی.......

(A) 31ویں سورۃ ہے (B) 32ویں سورۃ ہے

(C) 33ویں سورۃ ہے (D) 34ویں سورۃ ہے

151. درج ذیل میں سے کون سا بیان سورۃ البلد، الشمس، عبس، تکویر، المطففین، انشقاق، البروج، الطارق، اعلیٰ، غاشیہ اور الفجر سے متعلق درست ہے؟

(A) یہ تمام سورتیں قرآن مجید کے 30ویں پارے میں پائی جاتی ہیں

(B) یہ تمام سورتیں ایک ایک رکوع پر مشتمل ہیں

(C) یہ تمام مکی سورتیں ہیں

(D) B، A اور C تینوں

152. سورۃ النباء قرآن مجید کی 78ویں اور النزعات قرآن مجید کی ____ ویں سورۃ ہے

(A) 82 (B) 79

(C) 84 (D) 85

153. سورۃ النباء 40 آیات اور سورۃ النزعات.......

(A) 44 آیات پر مشتمل ہے (B) 46 آیات پر مشتمل ہے

(C) 48 آیات پر مشتمل ہے (D) 50 آیات پر مشتمل ہے

154. قرآن مجید کی 80ویں سورۃ عبس میں کتنی آیات ہیں؟

(A) 41 (B) 42

(C) 43 (D) 44

155. قرآن مجید کی 81ویں سورۃ کا نام بتائیں؟

(A) الطارق (B) العلق

(C) تکویر (D) طور

156. المطففین قرآن مجید کی 83ویں سورۃ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے اسکی ترتیب کیا ہے؟

(A) 80 (B) 84

(C) 86 (D) 71

157. موجودہ ترتیب میں 84ویں سورۃ کا نام بتائیں؟

(A) تکویر (B) الانشقاق

(C) فجر (D) الطارق

158. 22 آیات کے ساتھ البروج قرآن مجید کی 85ویں سورۃ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے اسکا نمبر کیا ہے؟

(A) 25 (B) 26

(C) 27 (D) 28

159. قرآن مجید کی 86ویں سورۃ کا نام کیا ہے؟

(A) البروج (B) الطارق

(C) الدھر (D) مرسلات

160. قرآن مجید کی 87ویں سورۃ اعلیٰ کتنی آیات پر مشتمل ہے؟

(A) 15 (B) 17

(C) 19 (D) 21

161. قرآن مجید کی 88ویں سورۃ کا نام بتائیں؟

(A) اعلیٰ (B) غاشیہ

(C) فجر (D) طور

162. قرآن مجید کی 89ویں سورۃ کا نام بتائیں؟

(A) فجر (B) البلد

(C) الشمس (D) النباء

163. کون سی سورۃ قرآن مجید کی 90ویں سورۃ ہے؟

(A) الفلق (B) الناس

(C) الملک (D) البلد

164. 15 آیات کے ساتھ الشمس قرآن مجید کی 91ویں سورۃ ہے اس کی ترتیب نزولی کا نمبر کیا ہے؟

(A) 23 (B) 24

(C) 25 (D) 26

165. سورۃ الیل، الضحیٰ، الم نشرح، التین، العلق، القدر، البینۃ، الزلزال، العادیات، التکاثر اور العصر قرآن مجید کے ____ ویں پارے کا حصہ ہیں۔

(A) 28 (B) 29

(C) 30 (D) 27

166. سورۃ الیل کتنی آیات پر مشتمل ہے؟
(A) 12 (B) 14
(C) 18 (D) 21

167. قرآن مجید کی 93ویں سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) الضحیٰ (B) الشمس
(C) الزلزال (D) القارعہ

168. قرآن مجید کی 94ویں سورۃ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 8 آیات کے ساتھ 12ویں سورۃ ہے سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) الفلق (B) النصر
(C) الم نشرح (D) طور

169. قرآن مجید کی 95ویں سورۃ التین کا ترتیب نزولی کے اعتبار سے نمبر کیا ہے؟
(A) 20 (B) 24
(C) 26 (D) 28

170. قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورۃ العلق قرآن مجید کی ......
(A) 94ویں سورۃ ہے (B) 95ویں سورۃ ہے
(C) 96ویں سورۃ ہے (D) 97ویں سورۃ ہے

171. سورۃ العلق کتنی آیات پر مشتمل ہے؟
(A) 19 (B) 18
(C) 17 (D) 16

172. ترتیب نزولی کے اعتبار سے القدر کا نمبر ہے۔
(A) 20 (B) 25
(C) 30 (D) 35

173. القدر قرآن مجید کی 97ویں سورۃ ہے یہ کتنی آیات پر مشتمل ہے؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 5

174. قرآن مجید کی 98ویں سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) البینہ (B) العلق
(C) العصر (D) الفلق

175. قرآن مجید کی 99ویں سورۃ الزلزال کا ترتیب نزولی کے اعتبار سے نمبر کیا ہے؟
(A) 99 (B) 96
(C) 95 (D) 93

176. قرآن مجید کی 100ویں سورۃ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 14ویں سورۃ ہے سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) الزلزال (B) الیل
(C) الضحیٰ (D) العادیات

177. القارعہ قرآن مجید کی 101ویں سورۃ ہے جس کا ترتیب نزولی نمبر 30 ہے۔ اس سورۃ میں کتنی آیات ہیں؟
(A) 8 (B) 9
(C) 10 (D) 11

178. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سولہویں اور موجودہ ترتیب میں 102ویں سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) انفطار (B) الدھر
(C) القیامۃ (D) التکاثر

179. سورۃ ھمزہ، الفیل، القریش، الماعون، الکوثر، الکافرون، النصر، لھب، الاخلاص اور الفلق قرآن مجید کے ______ ویں پارے کا حصہ ہیں۔
(A) 30 (B) 28
(C) 27 (D) 26

180. قرآن مجید کی 104ویں سورۃ ھمزہ کتنی آیات پر مشتمل ہے؟
(A) 5 (B) 6
(C) 9 (D) 12

181. قرآن مجید کی 105ویں سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) الفلق (B) القدر
(C) الفیل (D) الناس

182. قرآن مجید کی 106ویں سورۃ کا نام بتائیں۔

(A) الکافرون (B) لھب
(C) قریش (D) العصر

183. قرآن مجید کی 107 ویں سورۃ الماعون ہے اس سورۃ میں کتنی آیات ہیں؟
(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

184. قرآن مجید کی مختصر ترین سورۃ الکوثر 3 آیات کے ساتھ قرآن مجید کی 108 ویں سورۃ ہے اسکا ترتیب نزولی نمبر کیا ہے؟
(A) 12 (B) 15
(C) 18 (D) 19

185. قرآن مجید کی 110 ویں سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) القارعہ (B) الکوثر
(C) النصر (D) الکافرون

186. 6 آیات کے ساتھ قرآن مجید کی 109 ویں سورۃ کا نام بتائیں جسکا ترتیب نزولی نمبر 18 ہے؟
(A) النصر (B) الکافرون
(C) الناس (D) الطور

187. آخری نازل ہونے والی سورۃ النصر میں کتنی آیات شامل ہیں؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

188. 5 آیات کے ساتھ سورۃ لھب قرآن مجید کی 111 ویں سورۃ ہے اسکا ترتیب نزولی نمبر کیا ہے؟
(A) 15 (B) 11
(C) 10 (D) 6

189. قرآن مجید کی 112 ویں سورۃ کا نام ہے۔
(A) الاخلاص (B) القمر
(C) الفلق (D) الفیل

190. ترتیب نزولی کے اعتبار سے الاخلاص کا نمبر ہے۔
(A) 20 (B) 21
(C) 22 (D) 23

191. الاخلاص کتنی آیات پر مشتمل ہے؟
(A) 4 (B) 6
(C) 8 (D) 10

192. قرآن مجید کی 113 ویں سورۃ کا نام بتائیں؟
(A) الاخلاص (B) النور
(C) التین (D) الفلق

193. قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس ہے جو کہ 6 آیات پر مشتمل ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے الناس قرآن مجید کی ....
(A) 18 ویں سورۃ ہے (B) 20 ویں سورۃ ہے
(C) 21 ویں سورۃ ہے (D) 25 ویں سورۃ ہے

194. قرآن مجید کی جو سورتیں زیادہ تر یاایھاالناس کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ سورتیں ....
(A) مکی سورتیں ہیں (B) مدنی سورتیں ہیں
(C) کچھ مکی اور کچھ مدنی سورتیں
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

195. قرآن مجید کی کونسی سورۃ برات بھی کہلاتی ہے؟
(A) التوبہ (B) العلق
(C) التین (D) ان میں سی کوئی بھی نہیں

196. قرآن مجید کی کون سی سورۃ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے؟
(A) سورۃ توبہ (B) سورۃ رحمن
(C) سورۃ قمر (D) سورۃ زخرف

197. درج ذیل میں سے کونسا بیان سورۃ الفاتحہ سے متعلق درست ہے؟
(A) پہلی سورۃ ہے جو کہ ایک ہی وقت میں مکمل نازل ہوئی
(B) یہ سورۃ دو دفعہ نازل ہوئی ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

198. سورۃ الفاتحہ ....
(A) ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہلاتی ہے

(B) قرآن مجید کا دیباچہ، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ الحمد بھی کہلاتی ہے
(C) سورۃ شکر اور اساس القرآن بھی کہلاتی ہے
(D) A، B اور C تینوں

199. سبع المثانی کس سورۃ کو کہتے ہیں؟
(A) فاتحہ (B) ھود
(C) نصر (D) سبا

200. سورۃ اخلاص......
(A) سورۃ توحید بھی کہلاتی ہے
(B) زینت قرآن بھی کہلاتی ہے
(C) ثلث قرآن بھی کہلاتی ہے
(D) A، C دونوں

201. "خوفزدہ نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے" یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ حضرت محمد ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق سے غار ثور میں کہے تھے۔ یہ الفاظ قرآن مجید کی کس سورہ میں بیان ہوئے ہیں؟
(A) البقرۃ (B) العلق
(C) آل عمران (D) التوبہ

202. درج ذیل میں سے کونسا بیان سورۃ بنی اسرائیل سے متعلق درست ہے؟
(A) یہ سورۃ الاسریٰ اور سورۃ سبحان بھی کہلاتی ہے
(B) اس سورۃ میں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا ہے
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

203. سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتے کا بھی ذکر آیا ہے کتے کا نام بتائیں؟
(A) قطمیر (B) قاعود
(C) قتالہ (D) قتماد

204. قرآن مجید میں کتنی بار آپ ﷺ کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا گیا ہے؟
(A) 9 (B) 10
(C) 11 (D) 12

205. کس سورۃ میں نبی اکرم کا نام احمد آیا ہے؟
(A) الصف (B) السبا
(C) القمر (D) القلم

206. قرآن مجید کی کتنی سورتیں لفظ "قل" سے شروع ہوتی ہیں؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 5

207. سورۃ النصر کے نزول کے وقت آپ کو کیا خبر ملی؟
(A) فتح ایران (B) اپنے وصال کی
(C) فتح روم (D) اپنی بیٹی کے وصال کی

208. قرآن مجید کی پانچ سورتیں ایسی ہیں جو کہ لفظ "قل" سے شروع ہیں قرآن مجید کی ان آخری چار سورتوں کے علاوہ جو کہ چار قل کہلاتی ہیں کونسی سورۃ "قل" سے شروع ہوتی ہے؟
(A) الجن (B) البقرہ
(C) النساء (D) حم سجدہ

209. کس سورۃ کا ایک رکوع مکہ اور ایک مدینہ میں نازل ہوا؟
(A) المزمل (B) المدثر
(C) العلق (D) النور

210. سورۃ النصر کے نزول کے کتنے عرصے بعد نبی اکرم کا وصال ہوا؟
(A) 3 مہینے بعد (B) 4 مہینے بعد
(C) 5 مہینے بعد (D) 6 مہینے بعد

211. قرآن مجید کی کس سورۃ میں دو دفعہ بسم اللہ کا استعمال ہوا؟
(A) النمل (B) انعام
(C) العنکبوت (D) الکھف

212. کونسی سورۃ قتال بھی کہلاتی ہے؟
(A) النمل (B) احزاب
(C) محمد (D) تمیم

213. کون سی سورۃ المصابیح بھی کہلاتی ہے؟
(A) حم سجدہ (B) فاتحہ
(C) البقرۃ (D) العنکبوت

214. کونسی سورۃ سورۃ الانسان بھی کہلاتی ہے؟
(A) الدھر (B) الفلق
(C) آل عمران (D) النصر

215. سورۃ الزلزال کہلاتی ہے۔
(A) نصف قرآن (B) چوتھائی قرآن
(C) ایک تہائی قرآن (D) کوئی نہیں

216. کون سی سورۃ ایک چوتھائی قرآن کہلاتی ہے؟
(A) الکافرون (B) الفلق
(C) اخلاص (D) النصر

217. قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی اس لیے انسانی عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے کیا کہلاتے ہیں؟
(A) حروف مقطعات (B) حروف نجی
(C) حروف جلی (D) حروف خفی

218. قرآن مجید کی کتنی سورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں؟
(A) 30 (B) 29
(C) 31 (D) 32

219. کون سی سورۃ زاھروین کہلاتی ہے؟
(A) البقرہ (B) آل عمران
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

220. کونسی سورتوں میں عموماً یاایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے؟
(A) مکی (B) مدنی
(C) کچھ مکی اور کچھ مدنی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

221. درج ذیل میں سے کون سا بیان مدنی سورتوں سے متعلق درست ہے؟
(A) ان میں اہل کتاب اور منافقین سے خطاب ہے
(B) ان میں جہاد کی اجازت اور حکم بیان ہوا ہے
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

222. بقرہ کے مطلب ہے۔
(A) بکری (B) بلی
(C) گائے (D) اونٹ

223. انفال سے کیا مراد ہے؟
(A) پہاڑ (B) چوٹی
(C) گائے (D) مال غنیمت

224. انعام کا مطلب ہے۔
(A) ہاتھی (B) مویشی
(C) انعامات (D) کوئی نہیں

225. النحل کے معنی ہیں۔
(A) غار (B) چوٹی
(C) چیونٹی (D) شہد کی مکھی

226. کہف کے معنی ہیں۔
(A) غار (B) زمانہ
(C) موجد (D) زیورات

227. النمل کے معنی ہیں
(A) چیونٹی (B) مویشی
(C) پہاڑ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

228. درج ذیل میں سے کس کا معنی خاک اڑانے والے ہیں؟
(A) الذاریات (B) العلق
(C) الفلق (D) آل عمران

229. زیورات معنی ہیں۔
(A) مجادلہ کے (B) زخرف کے
(C) الفلق کے (D) العمران کے

230. النجم سے مراد ہے۔
(A) بڑا ستارہ (B) سورج
(C) چاند (D) کہکشاں

231. المجادلہ سے مراد ہے۔
(A) رونا (B) سہنا

(C) سود (D) بحث کرنا

232. الحشر سے کیا مراد ہے؟
(A) قیامت کا دن (B) شب قدر
(C) شب برات (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

233. الصف سے مراد ہے۔
(A) سیدھا راستہ (B) سیدھی لائن
(C) سیدھی بات (D) کوئی نہیں

234. التغابن سے مراد ہے۔
(A) ہار جیت (B) قریب
(C) روشنی (D) ستارہ

235. التحریم سے مراد ہے۔
(A) مقدس (B) ممنوعہ
(C) مکر (D) رونا

236. النباء سے مراد ہے۔
(A) روشنی (B) ستارہ
(C) ذریعہ (D) خبر

237. المعارج سے کیا مراد ہے؟
(A) منزل طے کرنے کا راستہ
(B) محبت کے راستے
(C) عزتوں والے راستے
(D) انعام کے راستے

238. ''چادر اوڑھ کے لپٹنے والے'' معنی ہے المزمل کا اور ''زمانہ'' معنی ہے..........
(A) الدھر کا (B) المرسلات کا
(C) العلق کا (D) الفلق کا

239. طارق سے مراد 'صبح کا ستارہ' القارعہ سے کیا مراد ہے؟
(A) آگ (B) خوف
(C) خوفناک حادثہ (D) خوفناک آفت

240. عصر سے مراد ہے۔
(A) اثر (B) وقت، زمانہ
(C) روشنی (D) میدان

241. یہ بتائیں کہ النصر سے کیا مراد ہے؟
(A) مدد (B) آفت
(C) فتح (D) میدان

242. ماعون سے مراد ہے۔
(A) بنیادی ضرورت (B) قتال
(C) بنیادی فرض (D) قیامت

243. اخلاص سے مراد ہے۔
(A) مدد (B) بنیادی ضرورت
(C) عقیدہ کی پاکیزگی (D) کوئی نہیں

244. صبح کا متضاد معنی ہیں۔
(A) الناس (B) العلق
(C) بقرہ (D) علق

245. الناس سے مراد ہے۔
(A) جانور (B) انسان
(C) نور (D) صبح

246. درج ذیل میں سے کس کا معنی 'جما ہوا خون' ہے؟
(A) العلق (B) الکافرون
(C) النساء (D) التین

247. مکی سورتوں کا بنیادی موضوع کیا ہے؟
(A) توحید (B) نبوت
(C) قیامت (D) B'A اور C تینوں

248. عورت کے نام پر قرآن مجید کی واحد سورۃ ہے۔
(A) تکویر (B) زخرف
(C) مریم (D) کوئی نہیں

249. قرآن مجید کی کتنی سورتوں کے نام جانوروں پر رکھے گئے ہیں؟
(A) چار (B) پانچ
(C) چھ (D) سات

250. قرآن مجید کی کونسی سورۃ کا نام ایک شہر کے نام پر ہے؟
(A) البروج (B) الفلق
(C) روم (D) عصر

251. سورۃ المائدہ میں مسلمانوں کا بدترین دشمن کس کو قرار دیا گیا ہے؟
(A) یہودی (B) بے دین لوگ
(C) B'A دونوں
(D) B'A دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

252. آیت کریمہ کس سورۃ میں بیان ہوئی ہے؟
(A) انبیاء (B) ابراہیم
(C) محمد (D) یونس

253. قرآن مجید کی کس سورۃ میں نبی پاکؐ پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے؟(P.C.S Judicial 2002)
(A) محمد (B) ابراہیم
(C) الانبیاء (D) احزاب

254. ایک سورۃ میں زیادہ سے زیادہ آیات کی تعداد ہے۔
(A) 200 (B) 240
(C) 270 (D) 286

255. ایک سورۃ میں کم از کم آیات کی تعداد کیا ہے؟
(A) ایک (B) دو
(C) تین (D) چار

256. مکی سورتوں کی تعداد ہے۔
(A) 50 (B) 60
(C) 73 (D) 86

257. مدنی سورتوں کی تعداد ہے۔
(A) 20 (B) 25
(C) 28 (D) 32

258. مدنی سورتیں مقابلتاً لمبی ہیں قرآن مجید کا کتنا حصہ مدنی سورتوں پر مشتمل ہے؟
(A) 1/3 (B) 1/4
(C) 1/5 (D) 1/6

259. قرآن مجید کا کتنا حصہ مکی سورتوں پر مشتمل ہے؟
(A) 2/3 (B) 2/2
(C) 3/4 (D) 2/5

260. حضرت زید ابن حارثہؓ کا نام کس سورۃ میں بیان ہوا ہے؟
(A) احزاب (B) علق
(C) جن (D) بروج

261. قرآن مجید کی دوسری طویل ترین سورۃ کون سی ہے؟
(A) یٰسین (B) آل عمران
(C) الرحمٰن (D) البروج

262. و انه لکتاب عزیز (حم السجدہ) اس آیت میں عزیز سے کیا مراد ہے؟(P.C.S. Executive 1999)
(A) غالب کتاب (B) جامع کتاب
(C) بے مثل (D) مہذب

263. وانزلنا الیک الکتب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتب ومهیمنا علیه (المائدہ) اس سورۃ مبارکہ میں مہیمنا سے کیا مراد ہے؟
(A) محفوظ کتاب (B) صداقتوں والی کتاب
(C) عالمگیر کتاب (D) محافظ

264. کس سورۃ میں لفظ قرآن الحکیم استعمال ہوا ہے؟
(A) البقرہ (B) النساء
(C) الجمعہ (D) یٰسین

265. کس سورۃ میں لفظ "قرآن الکریم" استعمال ہوا ہے؟
(A) الواقعہ (B) الرحمٰن
(C) یٰسین (D) البقرہ

266. اس سورۃ کا نام بتائیں جس پر قرآن مجید کی پہلی منزل اختتام پذیر ہوئی ہے؟
(A) المائدہ (B) النساء
(C) التوبہ (D) الفرقان

267. قرآن مجید کی دوسری منزل چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ سے شروع ہو کر سورۃ توبہ پر اختتام پزیر ہوتی ہے سورۃ التوبہ..........

(A) دسویں پارے کا حصہ ہے

(B) گیارھویں پارے کا حصہ ہے

(C) بارھویں پارے کا حصہ ہے

(D) تیرھویں پارے کا حصہ ہے

268. گیارھویں پارے کی کس سورۃ سے قرآن مجید کی تیسری منزل کا آغاز ہوتا ہے؟

(A) الکوثر (B) الطور

(C) یونس (D) یٰسین

269. قرآن مجید کی تیسری اختتام کس سورۃ پر ہوتا ہے؟

(A) الحجرات (B) الناس

(C) اس (D) یٰسین

270. چوتھی منزل کا اختتام ہے۔

(A) الکوثر (B) الفرقان

(C) الرعد (D) عنکبوت

271. کس سورۃ سے پانچویں منزل کا آغاز ہوتا ہے؟

(A) سورۃ یٰسین (B) سورۃ مائدہ

(C) سورۃ الشعرا (D) سورۃ یونس

272. کس سورۃ پر پانچویں منزل کا اختتام ہوتا ہے؟

(A) یونس (B) حجرات

(C) یٰسین (D) الناس

273. قرآن مجید چھٹی منزل کا آغاز کس سورۃ سے ہوتا ہے؟

(A) سورۃ الحج

(B) سورۃ الصافات

(C) سورۃ الشمس

(D) سورۃ الرعد

274. قرآن کی چھٹی منزل کا اختتام کس سورۃ پر ہوتا ہے؟

(A) سورۃ الحجرات (B) سورۃ الکوثر

(C) سورۃ التکویر (D) سورۃ الناس

275. قرآن مجید کی ساتویں منزل کس سورۃ سے شروع ہوتی ہے؟

(A) حم السجدہ (B) الحج

(C) التین (D) ق

276. قرآن مجید کی 7 ویں منزل کا اختتام کس سورۃ پر ہوتا ہے؟

(A) الفلق (B) الناس

(C) اخلاص (D) کافرون

277. قرآن مجید کی پہلی آیت سجدہ دوسری منزل اور نویں پارے میں آتی ہے سورۃ اور آیت سجدہ کون سی ہے؟

(A) سورۃ اعراف آیت نمبر 206

(B) العلق اعراف آیت 200

(C) سورۃ عنکبوت آیت نمبر 180

(D) سورۃ النمل آیت نمبر 75

278. سورۃ الرعد کی پندرھویں آیت قرآن مجید کی دوسری آیت سجدہ ہے دوسری آیت سجدہ کس پارے اور کس منزل میں ہے؟

(A) پارہ نمبر 14 اور منزل نمبر 3

(B) پارہ نمبر 13 اور منزل نمبر 3

(C) پارہ نمبر 12 اور منزل نمبر 4

(D) پارہ نمبر 11 اور منزل نمبر 4

279. منزل نمبر 3 میں موجود سورۃ النحل کی 50 ویں آیت قرآن مجید کی تیسری آیت سجدہ ہے یہ کس پارے میں واقع ہے؟

(A) 14 (B) 15

(C) 16 (D) 17

280. 15 واں پارہ قرآن مجید کی چوتھی منزل میں شامل ہے اسی پارے میں قرآن مجید کی چوتھی آیت سجدہ موجود ہے۔ سورۃ اور پارے کا نام بتائیں؟

(A) بنی اسرائیل آیت 109 (B) الفرقان آیت نمبر 45

(C) النحل آیت نمبر 50 (D) حم السجدہ آیت نمبر 41

281. سورۃ مریم سولہویں پارے کا حصہ جو کہ چوتھی منزل میں آتا ہے

اس سورت کی کون سی آیت قرآن مجید کی پانچویں آیت سجدہ ہے؟

(A) 52 (B) 53

(C) 54 (D) 58

282. اس سورت کا نام بتائیں جو کہ قرآن مجید کی چوتھی منزل اور 17ویں پارے کا حصہ ہے اور اس کی 18ویں آیت قرآن مجید کی چھٹی آیت سجدہ ہے؟

(A) الحج (B) الفرقان

(C) النمل (D) العلق

283. سورۃ الفرقان کی 60ویں آیت قرآن مجید کی ساتویں آیت سجدہ ہے اور سورۃ نمل کی 26ویں آیت قرآن مجید کی آٹھویں آیت سجدہ ہے۔ کس پارے میں یہ آیات سجدہ شامل ہیں جبکہ اس پارے کا کچھ حصہ قرآن مجید کی چوتھی اور کچھ قرآن مجید کی پانچویں منزل میں آتا ہے؟

(A) 19 (B) 20

(C) 21 (D) 22

284. 21واں پارہ قرآن مجید کی پانچویں منزل کا حصہ ہے اس پارے میں موجود اس سورۃ کا نام بتائیں جسکی پندرھویں آیت قرآن مجید کی نویں آیت سجدہ ہے؟

(A) السجدہ (B) النجم

(C) حم السجدہ (D) العلق

285. قرآن مجید کی دسویں آیت سجدہ کونسی ہے جو کہ 23ویں پارے میں سورۃ ص کی آیت ہے اور یہ پارہ قرآن مجید کی چھٹی منزل میں آتا ہے؟

(A) 21 (B) 22

(C) 23 (D) 24

286. کس سورۃ کی 38ویں آیت قرآن مجید کی گیارھویں آیت سجدہ ہے جبکہ یہ سورۃ 24ویں پارے اور چھٹی منزل میں شامل ہے؟

(A) حم السجدہ (B) العلق

(C) العلق (D) الحج

287. قرآن مجید کی بارھویں، تیرھویں اور چودھویں آیات سجدہ ساتویں منزل میں آتی ہیں۔ بارھویں آیت سجدہ سورۃ النجم کی 62ویں آیت ہے۔ یہ بتائیں کہ کس پارے میں یہ سورۃ اور آیت شامل ہیں؟

(A) 26ویں (B) 27ویں

(C) 28ویں (D) 29ویں

288. قرآن مجید کے تیسویں پارے میں

(A) تیرھویں آیت سجدہ شامل ہے

(B) چودھویں آیت سجدہ شامل ہے

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B دونوں میں کوئی بھی نہیں

289. سورۃ الانشقاق کی 21ویں آیت قرآن مجید کی تیرھویں آیت سجدہ ہے۔ سورۃ العلق کی کونسی آیت قرآن مجید کی چودھویں آیت سجدہ ہے؟

(A) 16ویں (B) 17ویں

(C) 18ویں (D) 19ویں

290. زیادہ تر مکاتب فکر قرآن مجید میں چودہ آیات سجدہ پر متفق ہیں وہ کون سا مکتب فکر ہے جو کہ 17ویں پارے (سورۃ حج) کی 77ویں آیت کو قرآن مجید کی پندرھویں آیت سجدہ قرار دیتا ہے؟

(A) بریلوی (B) حنفی

(C) شافعی (D) مالکی

291. قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق کون قرار دیتے تھے؟

(A) خوارج (B) معتزلہ

(C) شامی (D) کوفی

292. اس پتھر کا نام بتائیں جسکا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟

(A) نیلم (B) کوہ نور

(C) زمرد (D) یاقوت

293. قرآن مجید میں موجود کس نبی کے قصے کو احسن القصص کہا جاتا ہے؟

(A) حضرت یوسف (B) حضرت نوح

(C) حضرت ابراہیم (D) حضرت موسیٰ

294. بے شک نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے قرآن مجید کی کس سورۃ میں یہ آیت موجود ہے۔ (P.C.S. Executive1999)

(A) عنکبوت (B) انفال
(C) احزاب (D) النحل

295. "رب زدنی علما" کس سورۃ میں یہ آیت موجود ہے؟ (P.C.S.J. 1999)

(A) طٰہٰ (B) احزاب
(C) الفرقان (D) الحجرات

296. سورۃ الفیل میں موجود لفظ "ماکول" سے کیا مراد ہے؟

(A) مناسب (B) کھایا ہوا
(C) کوڑا کرکٹ (D) کھلایا ہوا

297. المقسطین سے کیا مراد ہے؟

(A) منصف لوگ (B) اچھے لوگ
(C) پڑھے لکھے لوگ (D) آزاد لوگ

298. دوسری منزل سے چھٹی منزل تک قرآن مجید کی منزل میں کتنی کتنی سورتوں کا اضافہ ہوا ہے؟

(A) 2,2 (B) 3,3
(C) 4,4 (D) 5,5

299. سورۃ قریش میں اہل قریش کو کس موسم کے سفر کی نعمتوں کی یاد دلائی جا رہی ہے؟

(A) بہار (B) سردی
(C) گرمی (D) B اور C

300. ان عذابھا کان غراما (الفرقان: 65) اس آیت میں غراما سے کیا مراد ہے؟ (P.C.S Executive)

(A) چمٹنے والا (B) تباہ کن
(C) خوفناک (D) ڈرے ہوئے

301. والذین یبیتون لربھم سجدا و قیاما (الفرقان: 64) اس آیت مبارکہ میں یبیتون سے کیا مراد ہے؟

(A) رات گزارتے ہیں (B) گھیرے ہوئے ہیں
(C) گزرے ہوئے (D) عبادت کرتے ہوئے

302. انھا ساءت مستقرا ومقاما (الفرقان: 66) اس آیت مبارکہ میں ساءت سے کیا مراد ہے؟ (P.C.S. 2002)

(A) برابری (B) جہنم
(C) بہت برا (D) جہنم کا ساتواں طبقہ

303. واذا مروا باللغو مروا کراما (الفرقان: 72) اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو گزر جاتے ہیں ....

(A) آہستہ سے (B) وقار سے
(C) اعتدال کے ساتھ (D) شریفانہ انداز سے

303. قل ما یعبؤ بکم ربی (الفرقان: 77) اس آیت مبارکہ میں یعبؤ سے کیا مراد ہے؟

(A) پرواہ نہیں کرے گا (B) پرواہ کرے گا
(C) دکھلاؤں گا (D) نہیں دکھلاؤں گا

304. الھکم التکاثر حتی زرتم المقابر میں الھکم سے کیا مراد ہے؟

(A) غفلت میں رکھا (B) بے چینی میں رکھا
(C) اندھیرے میں رکھا (D) دکھاوے میں رکھا

305. من شر الوسواس الخناس (سورۃ الناس) میں الخناس سے کیا مراد ہے؟

(A) شیطان مردود
(B) انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے والا
(C) کھسک جانے والا شیطان
(D) بہت بڑا شیطان

306. ترمیھم بحجارۃ من سجیل میں سجیل سے کیا مراد ہے؟

(A) پتھر (B) کنکریاں
(C) ریت کے موٹے ذرے (D) کنکر

307. سورۃ الاخلاص میں شرک کی کونسی قسم بیان ہوئی ہے؟

(A) شرک فی الذات (B) شرک الخفی
(C) شرک فی الصفات (D) شرک جلی

308. حضرت عائشہؓ نے نبی پاکؐ سے متعلق فرمایا کہ کان خلقہ

القرآن اس حدیث کو ایک لفظ میں کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ (P.C.S.1999)

(A) عملیت (B) تاریخیت
(C) جامعیت (D) کاملیت

309. عروۃ الوثقیٰ سے کیا مراد ہے؟ (P.C.S. Ex. 1999)

(A) مضبوط رشتہ (B) مضبوط تعلق
(C) مضبوط رسی (D) مضبوط انسان

310. "امن ھذالذی یرزقکم ان امسک رزقہ" (سورۃ الملک) امسک رزقہ سے کیا مراد ہے؟

(A) روزی حرام ہو جائے (B) روزی میں کمی کر دے
(C) روزی میں توسیع کرنے (D) روزی بند کر دے

311. ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العلمین "(الانعام) نسکی سے کیا مراد ہے؟

(A) میری پیاس (B) میری راہ
(C) میری سلامتی (D) میری قربانی

312. "لیس کمثلہ شئی" (سورۃ الشوریٰ: 11) کوئی چیز اس کے مثل نہیں اگر کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کیا جائے تو یہ کونسا شرک ہوگا۔ (P.C.S. Ex. 1999)

(A) شرک جلی (B) شرک خفی
(C) فی الصفات (D) شرک عظیم

313. اسلام سے قبل لوگ اپنی اولاد خاص طور پر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اس عمل کا ذکر سورہ الاسریٰ کی 31 ویں آیت میں ہوا ہے کیوں لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے؟ (P.C.S. Ex. 1999)

(A) داماد کے خوف سے (B) غربت کے خوف سے
(C) B،A دونوں
(D) B،A دونوں میں سے کوئی نہیں

314. علامہ سیوطی کے مطابق قرآن مجید کی مکی اور مدنی سورتوں کی تعداد کیا ہے؟ (PCS. Ex. 2002)

(A) 86اور28 (B) 27اور87
(C) 30اور84 (D) 26اور88

315. فالصلحت قنتت حفظت للغیب (سورۃ النساء: 34) اس آیت مبارکہ میں قنتت سے مراد کون سی عورت ہے؟

(A) شوہر کی تابع فرمان (B) عبادت گزار
(C) خوش اخلاق (D) صالح

316. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ یہ آیت کس سورۃ مبارکہ میں آئی ہے؟

(A) الممتحنہ (B) التوبہ
(C) الاحزاب (D) الانفال

317. سورۃ الحجرات میں آتا ہے جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ....

(A) ان کو ملامت کرو
(B) ان کے درمیان مداخلت نہ کرو
(C) ان کے درمیان صلح کروا دو
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

318. وضاقت علیکم الارض بمارحبت (التوبہ) اس آیت مبارکہ میں ضاقت سے کیا مراد ہے؟

(A) سکڑ گئی (B) موت آ گئی
(C) پھٹ گئی (D) بکھر گئی

319. سورۃ الحجرات میں کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ (P.C.S. JuDiCiAl2000)

(A) آداب استیذان (B) آداب سیاست
(C) آداب محفل (D) آداب معاشرت

320. افضل الذکر سے کیا مراد ہے؟ (P.C.S. 1999)

(A) سبحان اللہ (B) درود شریف
(C) استغفار (D) لا الٰہ الا اللہ

321. فالموریت قدحا (سورۃ العادیات) اس آیت مبارکہ میں ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو۔ (P.C.S.Judicial 1999)

(A) ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں

(B) ہانپ کر دوڑتے ہیں
(C) دوڑتے ہوئے غبار اڑاتے ہیں
(D) جنگ میں زور سے ہنہناتے ہیں

322. قرآن میں نام آیا ہے۔
(A) حضرت معاذ کا (B) حضرت بلال کا
(C) حضرت سعد کا (D) حضرت زید کا

323. واقعہ معراج کس سورۃ میں بیان ہوا ہے؟
(A) سورۃ بنی اسرائیل (B) سورۃ النجم
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

324. آپؐ نے جب کوہ صفا پر قریش کو دعوت حق دی تو کون سی سورۃ نازل ہوئی؟
(A) سورۃ الکوثر (B) سورۃ لہب
(C) سورۃ الماعون (D) سورۃ الکافرون

325. واقعہ معراج کس سورۃ میں بیان ہوا ہے؟
(A) سورۃ بنی اسرائیل (B) سورۃ النجم
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

326. رات کے وقت نازل ہونے والی سورت ۔۔۔۔۔۔
(A) الانعام اور مریم (B) المنافقون اور المرسلات
(C) الفلق اور الناس (D) تمام

327. حضرت ادریس کا ذکر قرآن مجید کی کس سورۃ میں آیا ہے؟
(A) سورۃ مریم (B) سورۃ انبیاء
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

328. حضرت موسیٰ کا ذکر کتنی سورتوں میں آیا ہے۔
(A) 10 (B) 20
(C) 30 (D) 34

329. سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے۔
(A) اسراء (B) تحویر
(C) انبیاء (D) کوئی نہیں

330. قرآن مجید کی کون سی سورۃ صرف ایک حروف تہجی پر مشتمل ہے؟
(A) ق (B) ص
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

331. چھوٹی سورۃ النساء کس سورۃ کو کہتے ہیں؟
(A) سورۃ یٰسین (B) سورۃ طلاق
(C) سورۃ تغابن (D) سورۃ الکافرون

332. قرآن کی وہ آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔
(A) المائدہ آیت 1 (B) المائدہ آیت 2
(C) المائدہ آیت 3 (D) المائدہ آیت 4

333. کس سورۃ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟
(A) بقرہ (B) النساء
(C) المائدہ (D) توبہ

334. نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟
(A) دو (B) تین
(C) چار (D) پانچ

335. وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہے؟
(A) نماز جنازہ (B) نماز کسوف
(C) نماز خسوف (D) الف، ب اور ج تینوں

336. سورہ بقرہ کی کون سی آیت پر روزے فرض کیے گئے؟
(A) ۲۸۲ (B) ۲۸۶
(C) ۲۵۵ (D) ۱۸۳

337. اسلام کے دشمنوں کو رازدار بنانے کی ممانعت کس سورۃ میں ہے؟
(A) الانفال (B) المومنین
(C) آل عمران (D) الانبیاء

338. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کے لیے ایک جماعت کی تشکیل کے احکام کس سورۃ میں آئے ہیں؟
(A) آل عمران (B) بقرہ
(C) المومنین (D) سورۃ محمد

339. پردہ کے لیے آنکھیں نیچی کرنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کے احکام کس سورت مبارک میں آئے ہیں؟

(A) سورہ المومنین (B) سورہ النساء

(C) سورہ مریم (D) سورہ النور

340. مسلمانوں کو باہمی کافر و مشرک کہنے میں حد درجہ احتیاط کا حکم کس سورہ مبارک میں ہے؟

(A) سورہ المومنین (B) سورہ النساء

(C) سورہ المائدہ (D) سورہ توبہ

341. روزہ رکھنے کا حکم کس سورۃ میں ہے؟

(A) المومنون (B) الانبیاء

(C) سورہ الجمعہ (D) سورہ البقرہ

342. قلب قرآن کس سورہ کو کہتے ہیں

(A) سورہ واقعہ (B) حم السجدہ

(C) رحمٰن (D) یٰس

343. مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟

(A) سورہ بنی اسرائیل (B) سورہ الانبیاء

(C) سورہ ابراہیم (D) سورہ محمد

344. واقعہ معراج کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟

(A) سورہ الانبیاء (B) سورہ محمد

(C) سورہ بنی اسرائیل (D) سورہ المومنون

345. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کس سورہ میں آیا ہے؟

(A) سورہ حم السجدہ (B) سورہ ابراہیم

(C) سورہ الانبیاء (D) سورہ مومنین

346. حضرت محمد ﷺ پر درود بھیجنے کا قرآن مجید کی کس سورہ میں حکم ہے؟

(A) سورہ محمد (B) سورہ ابراہیم

(C) سورہ الانبیاء (D) سورہ احزاب

347. سورہ الطارق میں "الطارق" سے کیا مراد ہے؟

(A) طارق بن زیاد (B) صبح کا تارا

(C) قطبی تارا (D) رات کا تارا

348. حج کی فرضیت کے احکام کس سورہ میں ہیں؟

(A) سورہ المومنین (B) سورہ آل عمران

(C) سورہ حج (D) سورہ الجمعہ

349. کس سورہ میں آپ ﷺ کو "خاتم النبیین" کہا گیا ہے؟

(A) سورہ محمد (B) سورہ الانبیاء

(C) الاحزاب (D) سورہ ابراہیم

350. محمد ﷺ کے بارے کس سورہ مبارک میں فرمایا گیا ہے ﴿ولکن رسول الله و خاتم النبین﴾؟

(A) احزاب (B) فرقان

(C) محمد (D) انبیاء

351. "بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں"۔ یہ آیت قرآن کی کس سورۃ میں بیان ہوئی ہے؟

(A) حم السجدہ (B) الرحمٰن

(ج) العمران (D) الحجر

352. "حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے" یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورہ میں ہیں۔

(A) سورہ یٰسین (B) سورہ حشر

(C) سورہ الدھر (D) سورہ بنی اسرائیل

353. سورۃ کے لغوی معنی ہیں۔

(a) شہر (b) پناہ

(c) فصیل (d) تمام

354. مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟

(A) سورہ بنی اسرائیل (B) سورہ الانبیاء

(C) سورہ ابراہیم (D) سورہ محمدؐ

355. آپ ﷺ کا اسم گرامی احمد ﷺ کس سورت میں آیا ہے؟

(A) سورہ الصف (B) سورہ محمد

(C) سورہ الانبیاء (D) سورہ ابراہیم

356. یہ آیت کس سورہ میں آئی ہے کہ "بلاشبہ اللہ یہ بات معاف نہیں

کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اور اس کے سوا باقی سب باتیں جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے۔'

(A) سورۃ بقرہ (B) سورۃ النساء
(C) سورۃ احزاب (D) سورۃ یونس

357. قل رب زدنی علما یہ آپ ﷺ کی دعا ہے۔ بتائیں کس سورۃ میں آتی ہے۔

(A) مریم (۱۱۴) (B) طٰہٰ (۱۱۴)
(C) محمد (۱۱۴) (D) انبیاء (۱۱۴)

358. رب اشرح لی صدری ویسرلی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقھو قولی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے بتائیں یہ کس سورہ میں شامل ہے۔

(A) طٰہٰ (B) محمد
(C) آل عمران (D) الانبیاء

359. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ یہ کس سورہ مبارکہ میں آئی ہے۔

(A) الممتحنہ (B) التوبہ
(C) الاحزاب (D) الانفال

360. سورہ رحمٰن میں فبای الاء ربکما تکذبن کتنی مرتبہ آیا ہے۔

(A) ۲۷ (B) ۲۹
(C) ۳۱ (D) ۳۳

361. سورۃ شکر کس سورت کو کہتے ہیں۔

(A) سورہ فاتحہ (B) سورہ بقرہ
(C) سورہ انبیاء (D) سورہ انفال

362. سورۃ آل عمران کی آیت 154 کہلاتی ہے۔

(A) آیت عرش (B) آیت کتابت
(C) آیت قطب (D) کوئی نہیں

363. ان اکرمکم عند اللہ اتقکم آیت ہے۔

(A) سورۃ الحجرات کی (B) سورۃ النور کی
(C) سورۃ البقرۃ کی (D) سورۃ الدھر کی

364. اعدلو اقرب للتقویٰ آیت ہے۔

(A) سورۃ النساء کی (B) سورۃ العمران کی
(C) سورۃ المائدہ کی (D) سورۃ الداریات کی

365. سورۃ کہف میں مذکور اصحاب کہف کے کتے کا نام

(A) قطمیر (B) قتیل
(C) تن (D) قامہ

366. قرآن کی کون سی سورہ مقشقشہ بھی کہا جاتا ہے؟

(A) سورۃ النساء (B) سورۃ اخلاص
(C) سورۃ انبیاء (D) سورۃ البقرہ

367. سورۃ النصر کو ________ بھی کہتے ہیں۔

(A) سورۃ الانصار (B) سورۃ الوداع
(C) سورۃ المہاجر (D) سورۃ النور

368. سورہ حدید کا مرکزی مضمون کیا ہے؟

(A) تخلیق کائنات (B) انفاق فی سبیل اللہ
(C) انسانیت (D) جہاد

369. آیت محاربہ قرآن مجید کی کس سورہ میں بیان ہوئی ہے؟

(A) سورہ مائدہ (B) سورہ نور
(C) سورہ احزاب (D) سورہ یٰسین

370. قرآن کی کس سورہ میں ستاروں سے آسمان دنیا مزین کرنے کی بابت کہا گیا ہے؟

(A) سورۃ الواقعہ (B) سورۃ الناس
(C) سورۃ المائدہ (D) سورۃ الملک

371. کس سورہ کو سن کر حضرت ابوبکرؓ رو پڑے اور فرمایا اس میں رسول اللہ ﷺ کے وصال کی خبر ہے؟

(A) سورۃ النجم (B) سورۃ النصر
(C) سورۃ محمد (D) سورۃ الناس

372. امام شافعی نے قرآن پاک کی کس سورۃ کو انسانی ہدایت کے لیے کافی قرار دیا ہے؟

(A) البقرہ (B) الحجرات
(C) النور (D) العصر

373. مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق احکام کس سورۃ میں ہیں؟
(A) التغابن (B) الزمر
(C) الانفال (D) الکہف

374. "انھم فتیة آمنوا بربھم" ایمان اور استقامت کے حوالے سے نوجوانوں کے گروہ کا یہ تذکرہ کس سورۃ میں ہوا ہے؟
(A) البقرہ (B) النور
(C) الکہف (D) الاحزاب

375. رب اشرحلی صدری و یسرلی امری و حلل عقدة من لسانی یفقھو قولی۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے بتائیں یہ کس سورہ میں شامل ہے؟
(A) طٰہٰ (B) محمد
(C) آل عمران (D) الانبیاء

376. قرآن مجید کی کس سورت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں؟
(A) سورۂ مریم (B) سورۂ البقرہ
(C) سورۂ توبہ (D) سورۂ آل عمران

377. قرآن پاک کی ایک سورت میں بسم اللہ کا دوبارہ ذکر آیا ہے۔
(A) سورۃ النحل (B) سورۃ النمل
(C) سورۃ الاحزاب (D) سورۃ النور
(E) کوئی نہیں

378. أرءیت کا مطلب ہے۔
(A) کیا تم نے دیکھا (B) کیا تم نے سوچا
(C) کیا تم نے کھایا (D) کیا تم نے عطا کیا

379. تضلیل (Tazleel) کا مطلب ہے۔
(A) شکست دینا (B) تباہی
(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

380. قرآن کی سورۃ جس میں مسجد قبا کا ذکر ہے؟
(A) رحمٰن (B) توبہ
(C) بقرہ (D) العمران

381. قرآن کی سورۃ جس میں واقعہ افک (Ifk) بیان ہوا ہے۔
(A) مجادلہ (B) الناس
(C) نور (D) مریم

382. قرآن کی کس سورۃ میں کافروں سے برأت کا اعلان کیا گیا ہے؟
(A) النساء (B) بنی اسرائیل
(C) التوبہ (D) الکافرون

383. امام شافعی نے قرآن پاک کی کس سورۃ کو انسانی ہدایت کے لیے کافی قرار دیا ہے؟
(A) البقرہ (B) الحجرات
(C) النور (D) العصر

384. قرآن کی کس سورۃ کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے؟
(A) التحریم (B) النمل
(C) الفرقان (D) النحل

385. کون سی سورۃ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی؟
(A) الانفال (B) التوبہ
(C) الشرح (D) التغابن

386. مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق احکام کس سورۃ میں ہیں؟
(A) التغابن (B) الزمر
(C) الانفال (D) الکہف

387. واقعہ افک کس سورۃ میں بیان کیا گیا؟
(A) الحدید (B) بنی اسرائیل
(C) النور (D) النساء

388. قرآن پاک کی کس سورۃ میں قصہ ذوالقرنین بیان کیا گیا ہے؟
(A) حم السجدہ (B) الکہف
(C) المجادلہ (D) طٰہٰ

389. ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ میں ہے؟
(A) البقرہ (B) آل عمران
(C) الاحزاب (D) النحل

390. ''انھم فتیة آمنوا بربھم'' ایمان اور استقامت کے حوالے سے نوجوانوں کے گروہ کا یہ تذکرہ کس سورة میں ہوا ہے؟
(A) البقرہ (B) النور
(C) الکہف (D) الاحزاب

391. قرآن مجید میں ''احسن القصص'' کس سورة میں بیان کیا گیا ہے؟
(A) الکہف (B) الاعراف
(C) یوسف (D) نوح

392. قرآن مجید کی کس سورت میں بسم اللہ دو مرتبہ آئی ہے؟
(A) النحل (B) النمل
(C) العنکبوت (D) الملک

393. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورة جو مکمل نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟
(A) الفاتحہ (B) المزمل
(C) المدثر (D) الکوثر

394. قرآن مجید کی چوتھی منزل کس سورة سے شروع ہوتی ہے؟
(A) النحل (B) بنی اسرائیل
(C) الکھف (D) مریم

395. حضرت زید بن حارثہ کا نام کس سورة میں آیا ہے؟
(A) النور (B) الاحزاب
(C) التحریم (D) الواقعہ

396. قرآن مجید میں انبیاء کے نام پر کتنی سورتیں ہیں؟
(A) 4 (B) 6
(C) 8 (D) 10

397. شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیارؓ نے کس سورت کی تلاوت کی؟
(A) آل عمران (B) النساء
(C) مریم (D) یٰسین

398. عروس القرآن کس سورة کو کہتے ہیں؟
(A) المائدہ (B) الانعام
(C) الرحمٰن (D) التحریم

399. قرآن مجید میں حضرت زید بن حارثہ کا نام کس سورة میں آیا ہے؟
(A) سورة حدید (B) سورة نحل
(C) سورة احزاب (D) سورة بقرہ

400. سورة حدید کا مرکزی مضمون کیا ہے؟
(A) تخلیق کائنات (B) انفاق فی سبیل اللہ
(C) انسانیت (D) جہاد

401. احکام عشرہ کے مماثل احکام کا ذکر قرآن مجید کی کس سورة میں آیا ہے؟
(A) سورة حدید (B) سورة بنی اسرائیل
(C) سورة انعام (D) سورة مائدہ

402. قرآن مجید کی کس سورة میں ختم نبوت کا تذکرہ آیا ہے؟
(A) سورة محمد (B) سورة کوثر
(C) سورة احزاب (D) سورة حجرات

403. حد قذف قرآن مجید کی کس سورة میں بیان ہوئی ہے؟
(A) سورة تحریم (B) سورة نور
(C) سورة احزاب (D) سورة بقرہ

404. آیت محاربہ قرآن مجید کی کس سورة میں بیان ہوئی ہے؟
(A) سورة مائدہ (B) سورة نور
(C) سورة احزاب (D) سورة یٰسین

405. قرآن کی کس سورة میں ستاروں سے آسمان دنیا مزین کرنے کی بات کہا گیا ہے؟
(A) سورة الواقعہ (B) سورة الناس
(C) سورة المائدہ (D) سورة الملک

406. ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورة الصف کا کون سا نمبر ہے؟
(A) 69 (B) 61
(C) 65 (D) 66

407. ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ کس سورة میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے؟
(A) سورة ھود (B) سورة نور
(C) سورة فاطر (D) سورة مومنون

408. کس سورة کو سن کر حضرت ابوبکرؓ رو پڑے اور فرمایا اس میں رسول

آنحضرت ﷺ کے وصال کی خبر ہے؟

(A) سورۃ النجم (B) سورۃ النصر

(C) سورۃ محمد (D) سورۃ الناس

409. واقعہ افک کس سورۃ میں بیان ہوا ہے۔

(A) سورۃ النساء (B) سورۃ النور

(C) سورۃ الحجرات (D) سورۃ المومنون

410. حد قذف اور حد زنا کس سورۃ میں بیان ہوئی ہیں۔

(A) سورۃ آل عمران (B) سورۃ النسا

(C) سورۃ النور (D) سورۃ التوبہ

411. ام الکتاب کس سورۃ کو کہا جاتا ہے؟

(A) سورۃ الفاتحہ (B) سورۃ یٰسین

(C) سورۃ اخلاص (D) سورۃ الملک

412. لفظ قل سے کتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں۔

(A) چار (B) پانچ

(C) چھ (D) سات

413. آیت مبارکہ "ان شانئک ھو الابتر" کس کے بارے میں نازل ہوئی۔

(A) ابولہب (B) عاص بن وائل سہمی

(C) عقبہ بن ابی معیط (D) ولید بن

414. حضرت زید بن حارثہؓ کا نام کس سورۃ میں آیا ہے؟

(A) سورۃ النساء (B) سورۃ المائدہ

(C) سورۃ الحجرات (D) سورۃ الاحزاب

415. قرآن کی چوتھی منزل کس سورۃ سے شروع ہوتی ہے۔

(A) النحل (B) بنی اسرائیل

(C) الکہف (D) مریم

416. ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس سورت میں آئی ہے؟

(A) مریم (B) البقرۃ

(C) آل عمران (D) الاحزاب

417. کس سورۃ میں بسم اللہ دو بار آئی ہے؟

(A) البقرہ (B) نمل

(C) نحل (D) العنکبوت

418. واقعہ افک کس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے؟

(A) الحدید (B) بنی اسرائیل

(C) النور (D) النساء

419. قرآن پاک کی کس سورۃ میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟

(A) حم السجدہ (B) الکہف

(C) المجادلہ (D) طہٰ

420. معوذتین کیا ہے؟

(A) دو کتابیں (B) دو سورتیں

(C) دو علاقے (D) دو کپڑے

421. قرآن میں کتنی سورتیں ہیں۔

(A) 110 (B) 115

(C) 114 (D) 113

422. قرآن مجید میں کل ________ سورتیں ہیں:

(A) 99 (B) 114

(C) 120 (D) 119

423. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟

(A) سورۃ الاخلاص (B) سورۃ الکوثر

(C) سورۃ الفلق (D) سورۃ الکافرون

424. حضرت عمر فاروقؓ نے قرآن پاک کی کس سورۃ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟

(A) سورہ الرحمٰن (B) سورہ مزمل

(C) سورہ فتح (D) سورہ طہٰ

425. "المنفوش" سے کیا مراد ہے؟

(A) دھنکی ہوئی (B) رنگ برنگی

(C) دبائی ہوئی (D) اڑائی ہوئی

426. مکی سورتوں کی تعداد بتائیں؟

(A) 28 (B) 12

86 (C) 16 (D)

427. زید بن حارثہؓ کا نام کس سورت میں آیا ہے؟

(A) سورۃ الاحزاب (B) سورۃ البقرہ

(C) سورۃ آل عمران (D) سورۃ کوثر

428. قرآن پاک کی سب سے لمبی کون سی سورۃ ہے؟

(A) البقرۃ (B) آل عمران

(C) المائدہ (D) الکہف

429. قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورۃ کون سی ہے؟

(A) اخلاص (B) الکوثر

(C) العصر (D) الناس

430. نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے آخری سورۃ کون سی ہے؟

(A) سورۃ توبہ (B) سورۃ نصر

(C) سورۃ یٰسین (D) سورۃ مزمل

نوٹ: علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ آخری نازل ہونے والی سورت توبہ ہے۔

431. قرآن حکیم کی بعض سورتوں کو مکی سورتیں کیوں کہا جاتا ہے؟

(A) خانہ کعبہ میں نازل ہوئیں

(B) ہجرت سے قبل نازل ہوئیں

(C) ان میں قریش مکہ کا ذکر

(D) وادی بطحا میں نازل ہوئیں

432. قرآن مجید کی پہلی منزل سورۃ فاتحہ سے شروع ہو کر کس سورۃ پر ختم ہوتی ہے؟

(A) سورۃ بقرہ (B) سورۃ النسا

(C) سورۃ مائدہ (D) سورۃ توبہ

433. حضور ﷺ پر سب سے پہلے سورۃ علق کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟

(A) تین (B) چار

(C) پانچ (D) سات

434. قرآن کریم کی کون سی سورۃ کو "زینت القرآن" کہتے ہیں؟

(A) سورۃ البقرہ (B) سورۃ اخلاص

(C) سورۃ الفاتحہ (D) سورۃ الرحمٰن

435. ام الکتاب کس سورۃ کو کہتے ہیں؟

(A) سورۃ اخلاص (B) سورۃ محمد ﷺ

(C) سورۃ فاتحہ (D) سورۃ ابراہیم

436. "رب زدنی علما" آیت مبارکہ کس سورۃ میں ہے؟

(A) سورۃ طٰہٰ (B) سورۃ رحمٰن

(C) سورۃ یٰسین (D) سورۃ المزمل

437. کس سورۃ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟

(A) البقرہ (B) العنکبوت

(C) آل عمران (D) یٰسین

438. قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں (Surahs) ہیں؟

(A) 124 (B) 114

(C) 144 (D) 134

439. قرآن مجید کی کس سورۃ سے پہلے "بسم اللہ" نہیں پڑھی جاتی؟

(A) سورۃ نمل (B) سورۃ الانعام

(C) سورۃ توبہ (D) سورۃ کوثر

440. قرآن مجید کی کس سورت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں؟

(A) سورۂ مریم (B) سورۂ البقرہ

(C) سورۂ توبہ (D) سورۂ آل عمران

441. قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی مکمل سورت کون سی ہے؟

(A) سورۃ علق (B) سورۂ المدثر

(C) سورۃ محمد ﷺ (D) سورۃ فاتحہ

442. قرآن پاک کی کس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟

(A) سورۃ یٰسین (B) سورۃ رحمٰن

(C) سورۃ توبہ
(D) سورۃ مومن

443. درج ذیل میں سے کون سی سورت مدنی ہے؟
(A) سورہ اخلاص
(B) سورہ الناس
(C) سورہ النمل
(D) سورہ التوبہ

444. قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس سورۃ میں ہے؟
(A) سورۃ المائدہ
(B) سورۃ الاعراف
(C) سورۃ الانفال
(D) سورۃ توبہ

445. واقعہ معراج کا ذکر قرآن پاک کی کس سورۃ میں ہے؟
(A) سورۃ بنی اسرائیل
(B) سورۃ کہف
(C) سورۃ مریم
(D) سورۃ النور

446. سورۃ البقرہ کی رو سے تقویٰ کو کیا قرار دیا گیا؟
(A) بہترین زادراہ
(B) مشکلات کا حل
(C) ذریعہ نجات
(D) ایک مستحسن عمل

447. کس سورۃ ارشاد ربانی ہے کہ امانتیں امانتداروں تک پہنچادو؟
(A) البقرۃ
(B) سورۃ المومنون
(C) سورۃ الحج
(D) سورۃ النساء

448. خواتین کے لیے زیب وزینت چھپانے کا حکم کس سورۃ میں ہے؟
(A) سورۃ البقرۃ
(B) سورۃ الاحزاب
(C) سورۃ النساء
(D) سورۃ النور

449. ہجرت مدینہ کے وقت حضورﷺ کس سورۃ کی تلاوت فرمارہے تھے؟
(A) سورۃ رحمٰن
(B) سورۃ یٰسین
(C) سورۃ الحجرات
(D) سورۃ البقرۃ

450. سورۃ مائدہ قرآن پاک کی ایک سورۃ ہے "مائدہ" کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) مویشی
(B) دسترخوان
(C) صلح
(D) معاشرہ

451. سورۃ آل عمران میں رکوع کی کل تعداد کتنی ہے؟
(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 20

452. سورہ غنیٰ کس سورہ کا دوسرا نام ہے؟
(A) سورہ فاتحہ
(B) سورہ حج
(C) سورہ واقعہ
(D) سورہ نمل

453. دوسری وحی کی آیات کس سورۃ میں ہیں؟
(A) مدثر
(B) مزمل
(C) ق
(D) علق

جوابات

1. (A)	2. (D)	3. (C)	4. (C)	5. (B)	6. (D)	7. (D)	8. (B)
9. (D)	10. (D)	11. (B)	12. (C)	13. (D)	14. (C)	15. (C)	16. (C)
17. (C)	18. (D)	19. (A)	20. (C)	21. (C)	22. (D)	23. (B)	24. (C)
25. (C)	26. (C)	27. (A)	28. (B)	29. (C)	30. (A)	31. (B)	32. (C)
33. (C)	34. (A)	35. (A)	36. (C)	37. (D)	38. (C)	39. (D)	40. (B)
41. (B)	42. (C)	43. (A)	44. (B)	45. (A)	46. (A)	47. (A)	48. (B)
49. (C)	50. (B)	51. (B)	52. (B)	53. (B)	54. (B)	55. (C)	56. (C)
57. (C)	58. (D)	59. (A)	60. (C)	61. (B)	62. (B)	63. (D)	64. (C)
65. (D)	66. (A)	67. (D)	68. (D)	69. (C)	70. (C)	71. (B)	72. (A)
73. (C)	74. (C)	75. (C)	76. (C)	77. (D)	78. (A)	79. (B)	80. (C)
81. (B)	82. (C)	83. (C)	84. (A)	85. (C)	86. (B)	87. (C)	88. (C)
89. (D)	90. (C)	91. (A)	92. (C)	93. (D)	94. (D)	95. (A)	96. (C)
97. (A)	98. (B)	99. (C)	100. (A)	101. (C)	102. (A)	103. (B)	104. (B)
105. (A)	106. (B)	107. (C)	108. (D)	109. (C)	110. (C)	111. (D)	112. (A)
113. (C)	114. (A)	115. (C)	116. (C)	117. (D)	118. (C)	119. (C)	120. (B)
121. (A)	122. (C)	123. (A)	124. (D)	125. (D)	126. (D)	127. (C)	128. (A)
129. (B)	130. (C)	131. (A)	132. (A)	133. (C)	134. (D)	135. (A)	136. (A)
137. (A)	138. (D)	139. (C)	140. (C)	141. (C)	142. (A)	143. (A)	144. (C)
145. (C)	146. (D)	147. (B)	148. (B)	149. (C)	150. (C)	151. (D)	152. (B)
153. (B)	154. (B)	155. (C)	156. (C)	157. (B)	158. (C)	159. (B)	160. (C)
161. (B)	162. (A)	163. (D)	164. (D)	165. (C)	166. (D)	167. (A)	168. (C)
169. (D)	170. (C)	171. (A)	172. (B)	173. (D)	174. (A)	175. (D)	176. (D)
177. (D)	178. (D)	179. (A)	180. (C)	181. (C)	182. (C)	183. (C)	184. (B)
185. (C)	186. (B)	187. (C)	188. (D)	189. (A)	190. (C)	191. (A)	192. (D)
193. (C)	194. (A)	195. (A)	196. (A)	197. (C)	198. (D)	199. (A)	200. (D)
201. (D)	202. (C)	203. (A)	204. (C)	205. (A)	206. (D)	207. (B)	208. (A)
209. (A)	210. (A)	211. (A)	212. (C)	213. (A)	214. (A)	215. (A)	216. (A)
217. (A)	218. (B)	219. (C)	220. (B)	221. (C)	222. (C)	223. (D)	224. (B)
225. (D)	226. (A)	227. (A)	228. (A)	229. (B)	230. (A)	231. (D)	232. (A)
233. (B)	234. (A)	235. (B)	236. (D)	237. (A)	238. (A)	239. (D)	240. (B)

241. (A)	242. (A)	243. (C)	244. (B)	245. (B)	246. (A)	247. (D)	248. (C)
249. (B)	250. (C)	251. (C)	252. (A)	253. (D)	254. (D)	255. (C)	256. (D)
257. (C)	258. (B)	259. (C)	260. (A)	261. (B)	262. (A)	263. (A)	264. (D)
265. (A)	266. (B)	267. (B)	268. (C)	269. (C)	270. (B)	271. (C)	272. (C)
273. (B)	274. (A)	275. (D)	276. (B)	277. (A)	278. (B)	279. (A)	280. (A)
281. (D)	282. (A)	283. (A)	284. (A)	285. (D)	286. (A)	287. (B)	288. (C)
289. (D)	290. (C)	291. (B)	292. (D)	293. (A)	294. (A)	295. (A)	296. (B)
297. (A)	298. (A)	299. (D)	300. (A)	301. (A)	302. (C)	303. (A)	304. (A)
305. (A)	306. (B)	307. (A)	308. (C)	309. (C)	310. (D)	311. (D)	312. (A)
313. (B)	314. (A)	315. (A)	316. (C)	317. (C)	318. (A)	319. (D)	320. (D)
321. (A)	322. (D)	323. (C)	324. (B)	325. (C)	326. (D)	327. (C)	328. (D)
329. (A)	330. (C)	331. (B)	332. (C)	333. (D)	334. (C)	335. (A)	336. (D)
337. (C)	338. (A)	339. (B)	340. (B)	341. (D)	342. (D)	343. (A)	344. (C)
345. (C)	346. (D)	347. (B)	348. (B)	349. (C)	350. (A)	351. (D)	352. (D)
353. (C)	354. (A)	355. (A)	356. (B)	357. (B)	358. (A)	359. (C)	360. (C)
361. (A)	362. (C)	363. (A)	364. (C)	365. (A)	366. (B)	367. (B)	368. (A)
369. (A)	370. (D)	371. (B)	372. (C)	373. (C)	374. (C)	375. (A)	376. (B)
377. (B)	378. (A)	379. (C)	380. (B)	381. (C)	382. (C)	383. (C)	384. (B)
385. (B)	386. (C)	387. (C)	388. (B)	389. (C)	390. (C)	391. (C)	392. (B)
393. (A)	394. (B)	395. (B)	396. (B)	397. (C)	398. (C)	399. (C)	400. (A)
401. (C)	402. (C)	403. (B)	404. (A)	405. (D)	406. (B)	407. (B)	408. (B)
409. (B)	410. (C)	411. (A)	412. (B)	413. (B)	414. (D)	415. (B)	416. (D)
417. (B)	418. (C)	419. (B)	420. (B)	421. (C)	422. (B)	423. (B)	424. (D)
425. (A)	426. (C)	427. (A)	428. (A)	429. (B)	430. (B)	431. (B)	432. (B)
433. (C)	434. (D)	435. (C)	436. (A)	437. (A)	438. (B)	439. (C)	440. (B)
441. (D)	442. (B)	443. (D)	444. (B)	445. (A)	446. (A)	447. (D)	448. (B)
449. (B)	450. (B)	451. (D)	452. (C)	453. (A)			

تفاسیر قرآن

1. تفسیر جس میں آیت کا مفہوم کسی آیت، حدیث یا اقوال صحابہؓ کی روشنی میں کیا جائے کہلاتی ہے۔

(A) جامع تفسیر (B) تفسیر بالماثور
(C) تفسیر بالرائے (D) کلامی تفسیر

2. جو مجتہد مفسر اپنے اجتہاد اور رائے سے تفسیر کرے وہ ہے۔

(A) کونی تفسیر (B) ادبی تفسیر
(C) فقہی تفسیر (D) تفسیر بالرائے

3. جو تفسیر علوم القرآن کے تقریباً تمام اہم پہلوؤں کا احاطہ کرے وہ کہلاتی ہے۔

(A) جامع تفسیر (B) تقلیدی تفسیر
(C) فقہی تفسیر (D) تفسیر بالرائے

4. جو تفسیر عقلی دلائل سے قرآن کی وضاحت کرے کہلاتی ہے۔

(A) تفسیر بالماثور (B) کونی تفسیر
(C) کلامی تفسیر (D) اشاری تفسیر

5. تفسیر جس میں فقہی مسئلہ مستنبط ہونے والی آیات کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہو وہ ہے۔

(A) ادبی تفسیر (B) فقہی تفسیر
(C) جامع تفسیر (D) تقلیدی تفسیر

6. جس تفسیر میں قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثل ہونا ثابت کیا گیا ہو وہ ہوتی ہے۔

(A) ادبی تفسیر (B) کونی تفسیر
(C) کلامی تفسیر (D) اشاری تفسیر

7. ایسی تفسیر جس میں سائنس کی ایجادات کو آیات سے مطابقت دینے کی کوشش کی گئی ہو وہ ہے۔

(A) جامع تفسیر (B) اشاری تفسیر
(C) کلامی تفسیر (D) کونی تفسیر

8. تفسیر تنویر المقباس جس صحابیؓ سے منسوب ہے۔

(A) عبداللہ بن زبیر (B) عبداللہ بن عمر
(C) عبداللہ بن عباس (D) عبداللہؓ بن مسعود

9. تفسیر بیضاوی انوار التنزیل کے مصنف ہیں۔

(A) محمود بن عمر (B) عبداللہ بن عمر
(C) محمود بن عبداللہ (D) محمد بن عبداللہ

10. معتزلہ تفسیر کشاف کے مصنف ہیں جار اللہ

(A) محمود بن عمر (B) محمود بن عبداللہ
(C) محمد بن عبداللہ (D) عبداللہ بن عمر

11. امام فخر الدین محمد بن عمر رازی کی تفسیر کبیر ہے۔

(A) تفسیر الجواہر (B) الجامع الاحکام
(C) احکام القرآن (D) مفاتیح الغیب

12. علامہ آلوسی محمود بن عبداللہ کی تفسیر روح المعانی کی جلدیں ہیں۔

(A) 8 (B) 9
(C) 10 (D) 11

13. علامہ طنطاوی کی تفسیر ہے۔

(A) احکام القرآن (B) تفسیر روح المعانی
(C) تفسیر کبیر (D) تفسیر الجواہر

14. سید قطب شہید کی تفسیر فی ظلال القرآن کی جلدیں ہیں۔

(A) 35 (B) 30
(C) 25 (D) 20

15. جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی کی تفسیر کہلاتی ہے۔

(A) تفسیر خازن
(B) تفسیر المنار
(C) جلالین
(D) الجامع الاحکام القرآن

16. اسماعیل بن عمر کی مشہور ماثور تفسیر ابن کثیر کی جلدیں ہیں۔
(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 13

17. انگلش تفسیر ہے۔
(A) تفسیر مظہری
(B) تفسیر ماجدی
(C) تفسیر عثمانی
(D) تفسیر ثنائی

18. فارسی تفسیر ہے۔
(A) تفسیر ماجدی
(B) تفسیر مظہری
(C) تفسیر حقانی
(D) تفسیر عزیزی

19. غلام رسول سعیدی کی دور حاضر کی مشہور تفسیر تبیان القرآن کی جلدیں ہیں۔
(A) 11
(B) 12
(C) 13
(D) 14

20. مفتی احمد یار خان نعیمی کی مفصل تفسیر کا نام ہے۔
(A) تفسیر حقانی
(B) تفسیر نعیمی
(C) تفسیر عثمانی
(D) تفسیر عزیزی

21. پیر کرم شاہ آف بھیرہ کی تفسیر ضیاء القرآن کی جلدیں ہیں۔
(A) 8
(B) 7
(C) 6
(D) 5

22. مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن کی جلدیں ہیں۔
(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9

23. مولانا عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی کا نام ہے۔
(A) تدبر القرآن
(B) فتح العزیز
(C) فتح المنان
(D) معارف القرآن

24. بیان القرآن تفسیر کے مصنف ہیں۔
(A) اشرف تھانوی
(B) مفتی محمد شفیع
(C) ثناء اللہ امرتسری
(D) ثناء اللہ پانی پتی

جوابات

1. (B)	2. (D)	3. (A)	4. (C)	5. (B)	6. (A)	7. (D)	8. (C)
9. (B)	10. (A)	11. (D)	12. (C)	13. (D)	14. (B)	15. (C)	16. (A)
17. (B)	18. (D)	19. (C)	20. (B)	21. (D)	22. (A)	23. (C)	24. (A)

یہ ٹاپک نئے ایڈیشن میں ہیں
پرانے ایڈیشن میں نہیں ہیں

خانہ کعبہ

1. ام القریٰ کہتے ہیں۔
(A) طائف (B) ریاض
(C) مدینہ منورہ (D) مکہ مکرمہ

2. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔
(A) 60 (B) 70
(C) 80 (D) 90

3. حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی قبریں ہیں۔
(A) ملتزم میں (B) مطاف میں
(C) حطیم میں (D) ریاض الجنۃ میں

4. باب کعبہ، مقام ابراہیم اور چاہ زمزم خانہ خدا کی جس سمت میں ہیں۔
(A) مشرقی (B) مغربی
(C) شمالی (D) جنوبی

5. حضرت اسماعیل کے بڑے بیٹے نابت کے بعد اُس کا عزیز جو کعبہ کو متولی بنا۔
(A) دادا (B) نانا
(C) بھائی (D) بیٹا

6. کعبہ شریف میں ھبل بت نصب کیا تھا۔
(A) عاص بن وائل نے (B) ولید بن مغیرہ نے
(C) عمرو بن لحی نے (D) عمرو بن ہشام نے

7. تبع شاہ یمن نے اسلام سے کتنے سال پہلے غلاف چڑھایا تھا۔
(A) 400 سال (B) 500 سال
(C) 600 سال (D) 700 سال

8. خانہ کعبہ بتوں سے پاک کیا گیا۔
(A) 8 ہجری (B) 9 ہجری
(C) 10 ہجری (D) 11 ہجری

9. 500 سالوں کے بعد چاہ زمزم کی کھدائی کر کے برآمد کرنا کارنامہ ہے۔
(A) عباس کا (B) ہاشم کا
(C) عبدالمطلب کا (D) ابوطالب کا

10. حطیم کی دیواریں بلند ہیں۔
(A) 2 فٹ (B) 3 فٹ
(C) 4 فٹ (D) 5 فٹ

11. حرم شریف میں پہلی دفعہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوا۔
(A) 1945ء (B) 1946ء
(C) 1947ء (D) 1948ء

12. 20 نومبر 1979 کو قبضہ کے وقت حرم شریف میں نمازی تھے۔
(A) 1 لاکھ (B) 2 لاکھ
(C) 3 لاکھ (D) 4 لاکھ

13. مصلیٰ اخیار کہتے ہیں۔
(A) مطاف (B) حطیم
(C) ملتزم (D) میزاب

14. شراب ابرار سے مراد ہے۔
(A) ستو (B) شربت
(C) شراب طہورا (D) آب زمزم

15. آب زمزم کے سوتے ہیں۔
(A) 3 (B) 4

(C) 5 (D) 6

16. آب زمزم کے سوت ہیں صفا، مروہ اور

(A) رکن شامی (B) عراقی

(C) رکن اسود (D) رکن یمانی

17. آب زمزم میں کیمیائی مرکبات پائے جاتے ہیں۔

(A) 3 (B) 4

(C) 5 (D) 6

18. آغاز اسلام سے اب تک آب زمزم کی ذمہ دار ہے اولاد

(A) حمزہؓ (B) عباسؓ

(C) ابوطالب (D) زبیر

19. مسجد الحرام کے مینار ہیں۔

(A) 9 (B) 8

(C) 7 (D) 6

20. مسجد الحرام کے دروازوں میں سے بڑے دروازے ہیں۔

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

21. چار بڑے دروازوں پر آٹھ مینار ہیں اور نواں مینار واقع ہے۔

(A) کوہ مروہ پر (B) کوہ صفا پر

(C) حطیم پر (D) میزاب پر

22. مسجد حرام میں سب سے پہلے روشنی کا انتظام کیا۔

(A) معاذ بن جبلؓ (B) عتابؓ بن اسید

(C) عقبہ بن ازرق (D) تمیمؓ داری

23. حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد امامت کے لیے مقرر فرمایا مسجد الحرام میں

(A) عتابؓ بن اسید (B) ابوسفیانؓ

(C) عباسؓ (D) ابوبکرؓ

24. حضرت عبداللہؓ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔

(A) 62ھ (B) 63ھ

(C) 64ھ (D) 65ھ

25. بعثت نبوی سے کتنے سال پہلے کعبہ کی تعمیر ہوئی۔

(A) 3 سال (B) 4 سال

(C) 5 سال (D) 6 سال

26. خلیفہ ہارون عباسی کو خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر سے روکا۔

(A) امام ابوحنیفہؒ (B) امام مالکؒ

(C) امام شافعیؒ (D) امام احمدؒ

27. قریش قبل از اسلام کعبہ کا دروازہ جس دن کھولتے تھے۔

(A) سوموار اور جمعہ (B) جمعرات اور جمعہ

(C) جمعہ اور ہفتہ (D) سوموار اور جمعرات

28. خانہ کعبہ کی چھتیں ہیں۔

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 1

29. خلیفہ جس نے مصر میں غلاف کعبہ بنوانے کی ابتدا کی۔

(A) خلیفہ اول (B) خلیفہ دوم

(C) خلیفہ سوم (D) خلیفہ چہارم

30. مکہ معظمہ میں سب سے پہلا غلاف تیار کیا گیا۔

(A) 1343ھ (B) 1344ھ

(C) 1345ھ (D) 1346ھ

31. باب کعبہ پر ڈالا جانے والا پردہ کہلاتا ہے۔

(A) شمس کعبہ (B) قمر کعبہ

(C) ستارہ کعبہ (D) غلاف کعبہ

32. قریش کی تعمیر کعبہ میں پہلی دفعہ بنائے گئے۔

(A) چھت و پرنالہ (B) چھت و دروازہ

(C) دروازہ و پرنالہ (D) ستون و پرنالہ

33. حرم شریف میں رات کے وقت اڑنے والے پرندے ہیں۔

(A) بلبل (B) طوطے

(C) کبوتر (D) ابابیل

34. سعی جن دو پہاڑیوں کے درمیان کی جاتی ہے۔

(A) صفا و حرا (B) صفا و مروہ

(C) مروہ وحرا (D) ثور وحرا

35. حضرت عبد المطلب نے چاہ آب زم زم کو جتنے سالوں بعد کھودا۔

(A) 500 سال (B) 400 سال

(C) 300 سال (D) 200 سال

36. فتح مکہ کے وقت حضور ﷺ کے ساتھ جتنے لوگ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

37. کعبہ شریف کو کہتے ہیں۔

(A) بیت العتیق (B) بیت العقیق

(C) بیت الرفیق (D) بیت الشفیق

38. مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جتنی نمازوں کے برابر ہے۔

(A) 25 ہزار (B) 50 ہزار

(C) 1 لاکھ (D) 2 لاکھ

39. حضرت ابراہیمؑ سے پہلے خانہ کعبہ جس نبی نے بنایا۔

(A) آدمؑ (B) نوحؑ

(C) ہودؑ (D) صالحؑ

40. خانہ کعبہ کے اوپر مقام جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔

(A) بیت المحبوب (B) بیت المحمود

(C) بیت المعبود (D) بیت المعمور

41. حضرت انسان جنہوں نے خانہ کعبہ کا سب سے پہلے طواف کیا۔

(A) اسماعیلؑ (B) ابراہیمؑ

(C) شیثؑ (D) آدمؑ

42. حضرت نوحؑ کی کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا۔

(A) 30 دن (B) 40 دن

(C) 50 دن (D) 60 دن

43. خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف جس بادشاہ نے چڑھایا۔

(A) شاہ نجاشی (B) شاہ حبشہ

(C) شاہ تبع (D) شاہ روم

44. خانہ کعبہ پر پہلی بار چھت ڈالی۔

(A) فہر نے (B) قصی نے

(C) کلاب نے (D) غالب نے

45. حضرت ابراہیمؑ نے خانہ کعبہ کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی رکھی۔

(A) 48 × 46 × 13 فٹ

(B) 40 × 30 × 20 فٹ

(C) 30 × 20 × 10 فٹ

(D) 50 × 40 × 30 فٹ

46. کعبہ شریف کی موجودہ بلندی ہے۔

(A) 47 فٹ (B) 48 فٹ

(C) 49 فٹ (D) 50 فٹ

47. کعبہ شریف کے اندر ستون ہیں۔

(A) 6 (B) 5

(C) 4 (D) 3

48. خانہ کعبہ کا مقام ابراہیمؑ سے فاصلہ ہے۔

(A) 10 میٹر (B) 11 میٹر

(C) 12 میٹر (D) 13 میٹر

49. خانہ کعبہ کا قدیم خزانے والا کنواں بند کروایا تھا۔

(A) ابن زبیرؓ نے (B) ابن عمرؓ نے

(C) ابن عباسؓ نے (D) ابن عثمانؓ نے

50. تعمیر قریش کے بعد حرم کی توسیع جس خلیفہ راشد نے کی۔

(A) خلیفہ اول (B) خلیفہ دوم

(C) خلیفہ سوم (D) خلیفہ چہارم

51. دروازہ جس سے حضور ﷺ گزر کر مسجد الحرام میں داخل ہوتے تھے۔

(A) باب عمرہ (B) باب ہاشم

(C) باب نبی (D) باب السلام

52. آب زم زم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ

ہے۔

(A) قول اسماعیلؑ (B) آیت قرآنی

(C) حدیث نبوی (D) قول حاجرہ

53. خانہ کعبہ سے چاہ زمزم دور ہے۔

(A) 57 فٹ (B) 58 فٹ

(C) 59 فٹ (D) 60 فٹ

54. چاہ زمزم گہرا ہے تقریباً

(A) 98 فٹ (B) 100 فٹ

(C) 102 فٹ (D) 104 فٹ

55. آب زمزم میں سب سے زیادہ مرکب ہے۔

(A) سوڈیم کلورائیڈ (B) ہائیڈروجن سلفائیڈ

(C) کیلشیم کاربونیٹ (D) میگنیشیم سلفیٹ

56. حرم شریف کے میناروں کی بلندی ہے۔

(A) 90 میٹر (B) 91 میٹر

(C) 92 میٹر (D) 93 میٹر

57. قرآن مجید میں جن سورتوں میں مکہ شہر کی قسم کھائی گئی ہے۔

(A) بلد و تین (B) شمس و تین

(C) بلد و شمس (D) فجر و تین

58. ہجرت کے جتنے ماہ بعد خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔

(A) 16 ماہ (B) 17 ماہ

(C) 18 ماہ (D) 19 ماہ

59. حرم شریف میں سب سے خوفناک آگ کب لگی۔

(A) 799ھ (B) 800ھ

(C) 801ھ (D) 802ھ

60. حرم شریف میں سب سے بڑا سیلاب آیا تھا۔

(A) 878ھ (B) 889ھ

(C) 880ھ (D) 881ھ

حجر اسود فرش سے بلند ہے۔

(A) 2 فٹ (B) 3 فٹ

(C) 4 فٹ (D) 5 فٹ

62. کعبہ شریف کا دروازہ فرش سے بلند ہے۔

(A) ایک میٹر (B) دو میٹر

(C) تین میٹر (D) چار میٹر

63. ملتزم کی لمبائی ہے۔

(A) 6 فٹ (B) 7 فٹ

(C) 8 فٹ (D) 9 فٹ

64. کعبہ شریف سے حطیم کی دیوار دور ہے تقریباً

(A) 5½ میٹر (B) 6½ میٹر

(C) 7½ میٹر (D) 8½ میٹر

65. خاندان جس کے پاس خانہ کعبہ کے تالے کی چابی رہتی ہے۔

(A) بنو ہاشم (B) بنو امیہ

(C) بنو شیبہ (D) بنو مخزوم

66. کعبہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کا درمیانی حصہ کہلاتا ہے۔

(A) ملتزم (B) مطاف

(C) میزاب (D) حطیم

67. پہاڑ جس پر طوفان نوحؑ کے وقت حجر اسود رکھا گیا۔

(A) ثور (B) ابو قبیس

(C) حرا (D) اُحد

68. حرم شریف کا حصہ جہاں نماز پڑھنا اندر پڑھنے کے مترادف ہے۔

(A) میزاب (B) مطاف

(C) ملتزم (D) حطیم

69. حضور علیہ والسلام حجر اسود کے ساتھ جس رکن کا استلام کرتے تھے۔

(A) رکن ایرانی (B) رکن عراقی

(C) رکن یمانی (D) رکن شامی

70. قرمطیوں کے ظلم وستم کی بنا پر جس سال لوگ حج ادا نہ کر سکے۔

(A) 314ھ (B) 315ھ

316 (C) ۔ 317 (D) ۔

71. حجر اسود کتنے سال تک قرامطیوں کے پاس رہا۔

(A) 22 سال (B) 23 سال
(C) 24 سال (D) 25 سال

72. حجر اسود کے کتنے [illegible] قرامطی [illegible] جس [illegible] سے
پھٹ گیا۔

(A) ایک (B) چھ
(C) کئی (D) [illegible]

جوابات

1. (D)	2. (B)	3. (C)	4. (A)	5. (B)	6. (C)	7. (D)	8. (A)
9. (C)	10. (B)	11. (D)	12. (A)	13. (B)	14. (D)	15. (A)	16. (C)
17. (D)	18. (B)	19. (A)	20. (D)	21. (B)	22. (C)	23. (A)	24. (C)
25. (C)	26. (B)	27. (D)	28. (A)	29. (B)	30. (D)	31. (C)	32. (A)
33. (D)	34. (B)	35. (A)	36. (C)	37. (A)	38. (C)	39. (A)	40. (D)
41. (D)	42. (B)	43. (C)	44. (B)	45. (A)	46. (C)	47. (D)	48. (B)
49. (A)	50. (B)	51. (D)	52. (C)	53. (A)	54. (D)	55. (B)	56. (C)
57. (A)	58. (B)	59. (D)	60. (C)	61. (C)	62. (B)	63. (A)	64. (D)
65. (C)	66. (A)	67. (B)	68. (D)	69. (C)	70. (D)	71. (A)	72. (B)

احادیث

1. حدیث سے کیا مراد ہے؟
(A) نبی اکرمؐ کے احکامات (B) نبی اکرمؐ کی ہدایات
(C) نبی اکرمؐ کے عمل
(D) نبی کریمؐ کی کہی ہوئی باتیں

2. لفظ حدیث کس سے ماخوذ ہے؟
(A) تحدث (B) حدث
(C) حدث (D) کوئی نہیں

3. تحدث سے کیا مراد ہے؟
(A) ہدایت کرنا (B) اطلاع کرنا
(C) دکھاوا کرنا (D) کچھ کہنا

4. جو نبی اکرمؐ نے کہا وہ حدیث اور جو عمل کیا وہ سنت کہلاتا ہے۔ سنت کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) عمل کرنے کا انداز (B) طریقہ زندگی
(C) راہ و روش کا اصول (D) B، A اور C تینوں

5. ایسی حدیث جس میں نبی پاک کا عمل شامل نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟
(A) حدیث تقرر (B) حدیث قرار
(C) حدیث قولی (D) کوئی نہیں

6. وہ حدیث کیا کہلاتی ہے جس میں نبی اکرمؐ کا عمل بھی شامل ہو؟
(A) حدیث فعلی (B) حدیث عمل
(C) حدیث سند (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

7. نبی اکرمؐ کی طرف سے کسی عمل یا مشق کی خاموش تصدیق یا منظوری کیا کہلاتی ہے؟
(A) حدیث فعلی (B) حدیث سکوتی
(C) حدیث عملی (D) حدیث تقریری

8. ایسی حدیث کیا کہلاتی ہے جس کا راوی یادداشت کے اعتبار سے ایک صحیح حدیث کے راوی کے مقابلے میں کم معتبر ہو؟
(A) حدیث معروف (B) حدیث حسن
(C) حدیث مشہور (D) موزوں

9. وہ حدیث کیا کہلاتی ہے جس کا کوئی بھی راوی شروع سے لے کر آخر تک نامعلوم یا کم معتبر یا ساقط نہ ہو؟
(A) حدیث متصل (B) حدیث حسن
(C) حدیث متواتر
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

10. وہ حدیث کیا کہلاتی ہے جس کے راوی تعداد میں بہت زیادہ ہوں؟
(A) حدیث قولی (B) حدیث فعلی
(C) حدیث متواتر (D) حدیث معروف

11. وہ حدیث جس کے راوی کی سند نبی اکرمؐ تک پہنچے کیا کہلاتی ہے؟
(A) حدیث مرفوع (B) حدیث موضوع
(C) حدیث حسن (D) حدیث متواتر

12. ایسی حدیث جس کو ہر لحاظ اور اعتبار سے کم از کم تین راویوں نے روایت کیا ہو وہ............
(A) حدیث حسن کہلاتی ہے (B) حدیث متصل کہلاتی ہے
(C) حدیث مشہور کہلاتی ہے
(D) حدیث معروف کہلاتی ہے

13. آپؐ کے دور میں احادیث سیکھنے کے چار بڑے مراکز تھے۔ یہ بتائیں کون سا شہر اسلامی روایات اور احادیث کا مرکز بنا؟
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) حجاز (D) مصر

14. مدینہ کے حدیث کے مکتبہ فکر کے بانی اور رہنما کون تھے؟

(A) حضرت ابو ہریرہؓ (B) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ
(C) حضرت عائشہؓ (D) A'B اور C تینوں

15. حدیث لکھنے کا دوسرا مرکز کون سا تھا؟
(A) بصرہ (B) کوفہ
(C) طائف (D) مکہ

16. کوفہ کے حدیث کے مکتبہ فکر کے رہنما کون تھے؟
(A) حضرت ابن مسعودؓ (B) حضرت اسامہؓ
(C) حضرت طلحہؓ (D) حضرت ابوہریرہؓ

17. بصرہ کے حدیث کے مکتبہ فکر کے بانی کون تھے؟
(A) امام زہریؒ (B) امام حسن البصریؒ
(C) A'B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

18. اس پہلی شخصیت کا نام بتائیں جس نے بصرہ میں سب سے پہلے احادیث اکٹھا کرنے اور مرتب کرنے کا کام سرانجام دیا تھا؟
(A) امام زہریؒ (B) امام حسن البصریؒ
(C) امام نسائیؒ (D) ابن ماجہ

19. ہجری سال کے سو سال مکمل ہونے پر احادیث اکٹھا کرنے کی پہلی کوشش کہاں سرانجام دی گئی؟
(A) شام (B) عراق
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

20. اس پہلی شخصیت کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے باقاعدہ طور پر احادیث کو جمع کر کے لکھنے کا حکم دیا تھا؟
(A) حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ
(B) حضرت عثمان ابن عفانؓ
(C) حضرت عمر ابن خطابؓ
(D) حضرت علی ابن ابو طالبؓ

21. اس کتاب کا نام بتائیں جس میں راویان حدیث کے نام، حالات زندگی، کردار اور خدمات کا ذکر موجود ہو؟
(A) اسماء الرجال (B) راوی الرجال
(C) موسیٰ الرجال (D) کوئی نہیں

22. کس نے احادیث اکٹھی کرنے کے لئے اہل حدیث کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی؟
(A) امام ابو محمد (B) امام بخاری
(C) امام مالک ابن انس (D) امام شافعی

23. اسماء الرجال کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟
(A) حدیث کے مستند ہونے کی تحقیق اسماء الرجال سے کی جاتی ہے۔
(B) راویان حدیث کے مستند ہونے کی تحقیق اسماء الرجال سے کی جاتی ہے۔
(C) صحابہ کرام کے حالات زندگی کی تحقیق اسماء الرجال سے کی جاتی ہے۔
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

24. درج ذیل میں سے کون سا بیان اسماء الرجال سے متعلق درست ہے؟
(A) اسماء الرجال سوانح عمری کی لغت بھی کہلاتی ہے۔
(B) اسماء الرجال کے لغوی معنی ہیں راویان حدیث کے نام
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

25. حدیث کی تصدیق کے طریقہ کار میں۔
(A) روایت کا طریقہ شامل ہے
(B) درایت کا طریقہ شامل ہے
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

26. روایت سے کیا مراد ہے؟
(A) حدیث کی ترسیل (B) حدیث کا اقرار
(C) حدیث کی روایت (D) کوئی نہیں

27. درایت سے کیا مراد ہے؟
(A) راوی حدیث کے کردار کے حوالے سے حدیث کی جانچ پڑتال
(B) حضرت ابوہریرہؓ سے ترسیل
(C) ایسی احادیث جن کا کوئی را

(D) ایسی احادیث جن کو بہت سارے صحابہ کرامؓ نے روایت کیا ہو۔

28. روایت کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) مرکزی خیال (B) مواد
(C) تصدیق (D) معقولیت

29. ہر حدیث کے دو حصوں میں شامل ہیں۔
(A) سند اور روایت (B) سند اور متن
(C) متن اور روایت (D) متن اور درایت

30. سند سے مراد ہے؟
(A) مدد کرنا (B) تحقیق کرنا
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

31. متن سے کیا مراد ہے؟
(A) مواد (B) رپورٹ
(C) تفسیر (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

32. متن حدیث کی تصدیق کے لیے کونسا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟
(A) روایت (B) درایت
(C) سند (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

33. سند حدیث کی تصدیق کے لیے کونسا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟
(A) روایت (B) اسماء الرجال
(C) درایت (D) سند

34. وہ احادیث کیا کہلاتی ہیں جو کہ متواتر احادیث کی طرح مستند تو ہوتی ہیں مگر ان کو دو متواتر ادوار میں صحابہ کرام کی بہت ہی مختصر تعداد نے روایت کیا ہوتا ہے؟
(A) جانی پہچانی روایات (B) نامعلوم روایات
(C) تنہا احادیث (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

35. تنہا احادیث کو ایک ہی راوی نے روایت کیا ہوتا ہے اس لیے یہ متواتر اور جانی پہچانی روایت کے مقابلے میں کم تر خیال کی جاتی ہیں۔ تنہا احادیث کیا کہلاتی ہیں؟
(A) واحد (B) آحاد
(C) مرفوع (D) موضوع

36. حدیث کی درجہ وار ترتیب میں ______
(A) جانی پہچانی احادیث آتی ہیں
(B) آحاد احادیث آتی ہیں
(C) متواتر احادیث آتی ہیں
(D) تمام

37. کون سی احادیث اپنی سند کے حوالے سے قطعی ہوتی ہیں؟
(A) آحاد (B) متواتر
(C) مرفوع (D) موضوع

38. تدوین حدیث کے کام کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟
(A) تین (B) چار
(C) پانچ (D) چھ

39. مستند حدیث کو کیا کہتے ہیں؟
(A) مرفوع (B) صحیح
(C) تنہا (D) جامع

40. غیر مستند حدیث جو کہ ضروری نہیں کہ جھوٹی یا من گھڑت ہی ہو کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ ضعیف سے کیا مراد ہے؟
(A) غیر مستند (B) پرانی
(C) کمزور (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

41. کون سی حدیث غیر متلو بھی کہلاتی ہے؟
(A) حدیث متواتر (B) حدیث وحی
(C) حدیث مرفوع (D) کوئی نہیں

42. حدیث کا پہلا دور کب تک جاری رہا؟
(A) 100 ہجری (B) 105 ہجری
(C) 110 ہجری (D) 115 ہجری

43. تدوین حدیث کے دوسرے دور کا دورانیہ کیا رہا؟
(A) 111 سے 170 ہجری (B) 111 سے 180 ہجری
(C) 111 سے 190 ہجری (D) 111 سے 223 ہجری

44. تدوین حدیث کے تیسرے دور کا دورانیہ بتائیں؟
(A) 171 سے 190 ہجری (B) 171 سے 221 ہجری

(C) 171 سے 222 ہجری (D) 171 سے 223 ہجری

45. درج ذیل میں سے کونسا بیان تدوین حدیث کے تیسرے دور سے متعلق درست ہے؟

(A) احادیث پر مستند کتابیں بشمول صحاح ستہ اسی دور میں مدون ہوگئیں۔

(B) تدوین حدیث کو اس دور میں ایک فن کا درجہ دیا گیا۔

(C) حدیث کی سند کو پرکھنے کے لئے اصول وضوابط اور اسماء الرجال کا فن بھی اسی دور میں تشکیل کئے گئے۔

(D) A، B اور C تینوں

46. تدوین حدیث کے کس دور میں ایک لاکھ پچاس ہزار راویان احادیث کے نام اور حالات زندگی کا مطالعہ کیا گیا تھا؟

(A) پہلے دور میں (B) دوسرے دور میں

(C) تیسرے دور میں (D) کسی دور میں بھی نہیں

47. تدوین حدیث کا کام کس ہجری صدی تک جاری رہا؟ (P.C.S J.2001)

(A) چوتھی (B) پانچویں

(C) چھٹی (D) ساتویں

48. کس خلیفہ کے دور خلافت میں تدوین حدیث کا کام سرکاری طور پر شروع ہوا۔

(A) امیر معاویہؓ (B) حضرت حسنؓ

(C) عمر ابن عبدالعزیزؒ (D) حضرت علیؓ

49. کس خلیفہ نے اپنے دور کے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ علماء سے احادیث اکٹھی کر کے خلیفہ کو بھجواؤ کیونکہ خلیفہ کو ڈر ہے کہ کہیں یہ علم علماء کے بعد ختم ہی نہ ہو جائے؟

(A) عمر بن عبدالعزیزؒ (B) عمر بن حکم

(C) عمر بن صادق (D) کوئی نہیں

50. درج ذیل میں سے کونسا احادیث کا پہلا مجموعہ ہے؟

(A) استبصار (B) الکافی

(C) صحیفہ صادق (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

51. تدوین حدیث کے اس طریقہ کار کا نام بتائیں جس میں ہر راوی کی ہر حدیث کو اس کے نام کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ ان احادیث کا مرکزی خیال کیا ہے؟

(A) مسند (B) صحیفہ

(C) مشکات (D) اسماء الرجال

52. درج ذیل میں سے مسند کا سب سے مشہور مجموعہ کون سا ہے؟

(A) امام مالک کی مسند (B) امام ابوحنیفہ کی مسند

(C) امام احمد ابن حنبل کی مسند (D) امام شافعی کی مسند

53. امام احمد بن حنبل کی مسند میں کتنی احادیث دہرائی گئی ہیں؟

(A) 5000 (B) 7000

(C) 10000 (D) 12000

54. امام احمد ابن حنبل کی مسند میں کتنی احادیث شامل ہیں؟

(A) 40,000 (B) 50,000

(C) 60,000 (D) 70,000

55. تدوین حدیث کے دوسرے طریقہ کار میں حدیث کو عنوانات اور مرکزی خیال کے مطابق ابواب اور ذیلی ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس قسم کے مجموعہ میں ہمیں ایک باب پاکیزگی پر ایک نماز پر اور ایک روزہ وغیرہ پر ملے گا۔ اس قسم کے کام کی بہترین مثال ....

(A) المسند ہے (B) صحیفہ صادقہ ہے۔

(C) صحیفہ مالکی ہے۔ (D) الموطا ہے۔

56. الموطا میں کتنی احادیث شامل ہیں؟

(A) 1500 (B) 2600

(C) 1720 (D) 2220

57. الموطا میں تدوین کے وقت احادیث کی تعداد کیا تھی جو کہ جانچ پڑتال کے بعد مولف نے کم کردی؟

(A) 8000 (B) 9000

(C) 10000 (D) 11000

58. الموطا کے مولف کون ہیں؟

(A) امام جعفر صادق (B) امام شافعی

(C) امام مالک ابن انس (D) امام احمد

59. الموطا سے متعلق درج ذیل میں سے کونسا بیان درست ہے؟
(A) الموطا کے مولف مالکی مکتبہ فکر کے بانی ہیں۔
(B) الموطا مدینہ میں مرتب کی گئی
(C) A اور B دونوں
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

60. امام مالک ابن انس کے اس شاگرد کا نام بتائیں جس نے کتاب الموطا کو مرتب کیا؟
(A) یحییٰ بن یحییٰ (B) محمد ابن حذیفہ
(C) محمد ابن انس (D) محمد ابن فرقان

61. حدیث کی کتاب المصنف میں کتنی احادیث شامل ہیں؟
(A) 11,033 (B) 12,033
(C) 13,033 (D) 14,033

62. تدوین حدیث کی دوسری قسم کے حوالے سے کس کی گیارہ جلدوں پر مشتمل کتاب المصنف قابل ذکر ہے؟
(A) امام بخاری (B) امام عبدالرزاق صنعانی
(C) امام مالک (D) امام ابوبکر

63. حدیث مرتب کرنے والا ہر حدیث کو اس کی اپنی سند کے ساتھ متعارف کرواتا ہے جس کا مطلب ہے کہ حدیث کے پیچھے ایسے لوگوں کی زنجیر ہے جن کی رائے اہمیت رکھتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ....
(A) راوی کہتے ہیں (B) محدث کہتے ہیں
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

64. سند کے طریقہ میں سب سے پہلے حدیث مرتب کرنے والے کا نام بتائیں جو کہ کچھ حدیثوں میں اپنے استاد نافع سے روایت کرتے ہیں اور نافع اپنے استاد عبداللہ ابن عمرؓ جو کہ حضرت محمد ﷺ کے ایک منفرد ساتھی تھے سے روایت کرتے ہیں؟
(A) امام مالک (B) امام بخاری
(C) امام احمد ابن حنبل (D) امام ابو یوسف

65. سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی اور اصحاب صفہ کے رکن کا نام بتائیں؟
(A) حضرت ابو ہریرہؓ
(B) حضرت علی ابن ابی طالبؓ
(C) حضرت زید ابن ثابتؓ
(D) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ

66. صحیفہ ابو ہریرہؓ کو ان کے کس ہونہار شاگرد نے بیان کیا ہے؟
(A) امام ابن منبہ (B) امام ابن عبداللہ
(C) امام ابن قتیبہ (D) کوئی نہیں

67. حضرت ابو ہریرہؓ کا اصل نام کیا تھا؟
(A) حضرت عبدالرحمٰن ابن صخرؓ
(B) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ
(C) حضرت حذیفہ ابن صخرؓ
(D) حضرت عثمان ابن صخرؓ

68. حضرت ابو ہریرہؓ نے کتنی احادیث روایت کیں؟
(A) 5,000 (B) 5374
(C) 5474 (D) 6000

69. کون رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کا مرتب کردہ احادیث کا مجموعہ بعد میں "الصادقہ" کے نام سے مشہور ہوا تھا؟ (P.C.S J.2001)
(A) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ
(B) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ
(C) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص
(D) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ

70. اہل تشیع (فقہ جعفریہ) کے ہاں حدیث کی صرف چار کتابیں مستند سمجھی جاتی ہیں۔ یہ چار کتابیں کیا کہلاتی ہیں؟ (P.C.S. J.2002)
(A) صحاح اربعہ (B) اصول اربعہ
(C) شرح اربعہ (D) احادیث اربعہ

71. فقہ جعفریہ کی چار کتابیں یہ ہیں: الکافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام اور ......
(A) من لا یحضرہ الفقیہ ہیں
(B) الجامع ہیں

(C) اسماء الرجال ہیں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

72. اہل تشیع کی حدیث کی کتاب الکافی کے مولف کے نام بتائیں؟
(A) ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی (B) ابو محمد علی
(C) امام جعفر صادق (D) کوئی نہیں

73. من لا یحضرہ الفقیہ کے مولف ہیں۔
(A) ابو جعفر محمد علی ابن بابویہ قمی (B) ابو جعفر یعقوب
(C) ابو جعفر محمد حسن (D) کوئی نہیں

74. ابو جعفر یعقوب نے وفات کب پائی؟
(A) 339 ہجری (B) 340 ہجری
(C) 341 ہجری (D) 342 ہجری

75. تہذیب الاحکام کے مولف کا نام بتائیں؟
(A) ابو جعفر ابن حسن ابن حسین
(B) ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسی
(C) امام جعفر صادق (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

76. حدیث کی کتاب استبصار کے مولف کا نام بتائیں؟
(A) ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسی
(B) ابو جعفر محمد ابن الحسن الکاشی
(C) ابو جعفر محمد ابن الحسن الکارازی
(D) کوئی نہیں

77. کس کتاب کو مختصر کرنے کے بعد الاستبصار مدون کی گئی؟
(A) تہذیب الاحکام (B) الکافی
(C) من لا یحضرہ الفقیہ (D) کسی کو بھی نہیں

78. ابو جعفر محمد ابن الحسن کا انتقال کب ہوا؟
(A) 460ھ (B) 465ھ
(C) 470ھ (D) 475ھ

79. اس پہلی شخصیت کا نام بتائیں جن کے ذہن میں مستند احادیث کو جمع کرنے اور مرتب کرنے کا خیال آیا اور اسی لئے روایتی تدوین کا آغاز کیا گیا؟
(A) امام مالک (B) امام محمد
(C) امام محمد ابن اسماعیل البخاری
(D) امام احمد ابن حنبل

80. صحیح سے کیا مراد ہے؟
(A) مستند (B) تصدیق شدہ
(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

81. امام محمد ابن اسماعیل البخاری کی تالیف کیا کہلاتی ہے؟
(A) صحیح بخاری (B) صحیح مسلم
(C) صحیح مستند (D) کوئی نہیں

82. صحیح بخاری کی تدوین میں امام بخاری کو کتنا وقت لگا؟
(A) 10 برس (B) 12 برس
(C) 14 برس (D) 16 برس

83. صحیح بخاری میں موجود احادیث کی تعداد بتائیں جن کو امام بخاری نے 600,000 احادیث میں سے مرتب کیا تھا؟
(A) 400,000 (B) 100,000
(C) 5529 (D) 7397

84. امام بخاری 803 A.D میں پیدا ہوئے اور 869 A.D میں فوت ہوئے۔ ہجری سال بتائیں؟
(A) 194 ہجری کو پیدا ہوئے اور 256 ہجری کو فوت ہوئے۔
(B) 197 ہجری کو پیدا ہوئے اور 270 ہجری کو فوت ہوئے۔
(C) 200 ہجری کو پیدا ہوئے اور 262 ہجری کو فوت ہوئے۔
(D) 205 ہجری کو پیدا ہوئے اور 272 ہجری کو فوت ہوئے۔

85. صحیح بخاری سے متعلق درج ذیل میں سے کونسا بیان درست ہے
(A) احادیث کی کتب میں یہ سب سے زیادہ مستند کتاب ہے۔
(B) قرآن مجید کے بعد یہ سب سے بہترین کتاب کہی جاتی ہے۔
(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

86. صحیح بخاری کی 7,397 احادیث میں سے کتنی ایسی احادیث ہیں جو کہ ایک سے زیادہ بار دہرائی گئی ہیں؟
(A) 4,000 (B) 3,000

(C) 2,000 (D) 1,000

87. امام مسلم پیدا کب ہوئے؟
(A) 202 ہجری (B) 203 ہجری
(C) 204 ہجری (D) 205 ہجری

88. بہت سے علماء نے امام بخاری کی پیروی کی ان میں سے سب سے اہم کون تھے جن کی تالیف صحیح مسلم ہے؟
(A) امام مسلم ابن علی (B) امام مسلم ابن حجاج
(C) امام مسلم ابن بجاج (D) کوئی نہیں

89. 4,000 دہرائی ہوئی احادیث سمیت صحیح مسلم میں کتنی احادیث شامل ہیں؟
(A) 10,000 (B) 11,000
(C) 12,000 (D) 13,000

90. امام بخاری اور امام مسلم کا مجموعہ احادیث کیا کہلاتا ہے؟
(A) بہترین مجموعہ (B) صحیحین
(C) صحیح احادیث (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

91. امام مسلم نے وفات کب پائی؟
(A) 260 ہجری (B) 261 ہجری
(C) 262 ہجری (D) 263 ہجری

92. احادیث پر کن کی تالیف جامع الصحیحین کہلاتی ہیں؟
(A) امام بخاری (B) امام مسلم
(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

93. بہت سے علماء نے امام بخاری کی پیروی کی ان میں سے سب سے اہم کون تھے جن کی تالیف صحیح مسلم ہے؟
(A) امام مسلم ابن علی (B) امام مسلم ابن حجاج
(C) امام مسلم ابن بجاج (D) کوئی نہیں

94. امام مسلم کہاں پیدا ہوئے؟
(A) خراسان (B) حجاز
(C) نیشاپور (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

95. امام مسلم کے ہم عصر کون تھے؟
(A) امام ابن ماجہ (B) امام جعفر صادق
(C) امام بخاری (D) امام مالک

96. وہ کون تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کی نشاندہی کی کہ حدیث قرآن مجید کی ہی وضاحت ہے؟
(A) امام مسلم (B) امام بخاری
(C) امام محمد (D) امام مالک

97. کون سی حدیث متفق علیہ کہلاتی ہے؟
(A) جن کو امام بخاری نے بیان کیا ہو۔
(B) جن کو امام مسلم نے بیان کیا ہو۔
(C) امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بیان کیا ہو۔
(D) جن کو امام حدیث کی تمام کتب بیان کریں۔

98. متفق علیہ سے کیا مراد ہے؟
(A) ایک چیز پر اتحاد
(B) ایک چیز پر رضامندی
(C) ایک چیز سے جڑا رہنا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

99. ترمذی کا پورا نام کیا تھا؟
(A) امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی
(B) امام ابو حنیفہ محمد ابن عیسیٰ ترمذی
(C) امام حذیفہ ابن عیسیٰ ترمذی
(D) امام عبداللہ ابن عیسیٰ ترمذی

100. امام ترمذی کی تالیف کیا کہلاتی ہے؟
(A) صحیح ترمذی (B) جامع ترمذی
(C) ترمذی شریف (D) کوئی نہیں

101. کون حدیث اکٹھا کرنے والوں میں پانچویں نمبر پر آتے ہیں؟
(A) امام بخاری (B) امام مسلم
(C) ترمذی (D) الطبری

102. ترمذی 205 ہجری میں کہاں پیدا ہوئے؟
(A) تاشقند (B) نیشاپور
(C) خراسان (D) کوئی نہیں

103. ترمذی نے کب وفات پائی؟
(A) 270 ہجری (B) 273 ہجری
(C) 275 ہجری (D) 279 ہجری

104. امام ترمذی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے ....
(A) راویوں کے ناموں کی پہچان مقرر کی
(B) راویوں کے عرفیت کی پہچان مقرر کی
(C) راویوں کے القابات کی پہچان مقرر کی
(D) A، B اور C تینوں

105. امام ترمذی نے حضرت محمد ﷺ کی زندگی پر ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام بتائیں؟
(A) کتاب الشمائل (B) کتاب النبی
(C) کتاب الحمد (D) سیرت النبی

106. ابوداؤد نے ایک محدث کی حیثیت سے بہت شہرت حاصل کی۔ ان کی تالیف کا نام بتائیں؟
(A) السنن (B) النسائی
(C) الجامع (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

107. السنن یا سنن ابوداؤد کے مؤلف ابوداؤد سلیمان ابن اشعث سجستانی ....
(A) 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور 275 ہجری میں فوت ہوئے
(B) 205 ہجری میں پیدا ہوئے اور 280 ہجری میں فوت ہوئے
(C) 210 ہجری میں پیدا ہوئے اور 285 ہجری میں فوت ہوئے
(D) 215 ہجری میں پیدا ہوئے اور 290 ہجری میں فوت ہوئے

108. صحاح ستہ کی کس کتاب میں تمام فقہی مسائل کا ذکر موجود ہے؟
(A) سنن ابوداؤد (B) صحیح بخاری
(C) صحیح مسلم (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

109. سنن نسائی کے مؤلف کا نام بتائیں؟
(A) عبداللہ احمد ابن شعیب نسائی
(B) عبدالرحمٰن احمد ابن شعیب نسائی
(C) مسلم رحمٰن احمد ابن شعیب نسائی
(D) ابوحذیفہ احمد ابن شعیب نسائی

110. شعیب نسائی کب پیدا ہوئے؟
(A) 212 ہجری (B) 213 ہجری
(C) 215 ہجری (D) 216 ہجری

111. شعیب نسائی نے کب وفات پائی؟
(A) 303 ہجری (B) 307 ہجری
(C) 308 ہجری (D) 309 ہجری

112. ابن ماجہ کب پیدا ہوئے؟
(A) 200 ہجری (B) 205 ہجری
(C) 207 ہجری (D) 209 ہجری

113. سنن ابن ماجہ کے مؤلف ابوعبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ قزوینی نے وفات کب پائی؟
(A) 270 ہجری (B) 271 ہجری
(C) 272 ہجری (D) 273 ہجری

114. کس نے 99 ہجری میں احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا؟
(A) امیر معاویہؓ (B) یزید ابن معاویہ
(C) عمر ابن عبدالعزیزؒ (D) ابوالمالک

115. اس ام المومنین کا نام بتائیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں؟
(A) حضرت عائشہؓ (B) حضرت صفیہؓ
(C) حضرت جویریہؓ (D) حضرت سودہؓ

116. کتاب الآثار کے مؤلف کون ہیں؟
(A) امام مسلم (B) امام ترمذی
(C) امام ابوحنیفہ (D) ابن ماجہ

117. الجامع کس نے تصنیف کی؟
(A) امام سفیان ثوری (B) امام ابوحنیفہ
(C) امام بخاری (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

118. سنن ابن ماجہ کے علاوہ اور کن موضوعات پر بھی ابن ماجہ نے کتب تحریر کیں؟
(A) قرآن (B) تاریخ

(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

119. .... اسلامی تعلیمات کا دوسرا ماخذ ہے اور حدیث اس کا بیان اور ریکارڈ ہے؟

(A) احادیث کی کتب (B) سنت

(C) قرآن (D) کوئی نہیں

120. شاہ اللہ پانی پتی کی لکھی ہوئی کتاب مالابدمنہ کا تعلق کس قسم کی احادیث سے ہے؟

(A) روایت (B) درایت

(C) حدیث متواتر (D) حدیث مشہور

121. صحیفہ علی کچھ احادیث پر مشتمل ہے جن کا تعلق ....

(A) حدود کے مسائل سے ہے

(B) قصاص کے مسائل سے ہے

(C) A اور B دونوں

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

122. وہ خطوط جو نبی پاکؐ نے مختلف حکمرانوں کو لکھے احادیث کی کتب میں محفوظ ہیں ان میں سے کچھ اپنی اصلی حالت میں ....

(A) استنبول کے عجائب گھر میں محفوظ ہیں

(B) برطانیہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہیں

(C) A اور B دونوں

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

123. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ احادیث پر وہ کتابیں ہیں جو کہ ....

(A) صحاح ستہ کے نام سے معروف ہیں

(B) مستند کتب کے نام سے معروف ہیں

(C) صحیح کے نام سے معروف ہیں

(D) خمسیں کے نام سے معروف ہیں

124. کتب حدیث سے کیا مراد ہے؟

(A) چھ صحیح (B) تدوین حدیث

(C) سات صحیح (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

125. اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ کیا ہے؟

(A) حدیث (B) قیاس

(C) تاریخ (D) اجماع

126. وہ معاملات جن کی تفصیل ہم قرآن مجید میں نہیں پاتے ان کے بارے میں ہم کہاں سے مدد حاصل کرتے ہیں؟

(A) اجماع (B) روایت

(C) حدیث (D) قیاس

127. حدیث کی پہلی کتاب کو ______ نے مرتب کیا

(A) موطا امام مالک (B) صحیح مسلم

(C) صحیح بخاری (D) کوئی نہیں

128. Almos-ul-Mustafa کے مصنف کا نام بتائیں؟

(A) شاہ ولی اللہ (B) حاجی شریعت اللہ

(C) شاہ اسماعیل (D) سرسید احمد خان

129. حضرت ابوہریرہؓ سے کتنی احادیث منسوب ہیں؟

(A) ۵۰۷۴ (B) ۵۳۷۴

(C) ۵۲۷۴ (D) ۵۱۷۴

130. "اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے: "ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کردوں؟ کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں؟ (الحدیث)

یہ کونسی بابرکت رات ہے۔

(A) شب قدر (B) شب برات

(C) شب معراج (D) شب رحمت

131. صحیفہ ابوہریرہ کا مجموعہ احادیث ______ کی لائبریری میں محفوظ ہے۔

(A) لندن (B) قاہرہ

(C) برلن (D) مکہ

132. حدیث کے مطابق مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں

(A) کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جاری ہو

(B) ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہو

(C) اولاد کو بھی تربیت دی جا رہی ہو

(D) قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو

133. حدیث جبریل کے راوی کون ہیں؟

(A) حضرت ابوہریرہؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ (D) حضرت عبداللہ بن عمرؓ

134. جو تغیر نفس حدیث میں کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟

(A) مدرج الاسناد (B) مدرج المتن

(C) معجم (D) مسند

135. امام بخاریؒ نے صحیح بخاری میں کتنی احادیث کے حاشیہ پر ثلاثیات تحریر کیا ہے؟

(A) 22 (B) 30

(C) 33 (D) 333

136. حدیث نبوی ﷺ میں کس عمل کو چوٹی کا عمل قرار دیا گیا ہے؟

(A) نماز (B) روزہ

(C) جہاد (D) حج

137. وحی غیر متلو سے کیا مراد ہے؟

(A) حدیث قولی (B) حدیث فعلی

(C) حدیث تقریری (D) حدیث قدسی

138. حدیث جبریل کے راوی کون ہیں؟

(A) حضرت ابوہریرہؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ (D) حضرت عبداللہ بن عمرؓ

139. حضرت عائشہؓ سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟

(A) 1000 (B) 1525

(C) 1225 (D) 2210

140. صحیحین سے کیا مراد ہے؟

(A) قرآن وسنت (B) بخاری ومسلم

(C) مسلم ونسائی (D) بخاری وسنن ابن داؤد

141. مصطلح الحدیث کے مؤلف کون ہیں؟

(A) امام ابوعبدالرحمٰن (B) امام ابوداؤد

(C) ڈاکٹر محمود الطحان (D) عبدالغفار حسن

142. جو تغیر نفس حدیث میں کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟

(A) مدرج الاسناد (B) مدرج المتن

(C) معجم (D) مسند

143. امام بخاریؒ نے صحیح بخاری میں کتنی احادیث کے حاشیہ پر ثلاثیات تحریر کیا ہے؟

(A) 22 (B) 30

(C) 33 (D) 333

144. شریعت اسلامی کا دوسرا بنیادی ماخذ کون سا ہے؟

(A) فقہ (B) الفوز الکبیر

(C) حدیث (D) قیاس

145. مشہور حدیث کے راویوں کی ہر طبقہ میں تعداد کتنی ہونی چاہیے؟

(A) ایک (B) تین

(C) پانچ (D) سات

146. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے مؤلف کون ہیں؟

(A) امام ابن حجر عسقلانی

(B) امام ابن تیمیہ

(C) امام راغب اصفہانی

(D) علامہ غلام رسول رضوی

147. خبر مقبول کی کتنی اقسام ہیں؟

(A) تین (B) چار

(C) پانچ (D) چھ

148. حدیث جبریل کا موضوع کیا ہے؟

(A) معراج (B) ایمانیات

(C) وحی (D) سنت

149. حضرت عائشہؓ سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟

(A) دو ہزار دو سو دس (B) پندرہ سو پچیس

(C) ایک ہزار بیس (D) پانچ سو پچاس

150. صحیحین سے کیا مراد ہے؟
(A) کتاب الخراج (B) بخاری و ترمذی
(C) مسلم و نسائی (D) بخاری و مسلم

151. وحی غیر متلو سے کیا مراد ہے؟
(A) حدیث قولی (B) حدیث فعلی
(C) حدیث تقریری (D) حدیث قدسی

152. حضرت عائشہؓ سے مروی احادیث کتنی ہیں؟
1000 (A) 2210 (B)
2300 (C) 2215 (D)

153. صحاح ستہ سے مراد کون سی کتابیں ہیں؟
(A) احادیث (B) سیرت نبوی
(C) تفسیر قرآن (D) فقہ

154. ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔
(A) ارشاد نبوی ہے
(B) قرآنی آیت کا ترجمہ ہے
(C) محاورہ ہے (D) کہاوت ہے

155. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟
(A) جس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیس دیا کی کا بیان ہو
(B) جس میں مقدس مقامات کا ذکر ہو
(C) جس میں نبی اکرم ﷺ کی صفات کریمہ کا بیان ہو
(D) جس میں رسول اللہ ﷺ فرمائیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے

156. سب سے زیادہ احادیث کس صحابی رسول سے مروی ہیں؟
(A) حضرت خالد بن سعدؓ (B) حضرت عبداللہ بن عمرو
(C) حضرت ابوہریرہؓ (D) حضرت انس بن مالکؓ

157. صحاح ستہ سے مراد احادیث کی کتنی مستند کتابیں ہیں؟
(A) چار (B) پانچ
(C) چھ (D) سات

158. نبی اکرم ﷺ نے کس عمل کو دین کے کوہان کی چوٹی قرار دیا؟
(A) انفاق فی سبیل اللہ (B) نماز
(C) حج (D) جہاد

159. نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں..........؟
(A) اللہ کی عبادت کی جاتی ہو
(B) شرک نہ پایا جاتا ہو
(C) لوگوں کا ایمان خالص ہو
(D) کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہو

160. امام محمد بن اسماعیل کا تعلق کہاں سے تھا؟
(A) سمرقند (B) بخارا
(C) طبستان (D) ترکمانستان

161. سنن ابوداؤد میں کتنی احادیث شامل ہیں؟
4800 (A) 4700 (B)
4550 (C) 4850 (D)

جوابات

1. (D)	2. (B)	3. (B)	4. (D)	5. (C)	6. (A)	7. (D)	8. (B)
9. (A)	10. (C)	11. (A)	12. (C)	13. (B)	14. (D)	15. (B)	16. (A)
17. (C)	18. (A)	19. (C)	20. (A)	21. (A)	22. (C)	23. (A)	24. (C)
25. (C)	26. (A)	27. (A)	28. (D)	29. (B)	30. (C)	31. (A)	32. (B)
33. (A)	34. (A)	35. (B)	36. (D)	37. (B)	38. (A)	39. (B)	40. (C)
41. (B)	42. (C)	43. (A)	44. (A)	45. (D)	46. (C)	47. (B)	48. (C)
49. (A)	50. (C)	51. (A)	52. (C)	53. (C)	54. (A)	55. (D)	56. (C)
57. (C)	58. (C)	59. (C)	60. (A)	61. (A)	62. (B)	63. (C)	64. (A)
65. (A)	66. (A)	67. (A)	68. (B)	69. (C)	70. (B)	71. (A)	72. (A)
73. (A)	74. (A)	75. (B)	76. (A)	77. (C)	78. (A)	79. (C)	80. (C)
81. (A)	82. (D)	83. (D)	84. (A)	85. (C)	86 (A)	87. (A)	88. (B)
89. (C)	90. (B)	91. (B)	92. (C)	93. (B)	94. (C)	95. (C)	96. (B)
97. (C)	98. (B)	99. (A)	100. (B)	101. (C)	102. (C)	103. (D)	104. (D)
105. (A)	106. (A)	107. (A)	108. (A)	109. (B)	110. (C)	111. (A)	112. (D)
113. (D)	114. (C)	115. (A)	116. (C)	117. (C)	118. (C)	119. (B)	120. (B)
121. (C)	122. (C)	123. (A)	124. (A)	125. (A)	126. (C)	127. (A)	128. (A)
129. (B)	130. (A)	131. (C)	132. (A)	133. (B)	134. (B)	135. (A)	136. (C)
137. (D)	138. (B)	139. (D)	140. (B)	141. (C)	142. (B)	143. (A)	144. (C)
145. (B)	146. (A)	147. (B)	148. (B)	149. (A)	150. (D)	151. (D)	152. (B)
153. (A)	154. (A)	155. (D)	156. (C)	157. (C)	158. (D)	159. (D)	160. (B)
161. (A)							

محدثین کرام

1. قرآن مجید کے بعد معتبر ترین کتاب ہے۔
(A) موطا (B) ابوداؤد
(C) مسلم شریف (D) بخاری شریف

2. بخاری شریف کا اصلی نام ہے۔
(A) صحیح بخاری (B) الجامع الصحیح
(C) بخاری شریف (D) الجامع بخاری

3. صحیح بخاری کے مؤلف کا نام ہے۔
(A) ابوعبدالرحمٰنؒ احمد بن شعیب
(B) ابوعبداللہ محمد بن یزید
(C) ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل
(D) ابوعیسیٰؒ محمد بن عیسیٰ

4. مسلم و بخاری شریف میں احادیث کی تعداد ہے۔
(A) 5761 (B) 7563
(C) 5429 (D) 5274

5. بخاری شریف کو مرتب کرنے میں سال لگے۔
(A) 16 سال (B) 15 سال
(C) 14 سال (D) 13 سال

6. امام بخاریؒ کو احادیث زبانی یاد تھیں۔
(A) 3 لاکھ (B) 4 لاکھ
(C) 5 لاکھ (D) 6 لاکھ

7. امام بخاریؒ کا سال وفات ہے۔
(A) 273ھ (B) 275ھ
(C) 256ھ (D) 261ھ

8. ابوالحسن امام مسلمؒ بن حجاج کا سن وصال ہے۔
(A) 261ھ (B) 273ھ
(C) 275ھ (D) 279ھ

9. امام مسلمؒ نے جتنی احادیث میں سے اپنا مجموعہ مرتب کیا۔
(A) 2 لاکھ (B) 3 لاکھ
(C) 4 لاکھ (D) 5 لاکھ

10. علم حدیث میں امام مسلمؒ کے استاد تھے۔
(A) امام ابوحنیفہؒ (B) امام مالکؒ
(C) امام شافعیؒ (D) امام احمدؒ بن حنبل

11. امام مسلمؒ نے صحیح مسلم جتنے عرصے میں مکمل کی۔
(A) 13 سال (B) 14 سال
(C) 15 سال (D) 16 سال

12. صحیح مسلم کا صحاح ستہ میں درجہ ہے۔
(A) دوسرا (B) تیسرا
(C) چوتھا (D) پانچواں

13. حدیث کی تلاش میں گُمن کھاتے کھاتے جو چیز موت کا سبب بنی
(A) کھجوریں (B) انگور
(C) انار (D) انجیر

14. ابوعبداللہ محمدؒ بن یزید ابن ماجہ کا سال وفات ہے۔
(A) 256ھ (B) 261ھ
(C) 273ھ (D) 275ھ

15. ابن ماجہ میں کل احادیث ہیں۔
(A) 3956 (B) 4341
(C) 5274 (D) 5429

16. امام ترمذیؒ اور امام ابن ماجہؒ دونوں کا سال پیدائش ہے۔

(A) 239ھ (B) 229ھ
(C) 219ھ (D) 209ھ

17. امام ابوداؤد کا سال وصال ہے۔
(A) 275ھ (B) 280ھ
(C) 285ھ (D) 290ھ

18. امام ابوداؤدؒ سلیمان بن اشعث کے مجموعے میں احادیث ہیں۔
(A) 5429 (B) 5274
(C) 5761 (D) 4341

19. امام ابوداؤدؒ نے جتنی احادیث میں سے اپنے مجموعے کا انتخاب کیا۔
(A) 03 لاکھ (B) 04 لاکھ
(C) 05 لاکھ (D) 06 لاکھ

20. مشہور محدث جو ابوداؤدؒ کے شاگرد تھے۔
(A) امام مسلمؒ (B) امام ابن ماجہؒ
(C) امام نسائیؒ (D) امام ترمذیؒ

21. ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ کا سال وصال ہے۔
(A) 279ھ (B) 269ھ
(C) 259ھ (D) 249ھ

22. امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، امام داؤدؒ کے شاگرد ہیں۔
(A) امام شافعیؒ (B) امام احمدؒ
(C) امام ترمذیؒ (D) امام مالکؒ

23. ترمذی شریف میں احادیث ہیں۔
(A) 4341 (B) 3956
(C) 5274 (D) 5429

24. امام بخاریؒ اور امام ابوداؤدؒ کے شاگرد ہیں۔
(A) امام مالکؒ (B) امام شافعیؒ
(C) امام احمدؒ (D) امام نسائیؒ

25. امام نسائیؒ کا مدفن ہے۔
(A) کوفہ (B) مدینہ منورہ
(C) مکہ مکرمہ (D) بغداد

26. سنن نسائی کی کل مرویات ہیں۔
(A) 7563 (B) 4341
(C) 5274 (D) 5761

27. امام نسائیؒ کا پورا نام ہے۔
(A) احمد بن شعیب (B) محمد بن عیسیٰ
(C) محمد بن یزید (D) سلیمانؒ بن اشعث

28. امام نسائیؒ کا سال وصال ہے۔
(A) 302ھ (B) 303ھ
(C) 304ھ (D) 305ھ

29. صحابی جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔
(A) حضرت بلالؓ حبشی (B) حضرت عبداللہؓ بن مسعود
(C) حضرت عمروؓ بن عاص (D) حضرت ابوھریرہؓ

30. حضرت ابوھریرہؓ سے مرویات کی تعداد ہے۔
(A) 5174 (B) 5274
(C) 5374 (D) 5474

31. حضرت عبداللہؓ بن عمر سے روایات مروی ہیں۔
(A) 2630 (B) 2640
(C) 2650 (D) 2660

32. حضرت انسؓ بن مالک سے احادیث مروی ہیں۔
(A) 2186 (B) 2286
(C) 2386 (D) 2486

33. حضرت عائشہؓ کی روایات کردہ احادیث ہیں۔
(A) 2230 (B) 2220
(C) 2210 (D) 2200

34. حضرت عبداللہؓ بن عباس سے احادیث روایت ہیں۔
(A) 1660 (B) 1760
(C) 1860 (D) 1960

35. حضرت جابرؓ بن عبداللہ نے ۔۔۔ احادیث روایت کیں۔

(A) 1510 (B) 1520 (C) 1530 (D) 1540

36. حضرت ابو سعید خدریؓ سے ۔۔۔ روایات مروی ہیں۔

(A) 1160 (B) 1170 (C) 1180 (D) 1190

جوابات

1. (D)	2. (B)	3. (C)	4. (B)	5. (A)	6. (D)	7. (C)	8. (A)
9. (B)	10. (D)	11. (C)	12. (A)	13. (A)	14. (C)	15. (B)	16. (D)
17. (A)	18. (B)	19. (C)	20. (D)	21. (A)	22. (C)	23. (B)	24. (D)
25. (C)	26. (D)	27. (A)	28. (B)	29. (D)	30. (C)	31. (A)	32. (B)
33. (C)	34. (A)	35. (D)	36. (B)				

اجماع، قیاس اور اجتہاد

1. اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ ہے۔
(A) سنت (B) قیاس
(C) اجتہاد (D) اجماع

2. اجماع کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا
(B) مشاورت کرنا (C) نئے فیصلے کرنا
(D) اتفاق رائے

3. قوانین قرآن وسنت ناقابل تبدیل ہیں تو پھر اجماع کہاں کیا جاتا ہے؟
(A) جہاں قیاس ممکن نہ ہو
(B) جہاں علماء میں اختلاف رائے ہو جائے
(C) جہاں لوگوں کی رائے ایک ہو
(D) جہاں قرآن وسنت کسی قانون کے کسی پہلو کے بارے میں وضاحت نہ کرتے ہوں

4. ''میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا'' یہ کس کے الفاظ ہیں؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت محمد ﷺ (D) حضرت علیؓ

5. اجماع کی کتنی اقسام ہیں؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

6. اجماع کی قسم / قسمیں یہ ہے / ہیں ....
(A) حضرت محمدؐ کے ساتھیوں کا اجماع جو کہ ناقابل تبدیل ہے
(B) ماہرین قانون کا اجماع
(C) مسلم معاشرے کے عام لوگوں کا اجماع
(D) B، A اور C تینوں

7. ''ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو اور ان کے لئے اللہ سے تحفظ مانگو، ریاستی معاملات میں ان سے مشورہ لیا کرو'' یہ حدیث کس اسلامی رکن کے بارے میں ہے؟
(A) اجماع (B) قیاس
(C) اجتہاد (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

8. درج ذیل میں سے کونسا اسلامی قانون کا چوتھا ماخذ ہے؟
(A) اجماع (B) اجتہاد
(C) قیاس (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

9. قیاس سے مراد ہے کہ ....
(A) انسانی عقل کو استعمال کیا جائے موجودہ صورتحال کو کسی ایسی صورتحال کے ساتھ تقابل کر کے جس کے لئے پہلے سے قانون موجود ہو
(B) نئے قوانین بنانے کے لئے انسانی عقل کو استعمال کیا جائے
(C) نئے حالات کا جائزہ انسانی عقل کو استعمال کرتے ہوئے لیا جائے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں۔

10. ''اللہ کی کتاب سے رجوع کرو اور اگر تم اس میں وہ نہیں پاتے جو تم چاہتے ہو تو پھر سنت رسولؐ سے رجوع کرو اور اگر سنت رسولؐ سے بھی جو چاہتے ہو نہیں پاتے تو پھر اپنی عقل استعمال کرو۔'' یہ حدیث کس اسلامی قانون کے ماخذ سے متعلق ہے؟
(A) اجماع (B) قیاس
(C) اجتہاد (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

11. لفظ مطابقت ہم مطلب ہے۔
(A) اجماع کا (B) قیاس کا

(C) اجتہاد کا (D) سنت کا

12. کس کو نبی پاکؐ نے یمن میں گورنر مقرر کرتے ہوئے قیاس کی اجازت دی تھی؟
(A) معاذ ابن جبلؓ (B) زید ابن ثابتؓ
(C) امیر معاویہؓ (D) حضرت علیؓ

13. وہ کون سے امام تھے جنہوں نے قیاس کے مذہبی نظریے کو بہت نمایاں کیا۔
(A) امام ابوحنیفہ (B) امام مالک
(C) امام شافعی (D) امام حنبل

14. اسلامی طرز زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین و ضوابط کا جو مجموعہ بنی نوع انسان کو عطا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس پر عمل کرو کیا کہلاتا ہے؟
(A) قیاس (B) اجماع
(C) اجتہاد (D) شریعت

15. شریعت کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) ایک صاف سیدھا راستہ
(B) پیروی کرنے کے لیے ہدایات
(C) اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا
(D) واضح زندگی گزارنے کا راستہ

16. شریعہ یا شریعت کو ______
(A) قانون بھی کہتے ہیں
(B) اسلامی قانون بھی کہتے ہیں
(C) سنت و حدیث بھی کہتے ہیں
(D) کوئی نہیں

17. شریعت کا بنیادی ماخذ ______
(A) قرآن ہے (B) سنت ہے
(C) A اور B دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

18. کوشش کرنا مطلب ہے۔
(A) قیاس کا (B) سنت کا
(C) اجماع کا (D) اجتہاد کا

19. وہ معاملات جہاں قرآن اور سنت خاموش ہوتے ہیں مسلمانوں کو قرآن اور سنت کو ہی بنیاد بنا کر کونسا عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟
(A) قیاس (B) اجماع
(C) شریعت (D) اجتہاد

20. اجتہاد کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) اندازہ کرنا (B) دلچسپی
(C) امکان یا سہل العمل ہونا (D) جدوجہد

21. لفظ اجتہاد جہد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے
(A) جدوجہد یا دوڑ دھوپ کرنا (B) مشقت
(C) مصیبت اٹھانا (D) A، B اور C تینوں

22. شریعت کے مطابق اجتہاد کا مقصد ہے
(A) اسلامی حکم اجتماعی تلاش کرنا
(B) نئے قوانین بنانا
(C) نئی ہدایات تلاش کرنا
(D) نئے ماحول کے مطابق مطابقت اختیار کرنا

23. درج ذیل میں سے اجتہاد کی کونسی قسمیں ہیں؟
(A) اجماع (B) قیاس
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

24. وہ کوششیں کیا کہلاتی ہیں جو کہ قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر اسلامی قوانین کو جمع کرنے اور مرتب کرنے میں صرف کی جاتی ہیں؟
(A) فقہ (B) اجماع
(C) قیاس (D) اجتہاد

25. فقہ اسلامی قوانین کی ______
(A) عملی شکل ہے (B) تشریح ہے
(C) سائنس ہے (D) کوئی نہیں

26. فقہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(A) حکم بجا لانا (B) پیروی کرنا
(C) سمجھنا (D) قانون بنانا

27. وہ کون سے خلیفہ تھے جنہوں نے اجتہاد کے میدان میں بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا تھا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

28. حضرت عمرؓ کا پہلا اجتہادی لفظ ______ کی وضاحت سے متعلق تھا۔
(A) چور (B) زنا
(C) فقہ (D) اجتہاد

29. کس خلیفہ نے چور کو چاہے وہ عورت ہو یا مرد بھوک یا قحط کے دوران چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا سے مستثنیٰ قرار دیا تھا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

30. حضرت عمرؓ نے کن چوروں کو ہاتھ کاٹنے کی سزا سے مستثنیٰ قرار دیا تھا؟
(A) ایک غلام جو کہ خود بھی مالک کی جائیداد کا حصہ ہونے کی وجہ سے مالک کی چیز چراتے ہوئے چور تصور نہ ہوگا۔
(B) وہ چور جو بیت المال سے چوری کرے
(C) A اور B دونوں
(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

31. بہترین اسلامی قانون مرتب کرنے والے عوامل کتنے ہیں؟
(A) 4 (B) 6
(C) 8 (D) 10

32. حنفی فقہ کے ماننے والے امام ابوحنیفہ کے پیروکار ہیں۔ ابوحنیفہ کا اصل نام کیا تھا؟
(A) نعمان ابن ثابت (B) نعمان ابن عقیل
(C) عبداللہ ابن ثابت (D) عبداللہ ابن عقیل

33. 699 عیسوی میں امام ابوحنیفہ کہاں پیدا ہوئے؟
(A) کوفہ (B) بصرہ
(C) مصر (D) یمن

34. اس عباسی خلیفہ کا نام بتائیں جس نے امام ابوحنیفہ کو قاضی القضاۃ کا عہدہ پیش کیا تھا؟
(A) ابو مسلم (B) ابو منصور جعفر
(C) ہارون الرشید (D) مامون الرشید

35. امام ابوحنیفہ حالت قید میں فوت ہوئے۔ وہ کب فوت ہوئے؟
(A) 765 عیسوی (B) 766 عیسوی
(C) 767 عیسوی (D) 780 عیسوی

36. درج ذیل میں سے کون امام ابوحنیفہ کے شاگرد تھے؟
(A) امام ابو یوسف (B) امام محمد ابن حسن
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

37. خلیفہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف کو کون سا عہدہ دیا
(A) قاضی القضاۃ (B) خزانچی
(C) وزیر خاص (D) کوئی نہیں

38. امام ابو یوسف کی اس کتاب کا نام بتائیں جو کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں شائع ہوئی؟
(A) کتاب الحق (B) کتاب الخراج
(C) کتاب المال (D) کتاب المبسوط

39. امام ابوحنیفہ کے شاگرد امام محمد ابن حسن نے کونسی کتاب لکھی؟
(A) المبسوط (B) الجامع
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

40. حنفی فقہ کے زیادہ تر پیروکار ______
(A) پاکستان میں رہتے ہیں
(B) افغانستان میں رہتے ہیں
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

41. مالکی فقہ کے امام کون ہیں؟
(A) امام مالک ابن انس (B) امام مالک ابن حذیفہ
(C) امام مالک ابن اسداللہ (D) امام مالک ابن عوف

42. امام مالک مدینہ میں کب پیدا ہوئے؟
(A) 92 ہجری (B) 93 ہجری
(C) 94 ہجری (D) 95 ہجری

43. امام مالک حدیث کی مسند کتاب ______ کے مصنف ہیں۔
(A) سنن داؤد (B) الموطاء
(C) صحیح بخاری (D) کوئی نہیں

44. امام مالک کا لقب کیا تھا؟
(A) دارالامام (B) دارالحق
(C) دارالہجرت (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

45. اندلس میں اموی حکومت کا سرکاری مذہب کیا تھا؟
(A) شافعی (B) مالکی
(C) یوسفی (D) کوئی نہیں

46. مندرجہ ذیل میں سے کون امام مالک کے شاگرد تھے؟
(A) ہارون الرشید (B) مامون الرشید
(C) امین الرشید (D) A اور B اور C تینوں

47. تیسرے امام شافعی کا اصل نام کیا تھا؟
(A) محمد ابن ادریس (B) محمد ابن انیس
(C) محمد ابن حق (D) محمد ابن عقیل

48. امام شافعی کہاں پیدا ہوئے؟
(A) ایران (B) عراق
(C) مصر (D) فلسطین

49. امام شافعی فوت کب ہوئے؟
(A) 205 ہجری (B) 204 ہجری
(C) 206 ہجری (D) 207 ہجری

50. کس کی حکومت نے مصر میں شافعی مذہب کو ختم کر دیا تھا؟
(A) فاطمی حکومت (B) صفوی حکومت
(C) سلفی حکومت (D) اموی حکومت

51. وہ کون تھے جنہوں نے پھر سے شافعی فقہ کو مصر میں زندہ کیا تھا؟
(A) سلطان صلاح الدین ایوبی
(B) ہارون الرشید
(C) مامون الرشید (D) منصور جعفر

52. درج ذیل کتب میں سے کونسی کتاب امام شافعی نے تحریر کی تھی؟
(A) کتاب الام (B) کتاب ہجرت
(C) کتاب مبسوط (D) کتاب الجامع

53. امام حنبل چوتھے امام تھے ان کا پورا نام کیا تھا؟
(A) احمد ابن حنبل (B) اسد ابن حنبل
(C) وہب ابن حنبل (D) یوسف ابن حنبل

54. 164 ہجری میں امام حنبل کہاں پیدا ہوئے؟
(A) کوفہ (B) مصر
(C) یمن (D) بغداد

55. خلق قرآن کے فتنے کی مخالفت پر امام حنبل کو کس خلیفہ نے جیل میں بند کر دیا تھا؟
(A) امام ابو یوسف (B) امام حسن
(C) معتصم باللہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

56. امام احمد ابن حنبل نے..........
(A) مسند کے نام سے ایک کتاب لکھی
(B) کتاب الاعمال کے نام سے ایک کتاب لکھی
(C) کتاب المسائل کے نام سے ایک کتاب لکھی
(D) A، B اور C تینوں

57. محمد ابن وہاب نے "اصلاح مذہب" کے نام سے کہاں تحریک شروع کی تھی؟
(A) کوفہ (B) بصرہ
(C) بغداد (D) نجد

58. امام دارالہجرت لقب ہے۔

(A) حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا
(B) امام مالکؒ کا
(C) امام شافعیؒ کا
(D) امام محمدؒ کا
(E) کوئی نہیں

59. فتویٰ قاضی خان ایک مستند فتویٰ ہے۔

(A) فقہ جعفریہ کا (B) فقہ مالکی کا
(C) فقہ حنفی کا (D) کوئی نہیں

60. امام ابوحنیفہؒ کب پیدا ہوئے؟

(A) 50 ہجری (B) 60 ہجری
(C) 70 ہجری (D) 80 ہجری

61. کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی۔

(A) امام مالکؒ (B) امام شافعیؒ
(C) امام احمد بن حنبلؒ (D) امام ابوحنیفہؒ

62. امام مالک کہاں پیدا ہوئے؟

(A) قاہرہ (B) کوفہ
(C) مدینہ منورہ (D) دمشق

63. قانون اسلامی کا چوتھا ماخذ کیا ہے؟

(A) سنت (B) اجتہاد
(C) قیاس (D) اجماع

64. فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی۔

(A) امام زیدؒ بن علی (B) امام مالکؒ
(C) امام ابویوسفؒ (D) امام اوزاعی

65. آئمہ اربعہ سے کتنے امام مراد ہیں؟

(A) 2 (B) 4
(C) 6 (D) 12

61. نعمان بن ثابت کس کا نام ہے؟

(A) امام ابویوسفؒ (B) امام زفرؒ
(C) امام ابوحنیفہؒ (D) امام تیمیہؒ

67. فتاوی قاضی خان کس فقہ کا مجموعہ فتاوی ہے؟

(A) فقہ اوزاعی (B) فقہ حنفی
(C) فقہ شافعی (D) فقہ جعفری

68. اسلامی فقہ کے بنیادی ماخذ ہیں؟

(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

69. امام ابوحنیفہؒ تھے؟

(A) فلاسفر (B) مفسر
(C) فقیہ (D) محدث

70. قیاس کے کتنے ارکان ہیں؟

(A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 5

71. امام شافعی کی تاریخ وفات کیا ہے؟

(A) 200ھ (B) 204ھ
(C) 206ھ (D) 205ھ

72. صاحبین کن فقہا کو کہا جاتا ہے؟

(A) امام ابوحنیفہ و امام ابو یوسف
(B) امام ابوحنیفہ اور امام زفر
(C) امام محمد اور امام ابو یوسف
(D) امام مالک و امام زفر

73. ''مصالح مرسلہ'' کس فقیہ کا طرز استدلال تھا؟

(A) امام شافعیؒ (B) امام مالکؒ
(C) امام ابوحنیفہؒ (D) امام تیمیہؒ

جوابات

1. (D)	2. (D)	3. (D)	4. (C)	5. (C)	6. (D)	7. (A)	8. (C)
9. (A)	10. (B)	11. (B)	12. (A)	13. (A)	14. (D)	15. (A)	16. (B)
17. (C)	18. (D)	19. (D)	20. (D)	21. (A)	22. (D)	23. (C)	24. (D)
25. (A)	26. (C)	27. (B)	28. (A)	29. (B)	30. (C)	31. (A)	32. (A)
33. (A)	34. (B)	35. (C)	36. (C)	37. (A)	38. (B)	39. (C)	40. (C)
41. (A)	42. (B)	43. (B)	44. (C)	45. (B)	46. (D)	47. (A)	48. (C)
49. (B)	50. (A)	51. (A)	52. (A)	53. (A)	54. (D)	55. (C)	56. (D)
57. (D)	58. (B)	59. (C)	60. (D)	61. (D)	62. (C)	63. (C)	64. ()
65. (B)	66. ()	67. (B)	68. (C)	69. (C)	70. (A)	71. (B)	72. (C)
73. ()							

اسلامی اصطلاحات

1. اداء سے کیا مراد ہے؟
(A) وہ عبادات جو اس کے متعین وقت پر ادا کی جائے
(B) وہ عبادات جو اس کے متعین وقت پر ادا نہ کی جائے
(C) وہ عبادات جو ادا نہ کی جائے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

2. درج ذیل میں سے کون سی اصطلاح اس عمل کو ظاہر کرتی ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ جہاں کہیں بھی نماز جمعہ ادا ہو رہی ہو وہاں پر ہر شخص کو بغیر کسی رکاوٹ کے نماز ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟
(A) اذان جمعہ　(B) اذان عام
(C) اذان خاص　(D) اذان اکبر

3. ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں جس نے کسی سے بھی لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو؟
(A) ان پڑھ　(B) جاہل
(C) امی　(D) غافل

4. وہ کام کیا کہلاتے ہیں جن کو کر لیں تو ثواب ہے اور اگر نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا؟
(A) مکروہ　(B) مستحب
(C) نفل　(D) مباح

5. حج کا لباس ایک مخصوص طریقے سے پہنا جاتا ہے۔ اس کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟
(A) اضطباع　(B) احرام
(C) استلام　(D) آفاقی

6. ان میں سے کون سا وہ کام ہے جس کو اگر کیا جائے تو ثواب ہے اور اس کو ترک کرنا کوئی گناہ نہیں ہے؟
(A) مکروہ تنزیہی　(B) مباح
(C) مستحب　(D) مکروہ تحریمی

7. میقات سے باہر رہنے والے لوگوں کے لیے کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟
(A) المیسر　(B) آفاقی
(C) استلام　(D) اضطباع

8. ایک مکمل طور پر وضاحت کیے ہوئے قرآن پاک کے قانون کو کیا کہتے ہیں؟
(A) استحسان　(B) ناسخ
(C) نص　(D) اقتداء

9. کسی پر زنا کے الزام کو کیا کہتے ہیں جو اگر جھوٹا ثابت ہو تو اس کی سزا 80 کوڑے ہوتے ہیں؟
(A) حدود　(B) قذف
(C) قصاص　(D) دیت

10. لفظ قبلہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) مشرقی رخ　(B) مغربی سمت
(C) ایک ایسی چیز جو سامنے ہو
(D) ایک ایسی چیز جو خلا میں ہو

11. صابی کس کو کہتے ہیں؟
(A) عظیم جنگجو
(B) ایسا شخص جو اسلام کا علم رکھتا ہو
(C) جو اپنا مذہب تبدیل کرے
(D) توحید پرست

12. سدرۃ المنتہیٰ کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(A) جنت کا آخری درخت (B) آخری ابدی درخت
(C) آخری خوبصورت درخت (D) مقدس درخت

13. مدینہ میں موجود مسجد نبوی کے اندر وہ سایہ دار جگہ کیا کہلاتی ہے جہاں پر غریب لوگ اور مہاجر پناہ لیا کرتے تھے؟
(A) السائبہ (B) الصفہ
(C) الکہف (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

14. ان میں سے کون سی اصطلاح کا مطلب ہے غیر قانونی اور غیر شرعی؟
(A) مکروہ تحریمی (B) مکروہ تحریمی
(C) مباح (D) مستحب

15. نماز کے دوران اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھنا کیا کہلاتا ہے؟
(A) استقبال قبلہ (B) اقتدا قبلہ
(C) اقامت قبلہ (D) انضباط قبلہ

16. ایک اسلامی ریاست میں حکومت کی طرف سے متعین کیے ہوئے اس فرد کو کیا کہتے ہیں جس کے ذمہ زکوۃ جمع کرنا ہوتا ہے؟
(A) جاسم (B) جبی
(C) جراح (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

17. گولیتھ (Golith) سے کیا مراد ہے؟
(A) شداد (B) طالوت
(C) جالوت (D) نمرود

18. آپ خاشیہ سے کیا مراد لیتے ہیں؟
(A) اللہ کا خوف (B) ظالم حکمران کا خوف
(C) معاشرے کا خوف (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

19. اوساط مفصل سے کیا مراد ہے؟
(A) سورۃ الطارق سے لے کر سورۃ البینہ تک سورتیں اوساط مفصل کہلاتی ہیں۔
(B) تمام سورتیں اوساط مفصل کہلاتی ہیں۔
(C) آخری پانچ سورتیں اوسط مفصل کہلاتی ہیں
(D) سورہ البقرہ اوساط مفصل کہلاتی ہے

20. اوقیہ کیا ہے؟
(A) ایک وزن جو کہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے
(B) ایک وزن جو کہ 50 درہم کے برابر ہوتا ہے
(C) ایک وزن جو کہ 60 درہم کے برابر ہوتا ہے
(D) ایک وزن جو کہ 70 درہم کے برابر ہوتا ہے

21. ایام بیض کن کو کہتے ہیں؟
(A) چاند کے مہینے کی 13 تاریخ
(B) چاند کے مہینے کی 14 تاریخ
(C) چاند کے مہینے کی 15 تاریخ
(D) B,A اور C تینوں

22. کسی بھی زبان میں نمازیوں کو نماز کیلئے تیار کرنے کیلئے جو الفاظ اذان اور اقامت کے درمیان بولے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟
(A) تحقیق (B) اوقیہ
(C) تثویب (D) بشارات

23. لیلۃ البراۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) توبہ کی رات (B) شان و شوکت کی رات
(C) معافی کی رات (D) حساب کی رات

24. درج ذیل میں سے کس کے لغوی معنی ہیں بھلائی طلب کرنا؟
(A) استخارہ (B) استغفار
(C) تزکیہ (D) خاشیہ

25. قرآن مجید میں سورۃ "ق" سے لے کر آخر تک کی سورتیں کیا کہلاتی ہیں؟
(A) مفصل (B) مختصر
(C) اوساط مفصل (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

26. ایسے شخص جس کو حج یا عمرے سے ارادہ کرنے کے بعد روک دیا گیا ہو پر قربانی واجب ہوتی جو کہ
(A) دم احصار کہلاتی ہے (B) دم تحویب کہلاتی ہے
(C) دم اوساط کہلاتی ہے (D) وجبی کہلاتی ہے

27. ایسا شخص جسے حج یا عمرے سے اس کے ارادہ کرنے کے بعد روک دیا گیا ہو کیا کہلاتا ہے؟

(A) تثویب (B) محصر
(C) تسبیح (D) تشیع

28. جب ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ نماز کیا کہلاتی ہے جو کہ ایک نمازی نماز سے پہلے ادا کرتا ہے۔ یہ فرض نہیں نفل ہے اور دو رکعت یا پھر اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے؟

(A) تحیۃ المسجد (B) تسبیحات المسجد
(C) تحویات المسجد (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

29. تقسیم زکوٰۃ کا فرض کسی مناسب اور قابل اعتبار شخص کے ہاتھ میں دینا چاہئے جو کہ اس کو اپنی مرضی سے ایمانداری سے تقسیم کر سکے۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟

(A) تملیک (B) تمتع
(C) تعدیل (D) تیامن

30. اسلامی قوانین کے مطابق مرتد کا سر کاٹ دینے کا حکم ہے۔ مرتد کون ہوتا ہے؟

(A) کافر (B) منافق
(C) ایسا مسلمان جو اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنا لے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

31. نصاریٰ پیروکار ہیں.......

(A) یہودی عقیدے کے (B) ہندو عقیدے کے
(C) عیسائی عقیدے کے (D) مجوسی عقیدے کے

32. قرآن پاک کی وہ آیت کیا کہلاتی ہے جو کہ پچھلی کو منسوخ کر دے؟

(A) ناس (B) منسوخ
(C) ناسخ (D) متروک

33. وہ شخص کیا کہلاتا ہے جو کہ باجماعت نماز ادا کراتا ہے؟

(A) امام (B) مسبوق
(C) تثویب (D) تیامن

34. وہ شخص جس نے حضرت محمد ﷺ کو دیکھا ہو اور پھر حالت اسلام میں مرا ہو کیا کہلاتا ہے؟

(A) تابعی (B) صحابی
(C) انصاری (D) تبع تابعین

35. لا الٰہ الا اللہ کہنا کیا کہلاتا ہے؟

(A) تسبیح (B) تسلیم/تحمید
(C) تہلیل (D) تیامن

36. سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کو کیا کہتے ہیں؟

(A) تیامن (B) جبیرہ
(C) ثناء (D) تعدیل

37. انفاق سے کیا مراد ہے؟

(A) خیرات کرنا (B) روزے رکھنا
(C) اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرنا
(D) باقاعدگی سے نماز ادا کرنا

38. وہ کام جو مذہبی نقطہ نظر سے ناپسندیدہ ہو لیکن قابل سزا نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟

(A) حرام (B) مکروہ
(C) تقدیم (D) تعدیل

39. مسجد الاقصیٰ کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(A) سب سے زیادہ خوبصورت مسجد
(B) سب سے زیادہ مقدس مسجد
(C) سب سے زیادہ دور مسجد
(D) سب سے زیادہ عزت والی مسجد

40. مسجد قبا کو......

(A) مسجد تقویٰ بھی کہتے ہیں۔
(B) مسجد حرام بھی کہتے ہیں
(C) مسجد اعلیٰ بھی کہتے ہیں
(D) مسجد اکبر بھی کہتے ہیں

41. کراماً کاتبین کا لقب کیا ہے؟
(A) تسبیح الخیر (B) المعقبات
(C) تشکیلات (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

42. مباح کا لفظ مطلب ہوتا ہے۔
(A) منع کیا ہوا (B) اجازت دیا ہوا
(C) سویا ہوا (D) ردیا ہوا

43. المعوذتین سے کیا مراد ہے؟
(A) سورہ الفلق (B) سورہ الناس
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

44. مکمل دلجمعی سے نماز پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟
(A) تعدیل ارکان (B) تحلیل ارکان
(C) جبیر ارکان (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

45. جمع بین الصلوٰۃ سے کیا مراد ہے؟
(A) دو نمازیں اکٹھی پڑھنا
(B) کوئی ایک نماز چھوڑ دینا
(C) مقررہ وقت پر نماز پڑھنا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

46. ایک شخص ایک نماز اس وقت پڑھتا ہے جب اس کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہوتا ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے اور وہ دوسری نماز اس وقت پڑھتا ہے جب اس کا وقت ابھی شروع ہی ہوا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟
(A) جمع بین الصلوٰۃ (B) جمع صوری
(C) جمع حقیقی (D) جمع تقدیم

47. وہ عمل کیا کہلاتا ہے جس میں ایک شخص اگلی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اسے پچھلی نماز کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ مثلاً ظہر کے ساتھ نماز عصر کی ادائیگی؟
(A) جمع تاخیر (B) جمع صوری
(C) جمع تقدیم (D) جمع حقیقی

48. کون سا دن سید الایام کہلاتا ہے؟
(A) اتوار (B) ہفتہ
(C) جمعہ (D) منگل

49. ______ شعبان شب برات کہلاتی ہے۔
(A) 12 (B) 13
(C) 14 (D) 15

50. سید الشہور (مہینوں کا سردار) سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟
(A) حج کا مہینہ (B) رمضان کا مہینہ
(C) شعبان کا مہینہ (D) رجب کا مہینہ

51. اسلام کے قوانین کے علم احکام کہلاتے ہیں۔ ایسے احکام جو فرض نہ ہوں کیا کہلاتے ہیں؟
(A) سنت (B) مستحب
(C) مباح (D) نفل

52. حلال کا مطلب ہے ______
(A) قانونی (B) اجازت دیا ہوا
(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

53. وہ لوگ جن کو کوئی آسمانی کتاب یا صحیفہ دیا گیا ہوتا ہے اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ اہل کتاب کون ہیں؟
(A) عیسائی (B) یہودی
(C) مسلمان (D) A'B اور C تینوں

54. عبادت کا وہ درجہ کیا کہلاتا ہے جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا پھر اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟
(A) [illegible] (B) احترام
(C) احسان (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

55. طلاق کی وہ عارضی شکل کیا کہلاتی ہے جس میں ایک شخص قسم کھاتا ہے کہ وہ مخصوص وقت تک بیوی سے تعلقات نہیں رکھے گا؟
(A) ایلاء (B) خلع
(C) القاء (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

56. القاء سے کیا مراد ہے؟
(A) اللہ کی طرف سے کوئی تعلیم دل میں ڈال دینا
(B) ایک شوہر کی بیوی کو طلاق
(C) عورت کا شوہر سے خلع
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

57. کون سا شہر ایلیا کہلاتا ہے؟
(A) مکہ (B) کوفہ
(C) بصرہ (D) یروشلم

58. وہ جانور کیا کہلاتا ہے جس پر نبی پاک معراج پر گئے تھے؟
(A) براق (B) ایلا
(C) القاء
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

59. عترۃ النبی کون کہلاتے ہیں؟
(A) حضرت محمد ﷺ کی اولاد
(B) حضرت محمد ﷺ کی ازواج مطہرات
(C) حضرت محمد ﷺ کے رشتہ دار
(D) حضرت محمد ﷺ کے ساتھی

60. چاند گرہن کے موقعہ پر جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
(A) خسوف (B) طلقہ
(C) عقیقہ (D) کسوف

61. وہ عمل کیا کہلاتا ہے جس کے ذریعے ہر جانور کی جلد سوائے سؤر کے حلال ہوتی ہے؟
(A) دباغت (B) رقاس
(C) رمل (D) رمی

62. کسی غلط کام کے عوض پیسے خوراک اور کپڑے کی صورت میں تلافی ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟
(A) خیرات (B) فدیہ
(C) عشر (D) جزیہ

63. بغیر کسی بدلے کے پیش نظر فوری انتقال جائیداد کا عمل کیا کہلاتا ہے؟
(A) (Huba) ہُبا (B) (Hiba) ہبہ
(C) انتقال
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

64. رکاز سے کیا مراد ہے؟
(A) وہ چیزیں جو قدرتی طور پر زمین میں دفن ہوتی ہیں
(B) وہ چیزیں جو مصنوعی طریقے سے زمین میں دفن کی جاتی ہیں
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

65. ترویج سے کیا مراد ہے؟
(A) شادی کا سمجھوتہ (B) معاشی سمجھوتہ
(C) معاشرتی سمجھوتہ (D) تجارتی سمجھوتہ

66. ذوالجنین سے کیا مراد ہے؟
(A) حضرت ابوبکرؓ کے ہیلمٹ کا لقب تھا
(B) حضرت عمرؓ کے ہیلمٹ کا لقب تھا
(C) حضرت عثمانؓ کے ہیلمٹ کا لقب تھا
(D) حضرت علیؓ کے ہیلمٹ کا لقب تھا

67. طلقاء کون کہلاتے ہیں؟
(A) جنہوں نے غزوہ حنین کے موقعہ پر اسلام قبول کیا تھا
(B) جنہوں نے فتح مکہ کے موقعہ پر اسلام قبول کیا تھا
(C) جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقعہ پر اسلام قبول کیا تھا
(D) جنہوں نے فتح خیبر کے موقعہ پر اسلام قبول کیا تھا

68. عقبیٰ سے کیا مراد ہے؟
(A) آخر (B) اخروی زندگی
(C) سزا اور جزا (D) B، A اور C تینوں

69. عقوق سے کیا مراد ہے؟
(A) اساتذہ کی نافرمانی (B) بڑوں کی نافرمانی
(C) والدین کی نافرمانی (D) خلیفہ کی نافرمانی

70. اسلامی اصطلاح میں خونی رشتوں کو کیا کہتے ہیں؟
(A) عقبہ (B) ولاء
(C) ولی (D) امین

71. وقف سے کیا مراد ہے؟
(A) وہ جائیداد جو اپنے بچوں کے لئے مخصوص کردی جائے
(B) وہ جائیداد جو غریبوں کے لئے مخصوص کردی جائے
(C) وہ جائیداد جو اللہ کے لئے وقف کردی جائے
(D) وہ جائیداد جو عورتوں کے لئے وقف کردی جائے

72. الذبانیہ کون ہیں؟
(A) جنت کے فرشتے (B) دوزخ کے فرشتے
(C) خوراک کے فرشتے (D) قبر کے فرشتے

73. وہ فرض کیا کہلاتا ہے جو ہر شخص پر پورا کرنا لازمی ہوتا ہے؟
(A) فرض عین (B) فرض کفایہ
(C) فرض لازم (D) کوئی نہیں

74. وہ فرض کیا کہلاتا ہے، جس کو پورا کرنا ہر ایک پر لازمی نہیں ہوتا؟
(A) فرض کفایہ (B) فرض کفارہ
(C) فرض عین (D) فرض عبادت

75. اذان کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) اطلاع دینا (B) پکارنا
(C) ہدایت دینا (D) آواز دینا

76. آمین کا کیا مطلب ہے؟
(A) اللہ کی رحمت ہو (B) اللہ سنتا ہے
(C) اللہ قبول کرے (D) اللہ انعام دے

77. نیت سے کیا مراد ہے؟
(A) ارادہ کرنا (B) آگے دیکھنا
(C) خیال رکھنا (D) شروع کرنا

78. کافر کون ہے؟
(A) جو اللہ پر ایمان نہ رکھے
(B) جو اللہ کے رسول پر ایمان نہ رکھے
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

79. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے کافر کہلاتے ہیں۔ بتائیے دین میں نئی چیزیں شامل کرنا کیا کہلاتا ہے؟
(A) شرک (B) کفر
(C) بدعت (D) افادہ

80. جو شخص کسی کھلی جگہ پر نماز پڑھتا ہے وہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھتا ہے۔ یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟
(A) ستر (B) سترہ
(C) رفاس (D) رحل

81. یوم ترویہ سے کونسا دن مراد ہے؟
(A) 8 ذی الحج (B) 9 ذی الحج
(C) 10 ذی الحج (D) 11 ذی الحج

82. مغرب کے بعد دو دو کر کے چھ رکعت ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟
(A) صلوۃ الاوابین (B) صلوۃ العصر
(C) صلوۃ الخیر (D) صلوۃ التاخیر

83. وہ جانور جو گھاس پھوس کھاتے ہیں اور دودھ کے لئے رکھے جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟
(A) سائمہ (B) سائم
(C) رحل (D) رمی

84. عاشور سے کیا مراد ہے؟
(A) آمدنی پر لگایا گیا ٹیکس (B) جائیداد پر لگایا گیا ٹیکس
(C) کسٹم ڈیوٹی
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

85. کون سی سورتیں قصار مفصل کہلاتی ہیں؟
(A) سورۃ الزلزال سے سورۃ الناس تک
(B) سورۃ البقرہ سے سورۃ آل عمران تک
(C) سورۃ آل عمران سے سورۃ الناس تک
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

86. وہ نماز کیا کہلاتی ہے جو کہ دشمن کے عذاب سے بچنے کے لئے پڑھی جاتی ہے؟
(A) صلوۃ کفایہ (B) صلوۃ نازلہ
(C) قنوت نازلہ (D) صلوۃ قنوت

87. قیراط کیا ہے؟
(A) جانور (B) وزن
(C) پرندہ (D) بازار

88. مصر جامع سے کیا مراد ہے؟
(A) وہ جگہ جہاں بازار لگایا جاسکتا ہو
(B) وہ جگہ جہاں نماز جمعہ پڑھی جاسکتی ہو
(C) وہ جگہ جہاں نماز جمعہ نہ پڑھی جاسکتی ہو
(D) وہ جگہ جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو

89. وہ عمل جو وضو توڑ دیتا ہے کیا کہلاتا ہے؟
(A) مصر وضو (B) نواقض وضو
(C) خشتال وضو (D) مسبوق وضو

90. وسق ایک وزن ہے جو کہ برابر ہوتا ہے۔
(A) ایک اونٹ کے
(B) ایک بکری کے
(C) ایک گائے کے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

91. مرد و عورت کے جسم کے وہ حصے جو ضروری طور پر ڈھکے ہوئے چاہئیں کیا کہلاتے ہیں؟
(A) ستر
(B) عورۃ
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

92. مسافر کون کہلاتا ہے؟
(A) جو کم از کم تین دن یا 73 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو
(B) جو کم از کم چار دن یا 76 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو
(C) جو کم از کم پانچ دن یا 79 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو
(D) جو کم از کم چھ دن یا 82 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو

93. عارضی اور اضافی ٹیکسوں کو کیا کہتے ہیں۔
(A) عشور (B) فئے
(C) نوائب (D) ضرائب

94. "اسفل السافلین" کے معنی ہیں۔
(A) صنعتوں والی جگہ
(B) دوزخ
(C) جنت
(D) دوزخ کا سب سے نچلا ساتواں طبقہ

95. بیع مضطر سے مراد ہے۔
(A) کسی کے خوف میں مبتلا ہونا
(B) سودا کرنا
(C) بہانہ کرنا
(D) کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا

96. دھوکے کی تجارت کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔
(A) متغیر (B) ملعون
(C) بیع غرر (D) بیع مضطر

97. حسبہ کا مطلب ہے۔
(A) اسلامی حکومت کا پولیس کنٹرول کا انتظام
(B) اسلامی حکومت کی ملازمت
(C) اسلامی حکومت میں رہائش کا انتظام
(D) اسلامی حکومت میں عشر کا انتظام

98. اسلام قبول کرنے والے پہلے غیر عرب تھے۔
(A) حضرت طفیل بن عمرو الدوسیؓ

(B) حضرت فردہ بن الحقانیؓ

(C) حضرت فردہ بن عمرالجالندریؓ

(D) حضرت فردہ بن الحسانؓ

99. بہت غربت کی صورت میں امیروں پر لگایا جانے والا ایمرجنسی ٹیکس ________

(A) مضارب (B) ضراب

(C) خراج (D) کوئی نہیں

100. ایداے کیا مراد ہے۔

(A) محکمہ رسد (B) محکمہ ٹکسال

(C) محکمہ مال (D) محکمہ

101. دُلدل سے کیا مراد ہے؟

(A) آپ ﷺ کی تلوار

(B) آپ ﷺ کا خچر

(C) آپ ﷺ کے جوتے

(D) آپ ﷺ کی چادر

102. رافضی کون تھے؟

(A) حضرت ابوبکرؓ کے نہ ماننے والے

(B) حضرت عمرؓ کے نہ ماننے والے

(C) دونوں

(D) کوئی نہیں

103. تجین سے کیا مراد ہے؟

(A) ایسی جگہ جہاں اعمال نامے محفوظ ہوں

(B) ایسی جگہ جہاں اناج محفوظ ہو

(C) ایسی جگہ جہاں قیدی موجود ہوں

(D) کوئی نہیں

104. عیسائیوں کی بڑی عید کیا کہلاتی ہے؟

(A) کرسمس (B) ایسٹر

(C) اسٹوپا (D) بپتسمہ

105. جو سزا حاکم وقت مقرر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟

(A) تعزیر (B) حد

(C) قصاص (D) دیت

106. محرمات نسب کی کل تعداد کتنی ہے؟

(A) تین (B) پانچ

(C) سات (D) نو

107. مضاربت کے لیے دوسری اصطلاح کیا ہے؟

(A) شراکت (B) مساقاۃ

(C) قراض (D) اجارہ

108. احتکار سے کیا مراد ہے؟

(A) تازہ پھل (B) ذخیرہ اندوزی

(C) سلاح (D) دفینہ

109. لفظ [illegible] کا لغوی معنی کیا ہے؟

(A) خاص (B) حماقت

(C) راضی (D) دشمنی

110. کتمان سے کیا مراد ہے؟

(A) ناپاک (B) چھپانا

(C) ظاہر کرنا (D) ڈرنا

111. قتل عمد سے کیا مراد ہے؟

(A) تیز آلے سے قتل کرنا (B) دھوکے سے قتل کرنا

(C) غلطی سے قتل کرنا (D) جان بوجھ کر قتل کرنا

112. وہ عبارت جو متکلم کے کلام کے مقصد کو ظاہر کرے جو بالکل واضح ہو اور صراحت کے ساتھ سمجھ میں آجائے اسے فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟

(A) اقتضاء النص (B) دلالۃ النص

(C) عبارۃ النص (D) اشارۃ النص

113. لفظ مساقاۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟

(A) معاشیات (B) مساکین

(C) اوقات (D) آبپاشی

114. انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟

(A) خوارج (B) معلق

(C) ملحد (D) موحد

115. بدھ مت میں مدفن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔

(A) قبر (B) مڑھی

(C) استوپا (D) یادگار

116. بیوی کی محرمات سے تشبیہ دینے کو قرآنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟

(A) ایلاء (B) ظہار

(C) لعان (D) خلع

117. ''غلو فی الدین'' سے کیا مراد ہے؟

(A) نیک اعمال کی تعداد و مقدار میں مبالغہ کرنا

(B) بے عملی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھنا

(C) اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنا

(D) دینی علم کے حصول میں مبالغہ

118. یمین (قسم) کی کون سی قسم پر کفارہ لازم ہے؟

(A) یمین غموس (B) یمین لغو

(C) فضول قسم (D) یمین منعقدہ

119. ''جہاد و قتال'' کے الفاظ کا تعلق کس باب سے ہے؟

(A) افعال (B) تفعیل

(C) مفاعلہ (D) انفعال

120. بیوی کی محرمات سے تشبیہ دینے کو قرآنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟

(A) ایلاء (B) ظہار

(C) لعان (D) خلع

121. ''ماسیق الکلام لا جلہ'' نص کی کس قسم کی تعریف ہے؟

(A) عبارۃ النص (B) اشارۃ النص

(C) اقتضاء النص (D) دلالۃ النص

122. مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟

(A) مہر معجل (B) مہر مسمّٰی

(C) مہر مثل (D) مہر موجل

123. حتی تنکح زوجا غیرہ قرآنی حکم کا اطلاق کس نوعیت پر ہوتا ہے؟

(A) مغلظہ (B) رجعی

(C) بائنہ (D) خلع

124. ''حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وھم صغرون'' آیت میں مذکور فعل یعطوا کا اعراب کیا ہے؟

(A) مجزوم (B) منصوب

(C) مرفوع (D) مجرور

125. ''غلو فی الدین'' سے کیا مراد ہے؟

(A) نیک اعمال کی تعداد و مقدار میں مبالغہ کرنا

(B) بے عملی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھنا

(C) اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنا

(D) دینی علم کے حصول میں مبالغہ

126. یمین (قسم) کی کون سی قسم پر کفارہ لازم ہے؟

(A) یمین غموس (B) یمین لغو

(C) فضول قسم (D) یمین معقدہ/منعقدہ

127. مندرجہ ذیل حروف میں سے جازم فعل مضارع کون سا حرف ہے؟

(A) ان (B) کی

(C) لم (D) فی

128. الم ذلک الکتب لا ریب فیہ آیت میں مذکور ذلک الکتب کون سا مرکب ہے؟

(A) مرکب اضافی (B) مرکب اشاری

(C) مرکب عددی (D) مرکب توصیفی

129. ''وقاتلوھم حتی لا تکون فتنۃ'' آیت میں مذکور لفظ قاتلوا کون سا فعل ہے؟

(A) ماضی (B) مضارع

(C) امر (D) نہی

130. جرم و سزا حاکم وقت مقرر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟

(A) تعزیر (B) حد

(C) قصاص (D) دیت

131. محرمات نسب کی کل تعداد کتنی ہے؟

(A) تین (B) پانچ

(C) سات (D) نو

132. حروف جارہ کی کل تعداد کتنی ہے؟

(A) پندرہ (B) سترہ

(C) بیس (D) پچیس

133. فعل امر کے کل صیغے کتنے ہوتے ہیں؟

(A) پانچ (B) چھے

(C) نو (D) چودہ

134. لفظ مخاصمہ کا لغوی معنی کیا ہے؟

(A) خاص (B) حماقت

(C) راضی (D) دشمنی

135. کتمان سے کیا مراد ہے؟

(A) ناپاک (B) چھپانا

(C) ظاہر کرنا (D) ڈرنا

136. قتل عمد سے کیا مراد ہے؟

(A) تیز آلے سے قتل کرنا (B) دھوکے سے قتل کرنا

(C) غلطی سے قتل کرنا (D) جانبوجھ کر قتل کرنا

137. مختلف جرائم کی جو سزائیں قرآن مجید میں بیان ہوئیں ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟

(A) مشتبہات (B) عقوبات

(C) تعزیرات (D) حدود

138. بنیادی طور پر ربا کی کتنی اقسام ہیں؟

8 (A) 6 (B)

4 (C) 2 (D)

139. لفظ مساقاۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟

(A) معاشیات (B) مساکین

(C) اوقات (D) آبپاشی

140. لاکن حروف میں شامل ہے؟

(A) حروف کاملہ (B) حروف ناقصہ

(C) حروف مشبہ بالفعل (D) حروف جار

141. لفظ مشاعرہ کس باب سے ہے؟

(A) مفاعلہ (B) تفعیل

(C) افعال (D) ان میں سے کوئی نہیں

142. نواصب مضارع کتنے ہیں؟

8 (A) 6 (B)

4 (C) 2 (D)

143. باب مفاعلہ کا تعلق کس سے ہے

(A) ثلاثی مجرد (B) ثلاثی مزید فیہ

(C) رباعی مجرد (D) رباعی مزید

144. کتمان سے کیا مراد ہے؟

(A) ناپاک (B) چھپانا

(C) ظاہر کرنا (D) ڈرنا

145. مذہب کے معنی کیا ہیں؟

(A) احکام (B) حدود

(C) چلنے کا راستہ (D) فرمانبرداری

146. ارتداد کا معنی ہیں؟

(A) لوٹ آنا (B) مسترد کرنا

(C) قبول کرنا (D) کفر پر راضی ہونا

147. سنت کا لغوی معنی ہے؟

(A) گفتگو (B) طریقہ اور عمل

(C) مکالمہ (D) تجز

جوابات

1. (A)	2. (A)	3. (C)	4. (B)	5. (A)	6. (A)	7. (B)	8. (C)
9. (B)	10. (C)	11. (C)	12. (B)	13. (B)	14. (B)	15. (A)	16. (B)
17. (A)	18. (A)	19. (A)	20. (A)	21. (D)	22. (C)	23. (C)	24. (A)
25. (A)	26. (A)	27. (B)	28. (A)	29. (A)	30. (C)	31. (C)	32. (C)
33. (A)	34. (B)	35. (C)	36. (A)	37. (C)	38. (B)	39. (C)	40. (A)
41. (A)	42. (B)	43. (C)	44. (A)	45. (A)	46. (B)	47. (D)	48. (C)
49. (D)	50. (B)	51. (B)	52. (C)	53. (D)	54. (C)	55. (A)	56. (A)
57. (D)	58. (A)	59. (A)	60. (A)	61. (A)	62. (B)	63. (B)	64. (C)
65. (A)	66. (B)	67. (B)	68. (D)	69. (C)	70. (B)	71. (C)	72. (B)
73. (A)	74. (A)	75. (B)	76. (C)	77. (A)	78. (C)	79. (C)	80. (B)
81. (A)	82. (A)	83. (A)	84. (C)	85. (A)	86 (B)	87. (B)	88. (B)
89. (B)	90. (A)	91. (C)	92. (A)	93. (B)	94. (D)	95. (D)	96. (C)
97. (A)	98. (A)	99. (B)	100. (A)	101. (B)	102. (C)	103. (A)	104. (A)
105. (A)	106. (C)	107. (A)	108. (B)	109. (D)	110. (B)	111. (D)	112. (C)
113. (D)	114. (C)	115. (C)	116. (B)	117. (A)	118. (D)	119. (C)	120. (B)
121. (A)	122. (C)	123. (C)	124. (B)	125. (B)	126. (D)	127. (C)	128. (B)
129. (C)	130. (A)	131. (C)	132. (B)	133. (B)	134. (D)	135. (B)	136. (D)
137. (D)	138. (D)	139. (D)	140. (D)	141. (A)	142. (C)	143. (B)	144. (B)
145. ()	146. (A)	147. (B)					

صحابہ کرامؓ

1. وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں مرا ہو وہ ________
(A) تابعی کہلاتا ہے (B) مومن کہلاتا ہے
(C) صحابی کہلاتا ہے (D) کوئی نہیں

2. حضرت عباسؓ کے قبیلے کا نام کیا تھا؟
(A) بنو عدی (B) بنو امیہ
(C) بنو زہرہ (D) بنو ہاشم

3. بنو ہاشم قبیلہ تھا..........
(A) حضرت حمزہؓ کا (B) حضرت ابو طالب کا
(C) حضرت عبداللہ کا (D) C اور B,A تینوں کا

4. درج ذیل میں سے کس کا تعلق بنو تیم سے تھا؟
(A) حضرت ابو بکرؓ (B) حضرت عائشہؓ
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

5. درج ذیل میں سے کس کا تعلق بنو امیہ سے تھا؟
(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت امیر معاویہؓ
(C) حضرت ابو سفیانؓ (D) a اور b اور c تینوں

6. حضرت خالد ابن ولیدؓ کا قبیلہ کون سا تھا؟
(A) بنو امیہ (B) بنو اسد
(C) بنو زہرہ (D) بنو مخزوم

7. حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق..........
(A) قبیلہ بنو ہاشم سے تھا (B) قبیلہ بنو ہوازن سے تھا
(C) قبیلہ بنو اسد سے تھا (D) قبیلہ بنو عدی سے تھا

8. درج ذیل میں سے کس کا قبیلہ بنو اسد تھا؟
(A) حضرت خدیجہؓ
(B) حضرت زبیر ابن عوامؓ
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

9. انصاریوں کا تعلق..........
(A) قبیلہ بنو خزرج سے (B) قبیلہ بنو اوس سے
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

10. انصار یعنی مدد کرنے والے یہ..........
(A) مکہ کے مسلمانوں کا لقب ہے
(B) کوفہ کے لوگوں کا لقب ہے
(C) بصرہ کے لوگوں کا لقب ہے
(D) مدینہ کے لوگوں کا لقب ہے

11. مدینہ کے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟
(A) انصار مدینہ (B) انصار مکہ
(C) انصار اللہ (D) انصار نبی

12. زیادہ تر انصاریوں کا تعلق ________ قبیلہ سے تھا۔
(A) قریش (B) بنو ہاشم
(C) خزرج (D) اوس

13. کیوں حضرت محمدؐ نے حضرت انسؓ کے گھر انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا تھا؟
(A) مشاورت کے لئے
(B) جنگ بدر کی تیاری کے لئے
(C) رشتہ مواخات کے لئے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

14. مواخات سے کیا مراد ہے؟
(A) دوستی (B) رشتہ داری
(C) ہمسائیگی (D) بھائی چارہ

15. مہاجرین سے کیا مراد ہے؟
(A) ہجرت کرنے والے (B) سفر کرنے والے
(C) مدد کرنے والے (D) ہجرت

16. مہاجر کی اصطلاح کس پر لاگو نہیں ہوتی؟
(A) حضرت محمد ﷺ (B) حضرت ابوبکرؓ
(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت علیؓ

17. حضرت حکیم ابن حزام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟
(A) خزرج (B) اوس
(C) قریش (D) اسد

18. کون سے صحابی حضرت محمد ﷺ کے خط لکھا کرتے تھے؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عبداللہ ابن عوفؓ
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

19. حضرت سعد ابن ابی وقاص کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟
(A) بنو اوس (B) بنو خزرج
(C) بنو زہرہ (D) بنو خزاع

20. وہ کون سے مجاہد تھے جو اکثر کہا کرتے تھے جنگ کی مشکل ترین رات شادی کی پہلی رات سے زیادہ بہتر ہے؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت خالد ابن ولیدؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

21. حضرت حسن ابن ثابتؓ نے کب وصال پایا؟
(A) 10 ہجری (B) 20 ہجری
(C) 30 ہجری (D) 40 ہجری

22. جنگ احد میں جو تیر حضرت محمد ﷺ کی طرف پھینکے جا رہے تھے ان کو کون سے صحابی اپنے جسم پر روکتے تھے؟
(A) حضرت حنظلہؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت ابودجانہؓ (D) کوئی بھی نہیں

23. جب نبی اکرم ﷺ خیبر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپؐ نے کس صحابی سے اشعار پڑھنے کی فرمائش کی؟
(A) حضرت ابوحنظلہؓ
(B) حضرت عمرو ابن عاصؓ
(C) حضرت ابودجانہؓ
(D) حضرت عامر بن اکوعؓ

24. کس صحابی کو بنو ہوازن کی جنگی تیاریاں معلوم کرنے کے لیے جاسوس کے طور پر بھیجا گیا؟
(A) حضرت عبداللہ ابن رواحہؓ (B) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ
(C) حضرت عثمان ابن طلحہؓ
(D) حضرت عبداللہ ابن ابی حدودؓ

25. اس صحابی کا نام بتائیں جن سے حضرت محمد ﷺ نے بنو ہوازن کے خلاف جنگ کے لیے ایک بہت بڑی مقدار میں رقم ادھار لی تھی؟
(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت حکیم ابن حزامؓ
(D) حضرت عبداللہ ابن ربیعہؓ

26. حضرت عبداللہ ابن ربیعہؓ نے ہوازن سے لڑنے کے لیے نبی پاک کو کتنی رقم ادھار دی تھی؟
(A) 3000 درھم (B) 4000 درھم
(C) 5000 درھم (D) 6000 درھم

27. اس صحابی کا نام بتائیں جنھوں نے ہوازن سے لڑائی کے لیے زرہ مہیا کی تھیں؟
(A) حضرت سوان ابن امیہؓ (B) حضرت سوان ابن اسدؓ
(C) حضرت سوان ابن اوسؓ (D) حضرت سوان ابن خزرجؓ

28. حضرت حسن ابن ثابت کا تعلق کس خاندان سے تھا؟
(A) بنو حمزہ (B) بنو مخزوم
(C) بنو خزاع (D) بنو اسد

29. کس صحابیہ کو حضرت محمد ﷺ شہیدہ کہتے تھے؟
(A) حضرت ام سلمہؓ (B) حضرت عائشہؓ

(C) حضرت ام ورقہؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

30. حضرت جبرائیلؑ کبھی کبھی کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟

(A) حضرت دحیہ کلبیؓ (B) حضرت دحیہ ابن عقبہؓ

(C) حضرت دحیہ ابن حسنؓ (D) حضرت دحیہ ابن حکیمؓ

31. حضرت محمد ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن جحشؓ کو کیا خطاب دیا تھا؟

(A) امیر صحابہ (B) امیر المومنین

(C) امیر المسلم (D) امیر اسلام

32. کس صحابی کو حضرت محمد ﷺ نے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے مکہ کا گورنر مقرر کیا تھا؟

(A) حضرت محمد ابن مسلمہ انصاریؓ

(B) حضرت محمد ابن مسلمہ عبداللہؓ

(C) حضرت محمد ابن مسلمہ عبیدہؓ

(D) حضرت محمد ابن مسلمہ عبادہؓ

33. جنگ احد میں کس صحابی نے حضرت محمد ﷺ کے ہاتھوں میں شہادت نوش فرمائی؟

(A) حضرت حارث ابن حارثؓ

(B) حضرت کلثوم ابن الحدمؓ

(C) حضرت زید ابن حارثؓ

(D) حضرت عبیدہ ابن جراحؓ

34. ہجرت کے دوران نبی پاکؐ نے قبا میں کس کے گھر قیام فرمایا تھا؟

(A) حضرت حسن ابن ثابتؓ

(B) حضرت کلثوم ابن الحدمؓ

(C) حضرت زید ابن حارثؓ

(D) حضرت عبیدہ ابن جراحؓ

35. حضرت ابو ہریرہؓ کا اصل نام کیا تھا؟

(A) حضرت عبدالرحمن ابن صخرؓ

(B) حضرت عبداللہ ابن سلمیہؓ

(C) حضرت عبداللہ ابن حکمؓ

(D) حضرت عبداللہ ابن جحشؓ

36. کس صحابی کے ہاتھ میں حضرت محمد ﷺ نے خانہ کعبہ کی چابی دیتے ہوئے کہا کہ یہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی؟

(A) حضرت حنظلہؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمان ابن طلحہؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

37. فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد ﷺ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟

(A) حضرت عثمانؓ

(B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت علیؓ

(D) حضرت بلال ابن ربیعہؓ

38. کس صحابی کی شکل حضرت محمد ﷺ سے ملتی تھی؟

(A) حضرت علیؓ

(B) حضرت مصعب ابن عمیرؓ

(C) حضرت حنظلہؓ

(D) حضرت عباسؓ

39. اس صحابی کا نام بتائیں جنھوں نے نبی پاک کو بغیر دیکھے ہوئے صحابی ہونے کا رتبہ پایا؟

(A) حضرت وحشیؓ (B) حضرت عبداللہؓ

(C) حضرت ابو حذیفہؓ (D) حضرت اویس قرنیؒ

40. حضرت اسماء بنت عمیسؓ کا قبیلہ کون سا تھا؟

(A) اوس (B) خزرج

(C) ہاشم (D) زہرہ

41. حضرت اسماء بنت ابو بکرؓ نے کہاں اسلام قبول کیا؟

(A) مدینہ (B) کوفہ

(C) مکہ (D) بصرہ

42. حضرت حکیم ابن حزمؓ نے کب اسلام قبول کیا؟

(A) 6 ہجری (B) 7 ہجری

(C) 9 ہجری (D) 10 ہجری

43. حضرت حکیم ابن حزامؓ کس کے بھتیجے تھے؟

(A) حضرت ابو بکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عائشہؓ (D) حضرت خدیجہؓ

44. کس صحابی نے حضرت جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت مصعب بن عمیرؓ
(C) حضرت حمزہؓ (D) حضرت علیؓ

45. حضرت ابوذر غفاریؓ نے کہاں اسلام قبول کیا؟
(A) مدینہ (B) مکہ
(C) کوفہ (D) یمن

46. حضرت محمد ﷺ نے حضرت علی بن حزمؓ کو کہاں کا حکمران بنایا؟
(A) مصر (B) شام
(C) بحرین (D) یمن

47. کون سے صحابی ساقی زم زم کہلاتے ہیں؟
(A) حضرت حمزہؓ (B) حضرت عباسؓ
(C) حضرت طلحہؓ (D) حضرت زبیرؓ

48. کون سے صحابی ترجمان القرآن کہلاتے تھے؟
(A) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ
(B) حضرت ابوحذیفہؓ
(C) حضرت عمرؓ
(D) حضرت عثمانؓ

49. صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عثمانؓ سے پہلے کس صحابی کو اہل مکہ کے پاس مذاکرات کے لئے بھیجا گیا تھا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت فراش ابن عمیرؓ

50. رشتہ مواخات کے وقت مہاجرین کی تعداد کیا تھی؟
(A) 25 (B) 35
(C) 45 (D) 55

51. کس صحابی کا لقب ابوسلمان تھا؟
(A) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ
(B) حضرت حنظلہؓ
(C) حضرت خالد ابن ولیدؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

52. کس صحابی کے ذریعے حضرت ابوسفیانؓ نے اسلام قبول کیا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عباسؓ
(C) حضرت حمزہؓ (D) حضرت طلحہؓ

53. حضرت عمران ابن حصینؓ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟
(A) بنو اسد (B) بنو زہرہ
(C) بنو عدی (D) بنو خزاعہ

54. اس صحابی کا نام بتائیں جس نے تقریباً ایک سو کافروں کو قتل کیا تھا؟
(A) حضرت براء ابن مالکؓ (B) حضرت براء ابن حسنؓ
(C) حضرت براء ابن حکمؓ (D) حضرت براء ابن راشدؓ

55. حضرت امیر معاویہؓ نے افریقہ (AFRICA) کا گورنر کس صحابی کو مقرر کیا؟
(A) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ
(B) حضرت سعد ابن ابی حنظلہؓ
(C) حضرت سعد ابن ابی قیسؓ
(D) حضرت سعد ابن ابی دجانہؓ

56. حضرت حسن ابن ثابتؓ کی کنیت کیا تھی؟
(A) ابوالحسن (B) ابوالعفی
(C) ابوالخطاب (D) ابوالولید

57. اس صحابی کا نام بتائیں جو کہ ایک ام المومنین کے بھتیجے بھی تھے؟
(A) حضرت خالد ابن ولیدؓ (B) حضرت زید ابن حارثؓ
(C) حضرت خالد سعید ابن زیدؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

58. حضرت عمر ابن سعد انصاریؓ کا قبیلہ کون سا تھا؟
(A) خزرج (B) اوس
(C) نضیر (D) اسد

59. کون سے صحابی کی شکل حضرت عیسیٰؑ سے ملتی تھی؟
(A) حضرت عروہ ابن مسعود ثقفیؓ
(B) حضرت عروہ ابن حسینؓ
(C) حضرت عروہ ابن عبیدہؓ (D) حضرت عروہ ابن عبیدؓ

60. حضرت عوف ابن مالکؓ کہاں شہید ہوئے؟
(A) عراق (B) ترکی
(C) یمن (D) دمشق

61. کس مسجد کے لئے حضرت کلثوم ابن الہدمؓ نے جگہ دی تھی؟
(A) مسجد نبوی (B) مسجد قبا
(C) مسجد حرام (D) مسجد نمرہ

62. حضرت سعید ابن زیدؓ کا لقب کیا تھا؟
(A) امیر المومنین (B) میزان الملک
(C) خطیب القرآن (D) فقیہ الفقہاء

63. حضرت محمد ﷺ کی زندگی میں خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس تھی؟
(A) حضرت عثمان ابن عفانؓ (B) حضرت عثمان ابن طلحہؓ
(C) حضرت عثمان ابن زبیرؓ (D) حضرت عثمان ابن عوامؓ

64. اس صحابی کا نام بتائیں جنھوں نے مسلمان ہونے سے پہلے حضرت حمزہؓ کو شہید کیا تھا؟
(A) حضرت ابوسفیانؓ (B) حضرت وحشیؓ
(C) حضرت اسامہؓ (D) حضرت طلحہؓ

65. مواخات کے وقت حضرت ابوب انصاریؓ کا بھائی کس صحابی کو بنایا گیا؟
(A) حضرت عمرؓ ابن خطاب
(B) حضرت مصعب ابن عمیرؓ
(C) حضرت خالد ابن ولیدؓ (D) حضرت طلحہ ابن زبیرؓ

66. حضرت عمار ابن بشرؓ نے کب اسلام قبول کیا؟
(A) ہجرت سے پہلے (B) ہجرت کے بعد
(C) 40 ہجری کو (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

67. کس صحابی کو حضرت عمرؓ نے حمص کا گورنر بنایا تھا؟
(A) حضرت عمیر ابن سعد انصاریؓ
(B) حضرت عمیر ابن سعد عقبیؓ
(C) حضرت عمیر ابن سعد عقیلیؓ
(D) حضرت عمیر ابن سعد قحمؓ

68. حمص کس علاقے میں واقع ہے؟
(A) مصر (B) یمن
(C) عراق (D) شام

69. اہل مدینہ کس صحابی کو قاری کہتے تھے؟
(A) حضرت مصعب ابن عمیرؓ
(B) حضرت مصعب ابن خطابؓ
(C) حضرت معوذ ابن عمیرؓ
(D) حضرت معوذ ابن خطابؓ

70. حضرت رافع بن المحرلؓ کہاں فوت ہوئے؟
(A) یمن (B) مدینہ
(C) مصر (D) فلسطین

71. حضرت ابوہریرہؓ نے کب اسلام قبول کیا تھا؟
(A) 7 ہجری (B) 8 ہجری
(C) 9 ہجری (D) 10 ہجری

72. مہر نبوی کا محافظ کون تھا؟
(A) حضرت عبداللہ ابن عمیرؓ
(B) حضرت عبداللہ ابن ابوبکرؓ
(C) حضرت حنظلہ ابن ربیعؓ
(D) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ

73. بتایئے جنگ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جھنڈا کس صحابی نے اٹھایا ہوا تھا؟
(A) حضرت مصعب ابن عمیرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت معوذؓ

74. کس خلیفہ کے دور خلافت میں حضرت ابوذر غفاریؓ نے وفات پائی؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

75. حضرت عمرو ابن طفیل دوسیؓ نے کہاں اسلام قبول کیا؟
(A) مدینہ (B) مکہ
(C) کوفہ (D) بصرہ

76. حضرت جعفر طیارؓ کی اہلیہ کا نام بتائیں؟
(A) حضرت اسماء بنت عمیسؓ
(B) حضرت اسماء بنت عقیلؓ
(C) حضرت اسماء بنت سعد قحمؓ

(D) کوئی نہیں

77. فتح مکہ کے بعد مکہ کا گورنر کس کو بنایا گیا؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت معاذ ابن جبلؓ

(C) حضرت اسامہ ابن زیدؓ (D) حضرت عبیدہ ابن جحشؓ

78. کسی سیاسی چال کے پیش نظر کن کو حضرت خالد ابن ولیدؓ نے فوجی لباس پہننے سے منع کیا تھا؟

(A) جرجان کے غیر مسلموں کو (B) جرجان کے عیسائیوں کو

(C) خیبر کے یہودیوں کو (D) حیرہ کے ذمیوں کو

79. حضرت ابوایوب انصاری کا مقبرہ۔۔

(A) انقرہ میں واقع ہے۔

(B) مدینہ میں واقع ہے

(C) استنبول میں واقع ہے

(D) قاہرہ میں واقع ہے

80. حضرت عبدالرحمٰنؓ نے کس عمر میں وفات پائی؟

(A)73 سال (B)60 سال

(C)75 سال (D)80 سال

81. حضرت زبیر بن عوامؓ بن عوام کی کنیت کیا تھی؟

(A) ابوعبیدہؓ (B) ابوعبداللہ

(C) ابوعوامؓ (D) ابوجعفرؓ

82. حضرت زبیر بن عوامؓ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟

(A)14 سال (B)13 سال

(C)13 سال (D)15 سال

83. حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟

(A)13 سال (B)17 سال

(C) چچازاد بھائی (D)19 سال

84. حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے کونسا شہر بسایا؟

(A) بصرہ (B) کوفہ

(C) رباط (D) کربلا

85. کثیر الراویہ کس صحابی کو کہتے ہیں؟

(A) حضرت ابوہریرہؓ (B) حضرت امیر معاویہ

(C) حضرت عثمان غنیؓ (D) حضرت علیؓ

86. الصحیفہ صادقہ (مجموعہ احادیث) کن صحابیؓ سے منسوب ہے۔

(A) حضرت علیؓ

(B) حضرت ابوھریرہؓ

(C) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ

(D) امام احمد بن حنبلؒ

87. خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابیؓ کون سے ہیں؟

(A) حضرت خباب بن عبداللہؓ (B) ابوذر غفاریؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

88. عتبہ بن ابی وقاص جس کا پتھر لگنے سے جنگ احد میں حضور ﷺ کے دندان مبارک شہید ہوئے کس مشہور صحابی کے بھائی تھے؟

(A) زید بن ابی وقاصؓ (B) سعید بن ابی وقاصؓ

(C) شیبہ بن ابی وقاصؓ (D) سعد بن ابی وقاصؓ

89. حضرت عقبہ بن عامرؓ حضور ﷺ کے خادم تھے۔ آپ بعد میں کس ملک کے والی مقرر ہوئے؟

(A) شام (B) یمن

(C) فلسطین (D) مصر

90. حضرت سوید بن صامتؓ کا لقب تھا۔

(A) عاقل (B) کامل

(C) قطب (D) اسد

91. کس صحابی نے مواخات پر اپنی ایک بیوی حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ کو دینے کو کہا تھا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت طلحہ بن زبیرؓ

(C) حضرت عکرمہ بن ابوجہلؓ (D) حضرت سعید بن ربیعؓ

92. آپ ﷺ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثؓ کی والدہ کا نام تھا۔

(A) رعمہ (B) زینب

(C) سعدیٰ

(D) خزیمہ

93. ہجرت مدینہ میں کس صحابیہؓ نے آپ ﷺ کے ناشتہ دان کا منہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر بند کیا؟
(A) حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ
(B) حضرت خولہ بن ابوبکرؓ
(C) حضرت زینب بنت جحشؓ
(D) حضرت امامہ بنت علیؓ

94. حضرت ابوالعاصؓ کا اصل نام تھا۔
(A) یاقوت (B) لقیط
(C) یامین (D) کوئی نہیں

95. حضرت ام ایمنؓ کا اصل نام ______
(A) ریحہ (B) برکہ
(C) خولہ (D) کوئی نہیں

96. حضرت حسان بن ثابتؓ کی کنیت ______
(A) ابوعبداللہ (B) ابوعبدالرحمٰن
(C) ابوعبیدہ (D) ابوالولید

97. حضرت خالد بن ولیدؓ کی کنیت ______
(A) ابوسلیمان (B) ابوقافہ
(C) ابویامین (D) ابوعکاشہ

98. صحابی جس نے قاہرہ شہر کی بنیاد رکھی۔
(A) حضرت ابوبکرؓ
(B) حضرت عمرو بن العاصؓ
(C) حضرت خالد بن ولیدؓ
(D) حضرت عکرمہ بن ابوجہلؓ

99. حضرت حمزہؓ کے گھوڑے کا نام تھا۔
(A) اکبر (B) اصغر
(C) اشقر (D) کوئی نہیں

100. حضرت عباد بن بشرؓ نے جس جنگ میں شہادت پائی۔
(A) یمامہ (B) آلیس
(C) عین التمر (D) قادسیہ

101. سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟
(A) اسعد حمیری (B) اسعد داری
(C) اسعد کلبی (D) کوئی نہیں

102. حضرت حسان بن ثابتؓ نے وفات پائی۔
(A) 10 ہجری میں (B) 20 ہجری میں
(C) 30 ہجری میں (D) 40 ہجری میں

103. وہ چیز جس کی ابتدا حضرت امیر معاویہؓ سے ہوئی ------
(A) اذان کے لئے مینارہ امیر معاویہؓ نے بنوایا
(B) حج تمتع سے منع امیر معاویہؓ نے فرمایا
(C) سوار ہو کر رمی جمرات کرنے والے امیر معاویہؓ تھے
(D) تمام

104. یمن سے پہلے مسلمان ______
(A) حضرت ذویبؓ (B) حضرت عکاشہؓ
(C) حضرت عبداللہؓ (D) کوئی نہیں

105. حضرت بلالؓ کا عہد نبوی میں ______
(A) موذن تھے (B) وزیر خزانہ تھے
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

106. فاتح اسکندریہ کون سے صحابی ہیں؟
(A) حضرت عمرؓ
(B) حضرت طلحہ بن زبیرؓ
(C) حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ
(D) حضرت عمرو بن العاصؓ

107. بحر الجود لقب ہے۔
(A) حضرت عبداللہ بن جعفرؓ
(B) حضرت عبداللہ بن اکوعؓ
(C) حضرت اسامہ بن زیدؓ
(D) حضرت ثابت بن قیسؓ

108. ذوالشہادتین لقب ہے۔
(A) حضرت اویس قرنیؒ
(B) حضرت سلمان فارسیؓ

(C) حضرت سعید بن المسیبؓ

(D) حضرت خزیمہ بن ثابتؓ

109. سید المسلمین لقب ہے۔

(A) حضرت علیؓ

(B) حضرت ابی بن کعبؓ

(C) حضرت عمرو بن العاصؓ

(D) حضرت حذیفہ بن الیمانؓ

110. سلطان الخیر کس صحابی کا لقب تھا؟

(A) حضرت سلمان فارسیؓ (B) حضرت حذیفہؓ

(C) حضرت ابوطلحہ انصاریؓ (D) حضرت اویس قرنیؓ

111. حضرت امام حسن کی بیوی جس نے ان کو زہر دیا۔

(A) اجعدہ بنت اشعث (B) اجعدہ بنت اشعل

(C) اجعدہ بنت اسد (D) اجعدہ بنت شمیا

112. حضرت امام حسن کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟

(A) حضرت سعید بن العاصؓ

(B) حضرت زبیرؓ

(C) حضرت ابوبکرؓ

(D) حضرت طلحہؓ

113. آپ ﷺ کے وصال کے وقت آپ ﷺ کی کل ازواج میں سے کتنی حیات تھیں؟

(A) 2 (B) 6

(C) 9 (D) 11

114. حضرت سعد بن ابی وقاص حضور ﷺ کی والدہ سے کیا رشتہ دار لگتے تھے؟

(A) چچا (B) خالہ زاد بھائی

(C) چچازاد بھائی (D) بھائی

115. حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟

(A) 13 سال (B) 17 سال

(C) 15 سال (D) 19 سال

116. غزوہ طائف میں ابوبکر صدیق کے کون سے صاحبزادے شہید ہوئے تھے؟

(A) محمد بن ابی بکر (B) عبداللہ بن ابی بکر

(C) عثمان بن ابی بکر (D) قحافہ بن ابی بکر

117. کس صحابی نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔

(A) حضرت عمرؓ

(B) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ

(C) حضرت عبیدہ بن جراحؓ

(D) حضرت علیؓ

118. کس صحابیؓ کی شہادت (گواہی) کو آپ ﷺ نے دو شہادتوں کے برابر کہا تھا۔

(A) حضرت خذیمہؓ (B) حضرت طلحہ

(C) حضرت زبیر (D) حضرت عباس

119. سن 4 ہجری میں حضورؐ نے کس صحابیؓ کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی؟

(A) حضرت زید بن ثابتؓ

(B) حضرت ابن مکتومؓ (C) حضرت ابوذر غفاریؓ

(D) حضرت ابوعبیدہ بن جراحؓ

120. سب سے پہلے رات میں رعیت کی پاسبانی ۔۔۔۔۔۔۔ نے کی۔

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

121. سب سے پہلے میدانوں کی پیمائش ۔۔۔۔۔۔ نے کرائی۔

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

122. عدی بن حاتم طائی نے اسلام قبول کیا۔

(A) ۳ ہجری میں (B) ۶ ہجری میں

(C) ۹ ہجری (D) ۱۱ ہجری

123. حضور ﷺ کی اہم مراسلات پر لگائی جانے والی مہر پاس ہوتی تھی۔

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت قیسؓ
(C) حضرت حذیفہؓ (D) حضرت بلالؓ
(E) کوئی نہیں

حضرت حنظلہ بن ربیعؓ کے پاس مہر ہوتی تھی

124. حضور ﷺ نے بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے عطا فرمائی۔
(A) عمارؓ بن عتبہ کو (B) حنظلہؓ بن ابی عامر کو
(C) عثمانؓ بن طلحہ کو (D) عبداللہ بن عامر کو

125. حضرت بلالؓ کا مالک تھا۔
(A) امیہ بن خلف (B) امیہ بن زبیر
(C) امیہ بن حاتم (D) امیہ بن عوف

126. کس صحابی رسول ﷺ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟
(A) حضرت زید (B) حضرت ابوبکر صدیقؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت حمزہؓ

127. فاتح مصر کون تھے؟
(A) زید بن حارثہؓ (B) ابوموسیٰ اشعری
(C) عمرو بن العاصؓ (D) عبداللہ ابن عباس

128. حضرت ابوہریرہؓ کا اصل نام کیا ہے؟
(A) عبداللہ (B) عبدالرحمن بن صخر
(C) زید (D) حامد

129. فاتح مصر کن کو کہا جاتا ہے؟
(A) عبداللہ بن عمرؓ (B) خالد بن ولیدؓ
(C) عمرو بن العاصؓ (D) سعد بن ابی وقاص

130. آپ ﷺ نے کس صحابی کو کہا کہ ہمارے اہل بیت میں ہے؟
(A) سعید بن مسیبؓ (B) سلمان فارسیؓ
(C) ابوایوب انصاریؓ (D) ثابت بن قیسؓ

131. اسلام کی راہ میں تیر چلانے والے پہلے صحابی کا نام کیا ہے؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت ابوسلمہؓ (D) سعد بن ابی وقاصؓ

132. شاعر رسول ﷺ کس صحابی کا لقب ہے؟
(A) لبید (B) حسان بن ثابتؓ
(C) عبداللہ بن جحشؓ (D) عثمان بن مظعونؓ

133. حضرت عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرنے سے پہلے کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟
(A) یہودی (B) عیسائی
(C) مجوسی (D) مشرک

134. دمشق کی فتح کس مسلمان جرنیل کے ہاتھوں ہوئی؟
(A) سعد بن ابی وقاصؓ (B) نعمان بن مقرنؓ
(C) خالد بن ولیدؓ (D) عمرو بن العاصؓ

135. ایک صحابی نے کون سورت سبع معلقات کے ساتھ آویزاں کی تھی؟
(A) سورۃ الفتح (B) سورۃ الماعون
(C) سورۃ الکوثر (D) سورۃ الاخلاص

136. عہد نبوی میں کن دو صحابہ کے ساتھ لعان کا مسئلہ درپیش ہوا۔
(A) عویمر عجلانی اور حمنہ بنت جحش
(B) عویمر عجلانی اور حسان بن ثابت
(C) ہلال بن امیہ اور عویمر عجلانی
(D) ہلال بن امیہ اور حسان بن ثابت

137. ابوہریرہؓ کا اصل نام کیا ہے؟
(A) عبداللہ (B) علی بن زید
(C) عبدالرحمن بن صخرؓ (D) طلال بن زید

138. غسیل الملائکہ حضرت کس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔
(A) صفوان بن امیہ (B) عبداللہ بن ربیعہ
(C) شداد بن اوس (D) عکرمہ بن ابی جہل

139. صحابی رسول حضرت زیدؓ بن حارثہ کس جنگ میں شہید ہوئے۔
(A) غزوہ حنین (B) سریہ موتہ
(C) غزوہ تبوک (D) غزوہ طائف

140. موذن رسول ﷺ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟
(A) حضرت بلال حبشیؓ (B) حضرت زید بن حارثؓ
(C) حضرت ابوبکر صدیقؓ (D) حضرت حمزہؓ

141. سید الشہداء کا لقب کس صحابی کو ملا؟
(A) حضرت امام حسنؓ (B) حضرت علیؓ

(C) حضرت امام حسینؓ (D) حضرت علی اصغرؓ

142. شاعر رسول ﷺ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟

(A) امام بوصیریؒ

(B) حضرت حسان بن ثابتؓ

(C) کعب بن زہیر

(D) حضرت علیؓ

143. فاتح مصر کن صحابیؓ کس کو کہا جاتا ہے؟

(A) حضرت خالد بن ولیدؓ (B) حضرت طارق بن زیادؒ

(C) حضرت عمرو بن العاصؓ (D) حضرت اسامہ بن زیدؓ

144. حضرت محمد ﷺ نے ''سیف اللہ'' کا خطاب کس صحابی کو دیا؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت سلمان فارسیؓ

(C) حضرت زید بن حارثؓ (D) حضرت خالد بن ولیدؓ

145. ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی کے دربار میں کس صحابی نے اسلام اور نبوت رسول ﷺ کے متعلق تقریر کی؟

(A) حضرت زید بن حارثؓ

(B) حضرت جعفرؓ

(C) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ

(D) حضرت مصعب بن عمیرؓ

146. ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد ﷺ نے کس صحابی کے گھر پر قیام فرمایا؟

(A) حضرت زید بن ثابتؓ

(B) حضرت ابوہریرہؓ

(C) حضرت ابوایوب انصاریؓ

(D) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ

147. حضور اکرم ﷺ کی خفیہ تبلیغ اسلام کے دوران تحریک اسلام کا مرکز کس کا گھر تھا؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ

(B) حضرت ورقہ بن نوفل

(C) حضرت ارقم مخزومیؓ

(D) حضرت جعفر بن ابو طالبؓ

148. زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد حضور اکرم ﷺ نے زکوٰۃ صدقات اور جزیہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کس کے سپرد فرمائی؟

(A) حضرت عمر فاروقؓ

(B) حضرت عدی بن حاتم طائیؓ

(C) حضرت عثمان غنیؓ

(D) حضرت معاذ بن جبلؓ

149. سن 4 ہجری میں حضور ﷺ نے کس صحابیؓ کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی؟

(A) حضرت زید بن ثابتؓ (B) حضرت ابن مکتومؓ

(C) حضرت ابوذر غفاریؓ (D) حضرت ابوعبیدہ جراحؓ

150. نبی اکرم ﷺ نے کس کے متعلق فرمایا کہ وہ نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟

(A) سچا امانت دار تاجر (B) مہمان نواز

(C) حقوق اللہ ادا کرنے والا (D) متقی

151. سب سے زیادہ احادیث کن صحابیؓ سے مروی ہیں؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت انس بن مالکؓ

(C) حضرت ابوہریرہؓ (D) حضرت عائشہؓ

152. طائف کے سفر میں حضرت محمد ﷺ کے ہمراہ کون سے صحابی تھے؟

(A) حضرت زید بن حارثؓ

(B) حضرت بلالؓ

(C) حضرت ابوبکر صدیقؓ

(D) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ

153. حسانؓ بن ثابت کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟

(A) بنوخزرج (B) بنوسعد

(C) بنوتمیم (D) بنواوس

154. حضرت محمد ﷺ نے ''سیف اللہ'' کا خطاب کس صحابی کو دیا؟

(A) حضرت علیؓ (B) خالد بن ولیدؓ

(C) زید بن حارثؓ (D) حضرت سلمان فارسیؓ

155. بوقت اسلام حضرت بلالؓ کس کے غلام تھے؟

(A) امیہ بن حرب (B) عقبہ بن ابی معیط

(C) ابو جہل (D) امیہ بن خلف

156. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟

(A) خالدیہ میں (B) حلب میں

(C) حمص میں (D) دمشق میں

157. حضرت انسؓ کس کے آزاد کردہ غلام تھے؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت بلالؓ

(C) حضور ﷺ (D) حضرت عثمانؓ

158. اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی ہالہ کس کے بیٹے تھے۔

(A) حضرت خدیجہؓ (B) حضرت ام سلمہؓ

(C) حضرت عطیہؓ (D) حضرت سعید

جوابات

1. (C)	2. (D)	3. (D)	4. (C)	5. (D)	6. (D)	7. (B)	8. (C)
9. (C)	10. (D)	11. (D)	12. (C)	13. (C)	14. (D)	15. (A)	16. (C)
17. (D)	18. (C)	19. (C)	20. (C)	21. (D)	22. (C)	23. (D)	24. (D)
25. (D)	26. (A)	27. (A)	28. (A)	29. (C)	30. (A)	31. (B)	32. (A)
33. (A)	34. (B)	35. (A)	36. (C)	37. (D)	38. (B)	39. (D)	40. (C)
41. (C)	42. (A)	43. (D)	44. (C)	45. (B)	46. (C)	47. (B)	48. (A)
49. (D)	50. (C)	51. (C)	52. (B)	53. (D)	54. (A)	55. (C)	56. (D)
57. (A)	58. (B)	59. (A)	60. (D)	61. (B)	62. (D)	63. (B)	64. (B)
65. (B)	66. (A)	67. (A)	68. (D)	69. (A)	70. (B)	71. (A)	72. (C)
73. (B)	74. (C)	75. (A)	76. (A)	77. (B)	78. (D)	79. (C)	80. (C)
81. (B)	82. (D)	83. (B)	84. (B)	85. (A)	86 (C)	87. (B)	88. (D)
89. (D)	90. (B)	91. (D)	92. (C)	93. (A)	94. (B)	95. (B)	96. (D)
97. (A)	98. (B)	99. (C)	100. (A)	101. (A)	102. (D)	103. (D)	104. (A)
105. (C)	106. (D)	107. (A)	108. (D)	109. (C)	110. (A)	111. (A)	112. (A)
113. (C)	114. (C)	115. (B)	116. (B)	117. (A)	118. (A)	119. (A)	120. (B)
121. (B)	122. (C)	123. (E)	124. (C)	125. (A)	126. (A)	127. (C)	128. (B)
129. (C)	130. (B)	131. (D)	132. (B)	133. (A)	134. (C)	135. (C)	136. (A)
137. (C)	138. (C)	139. (B)	140. (A)	141. (C)	142. (B)	143. (C)	144. (D)
145. (B)	146. (C)	147. (C)	148. (D)	149. (A)	150. ()	151. (C)	152. (A)
153. (A)	154. (B)	155. (D)	156. (C)	157. (C)	158. (A)		

عشرہ مبشرہ

1. وہ دس صحابہ کرام جن کو نبی پاکؐ نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سے نوازا تھا کہلاتے ہیں۔
(A) عشرہ جنت (B) عشرہ رحمت
(C) عشرہ مبشرہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

2. عشرہ مبشرہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) دس وفادار ساتھی (B) دس مددگار ساتھی
(C) دس عظیم ساتھی
(D) دس سرفراز ہوئے ساتھی

3. عشرہ مبشرہ میں شامل افراد میں حضرت ابوبکرؓ آتے ہیں حضرت ابوبکرؓ کا اصل نام کیا تھا جسے آپؐ نے عبداللہ سے بدل دیا تھا؟
(A) عبدالرحمن (B) عبدالکعبہ
(C) عبداللہ (D) عبدالاسد

4. عشرہ مبشرہ کی شخصیت جن کے دور خلافت میں مسلمانوں نے وقت کی دو بہت بڑی طاقتوں یعنی رومیوں اور ایرانیوں کو شکست دی تھی۔
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت ابوبکرؓ

5. عشرہ مبشرہ کی لسٹ میں آنے والے وہ کونسے صحابی تھے جن کے نکاح میں نبی پاک کی دو بیٹیاں ایک کر کے آئیں؟
(A) حضرت طلحہؓ (B) حضرت زبیرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) کوئی بھی نہیں

6. عشرہ مبشرہ میں شامل کس صحابی کو اسد اللہ اور باب الاسلام جیسے خطابات سے نوازا گیا؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت عمرؓ
(D) حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ

7. عشرہ مبشرہ میں پانچویں نمبر پر آنے والے صحابی ہیں۔
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت زبیرؓ (D) حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ

8. حضرت طلحہ ابن عبید اللہؓ.........
(A) حضرت ابوبکرؓ کے بیٹے تھے
(B) حضرت ابوبکرؓ کے بھائی تھے
(C) حضرت ابوبکرؓ کے بھتیجے تھے
(D) حضرت ابوبکرؓ کے داماد تھے

9. حضرت طلحہ ابن عبید اللہؓ کی کنیت کیا تھی؟
(A) ابو محمد (B) ابو عبداللہ
(C) ابو حذیفہ (D) ابو عمیس

10. کس جنگ میں حضرت طلحہؓ نے نبی پاک کی جان بچائی تھی؟
(A) جنگ بدر (B) جنگ احد
(C) جنگ خندق (D) جنگ حنین

11. کس جنگ میں حضرت طلحہؓ کی بہادری کی وجہ سے مسلمانوں نے فتح حاصل کی؟
(A) غزوہ بدر (B) غزوہ موتہ
(C) غزوہ خیبر (D) غزوہ حنین

12. حضرت زبیرؓ کا نبی پاک ﷺ سے کیا رشتہ تھا؟
(A) بھتیجے تھے (B) پھوپھی زاد تھے
(C) منہ بولے بیٹے تھے (D) داماد تھے

13. کس فوجی مہم میں نبی پاکؐ نے مالی مدد کرنے پر حضرت طلحہؓ "فیاض" کا لقب دیا تھا؟
(A) بدر (B) حنین

(C) تبوک (D) خیبر

14. حضرت طلحہؓ کا لقب......

(A) طلحہ الفیاض' سخی طلحہ تھا (B) طلحہ الخیر' مہربان طلحہ تھا

(C) اے اور بی دونوں

(D) a اور b میں سے کوئی بھی نہیں

15. حضرت علیؓ کے خلاف کس جنگ سے پہلے حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ ان سے کامیاب مذاکرات کے بعد میدان سے واپس لوٹ گئے؟

(A) جنگ جمل (B) جنگ یرموک

(C) جنگ جسر (D) جنگ آلیس

16. جب حضرت طلحہؓ جنگ جمل سے واپس جا رہے تھے تو راستے میں ان کو غنڈوں نے شہید کر دیا۔ یہ واقع کب پیش آیا؟

(A) 656 A.D (B) 657 A.D

(C) 658 A.D (D) 659 A.D

17. عشرہ مبشرہ کے اس صحابی کا نام بتائیں جو کہ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے تھے؟

(A) حضرت زبیر ابن عوامؓ (B) حضرت طلحہؓ

(C) حضرت ابوبکرؓ (D) حضرت عثمانؓ

18. حضرت زبیر ابن عوام حضرت خدیجہؓ کے......

(A) بھائی تھے (B) چچا تھے

(C) بھتیجے تھے (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

19. حضرت زبیر ابن عوام سخت مصائب میں بھی نبی پاک ﷺ کے وفادار رہے انہوں نے......

(A) ہجرت حبشہ میں حصہ لیا (B) ہجرت مدینہ میں حصہ لیا

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

20. حضرت زبیر کس عشرہ مبشرہ صحابی کے داماد تھے؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت طلحہؓ

(C) حضرت ابوبکرؓ (D) حضرت عثمانؓ

21. ایک روایت کے مطابق حضرت زبیرؓ وہ کتنویں شخص تھے جنہوں نے بچپن میں ہی اسلام قبول کرلیا؟

(A) دوسرے (B) تیسرے

(C) چوتھے (D) پانچویں

22. حضرت ابوبکرؓ کی بیٹی کا نام بتائیں جو کہ حضرت زبیرؓ کے نکاح میں تھیں؟

(A) حضرت فاطمہؓ (B) حضرت عائشہؓ

(C) حضرت اسماءؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

23. حضرت ابوعبیدہؓ ابن جراح کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟

(A) وہ مکہ میں پیدا ہوئے

(B) عشرہ مبشرہ میں ساتویں نمبر پر آتے ہیں

(C) دونوں

(D) کوئی نہیں

24. کس غزوہ میں نبی پاک زخمی تھے اور حضرت ابوعبیدہ ابن جراحؓ نے ان کی مدد کی تھی؟

(A) بدر (B) احد

(C) خندق (D) موتہ

25. نبی پاک کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کے ساتھ وہ دوسرے صحابی کون تھے جن کا نام عہدہ خلافت کے لیے نامزد کیا گیا؟

(A) حضرت ابوعبیدہ ابن جراحؓ

(B) حضرت علیؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت زبیر ابن عوامؓ

26. کس خلیفہ کے دور میں حضرت ابوعبیدہ ابن جراحؓ نے شام اور ایران کے محاذوں پر کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کی سپہ سالاری کی؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

27. خلیفہ اول کے دور خلافت میں کون سا علاقہ حضرت ابوعبیدہ ابن

جراحؓ نے فتح کیا؟

(A) دمشق (B) بصرہ

(C) قاہرہ (D) کوفہ

28. حضرت ابوعبیدہ ابن جراحؓ کہاں دفن ہیں؟

(A) دمشق (B) بغداد

(C) مکہ (D) مدینہ

29. حضرت ابوعبیدہ ابن جراحؓ کو نبی پاک ﷺ نے کیا خطاب دیا تھا؟

(A) ابوتراب (B) امین الامت

(C) اسداللہ (D) باب الاسلام

30. امین الامت سے کیا مراد ہے؟

(A) قوم کی فتح (B) قوم کا وفادار

(C) قوم کا پاسبان (D) قوم کا امین

31. عشرہ مبشرہ میں آنے والے آٹھویں صحابی کا نام بتائیں؟

(A) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ

(B) حضرت ابوعبیدہ ابن جراحؓ

(C) حضرت عبدالرحمٰن ابن عوفؓ

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

32. حضرت سعدؓ بن وقاص آپ ﷺ کے ______

(A) چچا تھے (B) دوست تھے

(C) خالو تھے (D) ماموں

33. حضرت سعدؓ کہاں پیدا ہوئے؟

(A) مدینہ (B) مکہ

(C) طائف (D) کوفہ

34. حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کے حوالے سے درج ذیل میں سے کونسا بیان درست ہے؟

(A) وہ انیس سال کی عمر میں مشرف بہ اسلام ہوئے

(B) وہ اٹھارہ سال کی عمر میں مشرف بہ اسلام ہوئے

(C) وہ سترہ سال کی عمر میں مشرف بہ اسلام ہوئے

(D) وہ سولہ سال کی عمر میں مشرف بہ اسلام ہوئے

35. حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کو حضرت عمرؓ کی خلافت میں کس جنگ میں مسلمان فوج کا سپہ سالار بنایا گیا؟

(A) جنگ جمل (B) جنگ جسر

(C) جنگ قادسیہ (D) جنگ بویب

36. کس خلیفہ کی خلافت میں حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کو ایران کا گورنر بنایا گیا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

37. حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کو کس علاقے کا گورنر متعین کیا گیا؟

(A) مکہ (B) بصرہ

(C) کوفہ (D) بغداد

38. حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد کس کو عہدہ خلافت کی پیش کش کی گئی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا؟

(A) حضرت عبدالرحمٰن ابن عوفؓ

(B) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ

(C) حضرت زبیر ابن عوامؓ (D) حضرت طلحہؓ

39. حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کہاں دفن ہیں؟

(A) مکہ (B) مدینہ

(C) کوفہ (D) بصرہ

40. نویں عشرہ مبشرہ میں آنے والے صحابی ہیں۔

(A) حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ

(B) حضرت طلحہؓ

(C) حضرت زبیرؓ

(D) حضرت عمرؓ

41. قبول اسلام سے قبل حضرت عبدالرحمٰنؓ بن عوف کا نام کیا تھا؟

(A) ابوقحافہ (B) ابوجہل

(C) ابِ عمر (D) ابوندوہ

42. حضرت عبدالرحمٰن ابن عوفؓ کی کنیت کیا تھی؟

(A) ابو محمد (B) ابو کلاب
(C) ابو عوف (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

43. حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟
(A) عوس (B) قریش
(C) زہرہ (D) عدی

44. وہ کون سے عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے جن کے آباؤ اجداد نبی پاکؐ کے ساتھ کلاب میں مشترک تھے؟
(A) حضرت طلحہؓ
(B) حضرت زبیرؓ
(C) حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ
(D) حضرت علیؓ

45. حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کن کے ہاتھوں مشرف بہ اسلام ہوئے؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

46. ایک روایت کے مطابق حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف اسلام قبول کرنے والے ________
(A) 11ویں شخص تھے
(B) 12ویں شخص تھے
(C) 13ویں شخص تھے
(D) 14ویں شخص تھے

47. حضرت عبدالرحمنؓ پیدا کب ہوئے؟
(A) 580 A.D (B) 581 A.D
(C) 582 A.D (D) 583 A.D

48. درج ذیل میں سے کونسا بیان حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کے بارے میں درست ہے؟
(A) وہ پندرہ آدمیوں کے اس پہلے جتھے میں شامل تھے جنہوں نے ہجرت حبشہ کی۔
(B) وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ہجرت حبشہ سے واپس آ کر ہجرت مدینہ کی۔
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

49. حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ نے کس غزوہ میں نبی پاک کی جان بچانے کے لئے اپنے جسم پر بیس زخم کھائے؟
(A) غزوہ بدر (B) غزوہ احد
(C) غزوہ خندق (D) غزوہ موتہ

50. کس خلیفہ کے دور خلافت میں حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کو امیر حج مقرر کیا گیا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) اے بی اور سی تینوں

51. حضرت عبدالرحمنؓ ابن عوف نے کب وفات پائی؟
(A) 32 ہجری (B) 33 ہجری
(C) 34 ہجری (D) 35 ہجری

52. آخری عشرہ مبشرہ کے صحابی کا نام بتائیں؟
(A) حضرت عبداللہ ابن زیدؓ (B) حضرت سعد ابن زیدؓ
(C) حضرت سعید ابن زیدؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

53. حضرت سعید ابن زیدؓ اسلام قبول کرنے والے......
(A) 28ویں شخص تھے (B) 29ویں شخص تھے
(C) 30ویں شخص تھے (D) 31ویں شخص تھے

54. عشرہ مبشرہ میں شامل وہ کون سے صحابی تھے جو کہ بارہ لوگوں کے اس جتھے میں شامل تھے جو بیعت عقبہ اولیٰ کے موقعہ پر نبی پاکؐ کے پاس تشریف لائے تھے؟
(A) حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ
(B) حضرت طلحہؓ
(C) حضرت زبیرؓ
(D) حضرت سعید ابن زیدؓ

55. حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں کس جنگ کے لیے حضرت سعید ابن زیدؓ کو فوج کا سپہ سالار بنایا گیا؟

(A) محاذ شام (B) محاذ مصر

(C) محاذ مکہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

56. حضرت سعیدؓ ابن زید کے والد کا نام کیا تھا؟

(A) زید ابن عمر (B) زید ابن حدیج

(C) زید ابن علی (D) زید ابن صحافہ

57. حضرت سعیدؓ کے والد زید ابن عمر ____

(A) ابراہیم کے عقیدے کے پیروکار تھے اور بتوں کی پوجا چھوڑ چکے تھے

(B) کا انتقال وحی سے پانچ سال قبل ہو گیا تھا۔

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

58. حضرت سعیدؓ کے کس علاقے کی گورنری کو اپنی جہاد سے محبت کے لیے ٹھکرا دیا؟

(A) قسطنطنیہ (B) فارس

(C) دمشق (D) طائف

59. کب حضرت سعید ابن زیدؓ نے معرکہ دمشق میں حصہ لیا؟

(A) 14 ہجری (B) 15 ہجری

(C) 16 ہجری (D) 17 ہجری

60. سسر اور داماد جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔

(A) حضرت ابوبکر صدیق اور داماد حضرت زبیر بن عوامؓ

(B) حضرت ابوبکر صدیق اور داماد حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ

(C) حضرت ابوبکر صدیق اور داماد حضرت حسان ابن ثابتؓ

(D) حضرت ابوبکر صدیق اور داماد حضرت طلحہ بن زبیرؓ

61. عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت عمرؓ کے بہنوئی ____

(A) حضرت سعید بن زیدؓ (B) حضرت ابوبکرؓ

(C) حضرت طلحہ بن زبیرؓ

(D) حضرت زبیر بن العوامؓ

62. عشرہ مبشرہ میں سے کس صحابی نے دونوں ہجرتیں کیں؟

(A) حضرت زبیر ابن العوامؓ

(B) حضرت ابوعبیدہ الجراحؓ

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

63. کس عشرہ مبشرہ کی کنیت ابوالاسود تھی؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت سعد بن زیدؓ

(C) حضرت ابوبکرؓ (D) حضرت عثمانؓ

64. عشرہ مبشرہ میں سے کس نے غزوہ بدر میں اپنے کافر باپ سے قتال کیا؟

(A) حضرت سعیدؓ (B) حضرت طلحہؓ

(C) حضرت عبیدہ بن الجراحؓ (D) حضرت زبیرؓ

65. امین الامت لقب ہے۔

(A) عمار بن یاسر کا (B) سلمان فارسیؓ کا

(C) ابوعبیدہ بن الجراحؓ کا (D) ابوسعید خدری کا

(E) کوئی نہیں

66. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔

(A) حضرت سعدؓ بن معاذ (B) حضرت سعد بن عبادہ

(C) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ

(D) حضرت حمزہؓ

(E) کوئی نہیں

67. امین الامت کس صحابی کا لقب ہے؟

(A) ابوعبیدہ بن الجراحؓ (B) عبدالرحمٰن بن عوفؓ

(C) حضرت طلحہؓ

(D) حضرت زبیرؓ

68. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟

(A) سعد بن عبیدؓ (B) حضرت حمزہؓ

(C) سعد بن ابی وقاصؓ (D) کوئی نہیں

69. مندرجہ ذیل میں سے کون سے صحابی رسول ﷺ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟

(A) حضرت عمرو بن عاصؓ

(B) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ

(C) حضرت حسان بن ثابتؓ

(D) حضرت عبداللہ بن رواحہؓ

70. عشرہ مبشرہ میں شامل کس صحابی رسول ﷺ کا انتقال سب سے آخر میں ہوا؟

(A) حضرت زبیر بن العوامؓ (B) حضرت عثمان غنیؓ

(C) حضرت سعد بن وقاصؓ (D) حضرت علیؓ

جوابات

1. (C)	2 (D)	3. (B)	4. (A)	5. (C)	6. (A)	7. (D)	8. (C)
9. (A)	10. (B)	11. (D)	12. (B)	13. (C)	14. (C)	15. (A)	16. (A)
17. (A)	18. (C)	19. (C)	20. (C)	21. (D)	22. (C)	23. (C)	24. (B)
25. (A)	26. (A)	27. (A)	28. (A)	29. (B)	30. (D)	31. (A)	32. (D)
33. (B)	34. (C)	35. (C)	36. (A)	37. (C)	38. (B)	39. (B)	40. (A)
41. (C)	42. (A)	43. (C)	44. (C)	45. (A)	46. (C)	47. (A)	48. (C)
49. (B)	50. (D)	51. (A)	52. (C)	53. (A)	54. (D)	55. (A)	56. (A)
57. (C)	58. (C)	59. (A)	60. (A)	61. (A)	62. (C)	63. (B)	64. (B)
65. (C)	66. (C)	67. (A)	68. (C)	69. (B)	70. (C)		

پہلی شخصیت

1. بنی نوع انسان میں اللہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق کونسی شخصیت تھیں؟
(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت حواؑ
(C) حضرت محمد ﷺ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

2. سب سے پہلی تخلیق ہونے والی خاتون کا نام بتائیں؟
(A) حضرت حواؑ (B) حضرت حاجرہؑ
(C) حضرت عائشہؓ (D) حضرت آدمؑ

3. اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کا نام بتائیں؟
(A) حضرت ادریسؑ (B) حضرت ابراہیمؑ
(C) حضرت ذی الکفلؑ (D) حضرت آدمؑ

4. درج ذیل میں سے وہ کون سی شخصیت تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت ابوبکرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ

5. اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

6. سب سے پہلے مرنے والے صحابی کا نام بتائیں؟
(A) حضرت ابوعبیدہ ابن جراحؓ (B) حضرت عتبہ ابن جراحؓ
(C) حضرت اسعد ابن زرارہؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

7. مکہ میں کس صحابی نے سب سے پہلے کھلے عام قرآن مجید کی تلاوت کی تھی؟
(A) حضرت عبداللہ ابن حسنؓ
(B) حضرت عبداللہ جراحؓ
(C) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ
(D) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ

8. حارث ابن ابی ہالہ کون تھے؟
(A) پہلے صحابی جنہوں نے ہجرت کی
(B) پہلے صحابی جنہوں نے یہودی کو قتل کیا
(C) پہلے صحابی جو شہید ہوئے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

9. اسلام کی تاریخ میں پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام بتائیں؟
(A) حضرت صفیہؓ (B) حضرت حاجرہؑ
(C) حضرت حفصہؓ (D) حضرت سمیہؓ

10. حضرت علیؓ وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے ....
(A) اسلام قبول کیا (B) ایک کافر کو قتل کیا
(C) اللہ کی راہ میں ہجرت کی (D) کفار سے جنگ کی

11. مسلمانوں کی فوج کے پہلے سپہ سالار حضرت محمد ﷺ کے بعد کون تھے؟
(A) حضرت علیؓ ابن ابی طالب
(B) حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب
(C) حضرت عمر ابن خطابؓ
(D) حضرت عثمان ابن عفانؓ

12. کس شخصیت نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر پھینکا؟
(A) حضرت سعدؓ ابن ابی وقاص
(B) حضرت عمر ابن خطابؓ
(C) علی ابن ابی طالبؓ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

13. کس شخصیت کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار کھلے عام کعبہ میں نماز ادا کی؟
(A) حضرت حمزہؓ (B) حضرت طلحہؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت عمرؓ

14. درج ذیل میں سے کس شخصیت کے قبول اسلام نے اسلامی تحریک کو تقویت بخشی؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت ابوبکرؓ

(C) حضرت حمزہؓ (D) حضرت عباسؓ

15. اس شخصیت کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد حرام میں اللہ کی راہ میں جان دی تھی؟

(A) حضرت حارث ابن عبداللہ

(B) حضرت حارث ابن خلیقؓ

(C) حضرت حارث ابن ابی ہالہؓ

(D) حضرت حارث ابن عبدالرحمنؓ

16. حضرت اسامہ ابن مخزونؓ کون تھے؟

(A) پہلے مسلمان جنکے دانت اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے

(B) پہلے مسلمان جنکے بازو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے

(C) پہلے مسلمان جن کی آنکھ اللہ کی راہ میں شہید ہوئی تھی

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

17. اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جھنڈا لہرانے والی شخصیت کا نام بتائیں؟

(A) بریدہ اسلانی (B) بریدہ اسلامی

(C) خلقانی (D) احسان

18. حضرت خدیجہؓ کے بعد اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون کا نام بتائیں؟

(A) اُم حبیبہؓ (B) حفصہ بنت عمرؓ

(C) ام زینبؓ (D) لبابہ بنت حارثؓ

19. حضرت سوید بن صامتؓ کون تھے؟

(A) مکہ میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص

(B) بصرہ میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص

(C) مدینہ میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص

(D) کوفہ میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص

20. پہلی مسلمان عورت کا نام بتائیں؟

(A) حضرت فاطمہؓ (B) حضرت خدیجہؓ

(C) حضرت عائشہؓ (D) حضرت زینبؓ

21. اسلامی تاریخ میں اس بچے کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟

(A) حضرت حمزہؓ (B) حضرت طلحہؓ

(C) حضرت زبیرؓ (D) حضرت علیؓ

22. حضرت زید ابن حارثؓ کون تھے؟

(A) انصار کے پہلے مسلمان

(B) مہاجرین کے پہلے مسلمان

(C) جنگی قیدیوں میں پہلے مسلمان

(D) غلاموں میں پہلے مسلمان

23. اس پہلی شخصیت کا نام بتائیں جنہوں نے کھلے عام اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت ابوبکرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت عمرؓ

24. اسلامی تاریخ میں حضرت سعد ابن معاذؓ وہ پہلی شخصیت تھے جن کو ....

(A) بیت المال کا سربراہ مقرر کیا گیا

(B) کسی بھی علاقے کا قاضی مقرر کیا گیا

(C) حاکم مقرر کیا گیا

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

25. اسلامی تاریخ میں اس بادشاہ کا نام بتائیں جس نے نبی اکرمؐ کی ذات اقدس میں پہلی بادشاہی تحفہ پیش کیا؟

(A) حبش (B) ابو حاکم

(C) ہرقل (D) نجاشی

26. عرب کے کافروں میں وہ پہلا شخص کون تھا جس کا تحفہ نبی اکرمؐ نے قبول فرمایا تھا؟

(A) ابولہب (B) ابوعباس

(C) ابوسفیان (D) عکرمہ ابن ابوجہل

27. واقعہ افک کے بارے میں سب سے پہلے کس شخص نے حضرت عائشہؓ کو مطلع کیا؟
(A) حضرت حفصہؓ (B) حضرت جویریہؓ
(C) حضرت زینبؓ (D) مسطح بنت اثاثہؓ

28. صلح حدیبیہ کو مکمل اطمینان قلب کے ساتھ قبول کرنے والے پہلے شخص کا نام بتائیں؟
(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت ابوبکرؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت طلحہؓ

29. اسلامی تاریخ میں حضرت عثمانؓ اور حضرت رقیہؓ وہ پہلا جوڑا تھا جس نے..........
(A) اللہ کی راہ میں شہادت پائی
(B) اللہ کی راہ میں ہجرت فرمائی
(C) اللہ کی راہ میں لڑے (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

30. حضرت خدیجہؓ، حضرت ابوبکرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت زید ابن حارثؓ نے..........
(A) مسلمانوں کی پہلی اسلامی دولت مشترکہ قائم کی
(B) مسلمانوں کی پہلی اسلامی کمیٹی کی بنیاد رکھی
(C) مسلمانوں کی پہلی اسلامی تنظیم کی بنیاد رکھی
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

31. حضرت فروہ ابن عمرو الجزامیؓ کون تھے؟
(A) پہلے مکی جنہوں نے اسلام قبول کیا
(B) پہلے مدنی جنہوں نے اسلام قبول کیا
(C) پہلے عجمی جنہوں نے اسلام قبول کیا
(D) پہلے عیسائی جنہوں نے اسلام قبول کیا

32. اس پہلی شخصیت کا نام بتائیں جن کی میدان جنگ میں متکبرچال کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت ابودجانہؓ
(C) حضرت نامرؓ (D) حضرت طلحہؓ

33. حضرت کعب ابن زہیرؓ کون تھے؟
(A) پہلے نعت خواں جن کو نبی اکرمؐ نے انعام دیا
(B) پہلے شاعر جن کو نبی اکرمؐ نے انعام دیا
(C) پہلے جنگجو جن کو نبی اکرمؐ نے انعام دیا
(D) پہلے غیر مسلم جن کو نبی اکرمؐ نے انعام دیا

34. اس پہلی خاتون کا نام بتائیں جنہوں نے واقعہ افک میں حضرت عائشہؓ کی پاکیزگی کردار کی گواہی دی تھی؟
(A) حضرت بریرہؓ (B) حضرت سودہؓ
(C) حضرت حفصہؓ (D) حضرت زینبؓ

35. مدینہ میں نبی اکرمؐ کے پہلے میزبان کون تھے؟
(A) حضرت ابوایوب انصاریؓ
(B) حضرت ابوایوب دجانہؓ
(C) حضرت ابوسفیانؓ
(D) حضرت خالد ابن ولیدؓ

36. واقعہ افک میں حضرت عائشہؓ کے کردار کی گواہی دینے والی پہلی ام المومنین کا نام بتائیں؟
(A) حضرت سودہؓ
(B) حضرت جویریہؓ
(C) حضرت حفصہؓ
(D) حضرت زینب بنت جحشؓ

37. حضرت حرام ابن ملحانؓ کون تھے؟
(A) واقعہ سویق میں شہید ہونے والے پہلے شخص
(B) واقعہ بئر معونہ میں شہید ہونے والے پہلے شخص
(C) واقعہ ذات الرقاع میں شہید ہونے والے پہلے شخص
(D) بدر ثانی میں شہید ہونے والے پہلے شخص

38. ہاشم ابن عصابہ کون تھا؟
(A) پہلا دشمن جاسوس جو قتل ہوا
(B) پہلا دشمن جاسوس جو رہا کیا گیا
(C) پہلا دشمن جاسوس جو گرفتار ہوا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

39. اس مسلمان کا نام بتائیں جس نے قذف کے قانون کا سب سے پہلے سامنا کیا تھا؟

(A) حسن ابن ثابتؓ (B) مسطح بن اثاثہ
(C) حمنہ بنت جحشؓ (D) B,A اور C تینوں

40. اس پہلے غلام کا نام بتائیں جسے نبوت کے وقت آزاد کیا گیا اور اس نے اسلام قبول کیا؟
(A) حضرت بلالؓ (B) حضرت صہیبؓ
(C) حضرت زید ابن حارثؓ (D) کوئی بھی نہیں

41. مسلمان ہونے والے پہلے غلام کا نام بتائیں؟
(A) حضرت زید ابن حارثؓ (B) حضرت بلال حبشیؓ
(C) حضرت مصعب ابن عمیرؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

42. حضرت مصعب ابن عمیر کون تھے؟
(A) اسلام قبول کرنے والے پہلے یہودی
(B) نبی اکرمؐ کی طرف سے تعینات کیے ہوئے مدینہ کے پہلے گورنر
(C) نبی اکرمؐ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے پہلے مبلغ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

43. اس پہلے مسلمان گورنر کا نام بتائیں جنھوں نے پہلا بحری بیڑہ تیار کیا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت امیر معاویہؓ

44. حضرت امیر معاویہ کون تھے؟
(A) بنوامیہ کے پہلے گورنر (B) بنوامیہ کے پہلے حکمران
(C) بنوامیہ کے پہلے باغی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

45. عباسی دور کے پہلے خلیفہ کا نام بتائیں؟
(A) ابوعباس (B) مروان
(C) سفاح (D) عبداللہ

46. عبدالرحمن............
(A) مصر کے پہلے اموی خلیفہ تھے
(B) شام کے پہلے اموی خلیفہ تھے
(C) سپین کے پہلے اموی خلیفہ تھے
(D) اردن کے پہلے اموی خلیفہ تھے

47. خلفائے راشدین میں سب سے پہلے بیت المقدس کی چابیاں کس کو حاصل ہوئیں؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

48. سرزمین یمن میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت کا نام بتائیں؟
(A) حضرت ذوحیب ابن کلیبؓ
(B) حضرت ذوحیب ابن قریشؓ
(C) حضرت ذوحیب ابن ہاشم
(D) حضرت ذوحیب ابن حسنؓ

49. اس پہلے شہید کا نام بتائیں جنھوں نے نہ تو کوئی نماز ادا کی اور نہ ہی کوئی روزہ رکھا؟
(A) حضرت سعدؓ ابن ابی وقاص
(B) حضرت معاذؓ ابن ابی وقاص
(C) حضرت اصیرم ابن ابی عبدالاشہل
(D) کوئی بھی نہیں

50. جنگ احد میں کافروں کا چیلنج قبول کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

51. درج ذیل میں سے وہ کون سے صحابی تھے جن کے جسم پر نماز کے دوران تین تیر لگے لیکن انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت ابوعباسؓ
(C) حضرت عبادہ ابن بشرؓ (D) حضرت علیؓ

52. حضرت زبیر ابن العوامؓ وہ پہلے شخص تھے؟
(A) جنھوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا
(B) اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی
(C) جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے
(D) جو دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوئے

53. اسلامی ریاست کے اس پہلے سفیر کا نام بتائیں جو راستے میں شہید ہوئے؟
(A) حضرت حارث ابن عبداللہ
(B) حضرت حارث ابن حکمؓ
(C) حضرت حارث ابن حسنؓ
(D) حضرت حارث ابن عمیرؓ

54. فتح مکہ کے موقعہ پر سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟
(A) ابوعباسؓ (B) ابودرداؓ
(C) ابودجانہؓ (D) ابوسفیانؓ

55. کعبۃ اللہ میں پہلی اذان کس نے دی تھی؟
(A) حضرت زید ابن حارثہؓ (B) حضرت ابودجانہؓ
(C) حضرت بلالؓ (D) حضرت عمرؓ

56. سب سے پہلے کس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟
(A) طلیحہ (B) مسیلمہ کذاب
(C) ابن ملجم (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

57. نبی اکرمؐ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے پہلے شخص کا نام بتائیں؟
(A) حضرت خدیجہؓ (B) حضرت ورقہ ابن نوفل
(C) حضرت ابوبکر صدیق (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

58. کس صحابی نے اسلامی تاریخ کی پہلی اذان دی؟
(A) حضرت زید ابن حارثہؓ (B) حضرت بلالؓ
(C) حضرت حمزہؓ (D) حضرت طلحہؓ

59. حضرت ابوسلمہؓ کون تھے؟
(A) وہ پہلے مسلمان جنھوں نے حبشہ ہجرت کی
(B) وہ پہلے مسلمان جنھوں نے یمن ہجرت کی
(C) وہ پہلے مسلمان جنھوں نے مدینہ ہجرت کی
(D) وہ پہلے مسلمان جنھوں نے کوفہ ہجرت کی

60. پہلے کاتب وحی کا نام بتائیں؟
(A) حضرت ابی ابن کعبؓ (B) حضرت زید ابن حارثہؓ
(C) حضرت ابوبکر صدیق (D) حضرت طلحہ ابن زبیرؓ

61. نبی اکرمؐ کے پہلے چچازاد اور داماد کا نام بتائیں؟
(A) حضرت حمزہؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت اویسؓ (D) حضرت عباسؓ

62. قصیٰ کون تھے؟
(A) امیوں میں سے وہ پہلے شخص جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی
(B) بنی اسرائیل میں سے وہ پہلے شخص جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی
(C) اہل ثمود میں سے وہ پہلے شخص جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی
(D) اہل قریش میں سے وہ پہلے شخص جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی

63. حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ وہ پہلے شخص تھے جنھوں نے ....
(A) کعبہ میں قرآن کی تلاوت کی
(B) مکہ میں قرآن کی تلاوت کی
(C) بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کی
(D) قرأت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی

64. پہلی وحی کے بعد نبی اکرمؐ کی سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی؟
(A) ورقہ ابن نوفل (B) حضرت خدیجہؓ
(C) حضرت ابوبکر صدیق (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

65. معراج کی رات میں پہلے آسمان پر نبی اکرمؐ کی ملاقات کس سے ہوئی؟
(A) حضرت ابراہیمؑ (B) حضرت ادریس
(C) حضرت ہارونؑ (D) حضرت آدم

66. حادثاتی طور پر کس صحابی نے پہلا اور آخری قتل کیا؟
(A) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ
(B) حضرت سعد ابن ابی ہالہؓ
(C) حضرت سعد ابن ابی خلیق
(D) حضرت سعد ابن ابی عتیقؓ

67. اس پہلی خاتون کا نام بتائیں جس کی پرورش بچپن ہی سے مسلمان والدین کے زیر سایہ اسلامی طرز پر ہوئی؟
(A) حضرت خدیجہؓ (B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت سودہؓ (D) حضرت حفصہؓ

68. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے۔
(A) حضرت علیؓ کا خاندان پہلا مسلمان خاندان تھا
(B) حضرت عمرؓ کا خاندان پہلا مسلمان خاندان تھا
(C) حضرت عثمانؓ کا خاندان پہلا مسلمان خاندان تھا
(D) حضرت ابوبکرؓ کا خاندان پہلا مسلمان خاندان تھا

69. سب سے پہلے مرتد کا نام بتائیں؟
(A) ابوسفیان (B) ابن ملجم
(C) ہندہ (D) عبیدہ ابن جحش

70. مدینہ کا پہلا مہاجر کون تھا؟
(A) حضرت ابوسلمہؓ (B) حضرت ابوسفیانؓ
(C) حضرت ابوعباسؓ (D) حضرت ابوعفانؓ

71. فاطمی حکومت کی بنیاد شمالی افریقہ میں کس نے رکھی؟
(A) ابوعباسؓ (B) ابوعبداللہ
(C) ابوحسان (D) ابوعبید

72. ابوالخیر کون تھا؟
(A) سلاطین بنو امیہ کا بانی (B) سلاطین فاطمی کا بانی
(C) سلاطین ایوبی کا بانی (D) سلاطین عباسی کا بانی

73. جنگ بدر میں شہید ہونے والی پہلی شخصیت تھے۔
(A) حضرت عبیدہ بن حارثؓ
(B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت طلحہ بن زیدؓ
(D) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ

74. جنگ بدر میں مرنے والا پہلا دشمن تھا۔
(A) شیبہ (B) عبداللہ بن ابی
(C) عتبہ بن ربیعہ (D) کوئی نہیں

75. واحد صحابی جن کا نام قرآن مجید میں ہے۔
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت طلحہؓ
(C) حضرت عقیلؓ (D) حضرت زید بن حارثؓ

76. سب سے پہلے حکمران کا نام بتائیں جس نے اسلام قبول کیا؟
(A) نجاشی (B) ہرقل
(C) تیمور (D) ہرمن

77. دارارقم کے دوران اسلام قبول کرنے والا پہلا آدمی کون تھا؟
(A) عقیل ابن عثمان (B) عقیل ابن بکر
(C) عقیل ابن عفان (D) عقیل ابن علی

78. کعبۃ اللہ میں کلمہ اسلام کو با آواز بلند کہنے والے پہلے صحابی تھے۔
(A) حضرت عمرؓ
(B) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ
(C) حضرت ابوذر غفاریؓ
(D) حضرت حمزہؓ

79. حمایت اسلام میں سب سے پہلے کس نے تلوار اٹھائی؟
(A) حضرت زبیر بن العوامؓ (B) حضرت ابوعبیدہؓ
(C) حضرت طلحہؓ (D) کوئی نہیں

80. پہلا مسلمان جس نے تدوین حدیث کی؟
(A) امام بخاری (B) امام زہری
(C) امام حنبل (D) امام مالک

81. مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے آدمی ______
(A) حضرت ابوحذیفہ (B) حضرت ابوسلمہ
(C) حضرت ابونجف (D) کوئی نہیں

جوابات

(A)	2. (A)	3. (D)	4. (B)	5. (A)	6. (C)	7. (C)	8. (C)
(D)	10. (B)	11. (B)	12. (A)	13. (D)	14. (C)	15. (C)	16. (C)
(B)	18. (D)	19. (C)	20. (B)	21. (D)	22. (D)	23. (D)	24. (C)
(D)	26. (C)	27. (D)	28. (B)	29. (B)	30. (C)	31. (C)	32. (B)
(B)	34. (A)	35. (A)	36. (D)	37. (B)	38. (C)	39. (D)	40. (C)
(A)	42. (C)	43. (D)	44. (B)	45. (C)	46. (C)	47. (B)	48. (A)
(C)	50. (D)	51. (C)	52. (B)	53. (D)	54. (D)	55. (C)	56. (B)
(B)	58. (B)	59. (C)	60. (A)	61. (B)	62. (D)	63. (C)	64. (B)
(D)	66. (A)	67. (B)	68. (D)	69. (D)	70. (A)	71. (B)	72. (D)
(A)	74. (C)	75. (D)	76. (A)	77. (B)	78. (C)	79. (A)	80. (B)
(B)							

بنات الاسلام

1. حضرت سمیہ کا پہلے مسلمان ہونے والوں میں نمبر تھا۔
(A) پانچواں (B) چھٹا
(C) ساتواں (D) آٹھواں

2. حضرت سمیہ راہ اسلام میں شہید ہونے والی صحابیہؓ تھیں۔
(A) پہلی (B) دوسری
(C) تیسری (D) چوتھی

3. حضرت سمیہ قریشی قبیلے کی کنیز تھیں۔
(A) بنی امیہ (B) بنی مخزوم
(C) بنی عدی (D) بنی ہاشم

4. ظالم کافر جس نے حضرت سمیہ کو شہید کیا۔
(A) امیہ (B) عتبہ
(C) ابولہب (D) ابوجہل

5. حضرت عمرؓ کی بہن جس نے ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔
(A) فاطمہؓ (B) زینبؓ
(C) صفیہؓ (D) عائشہؓ

6. حضرت لبینہؓ اور حضرت زنیرہؓ لونڈیاں تھیں۔
(A) خلیفہ اوّل (B) خلیفہ دوم
(C) خلیفہ سوم (D) خلیفہ چہارم

7. خاتون صحابیہ جو اہل مکہ کے گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دیتی تھیں۔
(A) ام فضلؓ (B) ام عطیہؓ
(C) ام شریکؓ (D) ام کلثوم

8. صحابیہؓ جن کو اسلام پر استقامت کی بنا پر مکہ سے نکال دیا گیا۔
(A) ام ہانیؓ (B) ام حبیبہؓ
(C) ام عبدؓ (D) ام شریکؓ

9. صحابیہ جس کے گھر حضور ﷺ کے مہمان ٹھہرا کرتے تھے۔
(A) ام سلیمؓ (B) ام شریکؓ
(C) ام حرامؓ (D) ام رومانؓ

10. ام عمارہؓ کے شوہر تھے۔
(A) زیدؓ بن عاصم (B) زیدؓ بن خطاب
(C) زیدؓ بن حارث (D) زیدؓ بن ثابت

11. احد میں آپ علیہ السلام کے دانت شہید کرنے والے کافر ابن قمیہ پر جوابی حملہ کیا۔
(A) ام معبدؓ نے (B) ام عبدؓ نے
(C) ام عمارہؓ نے (D) ام عطیہؓ نے

12. حضرت ام عمارہؓ کے مجاہد بیٹے تھے۔
(A) ایک (B) دو
(C) تین (D) چار

13. نیکیوں میں اضافے کے لیے خواتین کی نمائندہ بن کر حضور علیہ السلام سے بات کی۔
(A) اسماءؓ بنت عمیس (B) اسماءؓ بنت ابی بکر
(C) اسماءؓ بنت یزید (D) فاطمہؓ بنت اسد

14. صحابیہؓ جو مدینہ میں گھر گھر جا کر اسلام کا پیغام دیتی تھیں۔
(A) حضرت ناجیہؓ (B) حضرت صفیہؓ

(C) حضرت زینبؓ (D) حضرت حفصہؓ

15. حضرت ناجیہؓ کی کوششوں سے خواتین مسلمان ہوئیں۔

(A) 106 (B) 108

(C) 110 (D) 112

16. خاتون صحابیہؓ جس نے جنگ یرموک کے بعد ایرانی خواتین کو خطاب کر کے مسلمان کیا۔

(A) ام عمارہؓ (B) حضرت ناجیہؓ

(C) ام عطیہؓ (D) ام حرامؓ

17. حضرت انسؓ بن مالک کی والدہ کا نام تھا۔

(A) ام عمارہؓ (B) ام حرامؓ

(C) ام سلیمؓ (D) ام عطیہؓ

18. حضرت ام سلیمؓ نے مشہور صحابیؓ کو اسلام کی دعوت دی۔

(A) ابو ایوبؓ (B) ابوذرؓ

(C) ابو دجانہؓ (D) ابو طلحہؓ

19. ابو طلحہؓ اور ان کی بیوی جس نے [illegible] کار و کر مہمانوں کو حکمت سے کھانا کھلایا۔

(A) ام سلیمؓ (B) ام عبداللہؓ

(C) ام عبدالرحمٰنؓ (D) ام طلحہؓ

20. عظیم صحابیہ جس نے بیٹے کی وفات کی خبر بھی صبر کے ساتھ شوہر کو دیر بعد سنائی۔

(A) ام عبدؓ (B) ام سلیمؓ

(C) ام معبدؓ (D) ام شریکؓ

21. حضرت اسماؓ جس خلیفہ راشد کی بیٹی تھیں۔

(A) خلیفہ چہارم (B) خلیفہ سوم

(C) خلیفہ دوم (D) خلیفہ اول

22. صحابیہؓ جو بچی ہونے کے باوجود غار ثور میں تین دن کھانا پہنچاتی رہی۔

(A) حضرت زینبؓ (B) حضرت فاطمہؓ

(C) حضرت اسماؓ (D) حضرت رقیہؓ

23. صحابیہ جو بیٹے ابن زبیرؓ کو ٹیلے پر بٹھا کر جنگ دکھاتیں۔

(A) حضرت اسماءؓ (B) حضرت ناجیہؓ

(C) حضرت صفیہؓ (D) حضرت سمیہؓ

24. حضرت صفیہؓ حضور ﷺ کی لگتی تھیں۔

(A) خالہ (B) پھوپھی

(C) چچی (D) ممانی

25. حضرت صفیہؓ کے شوہر عوام بن خویلد جس ام المومنین کے بھائی تھے۔

(A) حضرت میمونہؓ (B) حضرت جویریہؓ

(C) حضرت سودہؓ (D) حضرت خدیجہؓ

26. غزوہ جس میں حضرت صفیہؓ نے ایک یہودی کو قتل کیا تھا۔

(A) بدر (B) احد

(C) احزاب (D) خیبر

27. حضرت صفیہؓ کا وصال ہوا۔

(A) 20ھ (B) 21ھ

(C) 22ھ (D) 23ھ

28. معراج کی رات آقا علیہ السلام جس چچازاد بہن کے گھر آرام فرما تھے۔

(A) ام عبدؓ (B) ام ہانیؓ

(C) شیماؓ (D) ام شریکؓ

29. حضرت علیؓ کی بہن ام ہانیؓ کا اصل نام تھا۔

(A) رملہؓ (B) برکہؓ

(C) فاختہؓ (D) ناجیہؓ

30. حضرت حلیمہ سعدیہ بمعہ خاندان اسلام قبول کیا۔

(A) 5 ہجری (B) 6 ہجری

(C) 7 ہجری (D) 8 ہجری

31. حلیمہ سعدیہؓ اور اُن کے خاندان نے جس مقام پر اسلام قبول کیا۔

(A) جعرانہ (B) طائف

(C) مکہ (D) عکاظ

32. ام ایمنؓ کنیز تھی۔

(A) حضرت خدیجہؓ کی (B) آپ ﷺ

(C) حضرت عبداللہؓ کی (D) حضرت آمنہؓ کی

33. ام ایمنؓ کا اصل نام تھا۔

(A) رملہؓ (B) برکہؓ

(C) فاختہؓ (D) ناجیہؓ

34. ام ایمنؓ کے شوہر تھے۔

(A) زیدؓ بن خطاب (B) زیدؓ بن عاصم

(C) زیدؓ بن ثابت (D) زیدؓ بن حارثہ

35. نبی اکرم ﷺ نے ام ایمن کو قرار دیا اپنی

(A) ماں (B) خالہ

(C) پھوپھی (D) چچی

36. حضرت ام سلیمؓ کی حقیقی بہن کا نام ہے۔

(A) ام عطیہؓ (B) ام حرامؓ

(C) ام عمارہؓ (D) ام شریکؓ

37. حضرت ام حرامؓ دفن ہیں۔

(A) ایران (B) قبرص

(C) مصر (D) شام

38. صحابیہؓ جن کو حضورؐ کے گھریلو کاموں میں دخل حاصل تھا۔

(A) ام شریکؓ (B) ام سلیمؓ

(C) ام عبدؓ (D) ام عطیہؓ

39. حضرت اسماء بنت عمیس کا وصال ہوا۔

(A) 40ھ (B) 41ھ

(C) 42ھ (D) 43ھ

40. حضرت خدیجہؓ کے بعد دوسری مسلم خاتون ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

(A) اسما (B) ام رومانؓ

(C) ام ایمنؓ (D) ام الفضلؓ

41. آپ کی چچی ام الفضل کا اصل نام تھا۔

(A) رملہؓ (B) ناجیہؓ

(C) لبابہؓ بنت حارث (D) برکہؓ

42. ام فضل جس ام المومنین کی بہن تھیں۔

(A) حضرت جویریہؓ (B) حضرت میمونہؓ

(C) حضرت حفصہؓ (D) حضرت صفیہؓ

43. ام رومان جس ام المومنین کی والدہ تھیں۔

(A) حضرت ام حبیبہؓ (B) حضرت ام سلمہؓ

(C) حضرت زینبؓ (D) حضرت عائشہؓ

44. خاتون جس کو آقا ﷺ نے دنیا میں حور عین فرمایا۔

(A) ام رومانؓ (B) ام فضلؓ

(C) صفیہؓ (D) حلیمہؓ سعدیہ

45. عظیم خاتون جس نے حضورؐ کے ساتھ سات جنگوں میں شرکت کی۔

(A) ام شریکؓ (B) ام عمارہؓ

(C) ام عطیہؓ (D) ام ہانیؓ

46. ام عطیہؓ کی وفات جس شہر میں ہوئی۔

(A) بغداد (B) دمشق

(C) کوفہ (D) بصرہ

47. ام عطیہؓ نے آقا علیہ السلام کی جس بیٹی کو غسل دیا۔

(A) حضرت فاطمہؓ (B) حضرت زینبؓ

(C) حضرت رقیہؓ (D) حضرت ام کلثومؓ

48. ام الفضلؓ کو جس ہستی کو دودھ پلانے کا بھی شرف حاصل ہے۔

(A) امام حسینؓ (B) امام حسنؓ

(C) عبداللہؓ بن زبیر (D) عبداللہؓ بن عمر

جوابات

1. (C)	2. (A)	3. (B)	4. (D)	5. (A)	6. (B)	7. (C)	8. (D)
9. (B)	10. (A)	11. (C)	12. (D)	13. (C)	14. (A)	15. (D)	16. (B)
17. (C)	18. (D)	19. (A)	20. (B)	21. (D)	22. (C)	23. (A)	24. (B)
25. (D)	26. (C)	27. (A)	28. (B)	29. (C)	30. (D)	31. (A)	32. (C)
33. (B)	34. (D)	35. (A)	36. (B)	37. (B)	38. (C)	39. (A)	40. (D)
41. (C)	42. (B)	43. (D)	44. (A)	45. (C)	46. (D)	47. (B)	48. (A)

خلافت

1. خلیفہ کے لغوی معنی ہیں۔
(A) جو کسی ایسے شخص کی جگہ پر آتا ہے جو کہ اس عہدہ کو چھوڑ چکا ہو یا مر چکا ہو
(B) وہ جو پچھلے خلیفہ کو طاقت کے ذریعے سے ہٹادے
(C) وہ پچھلے حکمران کے مرنے کے بعد اس منصب پر فائز ہو
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

2. ایک مسلم خلیفہ کام کرتا ہے۔
(A) مسلمانوں کے سیاسی راہنما کی حیثیت سے
(B) مسلمانوں کے فوجی راہنما کی حیثیت سے
(C) مسلمانوں کے انتظامی راہنما کی حیثیت سے
(D) B،A اور C تینوں حیثیتوں سے

3. انیسویں صدی کے آغاز تک خلافت اسلامیہ کا تعلق کس سے رہا؟
(A) مصر (B) ترکی
(C) انڈونیشیا (D) عراق

4. بیت المال زکوٰۃ اکٹھا کرنے اور دوسرے ٹیکسوں کا نفاذ کرنے والوں کو چنتا ہے۔
(A) خلیفہ
(B) ایک وزیر جسے خلیفہ مقرر کرتا ہے
(C) امیر بیت المال
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

5. خلیفہ قریش کے قبیلے سے ہو اور
(A) مرد ہو چاہیے
(B) اس کو اسلام کی مکمل معلومات ہونی چاہیے اور وہ اس قابل ہو کہ اگر ضرورت پڑے تو اکیلا بھی فیصلے کر سکے
(C) وہ سیاسی فوجی اور انتظامی طور پر تجربہ کار ہو
(D) A,B اور C تینوں

6. ایک خلیفہ خلافت کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔
(A) چناؤ کے ذریعے (B) نامزدگی کے ذریعے
(C) طاقت کے ذریعے (D) B,A اور C تینوں

7. مجلس شوریٰ خلیفہ کا چناؤ کرتی ہے اگر
(A) پہلے سے موجود کوئی خلیفہ نہ ہو
(B) ایک قابل شخص مجلس شوریٰ کے چناؤ کو قبول کرے
(C) عوام ضرور نئے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کریں
(D) B,A اور C تینوں

8. دور خلافت میں مسلمانوں نے دیبل (Dabul) پر حملہ کیا جو کہ اب کہلاتا ہے۔
(A) ا کمران (B) منصورہ
(C) کراچی (D) دہلی

9. پہلے چار خلفاء کو کہا جاتا ہے ______
(A) سچے خلیفہ (B) خلفائے راشدین
(C) نیک خلیفہ (D) خلفائے اکبر

10. مسلم خلیفہ بالخصوص امین لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔
(A) بیت المال کے دفتری معاملات کے لیے
(B) فوج کے دفتری معاملات کے لیے
(C) انتظامیہ کے دفتری معاملات کے لیے
(D) مجلس شوریٰ کے دفتری معاملات کے لیے

11. بیت المال کے ملازمین کو تنخواہ ادا کرتا ہے۔
(A) خلیفہ (B) خلیفہ کا مقرر کردہ وزیر
(C) صوبائی وزیر اعلیٰ (D) کوئی نہیں

12. نئے خلیفہ کو بنانے کا اختیار
(A) خلیفہ کے جانشین کے پاس ہوتا ہے
(B) مجلس شوریٰ کے پاس ہوتا ہے
(C) بیت المال کے دفتری عملے کے پاس ہوتا ہے
(D) ان میں سے کوئی نہیں

13. ایک مسلم خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریش سے ہو اور
(A) مرد ہو
(B) اسلام کی مکمل معلومات رکھتا ہو
(C) سیاسی، فوجی اور انتظامی امور میں تجربہ کار ہو
(D) تینوں

14. خلیفہ اول خلیفہ مقرر ہوئے۔
(A) 631ء (B) 632ء
(C) 633ء (D) 634ء

15. خلیفہ دوم خلیفہ مقرر ہوئے۔
(A) 631ء (B) 632ء
(C) 633ء (D) 634ء

16. خلیفہ سوم خلیفہ مقرر ہوئے۔
(A) 641ء (B) 642ء
(C) 643ء (D) 644ء

17. خلیفہ چہارم خلیفہ مقرر ہوئے۔
(A) 655ء (B) 656ء
(C) 657ء (D) 658ء

18. خلیفہ اول کا وصال ہوا۔
(A) ربیع الاول (B) ربیع الثانی
(C) جمادی الاول (D) جمادی الثانی

19. خلیفہ دوم کا وصال ہوا۔
(A) محرم (B) صفر
(C) ربیع الاول (D) ربیع الثانی

20. خلیفہ سوم کا وصال ہوا۔
(A) رمضان (B) شوال
(C) ذیقعد (D) ذوالحج

21. خلیفہ چہارم کا وصال ہوا۔
(A) رجب (B) شعبان
(C) رمضان (D) شوال

22. خلیفہ اول کا سال پیدائش۔
(A) 571ء (B) 572ء
(C) 573ء (D) 574ء

23. خلیفہ دوم کا سال پیدائش۔
(A) 581ء (B) 582ء
(C) 583ء (D) 584ء

24. خلیفہ سوم کا سال پیدائش۔
(A) 575ء (B) 576ء
(C) 577ء (D) 578ء

25. خلیفہ چہارم کا سال پیدائش۔
(A) 600ء (B) 601ء
(C) 602ء (D) 603ء

26. پانچواں خلیفہ راشد کسے کہا جاتا ہے۔
(A) امام حسنؓ (B) عمر بن عبدالعزیزؒ
(C) دونوں A،B (D) امیر معاویہؓ

27. حدیث کی رو سے خلافت راشدہ کی مدت تھی۔
(A) 29 سال (B) 30 سال
(C) 31 سال (D) 32 سال

28. خلیفہ اول بنے
(A) 11ھ (B) 12ھ
(C) 13ھ (D) 14ھ

29. خلیفہ دوم بنے۔
(A) 11ھ (B) 12ھ
(C) 13ھ (D) 14ھ

30. خلیفہ سوم بنے۔
(A) 21ھ (B) 22ھ
(C) 23ھ (D) 24ھ

31. خلیفہ چہارم بنے۔
(A) 35ھ (B) 34ھ
(C) 35ھ (D) 36ھ

32. امام حسنؓ خلیفہ بنے۔
(A) 37ھ (B) 38ھ
(C) 39ھ (D) 40ھ

33. عمر بن عبدالعزیزؒ خلیفہ بنے۔
(A) 98ھ (B) 99ھ
(C) 100ھ (D) 101ھ

34. خلیفہ اول کا دورانیہ خلافت تقریباً
(A) 1 سال (B) 2 سال
(C) 3 سال (D) 4 سال

35. خلیفہ دوم کا دورانیہ خلافت تقریباً
(A) 10 سال (B) 11 سال
(C) 12 سال (D) 13 سال

36. خلیفہ سوم کا دورانیہ خلافت تقریباً
(A) 10 سال (B) 11 سال
(C) 12 سال (D) 13 سال

37. خلیفہ چہارم کا دورانیہ خلافت تقریباً
(A) 2 سال (B) 3 سال
(C) 4 سال (D) 5 سال

38. خلافت راشدہ کا کل عرصہ کتنا ہے؟
(A) 23 سال (B) 25 سال
(C) 27 سال (D) 30 سال

جوابات

1. (A)	2. (D)	3. (B)	4. (A)	5. (D)	6. (D)	7. (A)	8. (B)
9. (B)	10. (A)	11. (A)	12. (B)	13. (D)	14. (B)	15. (D)	16. (D)
17. (B)	18. (D)	19. (A)	20. (D)	21. (C)	22. (C)	23. (C)	24. (A)
25. (A)	26. (C)	27. (B)	28. (A)	29. (C)	30. (D)	31. (C)	32. (D)
33. (B)	34. (B)	35. (A)	36. (C)	37. (D)	38. (D)		

حضرت ابوبکر صدیق

حضرت ابوبکر صدیقؓ

1. حضرت ابوبکر صدیقؓ کا اصل نام کیا ہے۔
(A) عبدالرحمن (B) عبداللہ
(C) ابوقحافہ (D) صدیق

2. اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیقؓ کا نام تھا۔
(A) عبدالہاشم (B) عبدالکعبہ
(C) ابوالہاشم (D) ابوہریرہ

3. ابوبکر کا مطلب کیا ہے؟
(A) اونٹوں کا باپ (B) بکریوں کا باپ
(C) بھیڑوں کا باپ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

4. حضرت ابوبکرؓ کو ابوبکر کیوں کہا جاتا تھا؟
(A) اپنے ابتدائی سالوں میں آپؓ اونٹوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے
(B) اونٹوں کے ذریعے آپ تجارت کرتے تھے
(C) آپؓ اونٹوں کی خرید و فروخت کرتے تھے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

5. حضرت ابوبکر صدیقؓ نبی پاکؐ سے ....
(A) دو سال اور تین مہینے چھوٹے تھے
(B) تین سال اور تین مہینے چھوٹے تھے
(C) چار سال اور تین مہینے چھوٹے تھے
(D) پانچ سال اور تین مہینے چھوٹے تھے

6. حضرت ابوبکرؓ کے والد ابوقحافہ کا اصل نام تھا۔
(A) عتیق (B) عثمان
(C) نعیم (D) رضوان

7. حضرت ابوبکر صدیقؓ کی والدہ کا نام سلمہ تھا جن کا خاندانی نام..........
(A) ام الخیر تھا (B) ام بکر
(C) ام فاطمہ (D) ام سلمہ

8. حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت محمدؐ کے مشترک جد امجد کون تھے؟
(A) مرہ (MURRA) (B) کلاب
(C) کعب (D) کعبہ

9. اٹھارہ سال کی عمر میں حضرت ابوبکرؓ نے اپنا خاندانی پیشہ ______ اپنایا۔
(A) تجارت (B) کپڑے کا کاروبار
(C) درزی (D) ان میں سے کوئی نہیں

10. سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کی۔
(A) حضرت علیؓ نے
(B) حضرت عثمانؓ نے
(C) حضرت عمرؓ نے
(D) حضرت ابوبکر صدیقؓ نے

11. کس واقعہ کے بعد حضور پاکؐ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو صدیق کا لقب دیا تھا؟
(A) جب انہوں نے نبی پاکؐ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی
(B) جب انہوں نے نبی پاکؐ کے ساتھ غار ثور میں قیام کیا
(C) جب حضرت ابوبکر صدیقؓ نے واقعہ معراج کی تصدیق کی
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

12. حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنی ساری دولت نبی پاکؐ کے سامنے پیش کردی۔
(A) مدینہ میں ایک مسجد کی تعمیر کے لیے
(B) معرکہ تبوک کیلیے

(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی نہیں

13. اسلام کے پہلے امیر حج کا نام بتائیں؟
(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت ابوبکرؓ (D) حضرت عمرؓ

14. کہاں پر آپؐ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کو جانے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے اس دروازے کے جو حضرت ابوبکرؓ کے گھر کی طرف کھلتا ہے؟
(A) مسجد اقصیٰ میں (B) مسجد نبوی میں
(C) مسجد قبا میں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

15. کس طریقہ کار سے حضرت ابوبکر صدیقؓ خلیفہ بنے؟
(A) مشاورت سے (B) ووٹ کے ذریعے
(C) بیعت عامہ سے (D) کسی سے نہیں

16. خلافت کا منصب حضرت ابوبکرؓ کو ملنا چاہیے۔ کن لوگوں نے اس بات پر زور دیا تھا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ کی اسلام کیلئے خدمات کے پیش نظر انصار نے یہ نقطہ نظر پیش کیا
(B) کیونکہ نبی پاک قریش سے تھے اس لئے عربوں کی روایت کے مطابق قریش نے یہ نقطہ نظر پیش کیا
(C) اے اور بی دونوں
(D) اے اور بی میں سے کوئی بھی نہیں

17. کس نے فرمایا کہ اسلام کی سلامتی کیلئے صرف ایک امیر مسلم ہونا چاہیے اور ان کی خلافت کا اعلان کیا۔
(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ

18. حضرت ابوبکر صدیقؓ کب پیدا ہوئے؟
(A) 571 A.D (B) 572 A.D
(C) 573 A.D (D) 574 A.D

19. قریش قبیلے کی کس شاخ سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کا تعلق تھا؟
(A) بنو تمیم (B) بنو ہاشم
(C) بنو اسد (D) بنو زخرف

20. حضرت ابوبکر صدیقؓ کی تبلیغ پر مشرف با اسلام ہوئے۔
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) کوئی بھی نہیں

21. حضرت عمرؓ اور حضرت ابوعبیدہؓ کے بعد انصاری صحابی جنہوں نے حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کی بیعت کی۔
(A) بشیر ابن سعدؓ (B) عمر ابن سعدؓ
(C) حسن ابن سعدؓ (D) حذیفہ ابن سعدؓ

22. ایک خلیفہ انصار میں سے اور ایک قریش میں سے چننے کا مشورہ دیا تھا۔
(A) حذیفہ ابن سعدؓ (B) طلحہ ابن سعدؓ
(C) حباب ابن منذر (D) کوئی بھی نہیں

23. حضرت ابوبکرؓ کے چناؤ کے وقت کس نے فرمایا کہ "اے انصار تم وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اب اس کو خراب کرنے والوں میں پہلے نہ ہو؟
(A) حضرت ابوعبیدہ ابن جراحؓ
(B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ
(D) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ

24. حضرت ابوبکرؓ کے چناؤ کے وقت کس انصاری نے کہا کہ "اے انصار اسلام کیلئے ہماری خدمات اللہ کیلئے تھیں اور ہم اسی سے اس کا صلہ لیں گے؟
(A) بشیر ابن سعدؓ (B) زبیر ابن طلحہؓ
(C) انس ابن مالکؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

25. کس انصاری صحابی نے اپنی موت تک بھی حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت پر بیعت نہیں کی؟
(A) حضرت سعد ابن عبادہؓ (B) حضرت سعد ابن منظرؓ
(C) حضرت سعد ابن جراحؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

26. خلافت کیلئے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کس کا نام تجویز کیا تھا؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت ابوعبیدہؓ
(C) A اور B دونوں کا (D) نہ A اور نہ B

27. حضرت علیؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
(A) بیعت عامہ کے 9 دنوں کے بعد
(B) بیعت عامہ کے 22 دنوں کے بعد
(C) بیعت عامہ کے 30 دنوں کے بعد
(D) کبھی بھی بیعت نہیں کی

28. اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی جب حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضور پاکؐ سے اعلانیہ تبلیغ اسلام کی اجازت مانگی اور ان کو اجازت دے دی گئی؟
(A) 30 (B) 34
(C) 36 (D) 39

29. حضرت ابوبکرؓ نے معرکہ شام کے لئے روانہ ہونے والی فوجوں کا سپہ سالار مقرر کیا۔
(A) حضرت اسامہ بن زیدؓ (B) حضرت زید ابن حارثؓ
(C) حضرت ابوطالب (D) حضرت زید ابن ثابتؓ

30. معرکہ شام کیلئے فوج روانہ کرنے کے بعد کس کے بارے میں حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ اسے میری مدد کیلئے چھوڑ جاؤ؟
(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت ابوعبیدہؓ

31. شام 633A.D میں فتح ہوا ہجری سال کون سا تھا؟
(A) 12 ہجری (B) 13 ہجری
(C) 14 ہجری (D) 15 ہجری

32. شام کا بادشاہ کون تھا؟
(A) ہرقل (B) نجاشی
(C) قیصر (D) کسریٰ

33. شام کے بادشاہ ہرقل کا مذہب کیا تھا؟
(A) یہودی تھا (B) عیسائی تھا
(C) مجوسی تھا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

34. سب سے اہم مسئلہ جس کا سامنا حضرت ابوبکرؓ کو خلافت کے فوراً بعد ہوا۔
(A) زکوٰۃ ادا کرنے سے کچھ لوگوں کا انکار
(B) دعویٰ نبوت کی تحریک
(C) اے اور بی دونوں
(D) اے اور بی میں سے کوئی بھی نہیں

35. حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت کے کس سال منکرین زکوٰۃ کا واقعہ پیش آیا؟
(A) 630 A.D (B) 631 A.D
(C) 632 A.D (D) 633 A.D

36. حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت میں قبیلہ جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔
(A) بنو اسد (B) بنو غطفان
(C) بنو عبس اور بنو مراج (D) اے بی اور سی تینوں

37. دعویٰ نبوت کرنے والوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کس نام سے جنگیں لڑیں؟
(A) ردہ جنگیں (B) خونی جنگیں
(C) صائم جنگیں (D) صلیبی جنگیں

38. حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دور میں اس پہلے شخص کا نام بتائیں جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا؟
(A) اسود عنسی (B) طلیحہ
(C) سجاح (D) کوئی بھی نہیں

39. اسود عنسی نے اپنا مرکز بنایا؟
(A) شام (B) مکہ
(C) یمن (D) مصر

40. اسود عنسی کیوں پردے والا نبی کہلاتا تھا؟
(A) کیونکہ وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا
(B) وہ ایک بدصورت انسان تھا اور اپنی بدصورتی کو چھپانے کیلئے اپنا چہرہ چھپائے رکھتا تھا

(C) وہ اپنی شناخت چھپانے کیلئے اپنا چہرہ چھپائے رکھتا تھا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

41. حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دور میں ابھرنے والے دوسرے جھوٹے نبی کا نام بتائیں؟
(A) مسیلمہ (B) طلیحہ
(C) سجاح (D) اسود عنسی

42. اسود عنسی کو کس نے قتل کیا؟
(A) قیس ابن عبد یغوث (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عبدالرحمن ابنؓ عوف
(D) حضرت عثمانؓ

43. کس کاذب نے نبی پاک کی زندگی میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟
(A) اسود عنسی (B) سجاح
(C) طلیحہ (D) کوئی بھی نہیں

44. حضرت ابوبکرؓ نے اپنے دور خلافت میں کس کو طلیحہ کی سرکوبی کے لئے بھیجا؟
(A) خالد ابن ولیدؓ (B) عبدالرحمن ابن عوفؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عمرؓ

45. طلیحہ اور حضرت خالد ابن ولیدؓ کا سامنا ہوا۔
(A) مکہ میں (B) مدینہ میں
(C) مصر میں (D) بزاخہ میں

46. طلیحہ بزاخہ کے میدان جنگ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے پناہ لی۔
(A) مصر میں (B) یمن میں
(C) شام میں (D) عراق میں

47. طلیحہ نے مسلمانوں کی کس فتح کے بعد اسلام قبول کیا؟
(A) فتح مصر (B) فتح ایران
(C) فتح عراق (D) فتح شام

48. طلیحہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور ....
(A) جنگ قادسیہ میں حصہ لیا (B) جنگ نہاوند میں حصہ لیا
(C) A اور B دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

49. طلیحہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟
(A) بنو اسد (B) بنو ہاشم
(C) بنو انصاری (D) بنو اوس

50. حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دور خلافت کے کاذب مسیلمہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟
(A) بنو ہاشم (B) بنو اسد
(C) بنو حنیفہ (D) بنو نجار

51. کس کاذب نے نبی پاکؐ کے دور میں مدینہ میں رہنے اور نبی پاک کی رفاقت میں رہنے کا اعزاز حاصل کیا تھا؟
(A) سجاح (B) اسود عنسی
(C) طلیحہ (D) مسیلمہ

52. مندرجہ ذیل میں سے کونسی باتیں مسیلمہ کے بنائے ہوئے دین کا حصہ تھیں؟
(A) اس نے روزانہ کی نمازوں کی تعداد کم کر دی تھی
(B) اس نے زکوۃ اور روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا تھا
(C) اس نے شراب نوشی اور زنا کو حلال قرار دیا تھا
(D) اے بی اور سی تینوں

53. مسیلمہ نے نبی پاک کو خط لکھا اور پورے عرب کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جن میں سے ایک حصہ مسلمانوں کے لئے اور دوسرا ....
(A) عیسائیوں کے لئے مختص کرنے کو کہا
(B) یہودیوں کے لئے مختص کرنے کو کہا
(C) مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں کے لئے مختص کرنے کو کہا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

54. کس کذاب کو خود نبیؐ نے جھوٹے کا لقب دیا تھا؟

(A) مسیلمہ (B) سجاح

(C) اسود عنسی (D) کسی کو بھی نہیں

55. حضرت ابوبکرؓ نے اپنے دور خلافت میں کس کو مسیلمہ کی سرکوبی کیلئے روانہ کیا تھا؟

(A) یمامہ (B) حنیف

(C) خالد (D) عکرمہ بن ابوجہل

56. مسیلمہ کے خلاف مہم جوئی کیلئے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے عکرمہ کی معاونت کے لئے اور کس کو بھیجا تھا؟

(A) شرجیل ابن حسنہؓ (B) خالد ابن ولیدؓ

(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت علیؓ

57. اس وادی کا نام بتائیں جہاں حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت میں کذاب مسیلمہ نے پڑاؤ ڈالا؟

(A) یمامہ (B) 17

(C) قیس (D) ثقیف

58. شرجیل اور عکرمہ کی یمامہ میں کی شکست کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے اس نازک صورتحال میں کس کو مسیلمہ کو ختم کرنے کیلئے بھیجا؟

(A) عبدالرحمٰن ابن عوفؓ (B) خالد ابن ولیدؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

59. کذاب مسیلمہ کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کو خالد ابن ولیدؓ کی سپہ سالاری میں فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کو تاریخ میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟

(A) خون کی جنگ

(B) موت کے باغ کا میدان جنگ

(C) موت کا میدان جنگ

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

60. کس صحابی نے مسیلمہ کو قتل کیا اور اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کیا جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے حضرت حمزہؓ کو شہید کر کے کیا تھا؟

(A) حضرت وحشی ابن حربؓ (B) حضرت طلحہؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت زبیرؓ

61. جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد تھی۔

(A) 20,000 (B) 15,000

(C) 10,000 (D) 18,000

62. مسیلمہ کی فوج کی تعداد تھی۔

(A) 20,000 (B) 30,000

(C) 40,000 (D) 50,000

63. جنگ یمامہ میں..........

(A) تقریباً 360 مہاجرین شہید ہوئے

(B) تقریباً 300 انصار شہید ہوئے

(C) تقریباً 60 انصار شہید ہوئے

(D) تمام

64. جنگ یمامہ میں مسیلمہ کے کتنی حواری مارے گئے؟

(A) 21,000 (B) 20,000

(C) 19,000 (D) 18,000

65. جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے کس کو اس جنگ کے شہدا کی تدفین کا حکم دیا؟

(A) حضرت زید ابن حارثؓ (B) حضرت زید ابن ثابتؓ

(C) حضرت زید ابن علیؓ (D) حضرت زید ابن حذیفہؓ

66. حضرت ابوبکرؓ کے دور کی کس جنگ کو ذات العیون یا پھر آنکھوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے؟

(A) یمامہ (B) انبار

(C) بویب (D) مدائن

67. جنگ انبار کو ذات العیون کیوں کہا جاتا ہے؟

(A) کیونکہ اس میں مخالف فوج کا سپہ سالار اندھا ہو گیا

(B) مسلمانوں نے دشمن کی آنکھوں پر حملہ کیا اور 1000 آنکھوں کو نقصان دیا

(C) کیونکہ اس میں مسلمانوں کے سپہ سالار نابینا ہو گئے

(D) کوئی نہیں

68. جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت کا نام بتائیں؟

(A) ہنزہ (B) حبا

(C) سجاح (D) ہندہ

69. سجاح کذاب کس مذہب کو ماننے والی تھی؟

(A) اسلام (B) یہودیت

(C) مجوسیت (D) عیسائیت

70. کس مدعی نبوت نے سجاح کذاب کو یمامہ آنے کی دعوت دی جس کو وہ قبول کرتے ہوئے یمامہ پہنچی؟

(A) مسیلمہ (B) طلیحہ

(C) اسود عنسی (D) کوئی بھی نہیں

71. کس وجہ سے سجاح نے جھوٹی نبوت کے اس ڈرامے کو ختم کر دیا؟

(A) کیونکہ وہ مسلمانوں سے جنگ میں ہار گئی تھی

(B) کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا

(C) کیونکہ اس نے مسیلمہ سے شادی کر لی تھی

(D) کیونکہ وہ ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی

72. مسیلمہ سے شادی کرنے کے کتنے دنوں بعد سجاح عراق لوٹ آئی؟

(A) 5 دن (B) 4 دن

(C) 3 دن (D) 2 دن

73. سجاح نے کس مسلم فتح کے بعد اسلام قبول کیا؟

(A) فتح شام (B) فتح عراق

(C) فتح قسطنطنیہ (D) فتح یمن

74. کس نے مسیلمہ کی مسلمانوں کے مقابلے میں مدد دی تھی؟

(A) اہل عراق (B) اہل مصر

(C) اہل شام (D) اہل بحرین

75. کس نے اہل بحرین کے خلاف جنگ کر کے ان کو شکست دی؟

(A) حضرت ابو بکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

76. بحرین نے جنگ میں کن سے مدد لی تھی؟

(A) ایران (B) عراق

(C) دمشق (D) حجاز

77. حضرت محمدؐ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں کس علاقے کے زیادہ تر لوگ مرتد ہو گئے تھے؟

(A) عمان (B) مہرہ

(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

78. خلیج فارس کی سرحد پر واقع عمان نبی پاک کی زندگی میں کس کی حکمرانی میں تھا؟

(A) ایران (B) عراق

(C) یمن (D) مصر

79. حضرت ابو بکرؓ نے کس صحابی کو مرتدین عمان کی سرکوبی کیلئے عمان بھیجا اور وہ فتح یاب ہوئے؟

(A) عکرمہ بن ابو جہل (B) خالد ابن ولیدؓ

(C) عبدالرحمن ابن عوفؓ (D) حضرت عثمانؓ

80. حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں کب حضرموت کے علاقے میں ایک بغاوت نے جنم لیا اور کچل دی گئی؟

(A) 631 A.D (B) 632 A.D

(C) 633 A.D (D) 634 A.D

81. حضرموت کا کونسا قبیلہ مرتد ہو گیا تھا؟

(A) کائی (B) بنو اسد

(C) بنو خزرج (D) کندی

82. کب حضرت ابو بکرؓ نے ایران کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا؟

(A) 633اے ڈی (B) 634اے ڈی

(C) 635اے ڈی (D) 636اے ڈی

83. ایران کی طرف پیش قدمی کرنے والے سپہ سالار کا نام بتائیں؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عثمانؓ

(C) حضرت خالد ابن ولیدؓ

(D) حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ

84. ایرانی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟

حضرت ابوبکر صدیقؓ

(A) نبہان (B) وقرا
(C) حمزہ (D) ہرمز

85. کس جگہ ہرمز اور خالد ابن ولیدؓ کا آمنا سامنا ہوا؟
(A) حجاز (B) حضرموت
(C) کاظمہ (D) حمص

86. ایران سے جنگ تاریخ میں کن لفظوں سے یاد کی جاتی ہے؟
(A) ذات السلاسل (B) ذات الموت
(C) ذات النزیر (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

87. ذت السلاسل سے مراد ہے۔
(A) زنجیروں میں جکڑی ہوئی
(B) مقید
(C) رسی سے بند ہوئی
(D) کوئی نہیں

88. جنگ کاظمہ کے بعد میں خالد ابن ولیدؓ دوسری بار ایرانیوں پر ساندار فتح سے ہمکنار ہوئے۔
(A) ولجہ میں (B) آلیس میں
(C) حیرا میں (D) مذار یا دریا میں

89. خالد ابن ولیدؓ کن میدانوں میں ایرانی فوج کے ساتھ ہمکنار ہوئے اور فتح حاصل کی؟
(A) جنگ ولجہ (B) جنگ آلیس
(C) جنگ حیرا (D) A,B اور C تینوں

90. حضرت ابوبکرؓ کے دور کی کس جنگ میں ایرانیوں کو عرب کے عیسائیوں کی مدد حاصل تھی؟
(A) جنگ آلیس (B) جنگ انبار
(C) جنگ حیرا (D) جنگ بویب

91. دو کون سا کون سے قلعہ بند قصبہ/قصبے تھے جو خالد ابن ولیدؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے دوران فتح کیے؟
(A) مغربی عراق میں انبار
(B) مغربی عراق میں عین التمر
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

92. کب حضرت ابوبکرؓ نے شام کے محاذ کیلئے اعلان جہاد کیا؟
(A) 631 A.D (B) 632 A.D
(C) 633 A.D (D) 634 A.D

93. شامیوں کے خلاف جنگ میں حضرت ابوبکرؓ نے سپہ سالار مقرر کیا۔
(A) عمرو ابن عاصؓ (B) یزید ابن ابوسفیانؓ
(C) شرجیل ابن حسنہؓ اور ابوعبیدہ ابن جراحؓ
(D) B,A اور C تینوں

94. خالد ابن ولیدؓ شامی محاذ کی طرف روانہ ہونے کی بجائے ایک اور علاقے کی طرف روانہ ہوگئے۔ اس علاقے کا نام بتائیں؟
(A) حجاز (B) کرا
(C) بصرہ (D) کوفہ

95. شامی محاذ پر پہلے سے بھیجی جانے والی فوج کو مزید تقویت دینے کے لیے حضرت ابوبکرؓ نے کس کو روانہ کیا؟
(A) حضرت عکرمہؓ بن ابوجہل (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت خالد بن ولیدؓ (D) کوئی نہیں

96. بصرہ میں مسلمان کس کی سرکردگی میں خالد بن ولیدؓ کے پہنچنے سے پہلے ہی لڑ رہے تھے؟
(A) شرجیل ابن حسنہؓ (B) عکرمہ بن ابوجہلؓ
(C) سعد بن معاذؓ (D) کوئی نہیں

97. خالد بن ولیدؓ کی وجہ سے رومی فوج کے کس سپہ سالار نے اسلام قبول کرلیا؟
(A) رومانی (B) روحیلہ
(C) کوتاب (D) خمص

98. بصرہ میں شکست کے بعد رومی بادشاہ نے فوج کو ____
(A) اجنادین میں اکٹھا ہونے کا کہا
(B) انبار دین میں اکٹھا ہونے کا کہا
(C) مزار دین میں اکٹھا ہونے کا کہا
(D) ولجہ دین میں اکٹھا ہونے کا کہا

99. رومیوں کا بادشاہ کون تھا؟

(A) ہرمن (B) ہرمز
(C) ہرقل (D) قیصر

100. اجنادین میں کس نے رومی فوج کو شکست دی؟

(A) خالد بن ولیدؓ (B) عکرمہ بن ابوجہلؓ
(C) شرجیل ابن حسنہؓ (D) کوئی نہیں

101. اجنادین کہاں واقع ہے؟

(A) مغربی شام میں (B) مغربی مصر میں
(C) مغربی یروشلم میں (D) مغربی یمن میں

102. حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کب کیا؟

(A) 21 اگست 634 A.D (B) 22 اگست 634 A.D
(C) 23 اگست 634 A.D (D) 24 اگست 634 A.D

103. کس خبر وجہ سے حضرت خالد ابن ولیدؓ دمشق کا محاصرہ نامکمل چھوڑ کر واپس آ گئے؟

(A) حضرت ابوبکرؓ نے دمشق کی مہم ختم کرنے کا حکم دیا
(B) حضرت خالد ابن ولیدؓ بیمار پڑ گئے تھے
(C) حضرت ابوبکرؓ کا وصال ہو گیا تھا
(D) مسلمان اہل دمشق کی مزاحمت کا سامنا نہ کر سکے تھے

104. جنگ یرموک کے بارے میں درج ذیل میں سے کونسا بیان درست ہے؟

(A) یہ حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت کی پہلی جنگ تھی
(B) یہ حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت کی دوسری جنگ تھی
(C) یہ حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت کی تیسری جنگ تھی
(D) یہ حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت کی آخری جنگ تھی

105. حضرت ابوبکرؓ کا وصال ہوا۔

(A) 634اے ڈی (B) 635اے ڈی
(C) 636اے ڈی (D) 637اے ڈی

106. حضرت ابوبکرؓ نے کس جگہ وفات پائی؟

(A) مکہ (B) بصرہ
(C) مدینہ (D) حجاز

107. وصال کے وقت حضرت ابوبکرؓ کی عمر مبارک کیا تھی؟

(A) 63سال (B) 64سال
(C) 65سال (D) 66سال

108. حضرت ابوبکرؓ کا دور خلافت کتنے عرصے پر محیط تھا؟

(A) دو سال پانچ مہینے (B) دو سال چار مہینے
(C) دو سال تین مہینے (D) دو سال دو مہینے

109. یہ کس کے الفاظ ہیں کہ "نبیؐ کے بعد ابوبکرؓ سے زیادہ عظیم شخص دوبارہ کوئی پیدا نہ ہوگا"؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت محمدؐ
(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت عائشہؓ

110. حضرت ابوبکرؓ نے عرب کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے میں ایک گورنر متعین کیا جس کا فرض تھا کہ وہ نماز پڑھائے فوج کی نگرانی کرے اور ------

(A) ٹیکس وصول کرے (B) انصاف کو یقینی بنائے
(C) امن وعامہ کو قائم کرے (D) B,A اور C تینوں

111. وہ کونسے مسلم خلیفہ تھے جن کے دور خلافت میں بیت المال کو صحیح خطوط پر استوار کیا گیا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

112. حضرت ابوبکرؓ نے ......

(A) فوجی چھاؤنیاں قائم کیں
(B) فاضل فوجوں کا قیام عمل میں لائے
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

113. حضرت ابوبکرؓ نے قاضی کا دفتر قائم کیا جس کا مقصد انصاف کو یقینی بنانا تھا انہوں نے عامل کا دفتر بھی قائم کیا۔ عامل کا فرض کیا تھا؟

(A) محصولات اکٹھا کرنا (B) امن وعامہ کا قیام
(C) لوگوں کو انصاف مہیا کرنا (D) بدعنوانی کا خاتمہ کرنا

حضرت ابوبکر صدیقؓ

114. حضرت ابوبکرؓ کا حضرت عامر ابن عمرو کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟
(A) عامر ابن عمرو حضرت ابوبکرؓ کے بھائی تھے
(B) عامر ابن عمرو حضرت ابوبکرؓ کے چچازاد تھے
(C) عامر ابن عمرو حضرت ابوبکرؓ کے دادا تھے
(D) عامر ابن عمرو حضرت ابوبکرؓ کے داماد تھے

115. حضرت ابوبکرؓ کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰنؓ نے کس کو قتل کیا تھا؟
(A) مدعی نبوت سجاح کے سپہ سالار کو
(B) مدعی نبوت مسیلمہ کے سپہ سالار کو
(C) مدعی نبوت اسود عنسی کے سپہ سالار کو
(D) مدعی نبوت طلیحہ کے سپہ سالار کو

116. حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ......
(A) میں ان لوگوں کیخلاف جنگ کروں گا جو کہ نماز اور روزے میں فرق کرتے ہیں۔
(B) میں ان لوگوں کیخلاف جنگ کروں گا جو کہ نماز اور جزیہ میں فرق کرتے ہیں۔
(C) میں ان لوگوں کیخلاف جنگ کروں گا جو کہ نماز اور زکوۃ میں فرق کرتے ہیں
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

117. حضرت ابوبکرؓ کی مجلس شوریٰ کے اراکین کون تھے؟
(A) حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ
(B) حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ
(C) حضرت طلحہؓ (D) B،A اور C سب

118. حضرت ابوبکرؓ کی بیماری کے آخری ایام میں حضرت عمرؓ کو کیا فرض ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟
(A) قائم مقام خلیفہ بنایا گیا تھا
(B) بیت المال انکے حوالے کر دیا گیا تھا
(C) مجلس شوریٰ ان کی قائدانہ صلاحیتوں میں دے دی گئی تھی
(D) ان کو نمازوں کی امامت کیلئے کہا گیا تھا

119. کس خلیفہ راشد نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے بیت المال سے لیا ہے اس کو میری جائیداد بیچ کر پورا کر دیا جائے؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

120. دوسرے خلیفہ کے چناؤ کے لیے حضرت ابوبکرؓ نے کس سے مشورہ کیا؟
(A) حضرت عبدالرحمٰن ابن عوفؓ
(B) حضرت عثمان ابن عفانؓ
(C) حضرت سعید ابن زیدؓ اور حضرت اسید ابن حضیرؓ
(D) ان سب سے

121. حضرت ابوبکرؓ کی نماز جنازہ کے امام کون تھے؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عکرمہؓ

122. عشرہ مبشرہ میں سے کتنے افراد نے حضرت ابوبکرؓ کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا؟
(A) 10 (B) 8
(C) 5 (D) 3

123. حضرت ابوبکرؓ نے کس کو جمع قرآن کا حکم دیا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت زید ابن ثابتؓ

124. کن غلاموں کو حضرت ابوبکرؓ نے آزاد کروایا؟
(A) حضرت بلالؓ (B) حضرت عامر ابن فہیرہؓ
(C) A اور B دونوں کو
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

125. حضرت ابوبکرؓ کا لقب عتیق تھا' کس صحابی کو حضور پاکؐ نے عتیق من النار کے لقب نوازا تھا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

126. حضرت ابوبکرؓ کے والد نے 8 ہجری کو اسلام قبول کیا تھا بتایئے'' کونسا موقع تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟
(A) ہجرت مدینہ (B) فتح مکہ
(C) فتح دمشق (D) ہجرت حبشہ

127. کس مسجد کی تعمیر کیلئے حضرت ابوبکرؓ نے جگہ خرید کر دی تھی؟

(A) مسجد اقصیٰ (B) مسجد نمرہ
(C) مسجد نبوی (D) مسجد قبا

128. نبی پاکؐ کی وفات پر وہ کونسا اہم مسئلہ تھا جس کو حضرت ابوبکرؓ نے حل کیا تھا؟

(A) حضور پاکؐ کی لحد مبارک کا مسئلہ کہ وہ کہاں کھودی جائے
(B) خلافت کا مسئلہ (C) مدعیان نبوت کا مسئلہ
(D) منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ

129. "اے ابوبکر تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں تم وہ پہلے شخص تھے جس نے اسلام قبول کیا تمہارا کوئی ثانی نہیں" یہ کس کے الفاظ ہیں؟

(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت زید ابن حارثؓ (D) حضرت عمرؓ

130. حضرت ابوبکرؓ کی وفات پر کس نے ان الفاظ میں اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا "اے اللہ کے رسول کے جانشین آپ کی موت نے قوم کو مصائب ومشکلات میں دھکیل دیا ہے۔ ہم آپ کی سطح کو کیسے چھو سکتے ہیں۔ ہم آپ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں"؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت طلحہؓ

131. حضرت ابوبکرؓ نے کس دن وفات پائی؟

(A) اتوار (B) پیر
(C) منگل (D) بدھ

132. حضرت ابوبکرؓ کی پہلی زوجہ کا نام بتائیں؟

(A) قتیلہ بنت عبدالعزیز (B) رحیمہ بنت عبدالعزیز
(C) سعدیہ بنت عبدالعزیز (D) حلیمہ بنت عبدالعزیز

133. قتیلہ بنت عبدالعزیز سے حضرت ابوبکرؓ کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد کونسی تھی؟

(A) عبداللہ اور عقیلہؓ (B) عبدالرحمن اور اسماء
(C) عبداللہ اور اسماء (D) خالد اور اسماء

134. حضرت ابوبکرؓ کی ان زوجہ محترمہ کا نام بتائیں جن سے حضرت عائشہؓ پیدا ہوئیں؟

(A) ام رومان (B) ام رحمن
(C) ام خالد (D) ام عبدالعزیز

135. قتیلہ بنت عبدالعزیز اور ام رومانؓ کے علاوہ حضرت ابوبکرؓ نے...

(A) اسماء نامی عورت سے شادی کی
(B) حبیبہ نامی عورت سے شادی کی
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

136. حضرت ابوبکرؓ کی کونسی زوجہ سے ان کی وفات کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی؟

(A) ام رومان (B) قتیلہ بنت عبدالعزیز
(C) اسماء (D) حبیبہ

137. حضرت ابوبکرؓ کے تین بیٹے تھے ایک عبداللہ دوسرا عبدالرحمن اور تیسرا......

(A) عبدالعزیز (B) خالد
(C) محمد (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

138. حضرت ابوبکرؓ کی وفات کے بعد وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے محمد ابن ابوبکرؓ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی؟

(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ

139. حضرت اسماء سے پیدا ہونے والے حضرت ابوبکرؓ کے بیٹے کا نام تھا۔

(A) محمد (B) احمد
(C) عبداللہ (D) عبدالرحمن

140. حضرت ابوبکرؓ نبی پاکؐ سے

(A) تین سال اور تین مہینے چھوٹے تھے
(B) دو سال اور تین مہینے چھوٹے تھے
(C) چار سال اور چار تین مہینے چھوٹے تھے
(D) پانچ سال اور پانچ مہینے چھوٹے تھے

141. حضرت ابوبکرؓ اور نبی پاکؐ کے مشترکہ جد امجد تھے۔

(A) مرہ (Murra) (B) کلاب
(C) کعب (D) کعب

142. ثانی اثنین کون ہیں؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

143. وہ کونسے خلیفہ راشد تھے جن کی چار پشتوں نے زمانہ رسالت دیکھا؟
(A) حضرت ابوبکر صدیق (B) حضرت عمر فاروق
(C) حضرت عثمان غنی (D) حضرت علی

144. کس خلیفہ نے اپنا روزینہ بیت المال میں واپس جمع کروا دیا تھا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت ابوبکر صدیق

145. قرآن مجید کس خلیفہ راشد کے دور میں جمع کیا گیا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

146. جھوٹی نبوت کا سب سے پہلا دعویدار کون تھا؟
(A) اسود عنسی (B) مسیلمہ کذاب
(C) طلیحہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

147. حضرت ابوبکر صدیق کا نام منصب خلافت کے لیے کہاں پیش کیا گیا؟
(A) مسجد حرام (B) مسجد نبوی
(C) طائف (D) سقیفہ بن ساعدہ

148. حضرت ابوبکرؓ کی والدہ کا نام کیا تھا؟
(A) ام سلمیٰ (B) ساریہ
(C) حمہ (D) فاطمہ

149. کس خلیفہ نے اپنا روزینہ بیت المال میں واپس جمع کروا دیا تھا؟
(A) حضرت عمرؓ
(B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عثمانؓ
(D) حضرت ابوبکر صدیق

150. جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی۔
(A) سجاح (B) اسود عنسی
(C) مسیلمہ کذاب (D) خوارج

151. حضرت ابوبکرؓ کو جمع و تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا۔
(A) حضرت عمر فاروقؓ (B) حضرت عثمان غنیؓ
(C) حضرت علیؓ (D) کوئی نہیں

152. حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا کام کس صحابی کے سپرد کیا؟
(A) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ
(B) حضرت زید بن ثابتؓ
(C) حضرت معاذ بن جبلؓ
(D) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

153. کس صحابی نے حضرت محمد ﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی؟
(A) حضرت ابوبکر صدیق (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت خالد بن ولیدؓ (D) حضرت سلمان فارسیؓ

154. رسول کریم ﷺ کی علالت کے دوران کس نے نماز کی امامت کروائی؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت ابوبکر صدیق

155. مسیلمہ کذاب کے خلاف کس نے جنگ لڑی۔
(A) حضرت ابوبکر صدیق (B) حضرت عمر فاروقؓ
(C) حضرت عثمان غنیؓ (D) حضرت علی المرتضیٰؓ

156. حضرت ابوبکر کی تدفین کہاں ہوئی؟
(A) حضرت سودہ کے حجرے میں
(B) جنۃ المعلیٰ
(C) جنۃ البقیع
(D) حضرت عائشہ کے حجرے میں

157. ہجرت مدینہ کے وقت حضرت محمد ﷺ کے ہمراہ کون سے صحابی تھے؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت مصعب بن عمیرؓ
(C) حضرت عثمان غنیؓ (D) حضرت ابوبکرؓ

158. جنگِ یمامہ میں کون شہید ہوئے؟

(A) بچے
(B) محدث
(C) حفاظ
(D) عام شہری

جوابات

1. (B)	2. (B)	3. (A)	4. (A)	5. (A)	6. (B)	7. (A)	8. (A)
9. (B)	10. (D)	11. (C)	12. (C)	13. (C)	14. (B)	15. (C)	16. (B)
17. (B)	18. (C)	19. (A)	20. (C)	21. (A)	22. (C)	23. (A)	24. (A)
25. (A)	26. (C)	27. (A)	28. (D)	29. (A)	30. (C)	31. (A)	32. (A)
33. (B)	34. (C)	35. (C)	36. (D)	37. (A)	38. (A)	39. (C)	40. (B)
41. (B)	42. (A)	43. (C)	44. (A)	45. (D)	46. (C)	47. (D)	48. (C)
49. (A)	50. (C)	51. (D)	52. (D)	53. (C)	54. (A)	55. (D)	56. (A)
57. (A)	58. (B)	59. (B)	60. (A)	61. (B)	62. (C)	63. (D)	64. (A)
65. (B)	66. (B)	67. (B)	68. (C)	69. (D)	70. (A)	71. (C)	72. (C)
73. (B)	74. (D)	75. (A)	76. (A)	77. (C)	78. (A)	79. (A)	80. (B)
81. (D)	82. (A)	83. (C)	84. (D)	85. (C)	86. (A)	87. (A)	88. (D)
89. (D)	90. (D)	91. (C)	92. (D)	93. (D)	94. (C)	95. (A)	96. (A)
97. (A)	98. (A)	99. (C)	100. (A)	101. (C)	102. (A)	103. (C)	104. (D)
105. (A)	106. (C)	107. (A)	108. (B)	109. (B)	110. (D)	111. (A)	112. (B)
113. (A)	114. (C)	115. (B)	116. (C)	117. (D)	118. (D)	119. (A)	120. (D)
121. (A)	122. (C)	123. (D)	124. (C)	125. (A)	126. (B)	127. (C)	128. (A)
129. (B)	130. (A)	131. (B)	132. (A)	133. (C)	134. (A)	135. (C)	136. (D)
137. (C)	138. (C)	139. (A)	140. (B)	141. (A)	142. (A)	143. (A)	144. (D)
145. (A)	146. (A)	147. (D)	148. (A)	149. (D)	150. (C)	151. (A)	152. (B)
153. (A)	154. (D)	155. (A)	156. (D)	157. (D)	158. (C)		

حضرت عمرؓ

1. حضرت عمرؓ کا قریش قبیلہ کی کس شاخ سے تعلق تھا؟
(A) عاد (B) اوس
(C) خزرج (D) عدی

2. عمرؓ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشترک جد امجد تھے۔
(A) کعب (B) کلاب
(C) مودہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

3. کس پشت میں حضرت عمرؓ کا حسب نسب نبی پاکؐ سے ملتا ہے؟
(A) 7ویں (B) 8ویں
(C) 9ویں (D) 9ویں

4. حضرت عمرؓ کی کنیت کیا تھی؟
(A) ابو عبداللہ (B) ابو طلحہ
(C) ابو حفص (D) ابو تراب

5. حضرت عمرؓ کب پیدا تھے؟
(A) 580 A.C (B) 581 A.C
(C) 528 A.C (D) 583 A.C

6. حضرت عمرؓ اپنی جوانی میں ....
(A) مشہور پہلوان تھے (B) مقرر اور شاعر تھے
(C) روحانیت پسند تھے (D) A,B اور C تینوں

7. حضرت عمرؓ نے پڑھنا لکھنا کہاں سے سیکھا؟
(A) نبی پاکؐ سے (B) حضرت علیؓ سے
(C) اپنے والد سے (D) کوئی نہیں

8. حضرت عمرؓ کے والد کا نام بتائیں؟
(A) خطاب ابن نوفل (B) خطاب ابن خالد
(C) خطاب ابن طلحہ (D) خطاب ابن اوس

9. کب قریش کے سرداروں نے اکٹھ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کیلئے رضاکارانہ خدمات کا مطالبہ کیا؟
(A) 5th A.D میں (B) 6th A.D میں
(C) 7th A.D میں (D) 9th A.D میں

10. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے والے تھے۔
(A) عمر (B) طلحہ
(C) عبداللہ (D) ابوجہل

11. نبی پاک کو قتل کے ارادے سے جاتے ہوئے راستے میں کس نے حضرت عمرؓ سے ان کی منزل کے بارے میں پوچھا؟
(A) حضرت حذیفہؓ
(B) حضرت ابوبکرؓ
(C) حضرت عثمانؓ
(D) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ

12. حضرت عمرؓ کے ارادے کو سن کر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے آپ کو کیا خبر دی؟
(A) آپ کے بہن و بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں
(B) نبی پاک کی حفاظت پر جانثار معمور ہیں
(C) نبی پاک شہر سے باہر ہیں
(D) کوئی نہیں

13. قبول اسلام کی خبر سن کر جب عمر اپنی بہن کے گھر پہنچے تو کون ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے؟
(A) حضرت عبدالرحمٰن ابن عوفؓ
(B) حضرت خالد بن ولیدؓ
(C) ابوبکرؓ
(D) حضرت خباب

14. حضرت عمرؓ کی بہن کا نام بتائیں۔

(A) فاطمہؓ (B) عتیقہؓ

(C) کلثومؓ (D) سلمہؓ

15. جب عمرؓ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہ اس وقت کس سورۃ تلاوت فرما رہے تھے؟

(A) سورۃ رحمٰن (B) سورۃ مریم

(C) سورۃ طٰہٰ (C) سورۃ نور

16. بہن و بہنوئی سے سورۃ طٰہٰ سننے کے بعد حضرت عمرؓ نے کیا کہا؟

(A) یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور مسلمان ہو گئے

(B) آئندہ تلاوت کی آواز نہ آئے

(C) بہن سے کہا کہ وہ شوہر سے علیحدہ ہو جائے

(D) کوئی نہیں

17. یہ کس کے الفاظ ہیں کہ "عمرؓ کا قبول اسلام ایک بہت بڑی فتح ہے۔ اس کی ہجرت مدینہ ایک شاندار طاقت اور اس کا خلافت کے عہدے پر فائز ہونا مسلمانوں کیلئے ایک بہت بڑی رحمت ہے؟"

(A) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ

(B) حضرت ابو حذیفہؓ

(C) ابوبکر صدیقؓ (D) علیؓ

حضرت عمرؓ کے قبول اسلام کا پیغام جمیل بن معمر جمحی نے اعلان کیا تھا۔

18. کس نے حضرت عمرؓ کو الفاروق کا لقب دیا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عثمانؓ

(C) حضرت محمدؐ (D) حضرت حذیفہؓ

19. الفاروق کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(A) ایک شخص جو بہت بہادر ہو

(B) ایک شخص جو پڑھا لکھا ہو

(C) ایک شخص جو اچھے اور برے میں امتیاز رکھتا ہو

(D) ایک شخص جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو

20. حضرت عمرؓ کب خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے؟

(A) 13 ہجری' 23 اگست 634 قبل مسیح

(B) 12 ہجری' 23 اگست 634 قبل مسیح

(C) 14 ہجری' 23 اگست 634 قبل مسیح

(D) 15 ہجری' 23 اگست 634 قبل مسیح

21. حضرت عمرؓ نے کن غزوات میں حصہ لیا؟

(A) بدر اور احد (B) خندق اور خیبر

(C) حنین (D) ان سب میں

22. کس کو سمجھوتے کو حضرت عمرؓ نے مسلمانوں کی توہین سمجھنے کے باوجود اللہ کے حکم سے قبول کیا؟

(A) صلح مکہ (B) صلح قریش

(C) صلح حدیبیہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

23. کس موقع کیلئے حضرت عمرؓ نے اپنی آدھی دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کیلئے وقف کر دی تھی؟

(A) غزوہ تبوک کے لئے (B) غزوہ حنین کے لئے

(C) غزوہ بدر کے لئے (D) غزوہ موتہ کے لئے

24. اس صحابی کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کی بیعت کی؟

(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت علیؓ

(C) حضرت عمرؓ (D) عبدالرحمن ابن عوفؓ

25. حضرت عمرؓ نے کس جگہ مسجد کی تعمیر کی؟

(A) بدر (B) سکرا

(C) طائف (D) بصرہ

26. سکرا میں اللہ نے اپنے کس نبی پر وحی بھیجی تھی؟

(A) حضرت یعقوبؑ (B) حضرت موسیٰؑ

(C) حضرت اسماعیلؑ (D) حضرت ابراہیمؑ

27. سکرا میں تعمیر ہونے والی مسجد کا نام ______

(A) مسجد سلمان (B) مسجد یعقوب

(C) مسجد عمر (D) مسجد سکرا

28. حضرت عمرؓ نے ایرانیوں کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑیں کیونکہ ______

(A) ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے نبی پاک ﷺ کے قاصد

کی توہین کی تھی

(B) جغرافیائی لحاظ سے عراق جو کہ ایران کا اس وقت ایک صوبہ تھا عرب کا ایک قدرتی حصہ تھا اس لیے عرب کیلئے ضروری تھا

(C) بغاوت بحرین میں ایرانیوں نے مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا

(D) B,A اور C تینوں

29. حضرت ابوبکرؓ کے دور میں ایران کی سلطنت حیرہ کو کس کی سپہ سالاری میں فتح کیا گیا؟

(A) حضرت خالد بن ولیدؓ (B) حضرت مثنیٰؓ

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

30. حیرہ کے علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایرانی بادشاہ نے حضرت عمرؓ کے دور میں کس کو بھیجا؟

(A) سہراب (B) رستم

(C) سجاح (D) طلیحہ

31. حضرت عمرؓ کے دور میں ایران کے محاذ سے حضرت خالد بن ولیدؓ کہاں کے لیے روانہ ہو چکے تھے؟

(A) مصر (B) شام

(C) کوفہ (D) یمن

3. حضرت عمرؓ نے ایرانی محاذ پر مثنیٰ کی مدد کیلئے کس کی سپہ سالاری میں فوج بھیجی؟

(A) ابوعبیدہؓ (B) عبیدہ ابن جراحؓ

(C) حضرت علیؓ (D) حضرت اسامہؓ

3. مثنیٰؓ اور ابوعبیدہؓ نے ایرانیوں کے ساتھ کہاں جنگ لڑی اور فتح حاصل کی؟

(A) نمارق (B) جسر

(C) جمل (D) خندق

34. نمارق میں شکست کے بعد ایرانی کس کی سپہ سالاری میں مسلمانوں سے پھر لڑنے آئے؟

(A) بہامن (B) سہراب

(C) رستم (D) بہرام

35. جنگ نمارق کے بعد مسلمانوں اور ایرانیوں میں کون سی جنگ لڑی گئی؟

(A) جنگ بویب (B) جنگ جلولہ

(C) جنگ جسر (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

36. کس جنگ میں مسلمانوں اور ایرانی فوج کے درمیان دریا فرات بہتا تھا؟

(A) نمارق (B) جسر

(C) بویب (D) آلیس

37. جنگ جسر میں مسلمانوں کے سپہ سالار کا نام بتائیں؟

(A) ابوعبیدہؓ ثقفی (B) خالد ابن ولیدؓ

(C) طلحہ ابن عبیدؓ (D) زبیر ابن حسنؓ

38. جنگ جسر میں سپہ سالار کی خواہش پر دریائے فرات پار کرنے سے مسلمانوں کو کیوں نقصان اٹھانا پڑا؟

(A) زمین نا ہموار تھی جس پر پیدل چلنا مشکل تھا

(B) دشمن بالکل کنارے پر تھا اس لیے ان کو پڑاؤ کی جگہ نہ ملی

(C) دشمن بہت دور تھا اس لیے بہت پیدل چلنے پر فوج تھک گئی

(D) کوئی نہیں

39. کس جنگ میں ایرانی ہاتھیوں کے ساتھ آئے جن کو دیکھ کر عربی گھوڑے بدک گئے؟

(A) جنگ جسر (B) جنگ نمارق

(C) جنگ بویب (D) جنگ آلیس

40. جنگ جسر میں ہاتھیوں کی بھگدڑ سے کون ان کے نیچے کچلے جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے؟

(A) حضرت حمزہؓ (B) حضرت طلحہؓ

(C) حضرت بلالؓ (D) حضرت ابوعبیدہؓ ثقفی

41. جنگ جسر میں بڑے پیمانے پر شہادتوں کے بعد حضرت عمرؓ نے کیا کیا؟

(A) فوج واپس بلوالی

(B) تمام عرب کو ایک بار پھر ایران کے خلاف جنگ کی دعوت دی

(C) فوج کو لڑنے کے لیے خود ہدایات دیں

(D) کوئی نہیں

42. جسر کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(A) پل (B) ہاتھی

(C) دریا (D) ندی

43. جب ایرانیوں کو مسلمانوں کی تیاری کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کس کی سپہ سالاری میں مزید فوج بھیجی؟

(A) بہرام (B) مہران

(C) رستم (D) بہمان

44. کس جنگ میں شکست کے بعد ایران کی ملکہ کی جگہ یزدگرد کو بادشاہ بنایا گیا؟

(A) نمارق (B) جسر

(C) بویب (D) آلیس

45. دریائے فرات کے کس کنارے پر ایرانی فوج نے پڑاؤ ڈالا؟

(A) مغربی کنارے پر (B) مشرقی کنارے پر

(C) شمالی کنارے پر (D) جنوبی کنارے پر

46. کس میدان جنگ میں مسلمانوں کا سامنا ایک بار پھر ایرانیوں کے ساتھ جنگ جسر کے بعد ہوا؟

(A) جنگ قادسیہ (B) جنگ مدائن

(C) جنگ بویب (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

47. جنگ بویب میں کس واقعہ نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا اور ایرانیوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا؟

(A) مسلمانوں کا حملہ نہایت منظم تھا

(B) دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا

(C) دریائے فرات میں سیلاب آ گیا تھا

(D) ان کا سپہ سالار مہران مر گیا تھا

48. جنگ بویب میں ایرانی فوج کے سپہ سالار مہران کو مارنے والے نوجوان مسلمان جنگجو کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟

(A) قریش (B) خزرج

(C) عدی (D) تغلب

49. معزول ایرانی ملکہ کا نام کیا تھا؟

(A) وکٹوریہ (B) علیمہ

(C) بوران دخت (D) ان میں سے کوئی نہیں

50. جنگ بویب کے بعد ایرانیوں کی ایک بار پھر جنگی سازش کی اطلاع پر حضرت عمرؓ نے ....

(A) تمام عرب میں اعلان جہاد کر دیا

(B) فوجوں کو ایران روانہ کر دیا

(C) اپنی ہمسایہ ریاستوں سے مدد کی اپیل کی

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

51. کس کو حضرت عمرؓ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی سپہ سالاری کے لیے چنا؟

(A) حضرت خالد ابن ولیدؓ

(B) حضرت حمزہؓ

(C) حضرت علیؓ

(D) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ

52. جنگ قادسیہ پر روانگی سے پہلے حضرت عمرؓ نے حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کو کیا ہدایات دیں؟

(A) مغربی کنارے عتیق پر قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنا

(B) ایرانی بادشاہ کے دربار میں قاصد بھیج کر اس کو جوں اسلام کی دعوت دینا

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

53. عتیق کیا تھا؟

(A) ایران کا ایک شہر ہے (B) ایران کا دریا ہے

(C) دریائے فرات کا ایک کنارہ ہے

(D) ایران کا گاؤں ہے

54. جنگ قادسیہ کیلئے ایرانیوں نے اپنے ملک کے کس عظیم ہیرو کو سپہ سالار مقرر کیا؟

(A) مہران (B) بہامن

(C) رستم (D) بہرام

55. ایرانی فوج کے اس ہیرو کا نام بتائیں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ تمام عرب کو کچل ڈالے گا لیکن خود اس وقت مارا گیا جب وہ میدان قادسیہ سے بھاگ رہا تھا؟
(A) رستم (B) روحیلہ
(C) سہراب (D) ابہامین

56. حضرت عمرؓ کی خلافت میں جنگ قادسیہ کب سے شروع ہوئی؟
(A) محرم 14 ہجری (B) محرم 15 ہجری
(C) محرم 16 ہجری (D) محرم 17 ہجری

57. جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کے سپہ سالار رستم کی فوجوں کی تعداد کتنی تھی؟
(A) 124,000 (B) 125,000
(C) 126,000 (D) 127,000

58. جنگ قادسیہ کا پہلا دن کیا کہلاتا ہے؟
(A) یوم ارماس (B) یوم اغواث
(C) یوم عماس (D) یوم حمل

59. جنگ قادسیہ کا دوسرا دن کیا کہلاتا ہے؟
(A) یوم ارماث (B) یوم احمل
(C) یوم اغواث (D) یوم عماس

60. جنگ قادسیہ کا تیسرا دن ....
(A) یوم احمل کہلاتا ہے (B) یوم خناس کہلاتا ہے
(C) یوم احمل (D) یوم عماس کہلاتا ہے

61. جنگ قادسیہ کے کس دن رستم میدان میں آیا اور شدید زخمی ہو گیا؟
(A) پہلے دن (B) دوسرے دن
(C) تیسرے دن (D) چوتھے دن

62. رستم نے انتہائی زخمی حالت میں میدان قادسیہ سے بھاگ کر ______
(A) ایک ایرانی کے ہاں پناہ لی
(B) نہر میں چھلانگ لگا دی
(C) خود کو قتل کر لیا
(D) کوئی نہیں

63. اس صحابی کا نام بتائیں جس نے رستم کو نہر سے باہر نکال کر اس کو قتل کر دیا؟
(A) ہلال ابن علقمہؓ (B) ہلال ابن غوثؓ
(C) ہلال ابن حارثؓ (D) ہلال ابن ولیدؓ

64. اسلامی تاریخ میں کس جنگ کے بعد ایران مسلمانوں کیلئے عراق تک رسائی کیلئے ایک پھاٹک بن گیا؟
(A) جنگ مدائن (B) جنگ جلولا
(C) قادسیہ (D) نہاوند

65. وہ کون سی فتح تھی جس کے بعد سارا ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا؟
(A) جلولا پر قبضہ (B) قادسیہ پر قبضہ
(C) مدائن (D) روم پر قبضہ

66. مسلمان فوج کے کس سپہ سالار نے جنگ قادسیہ کے کچھ ہی دنوں کے بعد مدائن پر قبضہ کر لیا تھا؟
(A) حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ
(B) حضرت خالد ابن ولیدؓ
(C) حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف
(D) حضرت عبیدہؓ

67. جنگ قادسیہ میں شکست کے بعد ایرانی بادشاہ یزدگرد نے کہاں پناہ لی؟
(A) نہاوند (B) جلولا
(C) غارق (D) حلوان

68. حلوان میں پناہ لینے کے بعد یزدگرد نے مسلمانوں سے پھر لڑنے کے لیے کہاں پڑاؤ کیا؟
(A) جلولا (B) مدائن
(C) قادسیہ (D) نہاوند

69. ایرانیوں کے ساتھ وہ کون سی جنگ تھی جس میں ایرانیوں نے سارے شہر کے گرد ایک بہت گہری خندق کھودی تھی؟
(A) جنگ قادسیہ (B) جنگ مدائن

(C) جلولا (D) نہاوند

70. کس سپہ سالار نے جلولا میں ایرانیوں کو زبردست شکست سے دوچار کیا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) قعقاع (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

71. حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں کس جنگ کے بعد ایرانیوں کے ساتھ ایک امن سمجھوتا طے پا گیا تھا؟
(A) جنگ قادسیہ (B) جنگ بویب
(C) جنگ طارق (D) جنگ جلولا

72. جنگ جلولا کے بعد طے پائے ہوئے امن سمجھوتے کو توڑنے کے بعد ایرانی بادشاہ کتنی فوج لیکر لڑنے کیلئے آیا؟
(A) 50,000 (B) 40,000
(C) 60,000 (D) 20,000

73. معاہدہ توڑنے کے بعد ایرانی فوج کی 60,000 تعداد کے سامنے مسلمانوں کی تعداد تھی۔
(A) 50,000 (B) 40,000
(C) 30,000 (D) 20,000

74. جنگ جلولا کے بعد مسلمانوں کا سامنا ایرانی فوجوں کے ساتھ کس میدان میں ہوا۔
(A) بلخ (B) بخارا
(C) اصفہان (D) نہاوند

75. کس جنگ کے بعد ایرانیوں کی طاقت مکمل طور پر ختم ہو گئی؟
(A) قادسیہ (B) طارق
(C) جمل (D) نہاوند

76. جنگ نہاوند کے بعد ایرانی بادشاہ نے پناہ لی۔
(A) اصفہان (B) کرمان
(C) بلخ (D) تمام

77. ایرانی بادشاہ یزدگرد کو کس کے دور خلافت میں قتل کر دیا گیا؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت علیؓ (D) کوئی نہیں

78. حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ایرانیوں کے ساتھ لڑی جانے والی اس آخری جنگ کا نام بتائیں؟
(A) جنگ نہاوند (B) جنگ جلولا
(C) بویب (D) حیرہ

79. مشرقی رومی سلطنت کن علاقوں پر مشتمل تھی؟
(A) شام (B) یروشلم
(C) مصر (D) B,A اور C تینوں

80. مسلمانوں کے رومیوں کے ساتھ تعلقات شروع میں بہت دوستانہ تھے۔ لیکن بعد میں یہ تعلقات سرد پڑنے لگے۔ وجہ کیا تھی؟
(A) شام کے عیسائی شہزادے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قاصد کو شہید کر دیا تھا جو کہ بصرہ جا رہا تھا
(B) حضرت ابوبکرؓ کے دور خلافت میں رومی بادشاہ نے بدو قبیلوں کو خلیفہ کیخلاف اکسا کر خلافت کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی۔
(C) وہ قبیلے جو کہ شام اور فلسطین کی سرحدوں پر آباد تھے انہوں نے عرب میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کی مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھائی کرنے میں مدد کی تھی۔
(D) B,A اور C تینوں

81. حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں کونسے رومی علاقے چھن جانے کے بعد رومی بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں سے لڑنے کیلئے بھیجی تھی؟
(A) دمشق (B) اردن
(C) حمیصہ (D) A اور B اور C تینوں

82. دمشق، اردن اور حمیصہ کو کس نے فتح کیا؟
(A) حضرت ابوعبیدہؓ (B) حضرت حمزہؓ
(C) حضرت طلحہؓ (D) حضرت خالد بن ولیدؓ

83. حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں مسلمانوں سے لڑنے کیلئے

رومی فوجوں نے کہاں پڑاؤ ڈالا؟

(A) یروشلم (B) حمص

(C) یرموک (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

84. کس کی سپہ سالاری میں چالیس ہزار مسلمان رومیوں سے لڑنے کیلئے یرموک پہنچے؟

(A) حضرت خالد بن ولیدؓ (B) حضرت ابوعبیدہؓ

(C) حضرت علیؓ (D) حضرت ضرارؓ

85. جنگ یرموک شروع ہونے سے پہلے رومیوں نے مسلمانوں کو کیا پیشکش کی؟

(A) اگر مسلمان جنگ کے بغیر عرب واپس چلے جائیں تو ان کو شام کا ایک شہر دیا جائے گا۔

(B) بڑی مقدار میں دولت اگر وہ شام چھوڑ کر عرب چلے جائیں

(C) امن معاہدہ کہ اگر مسلمان عرب واپس چلے جائیں تو رومی کبھی بھی مسلمانوں سے دوبارہ نہ لڑیں گے۔

(D) بغیر جنگ کے میدان چھوڑ دیں۔

86. جنگ یرموک کتنے روز تک جاری رہی جس میں رومیوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا؟

(A) 10 دن (B) 8 دن

(C) 6 دن (D) 3 دن

87. کس جنگ کے بعد مسلمانوں کا تسلط شام میں قائم ہو گیا؟

(A) جنگ یرموک (B) جنگ جلولہ

(C) جنگ مدائن (D) جنگ قادسیہ

88. کس خلیفہ کے دورِ خلافت میں یروشلم کا محاصرہ کیا گیا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

89. مسلمانوں کی طرف سے یروشلم کا محاصرہ کرنے والی فوج کے سپہ سالار کون تھے؟

(A) حضرت طلحہؓ (B) حضرت ابوعبیدہؓ

(C) حضرت زبیرؓ (D) حضرت خالد بن ولیدؓ

90. یروشلم میں کس مسلمان سپہ سالار کی کمک کے ذریعے حضرت ابوعبیدہؓ کو مزید طاقت پہنچائی گئی؟

(A) خالد بن ولیدؓ (B) عبدالرحمٰن ابن عوفؓ

(C) عمرو بن عاصؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

91. مزید کمک کی آمد کا سن کر یروشلم کے لوگوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ ________

(A) ان کا علاقہ خالی کر دیا جائے

(B) ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے

(C) ان کے بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے

(D) حضرت عمرؓ خود آ کر معاہدہ کریں

92. حضرت عمرؓ یروشلم سمجھوتے کے لیے روانہ ہوئے جبکہ ......

(A) حضرت عثمانؓ کو انہوں نے اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ میں چھوڑا

(B) حضرت علیؓ کو انہوں نے اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ میں چھوڑا

(C) حضرت زبیرؓ کو انہوں نے اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ میں چھوڑا

(D) حضرت طلحہؓ کو انہوں نے اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ میں چھوڑا

93. اس سمجھوتے میں کیا لکھا تھا جو کہ حضرت عمرؓ نے یروشلم کے لوگوں کے ساتھ طے کیا تھا اور جس کے ساتھ ہی یروشلم حضرت عمرؓ کے حوالے کر دیا گیا تھا؟

(A) زندگی اور جائیداد کا تحفظ ہر اہل یروشلم کیلئے یقینی بنایا جائے گا

(B) چرچ اور دوسرے مذہبی مقامات کا تحفظ یروشلم میں مہیا کیا جائے گا

(C) اہل یروشلم جزیہ ادا کریں گے اور جو انکار کریں گے ان کو یروشلم چھوڑنا پڑے گا

(D) B،A اور C تینوں

94. 18 ہجری کے اختتام کے قریب حضرت عمرو بن عاصؓ حضرت عمرؓ کی اجازت سے یروشلم سے کہاں کیلئے روانہ ہوئے؟

(A) شام (B) عراق

(C) مصر (D) فلسطین

95. کس راستے کے ذریعے حضرت عمرو بن عاصؓ چار ہزار آدمیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے؟

(A) وادی العریش (B) وادی الیمن

(C) وادی العمر (D) وادی الفسطاط

96. حضرت عمرو بن عاصؓ نے مصر میں داخل ہو کر کس قلعے کا محاصرہ کیا؟
(A) فسطاط (B) عریش
(C) ایمن (D) عروج

97. فسطاط کا محاصرہ کتنا عرصہ جاری اور پھر اس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا؟
(A) 6 ماہ (B) 7 ماہ
(C) 9 ماہ (D) 11 ماہ

98. فسطاط پر قبضے کے بعد مصر کے بادشاہ کا ردعمل کیا تھا؟
(A) وہ شدید غصے میں آ گیا
(B) مسلمانوں سے لڑنے کے لیے فوج مصر کے دارالحکومت میں روانہ کی
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

99. اس وقت مصر کا دارالحکومت کونسا تھا؟
(A) قاہرہ (B) فسطاط
(C) سکندریہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

100. کس خلیفہ کے دور خلافت میں سکندریہ فتح ہوا اور اس کے فتح ہوتے ہی مسلمان مصر کے حکمران بن گئے؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت علیؓ (D) امیر معاویہؓ

101. کس خلیفہ کے دور خلافت میں عراق مسلمانوں کے پایہ تخت میں آ گیا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

102. حضرت عمر فاروقؓ نے ایک باقاعدہ مجلس شوریٰ قائم کی جس کے اراکین میں شامل تھے۔
(A) مہاجرین (B) انصار
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

103. حضرت عمرؓ نے ______ کے نام سے ایک اور ادارہ بھی قائم کیا؟
(A) مجلس عام (B) مجلس عوام
(C) مجلس خواص (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

104. حضرت عمرؓ نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے پر ایک گورنر مقرر کیا۔ گورنر کیا کہلاتا تھا؟
(A) ولی (B) امیر
(C) والی یا امیر (D) ولی اور امیر

105. حضرت عمرؓ نے صوبوں کو ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع پر ایک حاکم مقرر کیا جو کہ ______
(A) گورنر کہلاتا تھا (B) امیر کہلاتا تھا
(C) ولی کہلاتا تھا (D) عامل کہلاتا تھا

106. کس خلیفہ راشد نے تعلیم، جیل اور پولیس کے محکمے بنائے تھے؟ (D.Z.O. 2000)
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

107. کس خلیفہ نے جیل خانہ کی بنیاد رکھی؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

108. حضرت عمرؓ نے کس نام سے مالیات کا ادارہ قائم کیا؟
(A) دیوان (B) دربار
(C) قتیق (D) مال

109. دیوان نامی ادارے کا کام۔
(A) کتابیں اکٹھی کرنا تھا
(B) غیر ملکیوں میں ملتا تھا
(C) محصولات اکٹھا کرنا تھا
(D) کوئی نہیں

110. حضرت عمرؓ کے دور میں محصولات کا بنیادی ذریعہ۔
(A) جزیہ اور زکوۃ تھے (B) خراج تھے

(C) نئے تھے (D) تمام

111. حضرت عمرؓ نے کچھ نئے ٹیکس بھی عائد کیے تھے۔ خاص طور پر
....

(A) عشر جو کہ غیر مسلم تاجروں پر عائد کیا
(B) گھوڑوں کی ملکیت پر زکوۃ
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

112. کس خلیفہ نے فوج کو سوار اور پیدل فوج میں تقسیم کیا تھا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

113. کس فوجی مہم کے بعد حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی بھی عرب مفتوح علاقوں میں زمین حاصل نہیں کرے گا؟
(A) عراق (B) ایران
(C) شام (D) A، B اور C تینوں

114. حضرت عمرؓ کے دور میں کونسے شہر خاص منصوبے کے تحت تعمیر کیے گئے؟
(A) کوفہ (B) بصرہ
(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

115. درج ذیل میں سے وہ کیا ہے جس کی بنیاد حضرت عمرؓ کے دور میں پڑی؟
(A) بوڑھے لوگوں کو پنشن دینے کا نظام
(B) مسلم ریاستوں کی مردم شماری کا نظام
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

116. حضرت عمرؓ نے..........
(A) شریعت کا قانون نافذ کیا
(B) ہجری کیلنڈر (اسلامی کیلنڈر) کا آغاز کیا
(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

117. کہاں حضرت عمرؓ نے فوجی چھاؤنیاں بنوائیں؟
(A) مدینہ، کوفہ اور بصرہ (B) موصل اور مصر
(C) دمشق اور اردن (D) ان سب میں

118. ہاشم ابن مغیرہ کا حضرت عمرؓ سے کیا تعلق تھا؟
(A) حضرت عمرؓ کے بھائی تھے (B) حضرت عمرؓ کے چچا تھے
(C) حضرت عمرؓ کے نانا تھے (D) حضرت عمرؓ کے دادا تھے

119. اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کس خلیفہ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

120. نوفل ابن عبد العزیٰ کون تھے؟
(A) حضرت عمرؓ کے چچا تھے (B) حضرت عمرؓ کے دادا تھے
(C) حضرت عمرؓ کے بھائی تھے (D) حضرت عمرؓ کے چچازاد

121. کون سا شعبہ حضرت عمرؓ کی زیر نگرانی تھا؟
(A) مالیات (B) داخلی امور
(C) امن و عامہ (D) سفارتکاری

122. حضرت عمرؓ کے دور میں کس آفت کی وجہ سے چند جید صحابہؓ خالق حقیقی سے جا ملے؟
(A) طاعون (B) سیلاب
(C) قحط (D) زلزلہ

123. کس خلیفہ کی خلافت میں خفیہ پولیس کا محکمہ بنایا گیا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

124. درج ذیل میں سے کس کا آغاز حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ہوا؟
(A) باجماعت صلوۃ تراویح (B) باجماعت صلوۃ جمعہ
(C) باجماعت صلوۃ اشراق (D) باجماعت صلوۃ عیدین

125. کس سزا کو حضرت عمرؓ نے متعارف کروایا تھا؟
(A) موت (B) ملک بدر کر دینا
(C) ہاتھ کاٹنا (D) قید با مشقت

126. حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے اصرار کیا کہ وہ..........

(A) مصر پر حملہ کریں (B) یہودیوں کو معاف کر دیں
(C) قرآنی مسودے کو اکٹھا کریں
(D) یہودیوں کو قتل کر دیں

127. حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ، حضرت معاذ ابن جبلؓ اور حضرت ابی ابن کعبؓ کے علاوہ ایک اور صحابی بھی حضرت عمرؓ کی مجلس شوریٰ کے ممبر تھے۔ ان صحابی کا نام بتائیں؟
(A) حضرت حارثؓ (B) حضرت ابوعبیدہؓ
(C) حضرت زید ابن ثابتؓ (D) حضرت اسامہؓ

128. کب حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں ہجری کیلنڈر مرتب کیا گیا؟
(A) 20 ہجری (B) 18 ہجری
(C) 16 ہجری (D) 14 ہجری

129. حضرت عمرؓ نے اسلامی سلطنت کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا تھا؟
(A) 15 (B) 12
(C) 10 (D) 8

130. جب حضرت عمرؓ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو کن محاذوں پر جنگ ہو رہی تھی؟
(A) عراق (B) شام
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

131. جب حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر کیا تھی؟
(A) 40 سال (B) 35 سال
(C) 33 سال (D) 20 سال

132. وصال کے وقت حضرت عمرؓ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
(A) 63 سال (B) 61 سال
(C) 70 سال (D) 75 سال

133. حضرت عمرؓ کی خلافت کتنے عرصے پر محیط ہے؟
(A) 10 سال 6 مہینے اور 4 دن
(B) 11 سال 6 مہینے اور 4 دن
(C) 12 سال 6 مہینے اور 4 دن
(D) 13 سال 6 مہینے اور 4 دن

134. جنگ نہاوند کے قیدیوں میں حضرت عمرؓ کا قاتل بھی تھا۔ اس کا نام بتائیں؟
(A) ابولولو (B) حمص
(C) عزیفہ (D) زینار

135. حضرت عمرؓ کا قاتل ابولولو
(A) حسن بھی کہلاتا تھا (B) فیروز بھی کہلاتا تھا
(C) اسد بھی کہلاتا تھا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

136. ابولولو کو کس نے خریدا تھا؟
(A) کوفہ کے گورنر نے (B) بصرہ کے گورنر نے
(C) طائف کے گورنر نے (D) مصر کے گورنر نے

137. ابولولو نے حضرت عمرؓ پر چاقو کے ساتھ کب حملہ کیا؟
(A) 26 ہجری ذی الحج (B) 27 ہجری ذی الحج
(C) 28 ہجری ذی الحج (D) 29 ہجری ذی الحج

138. ابولولو کے حملے کے وقت حضرت عمرؓ کیا کر رہے تھے؟
(A) خطبہ دے رہے تھے
(B) سو رہے تھے
(C) صبح کی نماز پڑھا رہے تھے
(D) کوئی نہیں

139. ابولولو کس کا غلام تھا؟
(A) حضرت مغیرہؓ
(B) حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ
(C) خالد ابن ولیدؓ (D) حضرت عثمانؓ

140. ابولولو کے حملے سے زخمی ہونے کے بعد آپ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی جگہ پر امامت کیلئے کھڑا کیا تھا؟
(A) حضرت عثمانؓ (B) حضرت علیؓ
(C) عبدالرحمن ابن عوفؓ (D) حضرت طلحہؓ

141. ابولولو کو گرفتار کرنے کی کوشش میں 13 اصحاب زخمی ہوئے جس میں سے بعد میں کتنے شہید ہو گئے؟

(A) 6 (B) 7

(C) 8 (D) 9

142. ابولولو کے حملے کے بعد حضرت عمرؓ نے کتنے لوگوں کو نئے خلیفہ کے چناؤ کے لیے نامزد کیا؟

(A) 4 (B) 6

(C) 8 (D) 10

143. ابولولو کی موت کیسے واقع ہوئی؟

(A) اس کو حضرت عثمانؓ نے قتل کر دیا تھا

(B) وہ گڑھے میں گر کر مارا گیا تھا

(C) اس کو ایک جان لیوا بیماری لگ گئی تھی

(D) اس نے خودکشی کر لی تھی

144. خلافت کے لیئے حضرت عمرؓ کے متعین کردہ 6 افراد تھے حضرت علیؓ حضرت عثمانؓ حضرت زبیر ابن عوامؓ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوفؓ حضرت طلحہؓ اور..........

(A) حضرت خالد ابن ولیدؓ (B) حضرت عبیداللہؓ

(C) سعد ابن ابی وقاصؓ (D) حضرت مغیرہؓ

145. آخری ایام میں حضرت عمرؓ نے حضرت عائشہؓ سے کس چیز کی اجازت مانگی؟

(A) انہیں نبی پاکؐ کے پہلو میں دفن کیا جائے

(B) انہیں مکہ میں دفن کیا جائے

(C) ان کی نماز جنازہ حضرت ابوعبیدہؓ پڑھائیں

(D) کوئی نہیں

146. آخری ایام کے دوران حضرت عمرؓ نے کس سے یہ کہا کہ وہ حضرت عائشہؓ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے جانے کی اجازت مانگیں؟

(A) اپنے بیٹے عبداللہ (B) اپنے بیٹے عبدالرحمٰن

(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عثمانؓ

147. کب حضرت عمرؓ شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے؟

(A) 23 ہجری (643 A.C)

(B) 24 ہجری (644 A.C.)

(C) 25 ہجری (645 A.C.)

(D) 26 ہجری (646 A.C.)

148. حضرت عمرؓ کی شہادت کی تاریخ بتائیں؟

(A) 25 ذی الحج (B) 26 ذی الحج

(C) یکم محرم (D) 28 ذی الحج

149. حضرت عمرؓ کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام بتائیں جو کہ مشرف بہ اسلام ہو گئی تھیں؟

(A) زینبؓ (B) فاطمہؓ

(C) مالکیہ (D) قریبہ

150. حضرت عمرؓ کی پہلی زوجہ نے کہاں رحلت فرمائی؟

(A) مدینہ (B) کوفہ

(C) مصیرہ (D) مکہ

151. حضرت عمرؓ کی پہلی زوجہ بہن تھیں۔

(A) عثمان ابن مظعون (B) عثمان ابن عفان

(C) عثمان ابن علی (D) کوئی نہیں

152. حضرت عمرؓ کی پہلی زوجہ محترمہ سے پیدا ہوئے۔

(A) عبداللہ اور عبدالرحمٰن (B) بیٹی حفصہ

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

153. مارکیہ بنت جروال حضرت عمرؓ کی۔

(A) بہن تھیں (B) ساس تھیں

(C) دوسری زوجہ تھیں (D) ہمسائی

154. حضرت عمرؓ نے کیوں مالکیہ بنت جروال کو، ہجری میں طلاق دے دی؟

(A) انہوں نے اسلام قبول نہ کیا

(B) انہوں نے قتل کیا

(C) انہوں نے گھر چھوڑ دیا

(D) کوئی نہیں

155. مالکیہ بنت جروال سے حضرت عمرؓ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام

بتائیں؟

(A) قاسم (B) حسن

(C) عبیداللہ (D) عبداللہ

156. حضرت عمرؓ کی تیسری بیوی کون تھی جسے بھی اسلام قبول نہ کرنے پر طلاق دے دی گئی؟

(A) قریبہ بنت ابی امیہ (B) زینب بنت ابی امیہ

(C) ملیکہ بنت ابی امیہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

157. حضرت عمرؓ کی چوتھی زوجہ تھیں۔

(A) ام حکیم بنت الحارث (B) ام حکیم بنت الحاکم

(C) ام حکیم بنت الجرد (D) ام حکیم بنت النعمان

158. ام حکیم بنت الحارث سے حضرت عمرؓ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا......

(A) فاطمہ (B) عائشہ

(C) عاصمہ (D) حفصہ

159. حضرت عمرؓ کی پانچویں زوجہ محترمہ کا نام بتائیں جن کو مسلمان ہونے کے باوجود کسی اور وجہ سے طلاق دے دی گئی تھی؟

(A) حسنہ بنت عاصم (B) زینب بنت عاصم

(C) جمیلہ بنت عاصم (D) فاطمہ بنت عاصم

160. جمیلہ بنت عاصم کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام بتائیں؟

(A) عبداللہ (B) عبیداللہ

(C) عاصمؓ (D) زید

161. حضرت عمرؓ کی چھٹی زوجہ محترمہ ام کلثوم نے.......

(A) ایک بیٹی رقیہ کو جنم دیا (B) ایک بیٹے زید کو جنم دیا

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

162. کب حضرت عمرؓ نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا؟

(A) 16 ہجری (B) 17 ہجری

(C) 18 ہجری (D) 19 ہجری

163. حضرت عمرؓ کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام بتائیں؟

(A) حفصہ (B) فاطمہ

(C) رقیہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

164. حضرت عمرؓ کی آخری زوجہ محترمہ کا نام بتائیں؟

(A) عاتکہ (B) کلثوم

(C) حفصہ (D) زینب

165. درج ذیل میں سے کن عورتوں سے حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شادی کی تھی؟

(A) زینب (B) ملیکہ

(C) قریبہ (D) تینوں سے

166. حضرت عمرؓ نے اپنے دور میں کتنے ایسے دستور قائم کیے؟

(A) 30 (B) 33

(C) 38 (D) 41

167. حضرت عمرؓ کے دستور کیا کہلاتے ہیں؟

(A) مقدس دستور (B) نیک دستور

(C) اولیات عمر (D) دستور عمر

168. کس نے حضرت عمرؓ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ "اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا" اور "جو عمر سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا اور جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے"؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عثمانؓ

(C) حضرت علیؓ (D) حضرت محمد ﷺ

169. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا نگران مقرر کیا۔

(A) عبداللہ بن ارقمؓ کو (B) عبداللہ بن عمرؓ کو

(C) عبداللہ بن عباسؓ کو (D) عبداللہ بن زبیرؓ کو

170. جمعہ کے نماز میں دوسری اذان کا اضافہ کس نے کیا؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت ابوبکرؓ

(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عثمانؓ

171. "اس نے نہ صرف اسلام کو بکھرنے سے بچایا بلکہ زبوں حال قبائلیوں کی توجہ اندرونی اختلافات سے ہٹا کر ان کی توجہ فارس اور بیزنطائن (Byzantine) کے معرکوں کی طرف لگا کر اسے ایک عالمی دین بنایا"، یہ الفاظ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟

(A) حضرت عمرؓ (B) نبی پاکؐ

(C) حضرت ابوبکرؓ (D) خالد بن ولیدؓ

172. حضرت عمرؓ نے کب بیت المال کی بنیاد رکھی؟

(A) 12 ہجری (B) 13 ہجری

(C) 14 ہجری (D) 15 ہجری

173. محب الاسلام کس خلیفہ کو کہا جاتا ہے؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

174. کس کی خواہش پر پردے کا آغاز ہوا۔

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

175. حضرت عمرؓ کے قبول اسلام کا چیخ کر کس نے اعلان کیا تھا؟

(A) جمیل بن معمر جحی (B) جمیل بن معمر مخزومی

(C) جمیل بن معمر عربی (D) جمیل بن معمر اسدی

176. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا نگران مقرر کیا۔

(A) عبداللہ بن ارقم کو (B) [illegible]

(C) عبداللہ بن عباس کو (D) عبداللہ بن زبیر کو

(e) کوئی نہیں

177. دریائے نیل کو سیدالانہار کہا تھا۔

(A) حضرت ابوبکرؓ نے (B) حضرت عمرؓ نے

(C) حضرت عثمانؓ نے (D) حضرت علیؓ نے

(D) کوئی نہیں

178. نجران کے عیسائیوں کو حجاز سے کس نے نکالا تھا؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عثمانؓ

(C) حضرت عمر فاروقؓ (D) حضرت علیؓ

179. حضرت عمرؓ کی قائم کردہ مجلس شوریٰ کا پہلا اجلاس کس کے گھر ہوا۔

(A) حضرت علیؓ (B) عثمان بن عفانؓ

(C) فاطمہ بنت قیس (D) حضرت عمرؓ

180. جنگ قادسیہ کا تیسرا معرکہ کس نام سے مشہور ہے۔

(A) معرکہ یوم الارمات (B) معرکہ یوم الاغوث

(C) معرکہ یوم الاعماس (D) معرکہ یوم الخمیس

181. سکندریہ کس خلیفہ کے عہد میں فتح ہوا؟

(A) حضرت عمر فاروقؓ (B) عثمان غنیؓ

(C) حضرت علیؓ (D) حضرت امیر معاویہؓ

182. عہد فاروقی میں ہجری کیلنڈر کب مرتب کیا گیا۔

(A) 16 ہجری (B) 18 ہجری

(C) 20 ہجری (D) 14 ہجری

183. جنگ قادسیہ کس خلیفہ کے دور خلافت میں لڑی گئی؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

184. محکمہ جیل خانہ جات کا کس کے عہد میں عمل قیام میں لایا گیا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت امیر معاویہؓ

(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عمر فاروقؓ

185. بیت المقدس کے خلیفہ راشد کے دور میں فتح ہوا؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عثمان غنیؓ

(C) حضرت عمر فاروقؓ (D) حضرت علی مرتضیٰؓ

186. سن ہجری کس مسلمان حکمران نے قائم کیا؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عائشہ صدیقہؓ

(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت عثمان غنیؓ

187. بیت المقدس کس کے دور میں فتح ہوا؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عمر فاروقؓ

(C) حضرت علی کرم اللہ وجہہ (D) حضرت عثمان غنیؓ

188. کس صحابی کی اولیات مشہور ہیں؟

(A) حضرت ابو بکرؓ (B) حضرت زبیرؓ

(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت علیؓ

جوابات

1. (D)	2. (A)	3. (B)	4. (C)	5. (D)	6. (D)	7. (C)	8. (A)
9. (B)	10. (A)	11. (D)	12. (A)	13. (D)	14. (A)	15. (C)	16. (A)
17. (A)	18. (C)	19. (C)	20. (A)	21. (D)	22. (C)	23. (A)	24. (C)
25. (B)	26. (A)	27. (C)	28. (D)	29. (C)	30. (B)	31. (B)	32. (A)
33. (A)	34. (A)	35. (C)	36. (B)	37. (C)	38. (A)	39. (A)	40. (D)
41. (B)	42. (A)	43. (B)	44. (C)	45. (B)	46. (C)	47. (D)	48. (D)
49. (C)	50. (A)	51. (D)	52. (C)	53. (C)	54. (C)	55. (A)	56. (A)
57. (A)	58. (A)	59. (C)	60. (D)	61. (C)	62. (B)	63. (A)	64. (C)
65. (C)	66. (A)	67. (D)	68. (A)	69. (C)	70. (C)	71. (D)	72. (C)
73. (C)	74. (D)	75. (D)	76. (D)	77. (A)	78. (A)	79. (D)	80. (D)
81. (D)	82. (D)	83. (C)	84. (B)	85. (B)	86. (C)	87. (A)	88. (B)
89. (B)	90. (A)	91. (D)	92. (B)	93. (D)	94. (C)	95. (A)	96. (A)
97. (B)	98. (C)	99. (C)	100. (B)	101. (B)	102. (C)	103. (A)	104. (C)
105. (D)	106. (B)	107. (B)	108. (A)	109. (C)	110. (D)	111. (C)	112. (B)
113. (D)	114. (C)	115. (C)	116. (C)	117. (D)	118. (C)	119. (B)	120. (B)
121. (D)	122. (A)	123. (B)	124. (A)	125. (B)	126. (C)	127. (C)	128. (C)
129. (C)	130. (C)	131. (C)	132. (A)	133. (A)	134. (A)	135. (B)	136. (B)
137. (A)	138. (C)	139. (A)	140. (C)	141. (A)	142. (B)	143. (D)	144. (C)
145. (A)	146. (A)	147. (B)	148. (C)	149. (A)	150. (D)	151. (A)	152. (C)
153. (C)	154. (A)	155. (C)	156. (A)	157. (A)	158. (A)	159. (C)	160. (C)
161. (C)	162. (B)	163. (C)	164. (A)	165. (D)	166. (D)	167. (C)	168. (D)
169. (A)	170. (A)	171. (A)	172. (D)	173. (B)	174. (B)	175. (A)	176. (A)
177. (B)	178. (C)	179. (C)	180. (C)	181. (A)	182. (A)	183. (B)	184. (D)
185. (C)	186. (C)	187. (B)	188. (C)				

حضرت عثمانؓ

1. حضرت عثمانؓ کب پیدا ہوئے؟
(A) 575 A.D (B) 572 A.D
(C) 577 A.D (D) 573 A.D

2. قریش قبیلے کی کس شاخ سے حضرت عثمانؓ کا تعلق تھا؟
(A) عدی (B) امیہ
(C) ہاشم (D) خزاج

3. کس نسل میں جا کر حضرت عثمانؓ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد مشترک ہیں؟
(A) ساتویں نسل میں (B) چھٹی نسل میں
(C) پانچویں نسل میں (D) چوتھی نسل میں

4. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عثمانؓ کے مشترک جدامجد کا نام بتائیں؟
(A) عبدمناف (B) عبداللہ
(C) عبدالرحمن (D) کلاب

5. حضرت عثمانؓ کنیت کیا تھی؟
(A) ابوعدی (B) ابوہاشم
(C) ابوعمرو (D) ابوعاص

6. حضرت عثمانؓ کے والد نام کیا تھا؟
(A) عفان ابن عبداللہ (B) عفان ابن رحمان
(C) عفان ابن ابوالعاص (D) عفان ابن ہاشم

7. ابوالعاص کون تھے؟
(A) حضرت عثمانؓ کے والد محترم تھے
(B) حضرت عثمانؓ کے نانا تھے
(C) حضرت عثمانؓ کے دادا تھے
(D) حضرت عثمانؓ کے بھائی تھے

8. حضرت عثمانؓ کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیں؟
(A) اروی (B) فاطمہ
(C) زینب (D) حلیمہ

9. امویوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے شخص کا نام بتائیں؟
(A) حضرت امیر معاویہؓ (B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت ابوسفیانؓ (D) کوئی نہیں

10. حضرت عثمانؓ کس کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے؟
(A) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
(B) حضرت ابوبکرؓ
(C) حضرت علیؓ
(D) حضرت عمرؓ

11. حضرت عثمانؓ اسلام قبول کرنے والے کون سے شخص تھے؟
(A) دوسرے (B) تیسرے
(C) چوتھے (D) پانچویں

12. حضرت عثمانؓ کے اس چچا کا نام بتائیں جنہوں نے آپ کو اسلام قبول کرنے پر بہت زیادہ تنگ کیا؟
(A) حکم (B) عتبہ
(C) حنظلہ (D) امر

13. اسلام کی خاطر حضرت عثمانؓ نے کتنی بار ہجرت کی؟
(A) ایک (B) دو
(C) تین (D) چار

14. آپ کے حکم پر حبشہ ہجرت کر کے حضرت عثمانؓ نے کون سا پیشہ اپنایا اور جلد ہی بہت خوشحال ہو گئے؟
(A) تجارت (B) کاشتکاری

(C) باغی گیری (D) مزدوری

15. آپ کے حکم پر حضرت عثمانؓ نے دوسری بار کب ہجرت کی؟
(A) 622 AD (B) 623 AD
(C) 624 AD (D) 625 AD

16. آپ کے حکم پر حضرت عثمانؓ نے دوسری بار ہجرت کہاں کی؟
(A) مکہ (B) کوفہ
(C) یثرب (D) مدینہ

17. حضرت عثمانؓ کی اس زوجہ محترمہ کا نام بتائیں جنہوں نے دوبار حضرت عثمانؓ کے ساتھ ہجرت کی؟
(A) عاصمہ (B) رقیہ
(C) فاطمہ (D) صفیہ

18. حضرت عثمانؓ کی زوجہ حضرت رقیہؓ کس کی بیٹی تھیں؟
(A) نبی پاک کی (B) حضرت عمرؓ کی
(C) ابولہب کی (D) کوئی نہیں

19. حضرت رقیہؓ کی پہلی شادی کس کے بیٹے سے ہوئی؟
(A) حضرت ابوسفیانؓ
(B) حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ
(C) حضرت علیؓ
(D) ابولہب

20. ابولہب کے بیٹے کا نام بتائیں جس سے حضرت رقیہ کی شادی ہوئی؟
(A) عتبہ (B) حنظلہ
(C) عبداللہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

21. حضرت رقیہؓ کب فوت ہوئیں؟
(A) 620 A.D (B) 621 A.D
(C) 622 A.D (D) 624 A.D (2ھ)

22. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسرے نمبر کی بیٹی سے حضرت عثمانؓ کا نکاح کب ہوا؟
(A) 624 A.D (B) 625 A.D
(C) 626 A.D (D) 627 A.D

23. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام بتائیں جن کی شادی حضرت عثمانؓ سے ہوئی؟
(A) فاطمہ (B) ام کلثومؓ
(C) رقیہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

24. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے شادی کے بعد حضرت عثمانؓ کو لقب ملا؟
(A) ذوالنورین (B) غنی
(C) ذوالنون (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

25. ذوالنورین کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) دو روشنیوں والا آدمی (B) دو رحیم بیویوں والا آدمی
(C) دو نور والی بیویوں والا آدمی
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

26. حضرت ام کلثومؓ کا وصال کب ہوا؟
(A) 628 A.D (B) 629 A.D
(C) 630 A.D (D) 631 A.D

27. حضرت عثمانؓ کو ان کی فیاضی کی وجہ سے کیا لقب دیا گیا؟
(A) صدیق (B) غنی
(C) فیاض (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

28. ماسوائے کس غزوہ کے حضرت عثمانؓ نے تمام غزوات میں حصہ لیا؟
(A) غزوہ احد (B) غزوہ بدر
(C) غزوہ حنین (D) دومۃ الجندل

29. حضرت عثمانؓ کی جنگ بدر میں حصہ نہ لینے کی وجہ کیا تھی؟
(A) وہ بیمار تھے (B) وہ مدینہ میں تھے ہی نہیں
(C) ان کی بیوی حضرت رقیہ شدید بیمار تھیں
(D) وہ زخمی تھے

30. کب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادے سے چودہ سو صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے؟

(A) 4 ہجری (B) 5 ہجری
(C) 6 ہجری (D) 7 ہجری

31. قریش مکہ نے عمرے کے ارادے سے مکہ میں آنے والے صحابہ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی تو انہوں نے کس جگہ قیام کیا؟
(A) بصرہ (B) حبشہ
(C) کوفہ (D) حدیبیہ

32. مکہ میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر آپ ﷺ نے کس کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

33. اس بیعت کو کیا کہتے ہیں جس میں 1400 صحابہ نے آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی؟
(A) بیعت رضوان (B) بیعت عامہ
(C) بیعت خاص (D) کوئی نہیں

34. بیعت رضوان میں کونسے صحابی کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کی کیونکہ وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے؟
(A) حضرت ابوعبیدہؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت عمرؓ

35. پہلے دو خلیفہ حضرت عثمانؓ کو اور ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے خاص طور پر ....
(A) ریاستی مسائل میں (B) مالیاتی مسائل میں
(C) زکوۃ کے مسائل میں (D) فقہی مسائل میں

36. اپنی زندگی میں حضرت عمرؓ کا پہلے نمبر پر کس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ انہیں تیسرا خلیفہ ہونا چاہیے؟
(A) حضرت علیؓ
(B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ [illegible]
(D) حضرت ابوعبیدہؓ [illegible]

37. حضرت ابوعبیدہؓ کے بعد حضرت عمرؓ کی تیسرے خلیفہ کی حیثیت سے نظر کس پر تھی؟
(A) حضرت عبدالرحمن بن عوف
(B) حضرت علی
(C) حضرت عثمانؓ
(D) حضرت زبیر

38. حضرت عمرؓ کے وصال پر حضرت عثمانؓ کا چناؤ کیسے ہوا؟
(A) حضرت ابوعبیدہؓ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت عبدالرحمن نے عہدہ سے انکار کر دیا تھا
(B) حضرت ابوعبیدہؓ اور حضرت عبدالرحمن دونوں وفات پا چکے تھے
(C) حضرت ابوعبیدہؓ اور حضرت عبدالرحمن نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا
(D) کوئی نہیں

39. اس شخص کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے حضرت عثمانؓ کے ہاتھ پر بیعت کی؟
(A) حضرت طلحہؓ
(B) حضرت سعد ابن ابی وقاص
(C) حضرت عبدالرحمن ابن عوف
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

40. ذوالنورین کہلاتے ہیں۔
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

41. حضرت عبدالرحمنؓ کے بعد کس نے حضرت عثمانؓ کے ہاتھ پر بیعت کی؟
(A) حضرت طلحہؓ (B) [illegible]
(C) حضرت علیؓ (D) [illegible]

42. [illegible]
(A) 3 محرم 24 ہجری (B) 4 محرم 24 ہجری
(C) 3 [illegible] (D) 2 [illegible]

43. حضرت عثمانؓ ایک نرم دل آدمی تھے جس کے پیش نظر بہت سے علاقوں میں بغاوتوں نے سر اٹھایا خاص طور پر

(A) مشرق میں ایران میں (B) مغرب میں رومیوں میں

(C) A اور B دونوں میں سے

(D) A اور B دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

44. حضرت عثمانؓ نے نہ صرف حضرت عمرؓ کے دور میں مفتوحہ علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کی بلکہ......

(A) سارے جنوبی افریقہ پر قبضہ کیا

(B) سارے جنوبی عرب پر قبضہ کیا

(C) سارے شمالی افریقہ پر قبضہ کیا

(D) سارے شمالی عرب پر قبضہ کیا

45. حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں فتح ہونے والے علاقوں کے نام بتائیں؟

(A) لیبیا (B) الجزائر

(C) مراکش (D) B,A اور C سب

46. حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں قبرص کا جزیرہ فتح ہوا۔ یہ کس سال کا واقع ہے؟

(A) 25 ہجری (B) 24 ہجری

(C) 23 ہجری (D) 22 ہجری

47. کس خلیفہ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی ریاست کو مراکش سے کابل تک پھیلایا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

48. حضرت عثمانؓ کے دور خلافت کے آخری چار سالوں میں ہونے والی سازشوں کا لیڈر کون تھا؟

(A) عبداللہ ابن سبا (B) عبدالرحمن ابن سبا

(C) خالد ابن سبا (D) ابوعبیدہ ابن سبا

49. عبداللہ بن سبا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا لیکن حقیقت میں ________ ۔

(A) عیسائی تھا (B) مجوسی تھا

(C) نصرانی تھا (D) یہودی تھا

50. عبداللہ ابن سبا کا تعلق کس علاقے سے تھا؟

(A) مصر (B) شام

(C) ایران (D) یمن

51. جزیرہ قبرص پر حملے کے لیے بحری بیڑہ کب تیار کیا گیا؟

(A) 26 ہجری (B) 28 ہجری

(C) 24 ہجری (D) 22 ہجری

52. جزیرہ قبرص پر حملے کے لیے بحری بیڑہ کس نے تیار کیا تھا؟

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت عثمانؓ

(C) حضرت عمرؓ (D) حضرت علیؓ

53. قبرص پر حملے کے لیے جو پہلا بحری بیڑہ تیار کیا گیا اسکے اسلام کے پہلے امیر البحر کون تھے؟

(A) حضرت اسامہ ابن قیس

(B) حضرت حذیفہ ابن قیسؓ

(C) حضرت عمر ابن قیسؓ

(D) حضرت عبداللہ ابن قیسؓ

54. کس وجہ سے حضرت عثمانؓ کی خلافت کمزور پڑ گئی؟

(A) ہاشمیوں اور امویوں کے درمیان پیدا ہونے والی کدورت کی وجہ سے

(B) ان کے سادہ اور مہربان کردار کی وجہ سے

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

55. حضرت عثمانؓ کو خلافت سے ہٹانے کیلئے منافقوں نے کون سے الزامات حضرت عثمانؓ پر لگائے؟

(A) انہوں نے اپنے نااہل رشتہ داروں کو گورنری عطا کی

(B) وہ اپنے گورنروں کا احتساب نہیں کرتے

(C) انہوں نے قرآن مجید کو جلایا ہے

(D) A، B اور C تینوں

56. حضرت عثمانؓ کے دور میں اسلامی سلطنت کے کل کتنے صوبے

تھے؟

(A) 20 (B) 15

(C) 10 (D) 8

57. کل پندرہ صوبوں میں سے کتنوں پر حضرت عثمانؓ کے رشتہ دار فائز تھے؟

(A) 10 (B) 12

(C) 8 (D) 4

58. وہ کون سے حضرت عثمانؓ کے رشتے دار گورنر تھے جن کو حضرت عثمانؓ نے نہیں بلکہ حضرت عمرؓ نے ان کی قابلیت کی وجہ سے گورنر متعین کیا تھا؟

(A) امیر معاویہؓ (B) عبداللہ ابن سعدؓ

(C) A اور B دونوں (D) A اور B میں سے دونوں

59. حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہؓ ______

(A) ایران کے گورنر تھے (B) مصر کے گورنر تھے

(C) شام کے گورنر تھے (D) عراق کے گورنر تھے

60. حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن سعدؓ......

(A) روم کے گورنر تھے (B) کوفہ کے گورنر تھے

(C) مکہ کے گورنر تھے (D) مصر کے گورنر تھے

61. حضرت عثمانؓ نے حضرت سعد ابن سعدؓ کو کہاں کا گورنر مقرر کیا لیکن ان کو ان کے عہدے سے نااہلی کی وجہ سے معزول کر دیا؟

(A) بصرہ (B) مدینہ

(C) مکہ (D) کوفہ

62. حضرت سعد ابن سعدؓ کی جگہ پر حضرت عثمانؓ نے ان کے سوتیلے بھائی...........

(A) احسن ابن عقبی کو متعین کیا

(B) ولید ابن عقبی کو متعین کیا

(C) عبداللہ ابن عفصی کو متعین کیا

(D) عبیداللہ ابن عفصی کو متعین کیا

63. ولید ابن عقبہ نے کامیابی کے ساتھ......

(A) آذربائیجان میں مہم جوئی کی

(B) آرمینیا میں مہم جوئی کی

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

64. عوام کی خواہش پر حضرت عثمانؓ نے اپنے کس رشتہ دار گورنر کو خود گورنری کے عہدے سے معزول کر دیا تھا؟

(A) عبداللہ ابن عامرؓ (B) عبداللہ ابن عاصؓ

(C) عبداللہ ابن عوفؓ (D) ابوموسیٰ اشعریؓ

65. ابوموسیٰ اشعریؓ گورنر تھے......

(A) مصر کے (B) کوفہ کے

(C) بصرہ کے (D) طائف کے

66. حضرت عثمانؓ کے اس چچازاد کا نام بتائیں جن کو حضرت عثمانؓ نے بصرہ کے لوگوں کی خواہش کے مطابق بصرہ کا گورنر بنایا تھا؟

(A) عبداللہ ابن عامرؓ (B) عبدالرحمٰن ابن عامرؓ

(C) خالد ابن عامرؓ (D) ولید ابن عامرؓ

67. بصرہ کے گورنر عبداللہ ابن عامرؓ نے کامیابی کے ساتھ گورنری بحالی اور......

(A) فارس فتح کیا (B) سیستان فتح کیا

(C) خراسان فتح کیا (D) B, A اور C تینوں

68. کس خلیفہ پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے قرآن کو جلایا لیکن درحقیقت انہوں نا قابل اعتماد ذرائع سے آنے والی کاپیوں کو جلایا تھا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

69. قرآن جلانے کا الزام لگانے والے باغیوں کا حضرت عثمانؓ کے لیے کیا مطالبہ تھا؟

(A) وہ خود خلافت چھوڑ دیں

(B) وہ خلافت کو تقسیم کر دیں

(C) وہ خلافت باغیوں کے ہاتھ دے دیں

(D) کوئی نہیں

70. حضرت عثمانؓ کی معزولی کے لیے باغیوں نے کہاں سے آ کر سلطنت اسلامیہ کے باہر پڑاؤ ڈالا؟
(A) مصر (B) کوفہ
(C) بصرہ (D) B،A اور C تینوں

71. کس نے باغیوں کو قائل کرنے کی کوشش کی اور آخر کار ان کو واپس جانے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟
(A) حضرت اسامہؓ (B) حضرت ابوعبیدہؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت اویسؓ

72. باغیوں کے کون سے مطالبات حضرت عثمانؓ نے قبول کر لیے تھے؟
(A) مصر کے گورنر عبداللہ ابن سعدؓ کی گورنری سے معزولی
(B) محمد ابن ابوبکرؓ کی مصر کی گورنری پر تقرری
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

73. باغیوں کے کس مطالبے سے انکار پر انھوں نے حضرت عثمانؓ کو گھر میں محصور کر دیا؟
(A) وہ خود خلافت چھوڑ دیں
(B) خلافت تقسیم کر دیں
(C) خلافت باغیوں کو دے دیں
(D) کوئی نہیں

74. حضرت عثمانؓ کے گھر میں محصور ہونے کے بعد حضرت علیؓ نے ان کو خوراک پہنچانے پر کس کی ڈیوٹی لگائی؟
(A) اپنے بیٹے حسنؓ (B) اپنے بیٹے حسینؓ
(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

75. حضرت عثمانؓ کی حفاظت کے لیے حضرت زبیرؓ نے اپنا کون سا بیٹا معمور کیا تھا؟
(A) عبیداللہ (B) عبداللہ
(C) عبدالرحمٰن (D) طلحہ

76. حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کتنے دن بعد ختم ہوا جسکے بعد باغیوں نے حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا؟
(A) 30 دن (B) 35 دن
(C) 40 دن (D) 45 دن

77. حضرت عثمانؓ کو جب باغی شہید کر رہے تھے تو ان کی کس بیوی کی ان کو بچاتے ہوئے انگلیاں کٹ گئیں؟
(A) فاطمہ (B) زینب
(C) عاصمہ (D) نائلہ

78. کب حضرت عثمانؓ کی شہادت کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا؟
(A) 18 ذی الحج 35 ہجری (B) 19 ذی الحج 35 ہجری
(C) 20 ذی الحج 35 ہجری (D) 21 ذی الحج 35 ہجری

79. کس دن حضرت عثمانؓ کو شہید کیا گیا؟
(A) [illegible] (B) بدھ
(C) جمعہ (D) اتوار

80. کس رہنما کے زیر سایہ بنوامیہ بہت لمبے عرصے تک حضرت عثمانؓ کے خون کیلئے لڑتے رہے اور آخر کار سلطنت امیہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟
(A) معاویہؓ (B) یزید
(C) حذیفہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

81. یہ بات کس نے کہی تھی کہ "عثمان کا قتل مسلمانوں میں خانہ جنگی کا اشارہ تھا؟
(A) جوزف آرنلڈ (B) جوزف ہیسٹنگ
(C) جوزف ہیل (D) کورن ویلسن

82. حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد ہونے والی خانہ جنگی میں پہلے کس نے حضرت علیؓ سے جنگ کی؟
(A) حضرت طلحہؓ (B) حضرت زبیرؓ
(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

83. حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کا سپہ سالار کون تھا؟
(A) حضرت عائشہؓ (B) حضرت طلحہؓ
(C) امیر معاویہؓ (D) کوئی نہیں

84. حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد ......
(A) حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان جنگیں ہوئی
(B) حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت طلحہؓ کے درمیان جنگیں ہوئی
(C) حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت زبیرؓ کے درمیان جنگیں ہوئی
(D) کوئی نہیں

85. حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد خانہ جنگی کا اختتام ......
(A) مصر پر ایرانیوں کے قبضہ پر ہوا
(B) کوفہ پر ایرانیوں کے قبضہ پر ہوا
(C) واقعہ کربلا پر ہوا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

86. حضرت عثمانؓ نے مسجد نبوی کی توسیع کی یہ توسیع کب کی گئی؟
(A) 30 ہجری (B) 29 ہجری
(C) 28 ہجری (D) 27 ہجری

87. حضرت عثمانؓ کہاں دفن ہیں؟
(A) جنت البقیع (B) مکہ
(C) کوفہ (D) بصرہ

88. جنت البقیع کہاں واقع ہے؟
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) کوفہ (D) بصرہ

89. حضرت اسامہؓ کی سپہ سالاری میں حضرت عثمانؓ نے ......
(A) دمشق کی فوج میں خدمات سرانجام دیں
(B) مصر کی فوج میں خدمات سرانجام دیں
(C) عراق کی فوج میں خدمات سرانجام دیں
(D) اومان کی فوج میں خدمات سرانجام دیں

90. شہادت کے وقت حضرت عثمانؓ کی عمر مبارک کیا تھی؟
(A) 78 سال (B) 79 سال
(C) 80 سال (D) 81 سال

91. حضرت عثمانؓ نے کتنا عرصہ خلافت کی؟
(A) 15 سال (B) 12 سال
(C) 10 سال (D) 81 سال

92. حضرت عثمانؓ کے حوالے سے درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) ان کو نہ تو غسل دیا گیا اور نہ ہی کفن پہنایا گیا
(B) ان کو رات کے اندھیرے میں باغیوں کے حملے کے خطرے کے پیش نظر دفنایا گیا
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

93. حضرت عثمانؓ کو "حش کوکب" میں دفنایا گیا جس کے لغوی معنی ہیں۔
(A) پھولوں کا باغ (B) گلابوں کا باغ
(C) پھلوں کا باغ (D) موتیوں کا باغ

94. درج ذیل میں سے کون حضرت عثمانؓ کے واسطے باغیوں سے لڑنے کیلئے تیار تھے؟
(A) حضرت سعد ابن وقاصؓ
(B) حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت حسن ابن علیؓ
(C) حضرت زید ابن ثابتؓ
(D) A اور B اور C سب

95. حضرت عثمانؓ کی نماز جنازہ کس نے ادا کی؟
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت حسنؓ
(C) زبیرؓ (D) حضرت جبیرؓ ابن مطعم

راجح قول کے مطابق حضرت زبیر بن العوام نے نماز جنازہ پڑھائی تھی

96. حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ نے حضرت عثمانؓ کو مشورہ دیا کہ حضرت عثمانؓ یا تو باغیوں سے جنگ کریں یا پھر ......
(A) مکہ چلے جائیں (B) مدینہ چلے جائیں
(C) بغداد چلے جائیں (D) مکہ یا شام چلے جائیں

97. وہ شخصیات جو کہ حضرت عثمانؓ کے قتل کا بدلہ لینے کیلئے کہہ رہی تھیں ان میں حضرت امیر معاویہؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت عائشہؓ اور ......
(A) حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ شامل تھے
(B) حضرت عبداللہؓ شامل تھے
(C) حضرت اسامہؓ شامل تھے

(D) حضرت زبیر ابن عوامؓ شامل تھے

98. حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں حضرت عثمانؓ کے کہنے پر کس نے بحری بیڑہ تیار کیا؟

(A) حضرت زبیر (B) حضرت علیؓ

(C) حضرت امیر معاویہؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

99. کس جگہ پر حضرت عثمانؓ نے اسی جگہ کو محفوظ کرنے کیلئے ایک بند بنوایا تھا؟

(A) مکہ (B) کوفہ

(C) بصرہ (D) مدینہ

100. حضرت عثمانؓ نے افسروں اور فوجیوں کی تقریباً .... تنخواہیں بڑھائیں؟

(A) 10 فیصد (B) 15 فیصد

(C) 20 فیصد (D) 25 فیصد

101. درج ذیل میں سے حضرت عثمانؓ کا کون سا کارنامہ اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت سمجھا جاتا ہے؟

(A) مدینہ کو سیلاب سے بچانے کیلئے بند کی تعمیر

(B) شریعت کے قانون کا نفاذ

(C) اصل اور تصدیق شدہ قرآن مجید کی کاپیوں کا اجراء

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

102. حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں مسلمان قرآن مجید کے ایک رسم الخط اور لہجہ پر متفق ہو گئے تھے جس کے عوض آپؓ کو

(A) جامع القرآن کہا گیا

(B) تدوین القرآن کہا گیا

(C) تعلیق القرآن کہا گیا

(D) خیر القرآن کہا گیا

103. حضرت عثمانؓ نے کون سا کنواں ایک یہودی سے خرید کر اسے مسلمانوں کیلئے وقف کر دیا؟

(A) مدینہ میں بئر رومہ (B) مکہ میں بئر رومہ

(C) کوفہ میں بئر رومہ (D) بصرہ میں بئر رومہ

104. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمانؓ نے کیا خدمت سرانجام دی؟

(A) سو اونٹ اور سو گھوڑے جنگ سے پیش کیے

(B) 1/3 جنگ کے اخراجات اٹھائے

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

105. حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوطؑ کے بعد کس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجر قرار دیا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

106. "جب کبھی بھی تم خطرے میں ہو گے تم اپنے دفاع کیلئے تلوار استعمال نہ کرو گے" یہ الفاظ کس نے حضرت عثمانؓ کے بارے میں کہے تھے؟

(A) حضرت محمد ﷺ (B) حضرت ابوبکرؓ

(C) حضرت عمرؓ (D) کسی نے بھی نہیں

107. اس دروازے کا نام بتائیں جس کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مسجد نبوی میں داخل ہوا کرتے تھے؟

(A) باب ابوبکرؓ (B) باب عمرؓ

(C) باب عثمانؓ (D) باب علیؓ

108. حضرت عثمانؓ کی زوجہ نائلہ کا پورا نام بتائیں۔

(A) نائلہ بنت فرافصاح (B) نائلہ بنت عمر

(C) نائلہ بنت عاص (D) نائلہ بنت عوف

109. حضرت عثمانؓ کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو کہ ان کی پہلی بیوی حضرت رقیہؓ سے پیدا ہوا اور بچپن میں ہی فوت ہو گیا؟

(A) عبدالرحمٰن (B) حذیفہ

(C) عبداللہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

110. حضرت عثمانؓ کی دوسری زوجہ حضرت ام کلثومؓ سے حضرت عثمانؓ کے گھر کتنے بچے پیدا ہوئے؟

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) کوئی نہیں

111. حضرت عثمانؓ کی چھ یا سات بیٹیاں اور ______

(A) 8 بیٹے تھے   (B) 9 بیٹے تھے

(C) 10 بیٹے تھے   (D) 11 بیٹے تھے

112. حضرت عثمانؓ کے ایک بیٹے نے سلاطین امیہ کے دور میں بہت اونچا مقام حاصل کیا۔ اس کا نام بتائیں؟

(A) عبدالرحمٰن   (B) قثم

(C) ابان   (D) عبیدہ

113. سیدنا حضرت حسین بن علیؓ کی صاحبزادی سکینہ بنت حسین کا نکاح کس خلیفے کے پوتے سے ہوا؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ   (B) حضرت عمر فاروقؓ

(C) حضرت عثمان غنیؓ   (D) حضرت حسنؓ

114. خلفائے راشدین میں سے ذوالنورین کن کا لقب ہے؟

(A) حضرت عثمان غنیؓ   (B) حضرت عمر فاروقؓ

(C) حضرت ابوبکر صدیقؓ   (D) حضرت علی مرتضیٰؓ

115. خلفائے راشدین میں سے جامع القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ   (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمان غنیؓ   (D) حضرت علی مرتضیٰؓ

116. سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟

(A) حضرت ابوبکرؓ   (B) حضرت عثمان غنیؓ

(C) حضرت عمر فاروقؓ   (D) حضرت علیؓ

117. مسلمانوں نے پہلی بحری جنگ کس خلیفہ راشد کے دور میں لڑی؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ   (B) حضرت عمر فاروقؓ

(C) حضرت عثمان غنیؓ   (D) حضرت علی کرم اللہ وجہہ

118. کس خلیفہ راشد نے دو ہجرتیں کیں؟

(A) حضرت ابوبکرؓ   (B) حضرت علیؓ

(C) حضرت عمرؓ   (D) حضرت عثمانؓ

جوابات

1. (C)	2. (B)	3. (C)	4. (A)	5. (C)	6. (C)	7. (C)	8. (A)
9. (B)	10. (B)	11. (C)	12. (A)	13. (B)	14. (A)	15. (A)	16. (C)
17. (B)	18. (A)	19. (D)	20. (A)	21. (D)	22. (B)	23. (B)	24. (A)
25. (C)	26. (A)	27. (B)	28. (B)	29. (C)	30. (C)	31. (D)	32. (C)
33. (A)	34. (C)	35. (D)	36. (D)	37. (A)	38. (A)	39. (C)	40. (C)
41. (C)	42. (B)	43. (C)	44. (C)	45. (D)	46. (A)	47. (C)	48. (A)
49. (D)	50. (D)	51. (B)	52. (B)	53. (D)	54. (C)	55. (D)	56. (B)
57. (D)	58. (C)	59. (C)	60. (D)	61. (D)	62. (B)	63. (C)	64. (B)
65. (C)	66. (A)	67. (D)	68. (C)	69. (A)	70. (D)	71. (C)	72. (C)
73. (A)	74. (C)	75. (B)	76. (C)	77. (D)	78. (A)	79. (C)	80. (A)
81. (C)	82. (C)	83. (A)	84. (A)	85. (C)	86. (B)	87. (A)	88. (B)
89. (D)	90. (A)	91. (B)	92. (C)	93. (A)	94. (C)	95. (D)	96. (D)
97. (D)	98. (C)	99. (D)	100. (D)	101. (C)	102. (A)	103. (A)	104. (C)
105. (C)	106. (A)	107. (C)	108. (A)	109. (C)	110. (B)	111. (D)	112. (A)
113. (C)	114. (A)	115. (C)	116. (B)	117. (C)	118. (D)		

حضرت علیؓ

1. چوتھے خلیفہ حضرت علیؓ کب پیدا ہوئے؟
(A) 580ء (B) 600ء
(C) 610ء (D) 590ء

2. حضرت علیؓ نبی پاک کی پیدائش کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟
(A) 10 سال (B) 20 سال
(C) 30 سال (D) 40 سال

3. قریش قبیلہ کی کس شاخ سے حضرت علیؓ کا تعلق تھا؟
(A) بنوعدی (B) بنوخزرج
(C) بنوہاشم (D) بنواوس

4. حضرت علیؓ کے والد کا نام بتائیں
(A) ابوطالب (B) ابوجہل
(C) ابولہب (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

5. حضرت علیؓ کے دادا کا نام بتائیں
(A) ہاشم (B) عبدالمطلب
(C) ابولہب (D) کوئی نہیں

6. ہاشم حضرت علیؓ کے رشتے میں کیا لگتے تھے جن کی وجہ سے ان کی اولاد ہاشمی کہلائی؟
(A) پڑدادا (B) دادا
(C) چچا (D) ماموں

7. حضرت علیؓ کی والدہ کا کیا نام تھا؟
(A) حضرت فاطمہ بنت اسد (B) حضرت زینب بنت اسد
(C) حضرت کلثوم بنت اسد (D) حضرت عائشہ بنت اسد

8. حضرت علیؓ کی والدہ کے والد کون تھے جو کہ ہاشم کے بیٹے تھے؟
(A) اسد (B) ابوطالب
(C) ابوالحسن (D) تراب

9. مکہ میں کس جگہ حضرت علیؓ پیدا ہوئے تھے؟
(A) خانہ کعبہ (B) مسجد نبوی
(C) مسجد قبا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

10. طالب، عقیل اور حضرت جعفر طیارؓ کا حضرت علیؓ سے کیا تعلق تھا؟
(A) حضرت علیؓ کے بھائی تھے
(B) حضرت علیؓ کے چچازاد تھے
(C) حضرت علیؓ کے چچا تھے
(D) حضرت علیؓ کے دوست تھے

11. حضرت علیؓ کی بہن تھیں۔
(A) حضرت ام ہانیؓ (B) جمانہ
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

12. حضرت علیؓ کا نام کس نے رکھا تھا؟
(A) حضرت محمد ﷺ (B) حضرت ابوطالب
(C) حضرت عبدالمطلب (D) ہاشم

13. حضرت علیؓ کی کنیت کیا تھی؟
(A) ابوالحسن (B) ابوتراب
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

14. حضرت علیؓ حضرت محمد ﷺ کے ....
(A) چچازاد تھے (B) بھائی تھے
(C) دوست تھے (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

15. حضرت علیؓ کا لقب کیا تھا؟
(A) حیدر کرار (B) حیدر تراب
(C) حیدر (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

16. حیدر کرار کا لغوی معنی کیا ہے؟
(A) ایک ایسا حکمران جسے کوئی معزول نہ کر سکتا ہو
(B) ایک ایسا سپہ سالار جسے کوئی شکست نہ دے سکتا ہو
(C) ایک ایسا جنگجو جس کا کوئی ثانی نہ ہو
(D) ایک ایسی ذرہ جسے کوئی توڑ نہ سکتا ہو

17. حضرت علیؓ کا پیشہ کیا تھا؟
(A) تجارت (B) زراعت
(C) درزی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

18. بچوں میں اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت کون تھیں؟
(A) حضرت حمزہؓ (B) حضرت طلحہؓ
(C) حضرت زبیرؓ (D) حضرت علیؓ

19. جب حضرت علیؓ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر کیا تھی؟
(A) 15 سال (B) 12 سال
(C) 10 سال (D) 8 سال

20. مدینہ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اپنے بستر پر سونے کیلئے کہا اور وہ خوشی سے چھلانگ لگا کر بستر پر چڑھ گئے؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

21. حضرت علیؓ کو اپنے بستر پر چھوڑتے وقت آپؐ نے ان کو صبح ہوتے ہی کیا کام کرنے کی نصیحت کی؟
(A) اہل مکہ کے مظالم کا صبر سے سامنا کرنا
(B) اہل مکہ سے جنگ کرنا
(C) صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ ہجرت کر جانا
(D) کوئی نہیں

22. مدینہ ہجرت کا واقعہ کس سن میں پیش آیا؟
(A) 621 A.D (B) 622 A.D
(C) 623 A.D (D) 624 A.D

23. کس غزوہ میں حضرت علیؓ نے مسلمان فوج کا جھنڈا لہرایا تھا؟
(A) بدر (B) احد
(C) خندق (D) موتہ

24. جنگ بدر میں جب قریش کے تین جنگجوؤں نے مسلمانوں کو مقابلے کیلئے للکارا تو ....
(A) حضرت حمزہؓ نے اس چیلنج کو قبول کیا
(B) حضرت ابوعبیدہؓ نے اس چیلنج کو قبول کیا
(C) حضرت علیؓ نے اس چیلنج کو قبول کیا
(D) تمام

25. جنگ بدر میں قریش کے کس جنگجو کے ایک ہی وار میں حضرت علیؓ دو ٹکڑے کر دیئے؟
(A) شیبہ (B) عتبہ
(C) عمار (D) عبداللہ

26. کس جنگ میں جب حضرت مصعب ابن عمیرؓ شہید ہو گئے تو وہ علیؓ تھے جنہوں نے مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا۔
(A) جنگ بدر (B) جنگ احد
(C) جنگ خندق (D) جنگ موتہ

27. کس جنگ میں ایک مشہور جنگجو عبدود نے جب مقابلے کیلئے مسلمانوں کو پکارا تو صرف حضرت علیؓ نے اس کا چیلنج قبول کیا؟
(A) جنگ احد (B) جنگ خندق
(C) جنگ بدر (D) جنگ موتہ

28. غزوہ خندق میں عبدود سے لڑنے کے لیے آپؐ نے حضرت علیؓ ....
(A) کے سر پر پگڑی رکھی (B) اپنی مشہور تلوار دی
(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

29. اس تلوار کا کیا نام تھا جو حضرت محمد ﷺ نے میں حضرت علیؓ کو عبدود سے مقابلے کیلئے دی؟

(A) ذوالفقار (B) زخرف

(C) قصویٰ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

30. "آج علی کی تلوار کی ایک ضرب میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے۔" کس جنگ کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے؟

(A) غزوہ بدر (B) غزوہ خندق

(C) غزوہ حنین (D) غزوہ احد

31. کس کے خلاف جنگ میں مسلمان قلعہ قموص کو فتح کرنے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہے تھے؟

(A) عیسائیوں (B) یہودیوں

(C) ایرانیوں (D) مصریوں

32. قلعہ قموص کی فتح کے لیے سپہ سالاری بالآخر آپ نے کس کو دی؟

(A) حضرت حمزہ (B) حضرت زبیر

(C) حضرت علی (D) حضرت طلحہ

33. اس جنگ کا نام بتائیں جس میں حضرت علی نے قلعہ قموص کو فتح کیا؟

(A) غزوہ مکہ (B) غزوہ موتہ

(C) خیبر (D) [illegible]

34. بخاری کی حدیث ہے حضرت علی کو ایک لقب دیا گیا [illegible]

(A) نجی اللہ (B) حبیب اللہ

(C) خلیل اللہ (D) [illegible] اللہ

35. اسداللہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(A) اللہ کا شیر (B) [illegible]

(C) اللہ کی تلوار (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

36. کس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں "علم کا شہر ہوں [illegible] اس کا دروازہ ہے"

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) [illegible]

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

37. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کس علاقے کا قاضی مقرر کیا تھا؟

(A) بصرہ (B) کوفہ

(C) مکہ (D) [illegible]

38. وہ واقعہ کیا کہلاتا ہے جب مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا تھا؟

(A) بھائی چارہ (B) دوستی

(C) مواخات (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

39. مواخات میں نبی پاک نے اپنا بھائی کس کو بنایا؟

(A) حضرت عبدالرحمن بن عوف کو

(B) حضرت ابوبکر کو

(C) حضرت علی کو

(D) حضرت عمر کو

40. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد باغیوں کی طرف سے کون حضرت علی کی خلافت کا منصوبہ بنا رہا تھا؟

(A) ابن سبا (B) [illegible]

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

41. حضرت علی نے پہلے خلافت کے عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ

(A) حضرت [illegible] کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے

(B) حضرت [illegible] کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے

(C) A اور B [illegible]

(D) کسی کو بھی نہیں

42. حضرت علی کی خلافت [illegible] ہوئی؟

(A) 21 ذوالحجہ 35 ہجری (B) 22 ذی الحجہ 35 ہجری

(C) 23 ذی الحجہ 35 ہجری (D) 24 ذی الحجہ 35 ہجری

43. حضرت زبیر اور حضرت طلحہ نے حضرت علی کی خلافت [illegible]

(A) وہ خود خلافت سنبھالنا چاہتے تھے

(B) وہ چاہتے تھے کہ پہلے حضرت عثمان کی شہادت [illegible] میں تفتیش کر کے مجرموں کو [illegible]

حضرت علی

(C) وہ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوفؓ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

44. خلیفہ بننے کے بعد ملکی مفاد کے پیش نظر حضرت علیؓ نے کون سے فوری اقدام اٹھائے؟

(A) حضرت عثمانؓ کے قاتلوں سے بدلہ لیا

(B) حضرت عثمانؓ کے مقرر کیے ہوئے گورنروں کو تبدیل کیا

(C) مصر کے باغیوں کے خلاف اعلان جنگ کیا

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

45. حضرت علیؓ کو گورنر تبدیل نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا خاص طور پر ....

(A) شام کے گورنر امیر معاویہؓ کو

(B) کوفہ کے گورنر امیر معاویہؓ کو

(C) بصرہ کے گورنر امیر معاویہؓ کو

(D) یمن کے گورنر امیر معاویہؓ کو

46. حضرت امیر معاویہؓ کی جگہ پر حضرت علیؓ نے کس کو گورنر مقرر کیا؟

(A) خالد ابن ولیدؓ (B) عبداللہ ابن عمرؓ

(C) سہیل ابن حنیفؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

47. حضرت علیؓ نے مصر کا گورنر کس کو مقرر کیا؟

(A) حسن ابن علیؓ (B) حسین ابن علیؓ

(C) سعد ابن عبیدہؓ (D) امیر معاویہؓ

48. حضرت علیؓ نے عمارہ ابن احب کو کہاں کا گورنر مقرر کیا؟

(A) مکہ (B) مدینہ

(C) مصر (D) کوفہ

49. حضرت علیؓ نے عثمانؓ ابن حنیف کو کہاں کا گورنر مقرر کیا؟

(A) یمن (B) کوفہ

(C) بصرہ (D) مکہ

50. حضرت علیؓ کے مقررہ کردہ کون سے گورنر لوگوں کی مزاحمت کی وجہ سے چارج نہ سنبھال سکے؟

(A) کوفہ کے گورنر عمارہ ابن احب

(B) بصرہ کے گورنر سہیل ابن حنیف

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

51. حضرت علیؓ کی خلافت پر وقتی خاموشی کے بعد کہاں کے لوگوں نے حضرت عثمانؓ کی شہادت کا بدلہ مطالبہ کھڑا کر دیا؟

(A) شام میں بنوامیہ کے لوگ

(B) مصر میں بنوامیہ کے لوگ

(C) عراق میں بنوامیہ کے لوگ

(D) ایران میں بنوامیہ کے لوگ

52. بنوامیہ نے کہاں حضرت عثمانؓ کے خون آلود کپڑے اور ان کی زوجہ محترمہ نائلہؓ کی کٹی ہوئی انگلیاں لوگوں کے جذبات ابھارنے کیلئے دکھائیں؟

(A) دمشق کی مسجد میں (B) کوفہ کی مسجد میں

(C) عراق کی مسجد میں (D) بصرہ کی مسجد میں

53. حضرت علیؓ کی طرف سے حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بدلے میں تاخیر پر کون سے صحابی آپؓ سے جنگ پر آمادہ ہو گئے۔

(A) حضرت طلحہؓ (B) حضرت زبیرؓ

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

54. حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ نے کس سے سپہ سالاری کی درخواست کی اس جنگ کیلئے جو وہ حضرت علیؓ سے حضرت عثمانؓ کے مسئلے میں کرنے جا رہے تھے؟

(A) حضرت خالد ابن ولیدؓ (B) حضرت عائشہؓ

(C) زینبؓ (D) عبدالرحمٰن ابن عوفؓ

55. حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کی فوجوں کا آمنا سامنا کہاں ہوا؟

(A) کوفہ کے قریب (B) عراق کے قریب

(C) بصرہ کے قریب (D) مکہ کے قریب

56. کن فریقین کے درمیان جنگ جمل لڑی گئی؟

(A) حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ

(B) حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ

(C) حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

57. جنگ جمل سے قبل کس نے حضرت عائشہؓ کو حضرت عثمانؓ کے معاملے میں تاخیر کی وجہ سمجھائی اور وہ سمجھ گئیں تاہم منافقین نے جنگ شروع کرا دی؟

(A) حضرت طلحہؓ (B) حضرت علیؓ

(C) حضرت زبیرؓ (D) حضرت امیر معاویہؓ

58. جنگ جمل جنگ کب ہوئی؟

(A) 35 ہجری (B) 36 ہجری

(C) 37 ہجری (D) 38 ہجری

59. جنگ جمل سے کیا مراد ہے؟

(A) مسلمانوں کی جنگ (B) خانہ جنگی

(C) اونٹوں کی جنگ (D) گھوڑوں کی جنگ

60. جنگ جمل میں دونوں اطراف سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے جن میں..........

(A) حضرت طلحہؓ بھی شامل تھے

(B) حضرت زبیرؓ بھی شامل تھے

(C) دونوں A، B

(D) کوئی نہیں

61. جنگ جمل کا فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟

(A) حضرت علیؓ

(B) حضرت عائشہؓ

(C) کسی کے بھی حق میں نہ ہوا

(D) کوئی نہیں

62. جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان ....

(A) ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا

(B) مفاہمت ہو گئی

(C) سیاسی کشیدگی کی بنیاد پڑ گئی

(D) کوئی نہیں

63. شام کے کون سے گورنر نے حضرت علیؓ کے معزول کرنے کے باوجود عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا؟

(A) حضرت امیر معاویہؓ

(B) حضرت طلحہؓ

(C) حضرت زبیرؓ

(D) حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ

64. جنگ جمل کے بعد حضرت علیؓ نے حضرت عائشہؓ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان کے کس بھائی کے ہمراہ مدینہ بھجوا دیا۔

(A) عبداللہ ابن ابوبکرؓ (B) حسن ابن ابوبکرؓ

(C) محمد ابن ابوبکرؓ (D) عبدالرحمٰن ابن ابوبکرؓ

65. جنگ جمل میں حضرت عائشہؓ کی طرف سے کتنے لوگ شہید ہوئے؟

(A) 5000 (B) 7000

(C) 9000 (D) 11000

66. جنگ جمل میں حضرت علیؓ کی طرف سے کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟

(A) 10,000 (B) 7500

(C) 1800 (D) 1000

67. مسلمانوں کی آپس میں لڑی جانے والی پہلی جنگ کون سی تھی؟

(A) جمل (B) صفین

(C) نہروان (D) قادسیہ

68. جنگ جمل کی کامیابی کے بعد حضرت علیؓ کی خلافت کو سوائے ایک علاقے کے تمام امت مسلمہ نے قبول کر لیا؟

(A) مصر (B) عراق

(C) یمن (D) شام

69. کس جگہ پر حضرت علیؓ کی پیدل فوج نے شام پر مہم جوئی سے انکار کر دیا؟

(A) مجیر (B) مرو

(C) نخیلہ (D) کوفہ

70. جنگ جمل کے شہداء کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟

(A) حضرت حسنؓ (B) حضرت حسینؓ

(C) حضرت علیؓ (D) ابوموسیٰ اشعریؓ

71. جنگ صفین کن فریقین کے درمیان لڑی گئی؟

(A) حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ

(B) حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ

(C) حضرت عائشہؓ اور حضرت امیر معاویہؓ

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

72. شام کے کون سے گورنر نے حضرت علیؓ کے معزول کرنے کے بعد عہدہ نہ چھوڑا؟

(A) حضرت امیر معاویہؓ

(B) حضرت طلحہؓ

(C) حضرت زبیرؓ

(D) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ

73. کن بنیادوں پر حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت علیؓ کی خلافت کے خلاف مہم چلائی؟

(A) حضرت علیؓ بھی حضرت عثمانؓ کے قاتلوں میں شامل ہیں

(B) حضرت علیؓ کی خلافت پر تقرری غیر قانونی ہے کیونکہ ان کا چناؤ ان باغیوں کے دباؤ کی وجہ سے ہوا جنہوں نے حضرت عثمانؓ کو شہید کیا تھا۔

(C) حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت علیؓ پر الزام لگایا کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔

(D) B،A اور C تینوں

74. جنگ صفین میں شکست کے آثار دیکھتے ہوئے امیر معاویہؓ نے اپنے سپاہیوں کو کیا حکم دیا؟

(A) جانبازی سے لڑیں

(B) پیچھے ہٹ جائیں

(C) نیزوں کے آگے قرآن باندھ لیں

(D) کوئی نہیں

75. حضرت امیر معاویہؓ اپنے پراپیگنڈا کی وجہ سے نہ صرف شام بلکہ

(A) عراق سے بھی مدد لینے میں کامیاب ہوگئے

(B) ایران سے بھی مدد لینے میں کامیاب ہوگئے

(C) دونوں B،A

(D) کوئی نہیں

76. حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا کہاں؟

(A) صفین (B) مدینہ

(C) بصرہ (D) کوفہ

77. صفین ایک میدان ہے، جنگ صفین کب لڑی گئی؟

(A) 658 A.D (B) 657 A.D

(C) 656 A.D (D) 655 A.D

78. جنگ صفین میں حضرت علیؓ کی فوجوں کی تعداد کتنی تھی؟

(A) 80 سے 90 ہزار (B) 70 سے 80 ہزار

(C) 60 سے 70 ہزار (D) 50 سے 60 ہزار

79. نیزوں کے آگے قرآن باندھنے کا مشورہ حضرت امیر معاویہؓ کو کس نے دیا؟

(A) عبداللہ ابن عاص (B) عبدالرحمن ابن عاص

(C) عمرو ابن عاص (D) عمر ابن عاص

80. جنگ صفین میں کیوں حضرت علیؓ کو پیچھے ہٹنا پڑا؟

(A) نیزوں کے آگے قرآن دیکھ کر فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا۔

(B) نیزوں کے آگے قرآن دیکھ کر حضرت علیؓ نے فوج واپس بلا لی

(C) کافی مجاہدین شہید ہوچکے تھے

(D) کوئی نہیں

81. جنگ صفین رکنے کے بعد کیا فیصلہ ہوا؟

(A) جنگ اگلے سال ہوگی

(B) حضرت علیؓ فاتح ہیں

(C) حضرت امیر معاویہؓ فاتح ہیں

(D) پنچائت فیصلہ کرے گی

82. جنگ صفین میں پنچائت کے لیے حضرت علیؓ کی طرف سے کس کو ثالث مقرر کیا گیا؟

(A) خالد ابن ولیدؓ (B) عبدالرحمٰن ابن ملجم

(C) ابوموسیٰ اشعریؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

83. جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہؓ کی طرف سے کس کو ثالث مقرر کیا گیا؟

(A) عمرو ابن عاص (B) علی ابن عاص

(C) حسن ابن عاص (D) ملجم ابن عاص

84. جنگ صفین میں پنچایتی فیصلہ پر دستخط کرنے کے بعد حضرت علیؓ صفین سے کہاں چلے گئے؟

(A) بصرہ (B) مکہ

(C) مدینہ (D) کوفہ

85. جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہؓ کی فوجوں کی تعداد کتنی تھی؟

(A) 60,000 (B) 65,000

(C) 70,000 (D) 80,000

86. جنگ جمل کتنے روز جاری رہی؟

(A) 10 (B) 11

(C) 12 (D) 13

87. کس جنگ کے بعد مسلمانوں میں پہلا فرقہ پیدا ہوا جن کو خوارج کہا گیا؟

(A) جنگ نہروان (B) جنگ خارجی

(C) جنگ صفین (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

88. خوارج کا مطلب کیا ہے؟

(A) علیحدگی پسند (B) نافرمان

(C) بے ایمان (D) ساتھی

89. جنگ صفین کے پنچایتی فیصلہ کے لیے طے پایا تھا کے مطابق ثالثین کس جگہ ملے؟

(A) جندل (B) صفین

(C) دومۃ الجندل (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

90. جنگ صفین کے بعد جو پنچایتی فیصلہ ہوا وہ کیا تھا؟

(A) دونوں حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کو اپنے عہدوں سے معزول ہو جانا چاہئے اور عوام کو یہ اختیار دینا چاہئے کہ وہ نیا خلیفہ چنیں

(B) دونوں حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کو اپنے اپنے مقام پر مزید لڑائی کئے بغیر چلے جائیں

(C) دونوں کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

91. عمرو بن العاص کے جنگ صفین کے بارے میں کس فیصلے کو کسی نے تسلیم نہ کیا؟

(A) حضرت علیؓ کو عہدے سے معزول ہو جانا چاہیے لیکن امیر معاویہؓ کو نہیں

(B) خلافت حضرت امیر معاویہؓ کے حوالے کر دی جائے

(C) دونوں کے درمیان خلافت کا بٹوارہ کیا جائے

(D) کوئی نہیں

92. عمرو بن العاص کے یک طرفہ فیصلے نے حضرت علیؓ کے پاس کوئی اور چارہ نہ چھوڑا کہ ....

(A) خلافت کا عہدہ چھوڑ دیں

(B) حضرت امیر معاویہؓ سے پھر جنگ کی تیاری کریں

(C) جنگ کا ارادہ ترک کر دیں

(D) کوئی نہیں

93. حضرت علیؓ حضرت امیر معاویہؓ سے جنگ کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ خوارج کس علاقے میں مشکلات پیدا کرنے لگ گئے؟

(A) کوفہ (B) بصرہ

(C) نہروان (D) مکہ

94. جنگ نہروان کن کے درمیان لڑی گئی؟ (P.C.S. J.2001)

(A) حضرت علیؓ اور مروان ابن حکم

(B) حضرت علی اور حضرت امیر معاویہؓ

(C) حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

95. خوارج کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ کا میدان تھا۔

(A) بدر (B) صفین

(C) خیبر (D) نہروان

96. جنگ نہروان میں خارجیوں کی تعداد کتنی تھی؟

(A) 10 ہزار (B) 8 ہزار

(C) 6 ہزار (D) 4 ہزار

97. جنگ نہروان کی فاتح فوج تھی۔

(A) خوارج کی (B) حضرت علیؓ کی

(C) مقابلہ برابر رہا (D) کوئی نہیں

98. جنگ نہروان کی فتح حضرت علیؓ کے لیے کھوکھلی کیوں ثابت ہوئی؟

(A) اس سے ان کی توجہ حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ جدوجہد سے ہٹ گئی

(B) اس سے ان کے قتل کی راہ ہموار ہوگئی

(C) دونوں A، B

(D) کوئی نہیں

99. نہروان سے حضرت علیؓ کس کے خلاف جنگ کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن ان کی فوج نے انکار کر دیا؟

(A) مصر کے خوارج (B) یمن کے خوارج

(C) حضرت امیر معاویہؓ (D) کوئی نہیں

100. حضرت علیؓ کی فوج کے انکار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت امیر معاویہؓ نے اپنی فوج کو کہاں قبضہ کا حکم دیا؟

(A) عراق (B) ایران

(C) مصر (D) کوفہ

101. اپنے کس سپہ سالار کو امیر معاویہؓ نے مصر میں داخل ہو جانے کا حکم دیا تھا؟

(A) عمرو ابن عاص (B) عمر ابن عاص

(C) خالد ابن عاص (D) جعفر ابن عاص

102. مندرجہ ذیل میں سے کون سا نقصان حضرت علیؓ کی خلافت کیلئے ایک بہت بڑا دھچکا تھا؟

(A) جنگ نہروان

(B) مصر پر امیر معاویہ کا قبضہ

(C) خارجیوں کی تحریک

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

103. حضرت علیؓ کے دور کے کس واقعے سے پوری اسلامی سلطنت میں بغاوت پھیل گئی؟

(A) خوارج کی بغاوت

(B) حضرت امیر معاویہؓ کا مصر پر قبضہ

(C) جنگ جمل

(D) کوئی نہیں

104. حضرت امیر معاویہؓ کے مصر پر قبضے کے بعد حضرت علیؓ کے کس فیصلے نے کشمکش کو ختم کر دیا؟

(A) حضرت امیر معاویہؓ سے سمجھوتا

(B) انہوں نے خلافت چھوڑ دی

(C) خوارج کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا

(D) کوئی نہیں

105. حضرت امیر معاویہؓ کے مصر پر قبضے کے حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے میں کیا تحریر تھا؟

(A) امیر معاویہ شام اور مصر پر حکمرانی چھوڑ دیں تمام اسلامی ریاست کے خلیفہ حضرت علیؓ ہوں گے۔

(B) امیر معاویہ شام اور مصر پر حکمرانی کریں گے اور باقی تمام ریاست کے خلیفہ حضرت علیؓ ہوں گے

(C) آدھی اسلامی ریاست کے خلیفہ امیر معاویہؓ ہوں گے اور آدھی کے حضرت علیؓ ہوں گے

(D) دونوں پوری اسلامی ریاست کے خلیفہ ہوں گے۔

106. کب حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان سمجھوتہ طے پایا؟

(A) 38 ہجری (B) 40 ہجری

(C) 42 ہجری (D) 44 ہجری

107. کون سے خلیفہ جامع القرآن کہلاتے ہیں؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

108. کس جنگ کے بعد خوارج حضرت علیؓ کے جانی دشمن ہو گئے اور وہ حضرت علیؓ سے بدلہ لینے پر تل گئے؟
(A) جنگ صفین (B) جنگ نہروان
(C) بویب (D) جنگ قادسیہ

109. کب خوارج نے فیصلہ کیا کہ حضرت علیؓ حضرت امیر معاویہؓ اور عمرو ابن عاص کو ایک ساتھ قتل کر دیا جائے؟
(A) 40 ہجری (B) 41 ہجری
(C) 42 ہجری (D) 43 ہجری

110. خوارج نے کس شخص کو حضرت علیؓ کے قتل کرنے کیلئے منتخب کیا؟
(A) ابن صفین (B) ابن ملجم
(C) ابن معاویہ (D) ابن عاص

111. کب ابن ملجم نے حضرت علیؓ پر زہر آلود تلوار سے حملہ کیا؟
(A) 18 رمضان 40 ہجری (B) 19 رمضان 40 ہجری
(C) 20 رمضان 40 ہجری (D) 21 رمضان 40 ہجری

112. کب اسلام کے چوتھے خلیفہ نے شہادت نوش فرمائی؟
(A) 21 رمضان 40 ہجری (B) 22 رمضان 40 ہجری
(C) 22 رمضان 40 ہجری (D) 23 رمضان 40 ہجری

113. حضرت علیؓ کی وصیت کے مطابق حضرت علیؓ کی وفات کے اگلے ہی دن حضرت علیؓ کے قاتل ابن ملجم کو کس نے قتل کر دیا؟
(A) حضرت حسینؓ (B) حضرت حسنؓ
(C) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ (D) حضرت عقیلؓ

114. حضرت علیؓ کا دور خلافت کتنے عرصے پر محیط ہے؟
(A) 5 سال 10 مہینے (B) 4 سال 9 مہینے
(C) 3 سال 10 مہینے (D) 2 سال 9 مہینے

115. کس کے بارے میں حضرت علیؓ نے فرمایا کہ "اس کی دیکھ بھال کرو۔ اسے اچھی خوراک اور پانی دو۔ اگر میں مر جاؤں تو اس کو قتل کر دینا اور اگر میں زندہ بچ جاؤں تو پھر میں خود دیکھ لوں گا کہ کیا کرنا ہے؟"
(A) امیر معاویہؓ (B) عمرو بن عاص
(C) ابن ملجم (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

116. حضرت علیؓ کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کی؟
(A) حضرت حسنؓ (B) حضرت حسینؓ
(C) حضرت حمزہؓ (D) حضرت سعدؓ

117. وصال کے وقت حضرت علیؓ کی عمر کتنی تھی؟
(A) 61 سال (B) 63 سال
(C) 65 سال (D) 70 سال

118. حضرت علیؓ کا مزار کہاں ہے؟
(A) نجد (B) تہران
(C) نجف (D) کوفہ

119. نجف کس ملک کا علاقہ ہے؟
(A) عراق (B) ایران
(C) مصر (D) شام

120. حضرت علیؓ نے اپنے دور خلافت میں کس شہر کو سلطنت اسلامیہ کا دارالحکومت بنایا؟
(A) مکہ (B) بصرہ
(C) کوفہ (D) شام

121. اس پہلے شخص کا نام بتائیں جنہوں نے حضرت علیؓ کی خلافت پر بیعت کی؟
(A) حضرت امیر معاویہؓ (B) حضرت عائشہؓ
(C) حضرت مالک ابن اشترؓ (D) حضرت حذیفہ ابن اسدؓ

122. درج ذیل میں سے حضرت علیؓ سے متعلق کون سا بیان درست ہے؟
(A) حضرت علی مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے جنگ تبوک کے موقع پر رہے

(B) جب حضرت عمرؓ یروشلم گئے تو مدینہ میں خلیفہ کے نائب کی حیثیت سے رہے

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

123. صلح حدیبیہ کا صلح نامہ کس نے لکھا؟

(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت ابوبکرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

124. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لڑی جانے والی کون سی جنگ تھی جس میں حضرت علیؓ نے حصہ نہیں لیا؟

(A) موتہ (B) احزاب

(C) تبوک (D) حنین

125. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟

(A) حضرت ابوبکرؓ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو غسل دیا

(B) حضرت عمرؓ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو غسل دیا

(C) حضرت عثمانؓ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو غسل دیا

(D) حضرت علیؓ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو غسل دیا

126. درج ذیل میں سے کون سا مشورہ حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ کو دیا تھا؟

(A) یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں

(B) ہجری کیلنڈر کا آغاز کریں

(C) مجلس شوریٰ کا قیام عمل میں لائیں

(D) پولیس کا محکمہ قیام میں لائیں

127. حضرت علیؓ کی پہلی زوجہ محترمہ ....

(A) حضرت رقیہ تھیں (B) حضرت فاطمہؓ تھیں

(C) حضرت سعیدہؓ تھیں (D) کوئی نہیں

128. حضرت فاطمہؓ اور حضرت علیؓ کا تیسرا بیٹا جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا اس کا کیا نام تھا؟

(A) احسن (B) عقیل

(C) محسن (D) احسان

129. حضرت فاطمہؓ سے حضرت علیؓ کے ہاں پیدا ہونے والی بچی۔

(A) زینب (B) ام کلثوم

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

130. حضرت فاطمہؓ سے حضرت علیؓ کے ہاں پیدا ہونے والے پہلے دو بیٹوں کا نام بتائیں؟

(A) حسنؓ اور حسینؓ (B) حسن اور عقیلؓ

(C) عقیل اور حسینؓ (D) کوئی نہیں

131. حضرت علیؓ کی دوسری زوجہ محترمہ تھیں۔

(A) سہیلہ (B) بنت رابعہ

(C) ام البنین ابن حزام (D) امامہ

132. ام البنین بنت حزام نے حضرت علیؓ کے ہاں ....

(A) عباس پیدا ہوئے

(B) جعفر اور عبداللہ پیدا ہوئے

(C) عثمانؓ پیدا ہوئے

(D) تمام

133. ام البنین ابن حزام سے حضرت علیؓ کے کس ایک بیٹے کے علاوہ سب کربلا میں شہید ہو گئے؟

(A) عباس (B) جعفر

(C) عبداللہ (D) عثمان

134. حضرت علیؓ کی تیسری زوجہ تھیں۔

(A) زینب بنت سعد (B) فاطمہ بنت سعد

(C) سہیلہ بنت سعد (D) کلثوم بن سعد

135. حضرت علیؓ اور سہیلہ کے دونوں بیٹے جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔

(A) عبیداللہ اور عبداللہ

(B) عبداللہ اور ابوبکر

(C) حمزہ اور عبیداللہ

(D) عبیداللہ اور ابوبکر

136. حضرت علیؓ کی چوتھی زوجہ محترمہ تھیں۔

(A) عصمہ بنت عمیس (B) عصمہ بنت عقیل

(C) عصمہ بنت خرم (D) عصمہ بنت رابعہ

137. عصمہ بنت عمیس کے بطن سے حضرت علیؓ کے ہاں کون سی اولاد پیدا ہوئی؟

(A) یحییٰ (B) محمد اصغر

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

138. حضرت علیؓ نے صاحب بنت رابعہ سے بھی شادی کی جن سے .....

(A) عمر ابن علی پیدا ہوئے (B) رقیہ ابن علی پیدا ہوئیں

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

139. نبی پاک کی نواسی جو حضرت علیؓ کے نکاح میں آئیں۔

(A) امامہ بنت ابوالعاص (B) کلثوم بنت ابوالعاص

(C) رقیہ بنت ابوالعاص (D) صالحہ بنت ابوالعاص

140. حضرت امامہ بنت ابوالعاص بیٹی تھیں۔

(A) حضرت رقیہؓ بنت محمدؐ (B) حضرت زینبؓ بنت محمدؐ

(C) حضرت ام کلثومؓ (D) کوئی نہیں

141. حضرت علیؓ کی کس زوجہ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی؟

(A) بیٹی بنت ام القیس

(B) بیٹی بنت ام الجزر

(C) بیٹی بنت ام یمہ

(D) بیٹی بنت ام خیر

142. حضرت علیؓ کی کس زوجہ محترمہ سے محمد ابن علی پیدا ہوئے؟

(A) عصمہ بنت جعفر (B) زینب بنت جعفر

(C) خولہ بنت جعفر (D) عائشہ بنت جعفر

143. کس زوجہ محترمہ سے حضرت علیؓ کے ہاں ام الحسن اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئے؟

(A) ام سعید (B) ام کلثومؓ

(C) ام مسعود (D) ام جعفر

144. کس اولاد سے حضرت علیؓ کی نسل جاری رہی؟

(A) امام حسن اور امام حسینؓ (B) محمد ابن علی اور عمر ابن علی

(C) عباس ابن علی (D) ان سب سے

145. کس کی روایت کے مطابق حضرت علیؓ کے 17 بیٹے اور چودہ بیٹیاں تھیں؟

(A) ابن حزم (B) ابن جریر

(C) طبری (D) کوئی نہیں

146. نجف اشرف میں کون دفن ہیں؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

147. حضرت حسنؓ حضرت علیؓ کے بعد کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟

(A) 8ماہ (B) 7ماہ

(C) 6ماہ (D) 11ماہ

148. ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

149. حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسن و حسینؓ کی اولاد پاک کیا کہلاتی ہے؟

(A) آل سعود (B) آل عبا

(C) آل علی (D) آل تبا

150. جنگ صفین کن دو گروہوں کے درمیان ہوئی؟

(A) حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ

(B) حضرت علیؓ اور خوارج

(C) حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسنؓ

(D) حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ

151. حضرت علیؓ کے خطبات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟

(A) کشف المحجوب
(B) صحیفہ صادقہ
(C) حجۃ اللہ البالغہ
(D) نہج البلاغہ

152. حضرت علیؓ کے قاتل ابن ملجم کو کس نے قتل کیا؟
(A) وحشی
(B) حضرت امیر معاویہؓ
(C) حضرت حسنؓ
(D) حضرت حسینؓ

153. جنگ جمل کب ہوئی؟
(A) 34ھ
(B) 35ھ
(C) 36ھ
(D) 37ھ

154. حضرت علیؓ کا حضرت محمد فاروقؓ سے کیا رشتہ تھا؟
(A) چچازاد
(B) بیٹا
(C) بھانجا
(D) دوست

155. جنگ جمل کب ہوئی؟
(A) 34ھ
(B) 35ھ
(C) 36ھ
(D) 37ھ

156. ''باب العلم'' کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ
(B) حضرت عمر فاروقؓ
(C) حضرت عثمان غنیؓ
(D) حضرت علیؓ

157. خارجیوں کی بغاوت کی سرکوبی کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی۔
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ
(B) حضرت عثمان غنیؓ
(C) حضرت عمر فاروقؓ
(D) حضرت علی مرتضیٰؓ

158. خارجیوں کی بغاوت کی سرکوبی کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی؟
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ
(B) حضرت عثمان غنیؓ
(C) حضرت عمر فاروقؓ
(D) حضرت علی مرتضیٰؓ

159. جنگ صفین کب لڑی گئی؟
(A) 40ھ
(B) 30ھ
(C) 37ھ
(D) 34ھ

160. حضورﷺ کو غسل کس صحابی نے دیا تھا؟
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ
(B) حضرت عثمانؓ
(C) حضرت علیؓ
(D) حضرت بلالؓ

جوابات

1. (B)	2. (C)	3. (C)	4. (A)	5. (B)	6. (A)	7. (A)	8. (A)
9. (A)	10. (A)	11. (C)	12. (A)	13. (C)	14. (A)	15. (A)	16. (B)
17. (B)	18. (D)	19. (C)	20. (D)	21. (C)	22. (B)	23. (A)	24. (C)
25. (B)	26. (B)	27. (B)	28. (C)	29. (A)	30. (B)	31. (B)	32. (C)
33. (C)	34. (D)	35. (A)	36. (D)	37. (D)	38. (C)	39. (C)	40. (C)
41. (C)	42. (A)	43. (B)	44. (B)	45. (A)	46. (C)	47. (C)	48. (D)
49. (A)	50. (C)	51. (A)	52. (A)	53. (C)	54. (B)	55. (C)	56. (B)
57. (B)	58. (B)	59. (C)	60. (C)	61. (C)	62. (B)	63. (A)	64. (C)
65. (C)	66. (B)	67. (A)	68. (D)	69. (C)	70. (C)	71. (A)	72. (A)
73. (D)	74. (C)	75. (C)	76. (A)	77. (B)	78. (A)	79. (C)	80. (A)
81. (D)	82. (C)	83. (A)	84. (D)	85. (A)	86 (D)	87. (C)	88. (A)
89. (C)	90. (A)	91. (A)	92. (B)	93. (C)	94. (D)	95. (D)	96. (D)
97. (B)	98. (C)	99. (C)	100. (C)	101. (A)	102. (B)	103. (B)	104. (A)
105. (B)	106. (B)	107. (C)	108. (B)	109. (A)	110. (B)	111. (A)	112. (A)
113. (B)	114. (B)	115. (C)	116. (A)	117. (B)	118. (C)	119. (A)	120. (C)
121. (C)	122. (C)	123. (D)	124. (C)	125. (D)	126. (B)	127. (B)	128. (C)
129. (C)	130. (A)	131. (C)	132. (D)	133. (A)	134. (C)	135. (D)	136. (A)
137. (C)	138. (C)	139. (A)	140. (B)	141. (B)	142. (C)	143. (A)	144. (D)
145. (B)	146. (D)	147. (C)	148. (D)	149. (B)	150. (A)	151. (D)	152. (C)
153. (C)	154. (D)	155. (C)	156. (D)	157. ()	158. (D)	159. (C)	160. (C)

واقعہ کربلا

1. حضرت امام حسنؓ کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی
(A) 3ھ (B) 4ھ
(C) 5ھ (D) 6ھ

2. حضرت امام حسینؓ کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔
(A) 3ھ (B) 4ھ
(C) 5ھ (D) 6ھ

3. امام حسنؓ اور امام حسینؓ نے جتنے جتنے پیدل حج کیے۔
(A) 15،15 (B) 20،20
(C) 25،25 (D) 30،30

4. حضرت امیر معاویہؓ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کی تاریخ ہے۔
(A) 19 رجب 60ھ (B) 20 رجب 60ھ
(C) 21 رجب 60ھ (D) 22 رجب 60ھ

5. امام حسینؓ بیعت سے انکار کرکے مدینے سے مکہ روانہ ہوئے۔
(A) 26 رجب (B) 27 رجب
(C) 28 رجب (D) 29 رجب

6. اہل کوفہ کے تقریباً 150 خطوط آنے پر امام نے جس چچازاد بھائی کو کوفہ روانہ کیا۔
(A) جعفر بن عقیل (B) عبدالرحمٰن بن عقیل
(C) مسلم بن عقیل (D) محمد بن عقیل

7. امام پاکؓ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔
(A) 8 ذوالحج (B) 9 ذوالحج
(C) 10 ذوالحج (D) 11 ذوالحج

8. کوفہ میں امام مسلمؓ شہید کر دیے گئے۔
(A) 15 ذوالحج (B) 16 ذوالحج
(C) 17 ذوالحج (D) 18 ذوالحج

9. امام پاکؓ کو کوفہ کی بجائے کربلا خیمے لگانے پر مجبور کر دیا گیا۔
(A) 1 محرم 61ھ (B) 2 محرم 61ھ
(C) 3 محرم 61ھ (D) 4 محرم 61ھ

10. امام پاکؓ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔
(A) 5 محرم (B) 6 محرم
(C) 7 محرم (D) 8 محرم

11. امام پاکؓ کے مقابلے میں یزیدی فوج کم از کم تھی۔
(A) 22 ہزار (B) 20 ہزار
(C) 28 ہزار (D) 30 ہزار

12. یزیدی سپہ سالار جو حضرت سعدؓ بن ابی وقاص صحابی رسولؐ کا بدبخت بیٹا تھا۔
(A) عبیداللہ بن زیاد (B) شمر ذی الجوشن
(C) عمرو بن حجاج (D) عمرو بن سعد

13. مکہ مکرمہ سے کوفہ کا فاصلہ ہے۔
(A) 700 میل (B) 800 میل
(C) 900 میل (D) 1000 میل

14. کوفے سے کربلا کا فاصلہ ہے۔
(A) 45 میل (B) 47 میل
(C) 49 میل (D) 51 میل

15. کوفہ سے دمشق کا فاصلہ ہے۔

(A) 400 میل (B) 500 میل

(C) 600 میل (D) 700 میل

16. کربلا سے بغداد کا فاصلہ ہے۔

(A) 58 میل (B) 60 میل

(C) 62 میل (D) 64 میل

17. امام پاک کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے۔

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

18. امام کے بیمار بیٹے جو قیدی بنائے گئے۔

(A) امام زین العابدینؑ (B) علی اکبرؑ

(C) علی اصغرؑ (D) عبداللہؑ

19. امام حسینؑ کی چھوٹی بیٹی سکینہؑ کی کربلا میں عمر تھی۔

(A) 5 سال (B) 6 سال

(C) 7 سال (D) 8 سال

20. مدینہ میں رہنے والی امامؑ کی بڑی بیٹی فاطمہ صغریٰ کے شوہر کا نام تھا۔

(A) زیدؑ (B) قاسمؑ

(C) عبداللہؑ (D) حسن مثنیٰؑ

21. فاطمہ صغریٰ کی والدہ کا نام تھا۔

(A) شہر بانوؑ (B) ام اسحٰقؑ

(C) لیلیٰؑ (D) شہر بانوؑ

22. امامؑ کے شیر خوار بیٹے علی اصغرؑ اور سکینہؑ کی والدہ کا نام تھا۔

(A) سیدہ رباب (B) لیلیٰ

(C) ام اسحٰق (D) شہر بانو

23. امامؑ کے جواں بیٹے علی اکبرؑ کی والدہ کا نام تھا۔

(A) شہر بانو (B) سیدہ رباب

(C) حضرت لیلیٰ (D) ام اسحٰق

24. امام زین العابدینؑ کی والدہ کا نام جن سے امام کی نسل چلی۔

(A) ام اسحٰقؑ (B) لیلیٰؑ

(C) سیدہ ربابؑ (D) حضرت شہر بانوؑ

25. کربلا میں شہید ہونے والوں حضرت علیؑ کے بیٹوں، عباسؑ، عبداللہؑ، عثمان اور جعفرؑ کی عظیم والدہ کا نام ہے۔

(A) ام اسحٰقؑ (B) سیدہ ربابؑ

(C) شہر بانوؑ (D) ام البنینؑ بنت حزام

26. امام پاکؑ کی ہمشیرہ سیدہ زینبؑ کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

27. امام پاکؑ کے خیموں سے دریائے/نہر فرات کا فاصلہ تھا۔

(A) 1 میل (B) 2 میل

(C) 3 میل (D) 4 میل

28. مکہ سے کوفہ کے راستے میں اہل عراق والوں کے لیے میقات ہے۔

(A) ذات العرق (B) یلملم

(C) قرن المنازل (D) جعرانہ

29. حسینؑ لشکر کے علمبردار تھے۔

(A) حبیبؑ بن مظاہر (B) زہیرؑ بن قین

(C) حضرت علی اکبرؑ (D) حضرت عباسؑ

30. لشکر یزید چھوڑ کر لشکر امامؑ میں شامل ہونے خوش قسمت بہادر کا نام تھا۔

(A) حضرت ہانی (B) حضرت حرؑ

(C) عبداللہ بن مطہر (D) قیس بن مسہر

31. سپاہ حسینی میں شامل صحابہ کرام کی تقریباً تعداد تھی۔

(A) 6 (B) 7

(C) 8 (D) 9

32. سپاہ حسینی میں شامل تابعین تقریباً تھے۔

(A) 20 (B) 18

(C) 16 (D) 14

33. چالیس ہزار کی کثیر آبادی والا شہر کوفہ دور فاروقی میں آباد کیا گیا۔

(A) 14ھ (B) 15ھ

(C) 16 ہجری (D) 17 ہجری

34. پانی روکنے کے لیے فرات پر یزیدی سپاہی تعینات کیے گئے۔

(A) 600 (B) 500

(C) 400 (D) 300

35. سانحہ کربلا پیش آیا۔

(A) 10 اکتوبر 678ء (B) 10 اکتوبر 679ء

(C) 10 اکتوبر 680ء (D) 10 اکتوبر 681ء

36. شہادت کے وقت امام پاک کی عمر مبارک تھی تقریباً

(A) 56½ سال (B) 55½ سال

(C) 54½ سال (D) 53½ سال

37. روز عاشورہ اہل بیت کے جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا۔

(A) 15 (B) 16

(C) 17 (D) 18

38. لشکر حسینی میں سے مقابلے کے لیے سب سے پہلے جواں مرد نکلا۔

(A) عبداللہ بن عمیر کلبی (B) حر ریاحی

(C) مسلم بن عوسجہ (D) عبداللہ بن مسلم

39. امام عالی مقام کے جسم اقدس پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے زخم تقریباً تھے۔

(A) 120 سے زائد (B) 100 سے زائد

(C) 80 سے زائد (D) 60 سے زائد

40. شہدائے کربلا کے لاشے 12 محرم کو غاضریہ بستی کے قبیلے نے دفن کیے۔

(A) بنو تمیم (B) بنو کلاب

(C) بنو اسد (D) بنو سعد

41. کم و بیش ایک ہفتہ دربار یزید دمشق رہنے کے بعد قیدی قافلہ واپس کربلا پہنچا۔

(A) 17 صفر (B) 18 صفر

(C) 19 صفر (D) 20 صفر

42. کربلا میں 40 دن کے بعد قافلے کی ملاقات صحابی رسول سے ہوئی۔

(A) عبداللہ بن زبیر (B) جابر بن عبداللہ

(C) عبداللہ بن عمر (D) عبداللہ بن عباس

43. سیدہ زینب کا وصال دمشق کے قریب ہوا۔

(A) 62ھ (B) 63ھ

(C) 64ھ (D) 65ھ

44. عبداللہ بن حنظلہ کی قیادت میں یزید کے خلاف جس شہر والوں نے بغاوت کر دی۔

(A) کوفہ (B) بصرہ

(C) مدینہ (D) مکہ

45. عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں یزید کے خلاف جس شہر والوں نے بغاوت کر دی۔

(A) کوفہ (B) بصرہ

(C) مدینہ (D) مکہ

46. یزید لعین 39 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا۔

(A) 63ھ (B) 64ھ

(C) 65ھ (D) 66ھ

47. مدعی نبوت جس نے قاتلان امام سے سخت انتقام لیا۔

(A) مختار ثقفی (B) مسیلمہ کذاب

(C) اسود عنسی (D) سجاح

48. گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد واصل جہنم ہوا۔

(A) 65ھ (B) 66ھ

(C) 67ھ (D) 68ھ

جوابات

1. (A)	2. (B)	3. (C)	4. (D)	5. (B)	6. (C)	7. (A)	8. (D)
9. (B)	10. (C)	11. (A)	12. (D)	13. (A)	14. (B)	15. (C)	16. (D)
17. (B)	18. (A)	19. (C)	20. (D)	21. (B)	22. (A)	23. (C)	24. (D)
25. (D)	26. (B)	27. (C)	28. (A)	29. (D)	30. (B)	31. (C)	32. (A)
33. (D)	34. (B)	35. (C)	36. (A)	37. (D)	38. (A)	39. (B)	40. (C)
41. (D)	42. (B)	43. (A)	44. (C)	45. (D)	46. (B)	47. (A)	48. (C)

سلسلہ سلاطین بنوامیہ یا عہد بنوامیہ

1. خلافت کے خاتمے کے بعد کس پہلے سلسلہ سلاطین کا آغاز ہوا؟
(A) صفوی سلاطین (B) بنوامیہ سلاطین
(C) بنوعباس (D) کوئی نہیں

2. بنوامیہ کے سلسلہ سلاطین کا بانی کون تھے؟
(A) امیر معاویہ (B) عبدالملک
(C) یزید ابن معاویہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

3. حضرت امیر معاویہؓ نے کب بنوامیہ کے پہلے راہنما کی حیثیت سے اسلامی سلطنت کی باگ دوڑ سنبھالی؟
(A) 660 A.D (B) 661 A.D
(C) 662 A.D (D) 663 A.D

4. حضرت امام حسینؓ کے چچازاد مسلم ابن عقیل کو کس نے قتل کیا؟
(A) ابن زیاد (B) عبداللہ ابن زبیر
(C) ولید (D) ابن حسن

5. حضرت عبدالملکؒ کے دور حکومت میں حجاز کے خلیفہ کون تھے؟
(A) عبداللہ ابن زبیرؓ (B) حضرت حسینؓ
(C) حضرت حسنؓ (D) مسلم ابن عقیلؓ

6. کس اموی خلیفہ نے کرنسی کو اعلیٰ معیار کے مطابق بنایا؟
(A) مروان I (B) مروان II
(C) سلیمان (D) عبدالملک

7. حضرت امیر معاویہ کس مشہور صحابی کے بیٹے تھے۔
(A) عبدالرحمٰن ابن عوفؓ (B) خالد ابن ولیدؓ
(C) ابوسفیانؓ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

8. بنوامیہ کے کس راہنما کے دور میں سونے، چاندی اور تانبے کے سکے بنائے گئے؟
(A) عبدالملک (B) ولید I
(C) مروان II (D) معتصم باللہ

9. عہد بنوامیہ میں سونے کے سکوں کو کیا نام دیا گیا؟
(A) درہم (B) دینار
(C) فلس (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

10. عہد بنوامیہ میں چاندی کے سکے کیا کہلاتے تھے؟
(A) درہم (B) فلس
(C) دینار (D) کوئی نہیں

11. عہد بنوامیہ میں تانبے کے سکوں کو کیا کہا جاتا تھا؟
(A) دینار (B) درہم
(C) فلس (D) کوپا

12. عبدالملک نے ایک چٹان پر ایک گنبد نما عمارت بنوائی تھی۔ یہ عمارت کس جگہ موجود ہے؟
(A) یروشلم (B) دمشق
(C) قاہرہ (D) بغداد

13. یروشلم میں اس جگہ کی کیا اہمیت ہے جہاں پر عہد بنوامیہ کے حکمران عبدالملک نے ایک چٹان پر گنبد نما ایک عمارت بنوائی تھی؟
(A) اس جگہ پر حضرت عمرؓ نے یہودیوں کے ساتھ ایک صلح نامہ پر دستخط کیے تھے
(B) اس جگہ پر حضرت عمرؓ نے بیت المقدس کی چابیاں حاصل کی تھیں
(C) اس جگہ پر حضور پاکؐ اپنے سفر معراج کے دوران رکے تھے
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

14. عہد بنوامیہ کے حکمران عبدالملک کے دور میں پوری اسلامی دولت مشترکہ کی سرکاری زبان کون سی تھی؟
(A) فارسی (B) عبرانی

(C) عربی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

15. عبدالملک کے دور میں کس جگہ ایک سرکاری ٹکسال قائم کی گئی؟
(A) بغداد (B) دمشق
(C) کوفہ (D) قاہرہ

16. سلاطین بنو امیہ کے کس قابل سپہ سالار کی سپہ سالاری میں معرکہ ماوراء النہر Transoxiana یا ماوراء النہر انجام پایا؟
(A) محمد ابن قاسم (B) موسیٰ ابن نصیر
(C) قتیبہ ابن مسلم (D) خالد ابن الولید

17. ماوراء النہر (Thansoxiana) کہاں واقع ہے؟
(A) مشرق وسطیٰ (B) جنوبی افریقہ
(C) عرب (D) وسطی ایشیا

18. تاشقند کا پرانا نام کیا ہے؟
(A) میسوپوٹامیہ (B) شاش
(C) یثرب (D) باختر

19. منجنیق ایک جنگی حرب کا نام ہے بنو امیہ کے کس گورنر نے منجنیق متعارف کروائی؟
(A) طارق ابن زیاد (B) امیر معاویہ
(C) حجاج ابن یوسف (D) یزید معاویہ

20. منجنیق کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(A) مارنے والا آلہ (B) موسیقی بجانے والا آلہ
(C) مسمار کر دینے والا انجن (D) بڑا ٹینک

21. درج ذیل میں سے کون سی چیز حجاج ابن یوسف نے متعارف کروائی؟
(A) عربی رسم الخط میں حرف علت
(B) عربی رسم الخط میں Diacritical marks
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

22. کب محمد ابن قاسم نے سندھ میں راجہ داہر کو شکست دی؟
(A) 712 A.D (B) 713 A.D
(C) 714 A.D (D) 715 A.D

23. دور۔۔۔ ن خلیفہ کون سا تھا؟
(A) عبدالملک (B) یزید ابن معاویہ
(C) مسلمہ (D) موسیٰ ابن نصیر

24. ولید بن عبدالملک کے بعد کون عہد بنو امیہ کی خلافت کے عہدے پر فائز ہوا؟
(A) عمر (B) سلیمان
(C) ہاشم (D) ولید

25. عہد بنو امیہ کے حکمران سلیمان نے فاتح سندھ محمد ابن قاسم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟
(A) اس کو زنجیروں میں جکڑ کر مروا دیا۔
(B) اسے ملک بدر کر دیا
(C) اسے بصرہ کا گورنر بنا دیا (D) اسے جنگی قیدی بنا لیا

26. کس اموی حکمران کے دور میں استنبول کا دوسری اور آخری بار محاصرہ کیا گیا؟
(A) سلیمان (B) عمر II
(C) ولید II (D) ولید III

27. اموی حکمران سلیمان کے دور حکومت میں کس نے استنبول کا محاصرہ کیا؟
(A) موسیٰ ابن نصیر (B) مروان
(C) مسلمہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

28. اموی دور حکومت میں استنبول کس سلطنت کا دارالحکومت تھا؟
(A) سلطنت روم (B) سلطنت کرش
(C) سلطنت ازمیر (D) سلطنت بغداد

29. کب اموی حکمران سلیمان کے دور میں استنبول کا دوسری اور آخری بار محاصرہ کیا گیا؟
(A) 716 A.D (B) 717 A.D
(C) 718 A.D (D) 719 A.D

30. اموی حکمران سلیمان کا لقب کیا تھا؟

(A) الناصر (B) خیر الوراء
(C) مفتاح الخیر (D) کوئی نہیں

31. مفتاح الخیر کا لغوی معنی کیا ہے؟
(A) جنت کی چابی (B) بھلائی کی چابی
(C) رحم کی چابی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

32. اموی حکمران سلیمان کو مفتاح الخیر کیوں کہا جاتا تھا؟
(A) وہ بہت مہربان تھا
(B) اس نے حجاج ابن یوسف کے بند جیل خانوں کے منہ کھول دیئے تھے
(C) اس نے سلطنت سے لاقانونیت کا خاتمہ کیا
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

33. عہد بنو امیہ کا کونسا حکمران خلفائے راشدین کا مداح تھا؟
(A) عمر ابن عبدالعزیزؒ (B) سلیمان
(C) امیر معاویہ (D) یزید II

34. عہد بنو امیہ میں عمر ابن عبدالعزیزؒ کا دور حکومت کتنا تھا؟
(A) 10 سال (B) 8 سال
(C) 5 سال (D) 3 سال

35. کس خلیفہ راشد کے نقش قدم پر اموی حکمران عمر ابن عبدالعزیزؒ نے سلطنت کا انتظامی ڈھانچہ پھر سے مرتب کیا؟
(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عمر فاروقؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) علیؓ

36. کون سے اموی حکمران کو عمر ثانی کہا جاتا تھا؟
(A) عمر ابن عبدالعزیزؒ (B) مروان I
(C) امیر معاویہؓ (D) کوئی بھی نہیں

37. عمر ابن عبدالعزیزؒ نے کونسا رائج الوقت ظالمانہ قانون ختم کیا؟
(A) جزیہ جیسا غیر قانونی ٹیکس جو کہ نئے مسلمان ہونے والے لوگوں پر عائد کیا جاتا تھا
(B) مسلمانوں پر نافذ تمام غیر قانونی ٹیکس
(C) مسلمانوں کی ریاست میں غیر مسلموں کا غیر قانونی داخلہ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں۔

38. حضرت امیر معاویہؓ نے مشاورتی کونسل کا خاتمہ کیا کس اموی حکمران نے اس ادارے کو دوبارہ بحال کیا؟
(A) سلیمان (B) عمر ابن عبدالعزیزؒ
(C) مروان I (D) مروان II

39. مندرجہ ذیل میں سے کیا عمر ابن عبدالعزیزؒ نے دوبارہ قائم کیا؟
(A) بیت المال (B) جزیہ
(C) پول ٹیکس (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

40. درج ذیل میں سے کون محمد ابن قاسم کے دور کے فاتح تھے؟
(A) موسیٰ ابن نصیر (B) طارق ابن زیاد
(C) قتیبہ ابن مسلم (D) A اور B اور C تینوں

41. کون سا اموی سپہ سالار معرکہ سپین کے حوالے سے خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے؟
(A) خالد ابن ولیدؓ (B) محمد ابن قاسم
(C) حجاج ابن یوسف (D) موسیٰ ابن نصیر

42. کس گورنر کے بعد موسیٰ ابن نصیر کو افریقہ کا گورنر بنایا گیا؟
(A) حسن (B) حکیم
(C) محمد ابن قاسم (D) قتیبہ

43. موسیٰ ابن نصیر کے نائب کا نام بتائیں؟
(A) محمد ابن قاسم (B) طارق ابن زیاد
(C) سلیمان (D) مروان II

44. عہد بنو امیہ کے کونسے مسلمان فاتح، فتح سپین کے ذمہ دار گنے جاتے ہیں؟
(A) طارق ابن زیاد (B) موسیٰ ابن نصیر
(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

45. سپین میں موجودہ چوٹی کیا کہلاتی ہے جہاں طارق ابن زیاد نے پڑاؤ کیا؟
(A) جبل رحمت (B) جبل شفا
(C) جبل طارق (D) جبل زیاد

46. اس جگہ کا نام بتائیں جہاں معرکہ سپین کیلئے موسیٰ ابن نصیر طارق ابن زیاد سے ملا؟
(A) Toledo (B) Toronto

(C) Seville (D) Madina Sidonia

47. کس اموی حکمران کے دورِ حکمرانی میں سپین فتح ہوا؟

(A) عمر II (B) عبدالعزیز

(C) مروان I (D) الولید I

48. موسیٰ ابن نصیر نے کیا فتح کیا؟

(A) Carmona (B) Medina Sidonia

(C) Seville (D) A، B اور C تینوں

49. Medina Sidonia کہاں واقع ہے؟

(A) سپین (B) فرانس

(C) عراق (D) مصر

50. اس عیسائی حکمران کا نام بتائیں جس کے ساتھ طارق ابن زیاد نے جنداجنر کے قریب آخری فیصلہ کن جنگ کی؟

(A) Sadon (B) Junada

(C) Rodrigo (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

51. کب طارق ابن زیاد اور Rodrigo کے درمیان فیصلہ کن جنگ لڑی گئی؟

(A) 711 A.D (B) 712 A.D

(C) 713 A.D (D) 714 A.D

52. کس اموی حکمران نے بہت عجیب و غریب طریقے سے محمد ابن قاسم، موسیٰ ابن نصیر اور طارق ابن زیاد کا استقبال کیا؟

(A) ولید I (B) سلیمان

(C) ہاشم (D) عبدالعزیز

53. اس ملک کا نام بتائیں جس کی فتح اور سندھ کی فتح کا ایک وقت تھا؟

(A) سپین (B) مصر

(C) شام (D) عراق

54. کس اموی حکمران کے دور میں سپین اور سندھ فتح ہوئے تھے؟

(A) الولید I (B) الولید II

(C) الولید III (D) الولید IV

55. سندھ کب فتح ہوا؟

(A) 710-713 (B) 710-714

(C) 710-715 (D) 710-716

56. سپین کب فتح ہوا؟

(A) 710-713 A.D (B) 711-714 A.D

(C) 712-716 A.D (D) 710-714 A.D

57. کون یہ کہتے تھے کہ ولید تمام اموی حکمرانوں سے عظیم ہے؟

(A) اہل مصر (B) اہل شام

(C) اہل ایران (D) اہل عراق

58. عقبہ کیا تھا؟

(A) 665 A.D میں شمالی افریقہ میں قیروان کا بانی

(B) 666 A.D میں شمالی افریقہ میں قیروان کا بانی

(C) 667 A.D میں شمالی افریقہ میں قیروان کا بانی

(D) 668 A.D میں شمالی افریقہ میں قیروان کا بانی

59. قیروان کیا تھا؟

(A) 670 A.D میں ایک چھوٹا قصبہ تھا

(B) 670 A.D میں پورے مغرب کا دارالحکومت تھا

(C) 670 A.D میں اموی عہد سلطنت

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

60. کون سا اموی حکمران 731 A.D میں فرانس میں داخل ہوا؟

(A) خالد ابن ولید (B) الولید

(C) عبدالرحمٰن الغافقی (D) موسیٰ ابن نصیر

61. کون سا/کون سے علاقہ/علاقے عبدالرحمٰن الغافقی نے فتح کیا/کیے؟

(A) Bordeous

(B) Burgundy

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

62. کس اموی حکمران کے دور میں اموی سلسلۂ سلاطین اپنے عروج کو پہنچا؟

(A) یزید I (B) یزید II

(C) ہاشم (D) ولید

63. کس اموی حکمران کا لقب ناقص تھا؟
(A) مروان (B) ولید II
(C) یزید II (D) یزید III

64. الناقص کا لغوی معنی کیا ہے؟
(A) پیدا کرنے والا (B) داخل ہونے والا
(C) کم کرنے والا (D) تقسیم کرنے والا

65. اموی سلطنت کے دارالحکومت کا نام بتائیں؟
(A) قاہرہ (B) دمشق
(C) کوفہ (D) بغداد

66. اموی سلطنت کا دور حکومت کتنا تھا؟
(A) 661-750 (B) 661-760
(C) 661-761 (D) 661-762

67. امیر البحر کے نام سے کونسا اموی حکمران یاد کیا جاتا تھا؟
(A) حضرت خالد ابن ولیدؓ
(B) حضرت عثمان ابن عفانؓ
(C) حضرت علی ابن طالبؓ
(D) حضرت امیر معاویہؓ

68. عہد بنو امیہ میں لڑی جانے والی آخری جنگ کا نام بتائیں جو کہ 750 A.D میں لڑی گئی؟
(A) جنگ زاب (B) جنگ اموی
(C) جنگ حرمن (D) جنگ سپانا

69. جنگ زاب کب لڑی گئی؟
(A) 749 اے ڈی (B) 750 اے ڈی
(C) 751 اے ڈی (D) 752 اے ڈی

70. دمشق کی بجائے حاران کو کس اموی حکمران نے اپنا دارالحکومت بنایا تھا؟
(A) ولید II (B) یزید II
(C) مروان II (D) عمر III

71. بنو امیہ نے بحری جہازوں کی تعمیر کے لئے اہم مراکز۔
(A) شام میں بنوائے
(B) الیگزینڈریا میں بنوائے
(C) سپین میں بنوائے
(D) مصر میں بنوائے

72. بنو امیہ کے دور حکومت میں امویوں کی درباری زبان
(A) فارسی تھی (B) عربی تھی
(C) فرانسیسی تھی (D) جرمن تھی

73. معاویہ II کی مختصر خلافت کے بعد اسلامی خلیفہ تھے۔
(A) ابن خطاب (B) ابن سفیان
(C) مروان (D) ابن یوسف

74. جنگ طالوس کا واقعہ کس کی خلافت میں پیش آیا؟
(A) ولید I (B) سلیمان
(C) عمر بن عبدالعزیز (D) کوئی نہیں

75. امویوں کے زیر سایہ پوسٹل سروس کو بہت عروج حاصل ہوا بالخصوص
(A) امیر معاویہؓ کے دور میں
(B) عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور میں
(C) مروان کے دور میں
(D) عبدالملک کے دور میں

76. مسلم جنرل AD-samb 719 اے ڈی میں کہاں تعینات ہوا؟
(A) مصر (B) فرانس
(C) عراق (D) سپین

77. As-samb فرانس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے کس جنگ میں مارا گیا؟
(A) جنگ آپس (B) جنگ طالوس
(C) جنگ تھیوڈورس (D) کوئی نہیں

78. پہلا عثمانی سلطان جو یورپی زبان بول سکتا تھا۔

(A) سلطان عبدالمجید اول
(B) سلطان عبدالمجید دوئم
(C) سلطان عبدالمجید سوئم
(D) سلطان عبدالمجید چہارم

79. عثمانی سلطان جس کے عہد میں تمباکو نوشی عام ہوگئی تھی۔
(A) احمد اول (B) احمد دوئم
(C) ولید اول (D) ولید دوئم

80. کس اموی خلیفہ نے دمشق کی بجائے حران پایہ تخت بنایا؟
(A) ابوالحکم (B) مروان ثانی
(C) ابو ولید (D) کوئی نہیں

81. یزید بن معاویہ کب پیدا ہوا؟
(A) 20 ہجری (B) 24 ہجری
(C) 26 ہجری (D) 27 ہجری

82. عہد اموی میں محکمہ ڈاک کو کیا کہتے ہیں؟
(A) دیوان (B) دیوان البرید
(C) دیوان خاص (D) کوئی نہیں

83. شہر قیروان کی بنیاد کس نے رکھی؟
(A) عقبیٰ ابن نافع (B) مروان ثانی
(C) یزید سوئم (D) عمر بن عبدالعزیز

84. مروان بن حکم کا دور حکومت ______
(A) 684 تا 688ء (B) 684 تا 685ء
(C) 684 تا 690ء (D) 684 تا 695ء

85. خلیفہ عبدالملک بن مروان کا دور حکومت ______
(A) 685 تا 690ء (B) 685 تا 695ء
(C) 685 تا 700ء (D) 685 تا 705ء

86. ولید بن عبدالملک کا دور حکومت ______
(A) 705 تا 708ء (B) 705 تا 712ء
(C) 705 تا 715ء (D) 705 تا 720ء

87. خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کا دور حکومت ______
(A) 715 تا 717ء (B) 715 تا 718ء
(C) 715 تا 719ء (D) 715 تا 720ء

88. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت ______
(A) 717 تا 718ء (B) 717 تا 719
(C) 717 تا 720ء (D) 717 تا 721ء

89. 719 تا 723 دور حکومت تھا۔
(A) یزید ثانی (B) یزید اول
(C) المتوکل اللہ (D) سلیمان دوئم

90. 729 تا 743ء دور حکومت تھا۔
(A) مروان ثانی (B) ہشام بن عبدالملک
(C) ولید دوئم (D) امین الرشید

91. 743 تا 744ء دور حکومت تھا۔
(A) خلیفہ یزید ثانی (B) خلیفہ ہارون الرشید
(C) خلیفہ ولید ثانی (D) خلیفہ امین الرشید

92. یزید ثالث کا دور حکومت ______
(A) مئی 744 تا نومبر 744ء
(B) اپریل 744 تا نومبر 744ء
(C) جون 744 تا نومبر 744ء
(D) اگست 744 تا نومبر 744ء

93. مروان ثانی کا دور حکومت ______
(A) 744 تا 750ء (B) 744 تا 745ء
(C) 744 تا 755ء (D) 744 تا 800ء

94. محمد بن قاسم مشہور مسلمان سپہ سالار کا تعلق کس عرب قبیلے سے تھا؟
(A) بنو ہوازن (B) بنو ثقیف
(C) بنو سعد (D) بنو ہاشم

95. واقعہ کربلا کب پیش آیا؟
(A) 59ھ (B) 61ھ
(C) 62ھ (D) 63ھ

96. عیسائیوں کا مذہبی رہنما پوپ کس جگہ رہتا ہے؟
(A) نیویارک (B) غرناطہ
(C) ایتھنز (D) ویٹی کن سٹی

97. بنو امیہ کا کل دور خلافت کتنا ہے؟
(A) 90 سال (B) 100 سال

(C) 120 سال (D) 150 سال

98. مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟

(A) 300 (B) 400

(C) 500 (D) 1000

99. واقعہ کربلا کب پیش آیا؟

(A) 51ھ (B) 61ھ

(C) 71ھ (D) 81ھ

100. حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز نے کس کو اپنا جانشین نامزد کیا۔

(A) سلیمان بن عبدالملک (B) ہشام بن عبدالملک

(C) ولید بن عبدالملک (D) عبدالملک بن مروان

101. سپین کس خلیفہ کے عہد میں فتح ہوا؟

(A) ولید بن عبدالملک (B) سلیمان بن عبدالملک

(C) ہشام بن عبدالملک (D) عبدالملک بن مروان

102. کربلا کا سانحہ سن ______ ہجری میں پیش آیا۔

(A) 61 (B) 71

(C) 51 (D) 81

103. یورپی ملک اسپین کو کس عرب جرنیل نے فتح کیا؟

(A) موسیٰ بن نصیر (B) جمال عبدل ناصر

(C) طارق بن زیاد (D) صلاح الدین ایوبی

104. محمد بن قاسم کس دور خلافت میں سندھ آیا تھا؟

(A) عباسی (B) مملوک

(C) اموی (D) فاطمی

105. مندرجہ ذیل شعر کس کا ہے؟

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

(A) علامہ اقبال (B) محمد علی جوہر

(C) حالی (D) غالب

جوابات

1. (B)	2. (A)	3. (B)	4. (A)	5. (C)	6. (D)	7. (C)	8. (A)
9. (B)	10. (A)	11. (C)	12. (A)	13. (C)	14. (C)	15. (B)	16. (C)
17. (D)	18. (B)	19. (C)	20. (C)	21. (C)	22. (A)	23. (B)	24. (B)
25. (A)	26. (A)	27. (C)	28. (A)	29. (A)	30. (C)	31. (B)	32. (B)
33. (A)	34. (D)	35. (B)	36. (A)	37. (A)	38. (B)	39. (A)	40. (D)
41. (D)	42. (A)	43. (B)	44. (C)	45. (C)	46. (A)	47. (D)	48. (D)
49. (A)	50. (C)	51. (A)	52. (B)	53. (A)	54. (A)	55. (A)	56. (B)
57. (B)	58. (A)	59. (B)	60. (C)	61. (C)	62. (D)	63. (D)	64. (C)
65. (B)	66. (A)	67. (D)	68. (A)	69. (B)	70. (C)	71. (B)	72. (B)
73. (C)	74. (C)	75. (B)	76. (A)	77. (B)	78. (A)	79. (A)	80. (B)
81. (C)	82. (B)	83. (A)	84. (B)	85. (D)	86 (C)	87. (A)	88. (B)
89. (A)	90. (B)	91. (C)	92. (B)	93. (A)	94. (B)	95. (B)	96. (D)
97. (A)	98. (C)	99. (B)	100. (D)	101. (A)	102. (A)	103. (C)	104. (C)
105. (B)							

سلاطین بنو عباس یا عہد بنو عباس

1. حضرت عباسؓ کی اولاد بنو عباس کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عباسؓ کون تھے؟
(A) نبی پاکؐ کے چچازاد بھائی تھے
(B) نبی پاکؐ کے بہنوئی تھے
(C) نبی پاکؐ کے چچا تھے (D) نبی پاکؐ کے سسر تھے

2. عباسی تحریک کے اس راہنما کا نام بتائیں جو کہ اصفہان کے رہنے والے تھے؟
(A) المنصور (B) ابو مسلم
(C) الھادی (D) المھدی

3. کس عباسی رہنما کو بنو امیہ سے بنو ہاشم کا بدلہ لینے والے کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے؟
(A) ابوالعباس (B) المنصور
(C) المھدی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

4. کس عباسی راہنما نے بنو امیہ کی نسل کشی کا حکم دیا؟
(A) ابوالعباس (B) ابو منصور
(C) ابو جعفر (D) کوئی نہیں

5. اس اموی کا نام بتائیں جو کہ بنو امیہ کی نسل کشی کے دوران جان بچا کر سپین چلا گیا اور وہاں اس نے نئے عہد بنو امیہ کی بنیاد رکھی؟
(A) عبدالرحمٰن (B) ابو مسلم
(C) ولید رحمان (D) عمرو دوئم

6. ان علاقوں کے نام بتائیں جو کہ کبھی بھی عباسیوں کے قبضے میں نہیں آئے اور ہمیشہ آزاد رہے؟
(A) سپین (B) شمالی افریقہ
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

7. ابوالعباس پیدا کب ہوا؟
(A) 101 ہجری (B) 102 ہجری
(C) 103 ہجری (D) 104 ہجری

8. کب ابوالعباس نے بیعت خلافت لی؟
(A) 15 ربیع الاول 132 ہجری
(B) 14 ربیع الاول 132 ہجری
(C) 13 ربیع الاول 132 ہجری
(D) 12 ربیع الاول 132 ہجری

9. ابوالعباس نے ایک نیا شہر تعمیر کروایا اور اپنی خلافت چلانے کے لئے اپنی کرسی کو دمشق سے اس شہر میں منتقل کیا' اس شہر کا نام بتائیں؟
(A) کوفہ (B) بصرہ
(C) ہاشمیہ (D) منصورہ

10. بنو عباس کی نسل کشی پر ابوالعباس کو کیا لقب دیا گیا؟
(A) سفاک (B) ظالم
(C) السفاح (D) الفتاح

11. السفاح سے کیا مراد ہے؟
(A) پانی بہانے والا (B) خون بہانے والا
(C) قاتل (D) صفائی کرنے والا

12. وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے عباسیوں کی حکومت کے خلاف بغاوت کی؟
(A) عبداللہ (B) عبدالرحمٰن
(C) ابراہیم (D) حبیب ابن عامر

13. ابوالعباس نے کس کو اپنا جانشین مقرر کیا؟
(A) ابو یحییٰ (B) ابو جعفر

(C) ابو فضل
(D) ابو جعفر منصور

14. ابو منصور عہد بنو عباس کا اصل جانشین تصور کیا جاتا ہے، وہ کب خلافت کے عہدے پر فائز ہوا؟
(A) 136 ہجری
(B) 137 ہجری
(C) 138 ہجری
(D) 139 ہجری

15. ابوالعباس کا دور خلافت کتنا تھا؟
(A) 2 سال
(B) 4 سال
(C) 6 سال
(D) 8 سال

16. ابوالعباس کا انتقال کب ہوا؟
(A) 735 اے ڈی
(B) 740 اے ڈی
(C) 754 اے ڈی
(D) 747 اے ڈی

17. منصور کے دور خلافت میں پہلی بغاوت عبداللہ ابن علی نے کی۔ اس بغاوت کو کس نے ختم کیا؟
(A) ابو منصور
(B) ابو عبیدہ
(C) ابو مسلم خراسانی
(D) ابو حذیفہ

18. خلافت منصورہ کا وہ علاقہ جہاں سب سے زیادہ بغاوتوں نے جنم دیا۔
(A) فراسان
(B) تہروان
(C) خراسان
(D) کوئی نہیں

19. خراسان میں اٹھنے والی تمام بغاوتوں کو کس نے ختم کیا؟
(A) ابو منصور خراسانی
(B) ابو حالائی خراسانی
(C) ابو ولید خراسانی
(D) ابو مسلم خراسانی

20. خرا ساں میں اٹھنے والی ان بغاوتوں کا راہنما کون تھا؟
(A) سندباد
(B) ہندباد
(C) ابو عبداللہ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

21. اہل تشیع کے چھٹے امام جنہوں نے ابو منصور کے خلاف بغاوت کی۔
(A) امام صادق امین
(B) امام جعفر صادق
(C) امام بقولی
(D) کوئی نہیں

22. امام جعفر صادق کا لقب کیا تھا؟
(A) امین
(B) سیف اللہ
(C) نفس ذکیہ
(D) کوئی نہیں

23. کس علاقے کو امام محمد بن عبداللہ نے عباسی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیلئے مرکز بنایا؟
(A) مکہ
(B) مدینہ
(C) کوفہ
(D) بصرہ

24. 148 ہجری میں وہ کون تھے جنہوں نے عباسیوں کے خلاف بغاوت کی؟
(A) اہل چین
(B) خوارج
(C) اہل مصر
(D) اہل بغداد

25. بغداد عباسیوں کا سنہری شہر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا بغ لغوی مطلب کیا ہے؟
(A) انصاف کا باغ
(B) پھولوں کا باغ
(C) پھلوں کا باغ
(D) عقائد کا باغ

26. بغداد شہر کو کس نے تعمیر کیا؟
(A) معتصم باللہ
(B) ابو جعفر منصور
(C) عزیز بیگ
(D) کوئی نہیں

27. دریائے دجلہ کے کنارے بغداد کب تعمیر کیا گیا؟
(A) 762 اے ڈی
(B) 763 اے ڈی
(C) 764 اے ڈی
(D) 765 اے ڈی

28. عہد بنو عباس میں مندرجہ ذیل میں سے کون سے دروازے میں پائے جاتے تھے؟
(A) باب کوفہ اور باب خراسان
(B) باب بصرہ اور باب شام
(C) A اور B دونوں
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

29. ابو منصور نے اپنے کس بیٹے کے لیے دجلہ کے کنارے "رصافہ" نامی شہر تعمیر کروایا؟
(A) المہدی
(B) العزیز
(C) [illegible]
(D) کوئی نہیں

30. ''رصافہ'' شہر کب تعمیر کروایا گیا؟

(A) 150 ہجری (B) 151 ہجری

(C) 152 ہجری (D) 153 ہجری

31. ابو منصور کا دورِ خلافت کتنا تھا؟

(A) 22 سال (B) 23 سال

(C) 24 سال (D) 25 سال

3: ابو منصور جعفر نے کب وفات پائی؟

(A) 775 A.D (B) 786 A.D

(C) 787 A.D (D) 788 A.

3. ابو منصور نے کس کو اپنا جانشین مقرر کیا؟

(A) حادی (B) المہدی

(C) ابو یحییٰ (D) ابو سلمہ

3. عہد ابو منصور کے مشہور مترجمین کے نام بتائیں؟

(A) فضل ابن بخت (B) الطریق

(C) ابراہیم فرازی (D) B,A اور C تینوں

3. ''المہدی'' علم کا ایک بہت بڑا متوالی تھا۔ اس نے کب خلافت سنبھالی؟

(A) 158 ہجری (B) 159 ہجری

(C) 160 ہجری (D) 161 ہجری

36. مندرجہ ذیل میں سے کونسی بات/ باتیں المہدی کے بارے میں درست ہیں؟

(A) اس نے محتسب کا عہدہ قائم کیا

(B) اس نے علم القلم کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا

(C) A اور B دونوں

(D) دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

37. متقی اور صالح انسان کو ''الرشید'' کہا جاتا ہے' عہد بنو عباس کے خلیفہ المہدی نے کس کو ''الرشید'' کا لقب دیا تھا؟

(A) ہارون (B) منصور

(C) امین (D) مامون

38. کب حادی عہد بنو عباس کا خلیفہ بنا؟

(A) 785 A.D (B) 784 A.D

(C) 783 A.D (D) 782 A.D

39. ربیعہ ابن یونس حادی کا وزیر تھا' ہادی نے کب وفات پائی؟

(A) 171 ہجری (B) 170 ہجری

(C) 169 ہجری (D) 168 ہجری

40. کب ہارون الرشید عہد بنو عباس کے خلیفہ بنے؟

(A) 786 A.D (B) 787 A.D

(C) 788 A.D (D) 789 A.D

41. ہارون الرشید کی بیوی کا نام بتائیں جو کہ الامین کی ماں تھی؟

(A) زبیدہ (B) فرزانہ

(C) امامہ (D) ہران

42. ہارون الرشید کے کس بیٹے کا لقب المامون تھا؟

(A) عبیداللہ (B) عبدالرحمن

(C) عبداللہ (D) زبیر

43. المامون کا مطلب کیا ہے؟

(A) ایماندار (B) قابل اعتبار

(C) باعزت (D) بلند و بالا

44. ہارون الرشید کے کس بیٹے کا لقب الامین تھا' جس کا مطلب ایماندار ہے؟

(A) محمد ابن ہارون الرشید (B) جعفر ابن ہارون الرشید

(C) عبداللہ ابن ہارون الرشید (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

45. کس عباسی خلیفہ نے عہد بنو عباس میں بیت الحکمہ کے نام سے ایک بہت بڑی اکیڈمی تعمیر کروائی گئی؟

(A) المہدی (B) ہارون الرشید

(C) مامون الرشید (D) امین الرشید

46. ہارون الرشید کی اکیڈمی ''بیت الحکمہ'' میں کون خدمات سرانجام دیتے تھے؟

(A) عیسائی پادری (B) یہودی عالم

(C) ہندو مت اور آتش پرستوں کے راہنما
(D) C اور B,A تینوں

47. بیت الحکمہ کے مترجم کا نام بتا ئیں؟
(A) حسین ابن اسحاق (B) حسن ابن اسحاق
(C) حتیق ابن اسحاق (D) لیق ابن اسحاق

48. ہارون الرشید کے دور کے مشہور طبیب / طبیبوں کے نام بتا ئیں؟
(A) سفیان ابن ثوری (B) عیسیٰ ابن یونس
(C) جبرائیل ابن بختیاش (D) C اور B,A تینوں

49. درج ذیل میں سے کن علوم کا ہارون الرشید متوالی تھا؟
(A) ادب (B) فن
(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

50. کس عباسی خلیفہ کے دور میں برامکہ خاندان نے عروج پایا؟
(A) ہارون الرشید (B) مامون الرشید
(C) امین الرشید (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

51. یحییٰ ابن خالد برمکی کس عباسی خلیفہ کا وزیر تھا؟
(A) امین الرشید (B) ہارون الرشید
(C) مروان II (D) کوئی نہیں

52. کب ہارون الرشید نے وفات پائی؟
(A) 193 ہجری (B) 194 ہجری
(C) 195 ہجری (D) 196 ہجری

53. ہارون الرشید کا دور خلافت کتنا تھا؟
(A) 20 سال (B) 21 سال
(C) 22 سال (D) 23 سال

54. پہلی لغت کا نام کیا تھا؟
(A) کتاب لغت (B) کتاب العین
(C) کتاب جمرو (D) کوئی نہیں

55. پہلی لغت خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں کس نے تیار کی؟
(A) خالد ابن احمد بن عمرو (B) عمیر ابن احمد ابن عمرو
(C) حذیفہ ابن احمد ابن عمرو (D) عبداللہ ابن احمد ابن عمرو

56. ہارون الرشید کے دور خلافت میں خالد برمکی کو پہلی بار وزارت کا عہدہ دیا گیا۔ اس عباسی خلیفہ کا نام بتا ئیں جس کا وزیر خالد برمکی تھا؟
(A) ابوالعباس (B) دل مہدی
(C) ہادی (D) ابو یحییٰ

57. ہارون الرشید کے دور خلافت میں اصمعی کون تھا؟
(A) ماہر طب (B) ماہر ارضیات
(C) ماہر فلکیات (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

58. عباسی دور حکومت میں کب نہر زبیدہ تعمیر کی گئی؟
(A) 802 A.D (B) 803 A.D
(C) 804 A.D (D) 805 A.D

59. ہارون الرشید کے بعد کون خلیفہ بنا؟
(A) اس کا بھائی مامون الرشید
(B) اس کا بیٹا مامون الرشید
(C) اس کا کزن امین الرشید
(D) کوئی نہیں

60. مامون الرشید کے دور خلافت میں کونسا شہر علم اور تہذیب کا مشعل بردار بنا؟
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) بغداد (D) کوفہ

61. کس عباسی خلیفہ نے تعلیم کو غیر مذہبی کیا اور اس کو سیاست سے جدا کیا؟
(A) امین (B) مامون
(C) ہادی (D) ہارون

62. مامون الرشید نے مشاورتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کے علاوہ مامون کی مشاورتی کونسل میں کون شامل تھے؟
(A) عیسائی (B) یہودی
(C) آتش پرست (D) C اور B,A تینوں

63. مندرجہ ذیل میں سے کونسا بیان درست ہے؟

(A) مامون الرشید کے دور خلافت میں غیر مسلموں کو عملی طور پر مذہبی آزادی حاصل ہوئی

(B) امین الرشید کے دور خلافت میں غیر مسلموں کو عملی طور پر مذہبی آزادی حاصل ہوئی

(C) ہارون الرشید کے دور خلافت میں غیر مسلموں کو عملی طور پر مذہبی آزادی حاصل ہوئی

(D) الہادی کے دور خلافت میں غیر مسلموں کو عملی طور پر مذہبی آزادی حاصل ہوئی

64. عباسی خلیفہ مامون کے دور میں کس مسلم سائنسدان نے ٹیلی سکوپ ایجاد کی؟

(A) ابوالحسین (B) ابوالحسن

(C) عبداللہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

65. کس شہر میں خلیفہ مامون الرشید نے اجرام فلکی کا مشاہدہ کرنے کے لئے ایک رصدگاہ تعمیر کی؟

(A) بغداد (B) شمسیہ

(C) دمشق (D) اصفہان

66. خلیفہ مامون الرشید نے وزرا کا ایک دیوان بنایا جس کی صدارت ایک بڑا وزیر کرتا تھا اس دیوان کا نام بتائیں؟

(A) دیوان العزیز (B) دیوان الخصاص

(C) دیوان العام (D) دیوان الوزرا

67. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟

(A) مامون الرشید کے دور خلافت میں احادیث کو جمع کرنے اور مرتب کرنے کا کام اپنے عروج پر پہنچا۔

(B) مامون الرشید کے دور خلافت میں البخاری اور ابو داؤد کی تالیف مکمل ہوئی

(C) A اور B دونوں

(D) دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

68. اسلام کا کون سا مکتب فکر اسلامی دور کے پہلے حصے میں ابھرا؟

(A) اہل تشیع (B) معتزلہ

(C) خارجی (D) اسماعیلی

69. معتزلہ فرقے کے بانی کا نام بتائیں جو کہ حسن البصری کا شاگرد تھا؟

(A) اصمعی (B) سفیان ابن ثوری

(C) واصل ابن عطا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

70. اس عباسی دور کے امام کا نام بتائیں جو کہ معتزلہ فرقے کے عقیدے کے خلاف بہادری سے لڑے؟

(A) امام بخاری (B) امام احمد بن حنبل

(C) امام مسلم (D) مالک ابن انس

71. کس عباسی خلیفہ نے مامون الرشید کو 195 ہجری میں خلافت سے علیحدہ کیا؟

(A) امین الرشید (B) جعفر ابن یحییٰ

(C) ابو عباس (D) ابو عمر

72. مامون الرشید کا دور خلافت کتنا ہے؟

(A) 15 سال (B) 20 سال

(C) 25 سال (D) 30 سال

73. ایشیا کا وہ کون سا علاقہ ہے جو خلیفہ مامون الرشید نے 200 ہجری میں فتح کیا؟

(A) سندھ (B) پنجاب

(C) کابل (D) کلکتہ

74. عہد بنو عباس میں کس نے دارالحکومت کو بغداد سے سامرہ منتقل کیا؟

(A) المعتصم (B) المستنصر

(C) المعتمد (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

75. کس عباسی خلیفہ کے دور میں فاطمی بغاوت نے مصر میں سر اٹھایا؟

(A) المستنصر (B) المعتصم

(C) المعتمد (D) المقتدر

76. کب ہلاکو خان نے عباسیوں کے دارالحکومت کی طرف پیش قدمی کی؟

(A) 1258 A.D (B) 1259 A.D

(C) 1260 A.D (D) 1261 A.D

77. عباسی دور کی مشہور اور طاقتور ملکہ کون تھی؟

(A) خیزران (B) بران
(C) زبیدہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

78. اس تعلیمی ادارے کا نام بتائیں جو کہ عباسی خلیفہ نظام الملک طوسی نے تعمیر کروایا؟
(A) جامعہ نظامیہ (B) الجامع
(C) طوسی کالج (D) نظام کالج

79. کس عباسی خلیفہ نے تعلیمی ادارے مستنصریہ کی بنیاد ڈالی؟
(A) المستنصر (B) نظام الملک طوسی
(C) الہادی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

80. اس آخری عباسی خلیفہ کا نام بتائیں جس نے کسانوں کے لئے اور زراعت کو ترقی دینے کے لئے بہت کام کیا؟
(A) المقتدر (B) المقتفی
(C) الحسن (D) المعتصم

81. کب عباسی دور خلافت کا دارالخلافہ سامرہ سے دمشق منتقل کیا گیا؟
(A) 858 A.D (B) 859 A.D
(C) 860 A.D (D) 861 A.D

82. عہد عباس کا مشہور ماہر الٰہیات کون تھا؟
(A) مالک ابن انس (B) امام شافعی
(C) امام ابو یوسف (D) B،A اور C تینوں

83. عہد عباس میں کن مشہور لوگوں پر ظلم کیے گئے؟
(A) امام مالک (B) امام ابو حنیفہ
(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

84. عہد عباسی کا خاتمہ کب ہوا؟
(A) 1242 A.D (B) 1243 A.D
(C) 1244 A.D (D) 1245 A.D

85. ''اس کا دور حکومت اسلام کی علمی تاریخ کا سب سے شاندار دور تھا۔'' یہ الفاظ کس کے دور حکومت کے بارے میں کہے گئے؟
(A) خلیفہ امین (B) خلیفہ
(C) خلیفہ مامون (D) خلیفہ عمر بن عبدالعزیز

86. عباسیوں نے اپنے سرکاری کپڑوں کے لیے کس رنگ کا انتخاب کیا؟
(A) سرخ (B) سفید
(C) کالا (D) سبز

87. عباسیوں نے 835 AD میں نیا دارالحکومت ____ کے نام سے قائم کیا۔
(A) المنصورہ (B) سامرہ
(C) کوفہ (D) بصرہ

88. بغداد اور غرناطہ مغرب کے لیے ____ اہم مراکز تھے۔
(A) رقابت (B) خزانوں کے
(C) علم وحکمت (D) کوئی نہیں

89. امین کا قتل۔
(A) 814 AD میں ہوا
(B) 815 AD میں ہوا
(C) 816 AD میں ہوا
(D) 817 AD میں ہوا

90. کس عباسی خلیفہ کا لقب ''مفتاح الخیر'' تھا؟
(A) ولید اول (B) مامون
(C) ہارون (D) ولید سوئم

91. اسلامی سلطنت میں عباسی دور کے آغاز سے سائنس وادب کے ایک نئے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں کس کی کوشش نے سب سے اہم کردار ادا کیا؟
(A) مامون الرشید (B) ہارون الرشید
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

92. ہاشمیہ کا شہر کس عباسی خلیفہ نے تعمیر کیا؟
(A) ابوالعباس ہاشمی (B) ابوالعباس سفاح
(C) ابوالعباس رزاقیہ (D) ابوالعباس عباسیہ

93. سامرا کا شہر کس عباسی خلیفہ نے تعمیر کیا؟
(A) معتصم باللہ (B) ابوالعباس سفاح
(C) ولید دوئم (D) عبدالمالک اول

94. کب مراد ثانی نے کوسوو میں یورپی اتحاد کے خلاف کامیابی حاصل کی؟

(A) 850ہجری (B) 852ہجری
(C) 854ہجری (D) 856ہجری

95. کب عثمانیوں نے قسطنطنیہ فتح کیا؟
(A) 857ہجری (B) 860ہجری
(C) 865ہجری (D) 870ہجری

96. عثمانیوں نے قسطنطنیہ کا نام کیا رکھا؟
(A) اسلامبول (استنبول)
(B) اسلامبول (عثمانیہ)
(C) اسلامبول (اسلام زیر)
(D) کوئی نہیں

97. یونان کو عثمانیوں نے کب فتح کیا؟
(A) [illegible] (B) 866ہجری
(C) 867ہجری (D) 868ہجری

98. مامون الرشید نے کب کابل فتح کیا؟
(A) 200ہجری (B) 205ہجری
(C) 210ہجری (D) 212ہجری

99. جزیرہ کریٹ کس نے فتح کیا؟
(A) ابوواجد نے (B) ابوحفص نے
(C) ہلاکو خان نے (D) المعتصم نے

100. نہر زبیدہ کب بنوائی گئی؟
(A) 802ہجری (B) 805ہجری
(C) 808ہجری (D) 810ہجری

101. عباسی حکومت کے خلاف ______ پہلی بغاوت کس نے کی؟
(A) حبیب بن کروہ (B) ابوالعباس
(C) یحییٰ برمکی (D) السفاح

102. خلیفہ ابوالعباس سفاح کا دور حکومت ______
(A) 750 تا 754ء (B) 750 تا 800
(C) 750 تا 815 (D) 750 تا 850

103. خلیفہ ابوجعفر عبداللہ المنصور کا دور حکومت ______
(A) 754 تا 718 (B) 754 تا 750
(C) 754 تا 77[illegible]ء (D) 754 تا 800

104. خلیفہ مہدی کا دور حکومت ______
(A) 775 تا 780 (B) 775 تا 785ء
(C) 775 تا 790 (D) 775 تا 800

105. خلیفہ ہادی کا دور حکومت ______
(A) 780 تا 781ء (B) 782 تا 784ء
(C) 783 تا 785ء (D) 785 تا 786ء

106. 786 تا 809ء دور حکومت تھا۔
(A) خلیفہ مامون الرشید (B) خلیفہ ہارون الرشید
(C) خلیفہ امین الرشید (D) کوئی نہیں

107. 813 تا 833ء دور حکومت تھا۔
(A) خلیفہ مامون الرشید (B) خلیفہ ہارون الرشید
(C) خلیفہ امین الرشید (D) خلیفہ معتصم باللہ

108. 833 تا 842ء دور حکومت تھا۔
(A) خلیفہ معتصم باللہ (B) خلیفہ مامون الرشید
(C) خلیفہ المتوکل (D) کوئی نہیں

109. 842 تا 847ء دور حکومت تھا۔
(A) خلیفہ الواثق باللہ (B) خلیفہ المتوکل
(C) خلیفہ امین الرشید (D) خلیفہ مروان بن حکم

110. خلیفہ المتوکل علی اللہ کا دور حکومت ______
(A) 847 تا 850ء (B) 847 تا 855ء
(C) 847 تا 861ء (D) 847 تا 870ء

111. کون سا فرقہ عقیدہ خلق قرآن کا قائل تھا؟
(A) خوارج (B) مجسمیہ
(C) معتزلہ (D) مرجئہ

112. مامون عباسی کے زمانے کس سائنسدان کی نگرانی میں یونانی فلسفہ کے تراجم کروائے گئے؟
(A) فارابی (B) ابن رشد
(C) یعقوب الکندی (D) ابن طفیل

113. خلافت عباسیہ کے آخری حکمران کا نام کیا ہے؟

سلاطین بنو عباس یا عہد دوم

(A) سفاح (B) معتصم باللہ

(C) ہارون الرشید (D) مہدی

115. عباسی خلافت کا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟

(A) اسکندریہ (B) قاہرہ

(C) بغداد (D) دمشق

116. بنو عباس کے خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟

(A) 25 (B) 30

(C) 36 (D) 40

جوابات

1. (C)	2. (B)	3. (A)	4. (A)	5. (A)	6. (C)	7. (D)	8. (C)
9. (C)	10. (C)	11. (B)	12. (C)	13. (D)	14. (A)	15. (B)	16. (C)
17. (C)	18. (C)	19. (D)	20. (A)	21. (B)	22. (C)	23. (B)	24. (B)
25. (A)	26. (B)	27. (A)	28. (C)	29. (A)	30. (B)	31. (A)	32. (A)
33. (B)	34. (D)	35. (A)	36. (C)	37. (A)	38. (A)	39. (B)	40. (A)
41. (A)	42. (B)	43. (B)	44. (A)	45. (B)	46. (D)	47. (B)	48. (D)
49. (C)	50. (A)	51. (B)	52. (A)	53. (D)	54. (B)	55. (A)	56. (A)
57. (A)	58. (A)	59. (B)	60. (C)	61. (B)	62. (D)	63. (A)	64. (B)
65. (B)	66. (A)	67. (C)	68. (B)	69. (C)	70. (B)	71. (A)	72. (B)
73. (C)	74. (D)	75. (B)	76. (A)	77. (C)	78. (A)	79. (A)	80. (D)
81. (A)	82. (D)	83. (C)	84. (A)	85. (C)	86 (D)	87. (A)	88. (C)
89. (A)	90. (B)	91. (A)	92. (B)	93. (A)	94. (B)	95. (A)	96. (A)
97. (A)	98. (A)	99. (B)	100. (A)	101. (A)	102. (A)	103. (C)	104. (B)
105. (D)	106. (B)	107. (A)	108. (A)	109. (A)	110. (C)	111. (C)	112. (C)
113. (B)	114. (C)	115. (C)					

تابعین

1- جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی رسول ﷺ کی زیارت کی ہو اسے کہتے ہیں۔
(A) تبع تابعین (B) تابعی
(C) صحابی (D) کوئی نہیں

2- حضرت اویس قرنیؒ ایک ------
(A) صحابی تھے (B) تبع تابعی تھے
(C) تابعی تھے (D) کوئی نہیں

3- حضرت اویس قرنیؒ کا اصل نام تھا ------
(A) حضرت سہیل یمنیؒ (B) حضرت سہیل قرنیؒ
(C) حضرت سہیل مدنیؒ (D) حضرت سہیل مکیؒ

4- قرنی قبیلے سے تعلق رکھنے والے حضرت اویس کا پیشہ کیا تھا؟
(A) کھیتی باڑی (B) باغبانی
(C) تجارت (D) شتربانی

5- حضرت علیؓ کے دور کی کس جنگ میں حضرت اویس قرنیؒ نے شرکت کی؟
(A) جنگ جمل (B) جنگ بویب
(C) جنگ صفین (D) کوئی نہیں

6- کس جنگ کے دوران حضرت اویس قرنیؒ کی شہادت ہوئی؟
(A) جنگ صفین (B) جنگ موتہ
(C) جنگ بویب (D) جنگ نزوان

7- حضرت ہرم بن حیان کون تھے؟
(A) تابعی تھے (B) صحابی تھے
(C) یہودی تھے (D) عیسائی تھے

8- تابعی حضرت حسن بصری کی کنیت تھی ------
(A) ابو محمد (B) ابو سعید
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

9- تابعی حضرت سعید بن المسیب ماہر تھے ------
(A) فقہ میں (B) توحید و حقائق تفسیر میں
(C) شعر و لغت میں (D) تمام

10- حضرت حسن بصری کا تعلق کس علاقے سے تھا؟
(A) بصرہ، عراق (B) بصرہ، ایران
(C) بصرہ، یمن (D) بصرہ، فلسطین

11- تابعی حضرت امام زین العابدین کی کنیت تھی ------
(A) ابو محمد (B) ابو الحسن
(C) ابوبکر (D) تمام

12- امام [illegible] کس کا لقب تھا ------
(A) [illegible] (B) عماد زین العابدین
(C) عمار بن عابدین (D) حسن زین العابدین

13- امام زین العابدین کا اصل نام ------
(A) عمر (B) علی
(C) ابوبکر (D) خذیفہ

14- امام زین العابدین کے والد محترم کا نام تھا ------
(A) حضرت امام حسنؓ (B) حضرت امام حسینؓ
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عمرؓ

15- امام زین العابدین کہاں پیدا ہوئے؟
(A) مکہ میں (B) کوفہ میں
(C) مدینہ میں (D) یمن میں

16- امام زین العابدین کہاں دفن ہیں؟
(A) جنت البقیع میں (B) کوفہ میں
(C) [illegible] (D) فلسطین میں

1- تابعی حضرت امام محمد باقر کی کنیت تھی ------

(A) ابو علی
(B) ابو عمر
(C) حمزہ
(D) ابو جعفر

18- حضرت امام محمد باقر کا لقب تھا ------

(A) باقر
(B) زین
(C) شاکر
(D) کوئی نہیں

19- حضرت امام محمد باقر کے والد محترم تھے ------

(A) حضرت امام زین العابدین
(B) حضرت حسن بصری
(C) ابوحنیفہ
(D) کوئی نہیں

20- حضرت امام محمد باقر کی والدہ فاطمہ کس کی بیٹی تھیں؟

(A) حضرت امام حسینؓ
(B) حضرت امام حسنؓ
(C) حضرت علیؓ
(D) کوئی نہیں

21- حضرت امام محمد باقر کا وصال کب ہوا؟

(A) 110 ہجری میں
(B) 113 ہجری میں
(C) 117 ہجری میں
(D) 120 ہجری میں

22- حضرت امام محمد باقر کہاں دفن ہیں؟

(A) کوفہ میں
(B) کربلا میں
(C) جنت البقیع میں
(D) کوئی نہیں

23- تابعی حضرت حسن بصری کی ولادت کب ہوئی؟

(A) 20 ہجری
(B) 21 ہجری
(C) 22 ہجری
(D) 23 ہجری

24- حضرت حسن بصری کا انتقال کب ہوا؟

(A) 105 ہجری
(B) 107 ہجری
(C) 108 ہجری
(D) 110 ہجری

25- حضرت حسن بصری دفن ہیں ------

(A) کوفہ میں
(B) بصرہ میں
(C) یمن میں
(D) مکہ میں

26- حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق کون تھے؟

(A) صحابی تھے
(B) تبع تابعی تھے
(C) تابعی تھے
(D) کوئی نہیں

27- حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق کا وصال کب ہوا؟

(A) 107 ہجری
(B) 108 ہجری
(C) 109 ہجری
(D) 110 ہجری

28- تابعی امام ابوحنیفہ کی کنیت ابوحنیفہ اور لقب ------ تھا۔

(A) امام علی
(B) امام اعظم
(C) امام اعلیٰ
(D) کوئی نہیں

29- 70 سال کی عمر میں وصال پانے والے ابوحنیفہ دفن ہیں۔

(A) کوفہ میں
(B) بصرہ میں
(C) بغداد میں
(D) نجف میں

30- اس تابعی کا نام بتائیں جو کہ ایک ملک کے بادشاہ بھی تھے؟

(A) حبشہ کے بادشاہ نجاشی
(B) بصرہ کے بادشاہ نجاشی
(C) فارس کے بادشاہ نجاشی
(D) کوئی نہیں

31- کس تابعی کی نماز جنازہ حضورؐ نے غائبانہ ادا کی؟

(A) نجاشی
(B) حسن بصری
(C) محمد باقر
(D) اویس قرنی

32- تابعی امام جعفر صادق کی ولادت کب ہوئی؟

(A) 80 ہجری میں
(B) 85 ہجری میں
(C) 90 ہجری میں
(D) 95 ہجری میں

33- حضرت امام جعفر صادق کی کنیت کیا تھی؟

(A) ابواسماعیل
(B) ابوعبداللہ
(C) دونوں A،B
(D) کوئی نہیں

34- حضرت امام جعفر صادق کے والد محترم کا نام بتائیں؟

(A) حضرت محمد بن علی بن حسین بن علیؓ
(B) حضرت احمد بن علی بن حسین بن علیؓ
(C) حضرت باقر بن علی بن حسین بن علیؓ
(D) حضرت اسحاق بن علی بن حسین بن علیؓ

35. حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نام بتائیں؟
(A) سلمیٰ بنت القاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق
(B) فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق
(C) حمہ بنت القاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق
(D) کوئی نہیں

36. حضرت امام جعفر صادق کا انتقال کب ہوا؟
(A) 140 ہجری (B) 143 ہجری
(C) 145 ہجری (D) 148 ہجری

37. حضرت امام جعفر صادق کہاں دفن ہیں؟
(A) جنت البقیع (B) کوفہ
(C) مکہ (D) بصرہ

38. تابعی صوفی کا نام بتائیے؟
(A) سفیان ثوری (B) امام اوزاعی
(C) امام ابوحنیفہ (D) حسن بصری

39. حضرت عکرمہ کہاں کے مفتی اور مجتہد تھے؟
(A) مدینہ (B) ایران
(C) مکہ (D) شام

جوابات

1. (B)	2. (C)	3. (A)	4. (D)	5. (C)	6. (A)	7. (A)	8. (C)
9. (D)	10. (A)	11. (D)	12. (A)	13. (B)	14. (B)	15. (C)	16. (A)
17. (D)	18. (A)	19. (A)	20. (B)	21. (C)	22. (C)	23. (B)	24. (D)
25. (B)	26. (C)	27. (A)	28. (B)	29. (C)	30. (A)	31. (A)	32. (A)
33. (C)	34. (A)	35. (B)	36. (D)	37. (A)	38. (C)	39. (C)	

تبع تابعین

1- جس نے حالت ایمان میں کسی تابعی کی زیارت کی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟

(A) صحابی (B) تابعی

(C) تبع تابعی (D) کوئی نہیں

2- تبع تابعی حضرت ابراہیم ادہم کس شہر کے حاکم تھے؟

(A) بخارا (B) بلخ

(C) حبشہ (D) فارس

3- حضرت ابراہیم ادہم کی کنیت تھی ------

(A) ابوذر غفاری (B) ابو یعقوب

(C) ابو اسحاق (D) ابو یحیٰ

4- تبع تابعی حضرت ذوالنون مصری کا اصل نام تھا ------

(A) ثوبان (B) جبری

(C) فیضان (D) سفیان

5- حضرت ذوالنون کی کنیت بتائیں؟

(A) ابو اسحاق (B) ابوالفیض

(C) ابو الکندی (D) کوئی نہیں

6- حضرت ذوالنون کے والد محترم کا نام بتائیں؟

(A) اسحاق مصری (B) داؤد مصری

(C) مالک مصری (D) ابراہیم مصری

7- تبع تابعی حضرت فضیل بن عیاض کی کنیت تھی ------

(A) ابو عمر (B) ابو بکر

(C) ابو عثمان (D) ابو علی

8- درج ذیل میں سے کون تبع تابعی تھے؟

(A) حضرت عبداللہ بن مبارکؒ

(B) حضرت حبیب عجمیؒ

(C) حضرت مالک بن دینارؒ

(D) تمام C،B،A

9- تبع تابعی حضرت بشر حافیؒ کے نام میں حافی سے کیا مراد ہے؟

(A) ننگے سر (B) ننگے پاؤں

(C) تنگ بدن (D) کوئی نہیں

10- کس تبع تابعی نے جوتی پہننا ترک کر دیا تھا اور ننگے پاؤں رہتے تھے؟

(A) حضرت بشر حافی (B) حضرت بایزید بسطامی

(C) حضرت ابو سلیمان (D) کوئی نہیں

11- کون تبع تابعی تھے؟

(A) حضرت بایزید بسطامیؒ

(B) حضرت داؤد طائیؒ

(C) دونوں B،A

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

12- حضرت داؤد طائی کے والد محترم کا نام بتائیں؟

(A) نصر طائی (B) نصر بخت

(C) نصر رحمانی (D) کوئی نہیں

13- حضرت داؤد طائی کی کنیت تھی ------

(A) ابو غفار (B) ابو بشر

(C) ابو داؤد (D) ابو سلیمان

14- حضرت داؤد طائی کے استاد کا نام بتائیں؟

(A) امام سرمدیؒ (B) امام ابوذر غفاریؒ

(C) امام ابو حنیفہؒ (D) امام مالک

15- تبع تابعی سری سقطی کے والد محترم کا نام بتائیں؟

(A) مفلس السقطی (B) معاذ السقطی
(C) مخرف السقطی (D) کوئی نہیں

16۔ سری سقطی کی کنیت تھی------
(A) ابوحمزہ (B) ابورضا
(C) ابوعکاشہ (D) ابوالحسن

17۔ سری سقطیؒ حضرت جنید بغدادیؒ کے------
(A) چچا تھے (B) خالو تھے
(C) ماموں تھے (D) بہنوئی تھے

18۔ حضرت سری سقطی------میں کباڑی کا کام کرتے تھے۔
(A) بغداد (B) نجف
(C) فلسطین (D) مدینہ

19۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کون تھے؟
(A) ساتویں امام (B) تبع تابعی
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

20۔ امام موسیٰ کاظم کب پیدا ہوئے؟
(A) 127 ہجری (B) 130 ہجری
(C) 135 ہجری (D) 140 ہجری

21۔ امام موسیٰ کاظم کی کنیت------تھی۔
(A) ابوابراہیم (B) ابوالحسن
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

22۔ امام موسیٰ کاظم کے والد محترم کا نام بتائیں؟
(A) حضرت امام مالک
(B) حضرت امام جعفر صادق
(C) حضرت امام کاظم
(D) کوئی نہیں

23۔ امام موسیٰ کاظم کا لقب------تھا۔
(A) انجم (B) عارف
(C) عالم (D) کاظم

24۔ کس مقام پر امام موسیٰ کاظم کی پیدائش ہوئی؟
(A) بدر (B) ابواء
(C) نجف (D) کربلا

25۔ امام موسیٰ کاظم کا انتقال------کے قید خانے میں ہوا۔
(A) ہارون الرشید (B) مامون الرشید
(C) امین الرشید (D) کوئی نہیں

26۔ امام موسیٰ کاظم کا مزار------
(A) نجف میں ہے (B) مدینہ میں ہے
(C) بغداد میں ہے (D) ایران میں ہے

27۔ امام دارالہجرت کہلاتے ہیں۔
(A) امام ابوحنیفہؒ (B) امام مالکؒ
(C) امام شافعیؒ (D) امام احمد بن حنبلؒ

28۔ امام مالک کے پردادا صحابی کا نام ہے۔
(A) حضرت ابوعامرؓ (B) حضرت عامرؓ
(C) حضرت انسؓ (D) حضرت مالکؓ

29۔ امام مالک کا سنِ پیدائش ہے۔
(A) 91ھ (B) 92ھ
(C) 93ھ (D) 94ھ

30۔ امام مالک کا سالِ وفات ہے۔
(A) 176ھ (B) 177ھ
(C) 178ھ (D) 179ھ

31۔ امام مالک کی پیدائش اور وفات کہاں ہوئی؟
(A) مکہ مکرمہ (B) مدینہ منورہ
(C) کوفہ (D) بصرہ

32۔ امام مالک کی مشہور کتاب ہے۔
(A) کتاب الآثار (B) نہج البلاغہ
(C) موطا (D) قلائد

33۔ موطا کا لفظی معنی ہے۔
(A) پڑھنے والی (B) لکھنے والی
(C) دھونے والی (D) روندنے والی

34. موطا کی کل روایات ہیں۔

(A) 1620 (B) 1720

(C) 1820 (D) 1920

35. امام مالک کے شاگرد ہیں۔

(A) امام شافعی (B) امام احمد بن حنبل

(C) امام ابو یوسفؒ (D) تینوں A،B،C

36. ابراہیم بن ادہمؒ کا مزار واقع ہے۔

(A) ترکی (B) شام

(C) عراق (D) ایران

37. حضرت فضیل بن عیاضؒ کا توبہ سے پہلے پیشہ تھا۔

(A) تجارت (B) زراعت

(C) رہزنی (D) مزدوری

38. حضرت سری سقطیؒ کے مرشد تھے۔

(A) جنید بغدادی (B) معروف کرخیؒ

(C) حبیب عجمی (D) داؤد طائیؒ

جوابات

1. (C)	2. (B)	3. (C)	4. (A)	5. (B)	6. (D)	7. (D)	8. (D)
9. (B)	10. (A)	11. (C)	12. (A)	13. (D)	14. (C)	15. (A)	16. (D)
17. (C)	18. (A)	19. (C)	20. (A)	21. (C)	22. (B)	23. (D)	24. (B)
25. (A)	26. (C)	27. (B)	28. (A)	29. (C)	30. (D)	31. (B)	32. (C)
33. (D)	34. (B)	35. (D)	36. (A)	37. (C)	38. (B)		

آئمہ اہل بیت

1. امام حسنؓ پیدا ہوئے۔
(A) 3ھ (B) 4ھ
(C) 5ھ (D) 6ھ

2. امام حسنؓ کے منہ مبارک میں جس نے لعاب دہن ڈالا۔
(A) حضرت عائشہؓ (B) حضرت فاطمہؓ
(C) نبی ﷺ (D) حضرت علیؓ

3. حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت امام حسنؓ کی عمر تھی۔
(A) 7سال (B) 8سال
(C) 9سال (D) 10سال

4. امام حسن نے حج پاپیادہ کیے۔
(A) 10 (B) 15
(C) 20 (D) 25

5. امام حسنؓ جتنے ماہ بعد خلافت چھوڑ دی تقریباً
(A) 2ماہ (B) 4ماہ
(C) 6ماہ (D) 8ماہ

6. امام حسنؓ کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔
(A) 4 (B) 3
(C) 2 (D) 1

7. امام حسنؓ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا۔
(A) ابوبکر (B) عبداللہ
(C) قاسم (D) زیدؓ

8. امام حسنؓ کا سال شہادت ہے۔
(A) 47ھ (B) 49ھ
(C) 51ھ (D) 53ھ

9. امام زین العابدینؒ کا سال پیدائش ہے۔
(A) 36ھ (B) 37ھ
(C) 38ھ (D) 39ھ

10. امام زین العابدینؒ کا سال وصال ہے۔
(A) 95ھ (B) 96ھ
(C) 97ھ (D) 98ھ

11. امام زین العابدینؒ کی والدہ کا نام ہے۔
(A) حضرت لیلیٰؓ (B) حضرت ام اسحاقؓ
(C) حضرت ربابؓ (D) حضرت شہر بانوؓ

12. امام زین العابدینؒ کے بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

13. امام باقرؒ پیدا ہوئے۔
(A) 55ھ (B) 56ھ
(C) 57ھ (D) 58ھ

14. امام باقرؒ کا وصال ہوا۔
(A) 111ھ (B) 112ھ
(C) 113ھ (D) 114ھ

15. امام جعفر صادقؒ کا سال پیدائش
(A) 81ھ (B) 82ھ
(C) 83ھ (D) 84ھ

16. امام جعفر صادقؒ کا سال وصال
(A) 148ھ (B) 147ھ
(C) 146ھ (D) 145ھ

(C) تین سال (D) چار سال

17. فرقہ جو امام جعفرؒ کے بڑے بیٹے کو امام مانتا ہے۔
(A) اثنا عشریہ (B) امامیہ
(C) اسماعیلیہ (D) زیدیہ

18. امام موسیٰ کاظمؒ کا سنِ پیدائش ہے۔
(A) 125ھ (B) 126ھ
(C) 127ھ (D) 128ھ

19. امام موسیٰ کاظمؒ کا سنِ وصال ہے۔
(A) 182ھ (B) 183ھ
(C) 184ھ (D) 185ھ

20. امام موسیٰ کاظمؒ کی والدہ کو خریدا گیا۔
(A) اندلس سے (B) قبرص سے
(C) فلسطین سے (D) مصر سے

21. امام موسیٰ کاظمؒ جس مقام پر پیدا ہوئے۔
(A) تبوک (B) خیبر
(C) ابوا (D) بدر

22. حضرت علی رضاؒ کی پیدائش ہوئی۔
(A) 145ھ (B) 146ھ
(C) 147ھ (D) 148ھ

23. حضرت علی رضاؒ کا وصال ہوا۔
(A) 202ھ (B) 203ھ
(C) 204ھ (D) 205ھ

24. حضرت علی رضاؒ کی کنیت تھی۔
(A) ابوالحسن (B) ابوعبداللہ
(C) ابوعبدالرحمٰن (D) ابوعلی

25. امام جعفر صادقؒ کی والدہ جس خلیفہ راشد کی پڑپوتی تھیں۔
(A) خلیفہ اوّل (B) خلیفہ دوم
(C) خلیفہ سوم (D) خلیفہ چہارم

26. واقعہ کربلا کے وقت امام باقرؒ کی عمر تھی۔
(A) ایک سال (B) دو سال

27. امام جعفر صادقؒ کے پڑدادا تھے۔
(A) حضرت علیؓ
(B) حضرت امام حسنؓ
(C) حضرت امام حسینؓ
(D) حضرت امام زین العابدینؒ

28. امام موسیٰ کاظمؒ کی نسل سے ہیں۔
(A) بختیار کاکی (B) معین الدین چشتی
(C) فرید گنج شکر (D) نظام الدین اولیاء

29. کاظم کے لفظی معنی ہے پینے والا
(A) غصہ (B) شہد
(C) ستو (D) دودھ

30. حضرت امام علی رضاؒ کا روضہ ایران کے شہر میں ہے۔
(A) زاہدان (B) تہران
(C) مشہد (طوس) (D) اصفہان

31. عباسی خلیفہ جس نے امام علی رضاؒ کو ولی عہد بنایا۔
(A) معتصم (B) ہارون
(C) امین (D) مامون

32. امام محمد تقیؒ پیدا ہوئے۔
(A) 193ھ (B) 195ھ
(C) 197ھ (D) 199ھ

33. امام محمد تقیؒ وفات پائی۔
(A) 216ھ (B) 218ھ
(C) 220ھ (D) 222ھ

34. امام تقیؒ کا اصل نام اور کنیت جس امام سے ملتے ہیں۔
(A) امام باقرؒ (B) امام جعفرؒ
(C) امام کاظمؒ (D) امام علی رضاؒ

35. امام علی نقیؒ کا سال پیدائش ہے۔
(A) 211 ہجری (B) 212 ہجری

(C) 213 ہجری (D) 214 ہجری

36. امام علی نقیؒ کا وصال ہوا۔

(A) 252ھ (B) 254ھ

(C) 256ھ (D) 258ھ

37. امام علی نقیؒ کنیت تھی۔

(A) ابوالحسن اول (B) ابوالحسن ثانی

(C) ابوالحسن ثالث (D) ابوالحسن چہارم

38. برصغیر کے مشہور بزرگ امام علی نقیؒ کی اولاد سے ہیں۔

(A) خواجہ اجمیریؒ (B) خواجہ بختیار کاکیؒ

(C) بابا فرید شکر گنجؒ (D) نظام الدین اولیاؒ

39. امام علی نقیؒ کی والدہ ام فضل سمانہ جس خلیفہ کی بیٹی تھی۔

(A) ہادی (B) ہارون

(C) امین (D) مامون

40. امام حسن عسکریؒ کی ولادت ہوئی۔

(A) 232ھ (B) 234ھ

(C) 236ھ (D) 238ھ

41. امام حسن عسکریؒ کی وفات ہوئی۔

(A) 256ھ (B) 258ھ

(C) 260ھ (D) 262ھ

42. امام مہدی المنتظر کا نام تھا۔

(A) محمد بن حسینؒ (B) محمد بن حسنؒ

(C) محمد بن علی (D) محمد بن عبداللہ

43. امام مہدی کی ولادت ہوئی۔

(A) 257ھ (B) 258ھ

(C) 259ھ (D) 260ھ

44. امام مہدیؒ سر من رائے کی غار میں داخل ہو کر جس عمر میں غائب ہوئے۔

(A) 12 سال (B) 11 سال

(C) 10 سال (D) 9 سال

45. امام زید بن علیؒ جس امام کے بھائی تھے۔

(A) امام زین العابدینؒ (B) امام جعفر صادقؒ

(C) امام باقرؒ (D) امام موسیٰ کاظمؒ

46. امام زید بن علی نے شہادت پائی۔

(A) 116ھ (B) 118ھ

(C) 120ھ (D) 122ھ

47. امام اسماعیل بن جعفر جس امام کے بھائی تھے۔

(A) امام باقرؒ (B) امام موسیٰ کاظمؒ

(C) امام جعفر صادقؒ (D) امام علی رضاؒ

48. امام اسمٰعیل نے وفات پائی۔

(A) 143ھ (B) 145ھ

(C) 147ھ (D) 149ھ

جوابات

1. (A)	2. (C)	3. (B)	4. (D)	5. (C)	6. (A)	7. (D)	8. (B)
9. (C)	10. (A)	11. (D)	12. (B)	13. (C)	14. (D)	15. (B)	16. (A)
17. (C)	18. (D)	19. (B)	20. (A)	21. (C)	22. (D)	23. (B)	24. (A)
25. (A)	26. (D)	27. (C)	28. (B)	29. (A)	30. (C)	31. (D)	32. (B)
33. (C)	34. (A)	35. (D)	36. (B)	37. (C)	38. (B)	39. (D)	40. (A)
41. (C)	42. (D)	43. (B)	44. (A)	45. (C)	46. (D)	47. (B)	48. (A)

اولیائے کرامؒ

1. غوث اعظم کی والدہ محترمہ کا نام بتائیں؟
(A) فاطمہ بنت شیخ عبداللہ سومعی
(B) فاطمہ بنت شیخ عبیداللہ سومعی
(C) فاطمہ بنت شیخ غیاث سومعی
(D) فاطمہ بنت شیخ عبدالحق سومعی

2. غوث اعظم کی ولادت کب ہوئی؟
(A) 400ہجری (B) 425ہجری
(C) 455ہجری (D) 470ہجری

3. ------غوث اعظم کی تصنیف ہے۔
(A) فتوح الغیب (B) غنیۃ الطالبین
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

4. حضرت داتا گنج بخشؒ کے والد محترم کا نام بتائیں؟
(A) سید علی (B) سید عثمان
(C) سید عمر (D) سید ابوبکر

5. حضرت گنج بخشؒ کا عرس کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟
(A) 19صفر (B) 20صفر
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

6. خواجہ معین الدین چشتیؒ کے والد محترم کا نام بتائیں؟
(A) غوث الدین (B) عالم الدین
(C) موسیٰ الدین (D) غیاث الدین

7. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ کے والد کا نام بتائیں؟
(A) مولانا سیف الدین (B) مولانا شمس الدین
(C) مولانا عبدالحق (D) مولانا عبدالخالق

8. حضرت شاہ عنایت قادریؒ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟
(A) آرائیں (B) جٹ
(C) کشمیری (D) کوئی نہیں

9. حضرت شاہ عنایت قادریؒ مرشد تھے------
(A) پیر وارث شاہ کے (B) بابا بلھے شاہ کے
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

10. کس بادشاہ کے عہد میں حضرت شاہ عنایت قادری کا انتقال ہوا؟
(A) محمد شاہ رنگیلا (B) اورنگزیب
(C) ہلاکو خان (D) کوئی نہیں

11. حضرت شاہ محمد غوثؒ------میں پیدا ہوئے۔
(A) لاہور (B) پشاور
(C) ایبٹ آباد (D) کراچی

12. حضرت شاہ محمد غوثؒ کے والد محترم تھے------
(A) سید حسن پشاوری (B) سید حسین پشاوری
(C) سید مجدد پشاوری (D) سید وجیہ الدین پشاوری

13. ------مولانا جلال الدین رومی کا اصل نام تھا۔
(A) محمد بن بہاؤ الدین محمد (B) محمد بن ابی بکر
(C) محمد بن جلال الدین (D) کوئی نہیں

14. مولانا جلال الدین رومی کا مزار کہاں ہے؟
(A) قونیہ (B) کوفہ
(C) بغداد (D) بصرہ

15. شیخ بہاؤ الدین ذکریا ملتانیؒ کے والد محترم کا نام بتائیں؟
(A) اصلاح الدین (B) شمس الدین
(C) وجیہہ الدین (D) علم الدین

16. پیر مہر علی شاہ گولڑہ شریف کے والد محترم کا نام بتائیں؟
(A) سید نصر الدین شاہ (B) سید نظیر الدین شاہ

(C) سید عرش الدین شاہ (D) سید علم الدین شاہ

17. پیر مہر علی شاہ کو مدینہ منورہ کے راستے میں وادی حمرا کے مقام پر کس کی زیارت ہوئی؟
(A) نبی کریم کی
(B) نبی کریم کی قبر مبارک کی
(C) نبی کریم کے عصا کی
(D) کوئی نہیں

18. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے والد محترم کا نام کیا تھا؟
(A) سید عیسیٰ (B) سید علی
(C) سید موسیٰ (D) سید عمر

19. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ------- استاد تھے۔
(A) بابا فرید الدین گنج شکر (B) پیر مہر علی شاہ
(C) شیخ صدر الدین (D) خواجہ قطب الدین

20. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
(A) سلطان شمس الدین التمش
(B) بابا فرید الدین گنج شکر
(C) پیر مہر علی شاہ
(D) کوئی نہیں

21. "دلیل العارفین" ------- کی تصنیف ہے۔
(A) شیخ نظام الدین اولیاءؒ
(B) حضرت طاہر بندگی
(C) خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
(D) کوئی نہیں

22. خواجہ طاہر بندگی لاہور کے کس علاقے میں رہتے تھے؟
(A) گڑھی شاہو (B) چونہ منڈی
(C) جیل روڈ (D) اکبری منڈی

23. حضرت طاہر بندگی کا مزار کہاں ہے؟
(A) میانی صاحب لاہور (B) میانی صاحب گجرات
(C) میانی صاحب فیصل آباد (D) میانی صاحب ایمن آباد

24. شیخ نظام الدین اولیاء کا اصل نام کیا تھا؟
(A) محمد بن احمد بن ارسلان (B) محمد بن احمد بن حسین
(C) محمد بن احمد بن ظفر (D) محمد بن احمد بن دانیال

25. حضرت نظام الدین اولیاء کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟
(A) شیخ صدر الدین ملتانی (B) شیخ رکن الدین ملتانی
(C) شیخ اصلاح الدین ملتانی (D) شیخ احمد الدین ملتانی

26. حضرت گھوڑے شاہ کا اصل نام کیا تھا؟
(A) حضرت سید بہاؤ الدینؒ (B) شیخ رکن الدین ملتانی
(C) شیخ نظام الدین اولیاءؒ (D) کوئی نہیں

27. کس مغل بادشاہ کے عہد میں حضرت گھوڑے شاہ کا انتقال ہوا
(A) جہانگیر (B) اورنگ زیب
(C) اکبر (D) کوئی نہیں

28. حضرت بابا فرید گنج شکر کے والد کا نام کیا تھا؟
(A) مولانا کمال الدین (B) مولانا صدر الدین
(C) مولانا شمس الدین (D) مولانا احسن الدین

29. کس بادشاہ کی بیٹی سے بابا فرید گنج شکر نے شادی کی؟
(A) سلطان اکبر (B) قطب الدین ایبک
(C) سلطان خاقان (D) کوئی نہیں

30. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کا نام کیا تھا؟
(A) حضرت شاہ عبدالرحیم (B) حضرت شاہ عبداللہ
(C) حضرت شاہ عبدالرحمن (D) کوئی نہیں

31. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا اصل نام -------
(A) حمید تھا (B) احمد تھا
(C) مجید تھا (D) فرقان تھا

32. "انفاس العارفین" ------- کی تصنیف ہے۔
(A) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
(B) حضرت شاہ عبدالرحیم
(C) حضرت شاہ بابا فرید گنج شکر
(D) کوئی نہیں

33. حضرت موج دریا بخاریؒ کا اصل نام بتائیں؟
(A) حضرت میراں محمد احمدؒ
(B) حضرت میراں محمد دہلویؒ
(C) حضرت میراں شاہ
(D) حضرت میراں محمد محدثؒ

34. حضرت موج دریا بخاریؒ کے والد کا نام بتائیں؟
(A) سید فتح الدین (B) سید علاؤ الدین
(C) سید رحم الدین (D) سید صفی الدین

35. شیخ سعدیؒ کا اصل نام کیا تھا؟
(A) مصلح الدین (B) علاؤ الدین
(C) تقی الدین (D) کوئی نہیں

36. ایران کے کس شہر میں شیخ سعدی کا مزار ہے؟
(A) اصفہان (B) شیراز
(C) نسوان (D) کوئی نہیں

37. حضرت مادھو لال حسینؒ کا اصل نام بتائیں؟
(A) حضرت شیخ حسین قادریؒ
(B) حضرت شیخ بابا فرید
(C) حضرت شاہ ولی اللہ
(D) حضرت میاں وڈاؒ

38. حضرت سید مٹھا کا اصل نام بتائیں؟
(A) سید ابی وقار (B) سید ابی رزاق
(C) سید ابی خذیفہ (D) سید ابی غفار

39. درس وڈا میاں کن بزرگ سے منسوب ہے؟
(A) حضرت میاں وڈاؒ (B) حضرت سید مٹھاؒ
(C) شیخ سعدیؒ (D) کوئی نہیں

40. حضرت میاں میرؒ کا اصل نام بتائیں؟
(A) محمد احمدؒ (B) محمد تقی
(C) محمد حامدؒ (D) محمد میرؒ

41. حضرت میاں میرؒ کی خانقاہ کی چار دیواری کے درمیان ------ کا مقبرہ واقع ہے۔
(A) دارا شکوہ کی بیوی نادرہ بیگم
(B) دارا شکوہ کی بیوی صالحہ بیگم
(C) دارا شکوہ کی بیوی فاطمہ بیگم
(D) دارا شکوہ کی بیوی ولیمہ بیگم

42. اکبر بادشاہ کے ''دینِ الٰہی'' کی مخالفت کس بزرگ نے کی؟
(A) حضرت خواجہ باقی باللہ (B) حضرت مجدد الف ثانی
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

43. میلہ چراغاں کس بزرگ کے مزار پر لگتا ہے؟
(A) مادھو لال حسین (B) سید رحمت اللہ
(C) ابوالنجاب (D) سید محمد

44. لاہور کے کس کالج کے اندر حضرت شیخ موسیٰ کھوکھر قادریؒ کا مزار ہے؟
(A) اسلامیہ کالج (B) کوئین میری کالج
(C) گورنمنٹ کالج (D) دیال سنگھ کالج

45. ہائیکورٹ لاہور کے قریب ------ کا مزار ہے۔
(A) حضرت شاہ چراغ (B) حضرت شیخ سلیمؒ
(C) حضرت شاہ سید محمدؒ (D) حضرت شیخ اقبالؒ

46. حضرت خواجہ غلام فریدؒ کی وجہ شہرت شاعری کی کونسی صنف ہے؟
(A) غزل (B) کافی
(C) مرثیہ (D) کوئی نہیں

47. خواجہ غلام فریدؒ کا مزار مٹھن کوٹ ------ میں ہے۔
(A) ڈیرہ اسماعیل خان (B) ڈیرہ غازی خان
(C) ڈیرہ خاکان (D) کوئی نہیں

48. بنک سکوائر نزد نیلا گنبد میں کس بزرگ کا مزار ہے؟
(A) حضرت محمد سعید قادری شطاریؒ
(B) حضرت فقیر غلام محی الدین قادریؒ

(C) حضرت محمد باقر
(D) کوئی نہیں

49. لاہور کے کس ہسپتال کے ہوسٹل کے اندر حضرت پیر سید بلاق شاہ قادری کا مزار ہے؟
(A) سروسز ہسپتال (B) میو ہسپتال
(C) گنگا رام ہسپتال (D) گلاب دیوی ہسپتال

50. کوچہ فقیر خانہ اندرون بھاٹی گیٹ لاہور میں کس بزرگ کا مزار ہے؟
(A) حضرت فقیر غلام محی الدین قادریؒ
(B) جمعہ شاہ
(C) محمد باقر
(D) کوئی نہیں

51. مسجد شہید گنج لاہور کے ساتھ کس کا مزار ہے؟
(A) حضرت شاہ کاکو چشتی
(B) حضرت شیخ اسحاق کاکو چشتی
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

52. مسجد بیگم شاہی لاہور کے احاطہ میں کس بزرگ کا مزار ہے؟
(A) حضرت غلام قادر چشتی بھیرویؒ
(B) حضرت سید صوف سہروردیؒ
(C) حضرت سید عثمانؒ
(D) کوئی نہیں

53. حضرت سید عثمان المعروف شاہ جھولا سہروردیؒ کا مزار ------ میں واقع ہے۔
(A) شاہی قلعہ (B) بادشاہی مسجد
(C) مغل پارک (D) کوئی نہیں

54. کس ہسپتال کے سامنے حضرت شیخ حسن کا مزار ہے؟
(A) میو ہسپتال (B) سروسز ہسپتال
(C) جانکی دیوی ہسپتال (D) گلاب دیوی ہسپتال

55. حضرت شاہ عبدالرزاق مکی سہروردیؒ کا مزار ------ واقع ہے۔
(A) نیلا گنبد انارکلی لاہور (B) شاہی قلعہ لاہور
(C) رنگ محل لاہور (D) سوہا بازار لاہور

56. یکی دروازہ والا لاہور کس بزرگ کے نام سے معروف ہے؟
(A) حضرت احمد زکی (B) حضرت پیر زکی
(C) حضرت حسن زکی (D) کوئی نہیں

57. چوک رنگ محل اور بیرون سوہا بازار لاہور میں ------ کا مزار ہے۔
(A) شیخ ایازؒ (B) شیخ حامدؒ
(C) شیخ حسنؒ (D) شیخ حسینؒ

58. شیخ عبدالقادر جیلانی کا مزار کس شہر میں ہے؟
(A) بغداد (B) موصل
(C) بصرہ (D) حلب

59. بابا فرید شکر گنج کا مزار کس شہر میں ہے؟
(A) دیپالپور (B) قصور
(C) اوکاڑہ (D) پاک پتن

60. سلسلہ چشتیہ کے بانی کون ہیں؟
(A) حضرت بہاؤالدین زکریا (B) خواجہ معین الدین
(C) خواجہ قطب الدین (D) ابوبکر رازی

جوابات

1. (A)	2. (D)	3. (C)	4. (B)	5. (C)	6. (D)	7. (A)	8. (A)
9. (C)	10. (A)	11. (B)	12. (A)	13. (A)	14. (A)	15. (C)	16. (B)
17. (A)	18. (C)	19. (A)	20. (A)	21. (C)	22. (B)	23. (A)	24. (D)
25. (B)	26. (A)	27. (C)	28. (A)	29. (D)	30. (A)	31. (B)	32. (A)
33. (C)	34. (D)	35. (A)	36. (B)	37. (A)	38. (D)	39. (A)	40. (D)
41. (A)	42. (C)	43. (A)	44. (C)	45. (A)	46. (B)	47. (B)	48. (A)
49. (B)	50. (A)	51. (C)	52. (A)	53. (A)	54. (C)	55. (A)	56. (B)
57. (A)	58. (A)	59. (D)	60. (B)				

حضرات مجددین کرامؒ

1۔ حضورؐ کے بعد سے مجددین کا آغاز ہوا۔ حدیث کے مطابق دو مجددوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟

(A) 50سال　(B) 60سال

(C) 80سال　(D) 100سال

2۔ حضورؐ کے بعد پہلی صدی کے مجدد تھے۔۔۔۔۔۔

(A) حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعیؒ

(B) حضرت امام محمد بن ادریس شافعیؒ

(C) مجدد الف ثانی

(D) کوئی نہیں

3۔ دوسری صدی کے مجدد تھے۔۔۔۔۔۔

(A) مجدد الف ثانی

(B) حضرت امام محمد بن ادریس شافعیؒ

(C) حضرت ابوالعباس احمد بن شریحؒ

(D) حضرت شاہ ولی اللہ

4۔ تیسری صدی کے مجدد تھے۔۔۔۔۔۔

(A) حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعیؒ

(B) سید احمد شہید بریلویؒ

(C) حضرت ابوالعباس احمد بن شریحؒ

(D) کوئی نہیں

5۔ چوتھی صدی کے مجدد تھے۔۔۔۔۔۔

(A) حضرت امام جلال الدین السیوطی

(B) حضرت شاہ ولی اللہ

(C) حضرت امام ابن دقیق العیدؒ

(D) حضرت ابوبکر بن الخطیب باقلانی

6۔ پانچویں صدی کے مجدد تھے۔۔۔۔۔۔

(A) حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی

(B) حضرت ابوبکر بن الخطیب باقلانی

(C) حضرت امام شمس الدین

(D) حضرت حجۃ الاسلام ابوحامد غزالی

7۔ چھٹی صدی کے مجدد تھے۔۔۔۔۔۔

(A) امام ابو عبداللہ　(B) الرازی

(C) امام رافعی　(D) تمام

8۔ ساتویں صدی کے مجدد تھے۔۔۔۔۔۔

(A) حضرت امام ابن دقیق العیدؒ

(B) حضرت حافظ ابوبکر بن الخطیبؒ

(C) سید احمد شہید بریلوی

(D) کوئی نہیں

9۔ آٹھویں صدی کے مجدد تھے۔۔۔۔۔۔

(A) حضرت حافظ زین الدین　(B) حضرت امام بلقینیؒ

(C) دونوں　(D) کوئی نہیں

10۔ نویں صدی کے مجدد تھے۔۔۔۔۔۔

(A) حضرت حجۃ الاسلام ابوحامد غزالی

(B) حضرت امام جلال الدین السیوطی

(C) حضرت شاہ ولی اللہ

(D) مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

11۔ دسویں صدی کے مجدد تھے۔۔۔۔۔۔

(A) حضرت امام شمس الدین بن شہاب الدینؒ

(B) حضرت محدث علی قاریؒ

(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

12۔ گیارھویں صدی کے مجدد تھے ---------
(A) حضرت مجدد الف ثانیؒ
(B) امام ابراہیم بن حسن کرویؒ
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

13۔ بارھویں صدی کے مجدد تھے ---------
(A) حضرت شاہ ولی اللہؒ
(B) شیخ صالح بن محمد بن نوح الفلانی
(C) سید مرتضیٰ حسینی
(D) تمام

14۔ تیرھویں صدی کے مجدد تھے ---------
(A) سید احمد شہید بریلوی (B) مولانا محمد قاسم نانوتوی
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

15۔ چودھویں صدی کے مجدد تھے ---------
(A) حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
(B) حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

16. مجدد سے مراد ہے دین کی
(A) تجدید کرنے والا (B) تکمیل کرنے والا
(C) اشاعت کرنے والا (D) تمہید کرنے والا

17. حدیث کے مطابق مجدد آتا ہے۔
(A) 400 سال بعد (B) 300 سال بعد
(C) 200 سال بعد (D) 100 سال بعد

18. پہلے ہزار سال کے مجدد ہیں۔
(A) شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (B) شاہ ولی اللہ
(C) مجدد الف ثانیؒ (D) عمر بن عبدالعزیزؒ

19. دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں۔
(A) شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (B) شاہ ولی اللہ
(C) مجدد الف ثانیؒ (D) عمر بن عبدالعزیزؒ

20. حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ اموی خلیفہ تھے۔
(A) ساتویں (B) آٹھویں
(C) نویں (D) دسویں

21. حضرت عمر ثانیؒ کا سن وصال ہے۔
(A) 101ھ (B) 102ھ
(C) 103ھ (D) 104ھ

22. حضرت مجدد الف ثانی کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔
(A) خلیفہ اول سے (B) خلیفہ دوم سے
(C) خلیفہ سوم سے (D) خلیفہ چہارم سے

23. حضرت الف ثانیؒ کا اصل نام ہے۔
(A) شیخ عبداللہ (B) شیخ عبدالرحمٰن
(C) شیخ احمد (D) شیخ محمود

24. حضرت مجدد الف ثانیؒ کا مغلیہ بادشاہ کے دور میں انتقال ہوا۔
(A) بابر کے (B) ہمایوں کے
(C) اکبر کے (D) جہانگیر کے

25. حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانیؒ گورنر رہے۔
(A) کوفہ (B) بصرہ
(C) مکہ مکرمہ (D) مدینہ منورہ

26. حضرت شیخ احمد پیدا اور فوت ہوئے۔
(A) دہلی (B) سرھند
(C) کابل (D) لاہور

27. حضرت عیسیٰؑ قرب قیامت تشریف لائیں گے بطور
(A) مجدد (B) نبی
(C) صحابی (D) خلیفہ

28. شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا ہے؟

(A) سلمان احمد
(B) قطب الدین
(C) نصیر الدین
(D) احمد شاہ سوال

29. شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟

(A) 20
(B) 5
(C) 12
(D) 7

جوابات

1. (D)	2. (A)	3. (B)	4. (C)	5. (D)	6. (D)	7. (D)	8. (A)
9. (C)	10. (B)	11. (C)	12. (A)	13. (D)	14. (A)	15. (D)	16. (A)
17. (D)	18. (D)	19. (C)	20. (B)	21. (A)	22. (B)	23. (C)	24. (D)
25. (D)	26. (B)	27. (A)	28. (B)	29. (B)			

صوفیائے کرام

1. خواجہ حسن بصری کا نام رکھا۔
(A) خلیفہ اول نے (B) خلیفہ دوم نے
(C) خلیفہ سوم نے (D) خلیفہ چہارم نے

2. خواجہ حسن بصری نے جس ام المومنین کی گود میں پرورش پائی۔
(A) حضرت میمونہؓ (B) حضرت جویریہؓ
(C) ام سلمہؓ (D) ام حبیبہؓ

3. حضرت سفیان ثوریؒ کا سال وفات ہے۔
(A) 162ھ (B) 163ھ
(C) 164ھ (D) 165ھ

4. حضرت سفیان ثوریؒ پیدا ہوئے۔
(A) مکہ میں (B) مدینہ میں
(C) بصرہ میں (D) کوفہ میں

5. حضرت رابعہ بصری کی پیدائش کی خوشخبری ان کے والد کو دی تھی۔
(A) حضرت امام حسنؓ نے (B) حضرت امام حسینؓ نے
(C) حضرت علیؓ نے (D) حضور ﷺ نے

6. حضرت رابعہ بصری کا سنہ وصال ہے۔
(A) 184ھ (B) 185ھ
(C) 186ھ (D) 187ھ

7. خواجہ فضیلؒ بن عیاض کا ابتدائی پیشہ تھا۔
(A) کاشتکاری (B) تجارت
(C) ڈاکہ زنی (D) ملازمت

8. فضیلؒ بن عیاض دفن ہیں۔
(A) جنت المعلیٰ (B) جنت البقیع
(C) بیت المقدس (D) کوفہ

9. حضرت معروف کرخیؒ نے جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔
(A) امام محمد باقر (B) امام جعفر صادق
(C) امام موسیٰ کاظم (D) امام علی رضا

10. حضرت معروفؒ کرخی کا مزار ہے۔
(A) کوفہ (B) بغداد
(C) بصرہ (D) دمشق

11. حضرت ذوالنونؒ مصری کا اصل نام ہے۔
(A) حضرت یونسؑ (B) حضرت یوسفؑ
(C) حضرت ثوبان (D) حضرت ابراہیمؑ

12. حضرت ذوالنون مصریؒ کے استاد تھے۔
(A) امام مالکؒ (B) امام شافعی
(C) امام احمدؒ بن حنبل (D) امام ابن حنیفہ

13. بایزید بسطامی نے جنگلوں میں ریاضت کی۔
(A) 10 سال (B) 11 سال
(C) 12 سال (D) 13 سال

14. بایزید بسطامی اور محدث امام مسلمؒ کا سال وفات ہے۔
(A) 261ھ (B) 262ھ
(C) 263ھ (D) 264ھ

15. ابراہیم بن ادھم پیدا ہوئے۔
(A) مدینہ منورہ (B) مکہ مکرمہ
(C) بلخ (D) بخارا

16. ابراہیمؒ بن ادھم، بابا فرید گنج شکر، میاں میرؒ، مجدد الف ثانیؒ اور شاہ ولی اللہ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔
(A) خلیفہ اول (B) خلیفہ دوم

(C) خلیفہ سوم (D) خلیفہ چہارم

17. سری سقطیؒ حضرت جنیدؒ بغدادی کے تھے استاد اور
(A) چچا (B) خالو
(C) پھوپھا (D) ماموں

18. جنید بغدادیؒ کا سنہ وصال ہے۔
(A) 300ھ (B) 301ھ
(C) 302ھ (D) 303ھ

19. ابوبکر شبلیؒ حضرت جنید بغدادیؒ کے تھے۔
(A) شاگرد (B) استاد
(C) بھائی (D) دوست

20. ابوبکر شبلیؒ منصور حلاج کے تھے۔
(A) بھائی (B) دوست
(C) استاد (D) شاگرد

21. حضرت داتا گنج بخشؒ کا وصال ہوا۔
(A) 462ھ (B) 463ھ
(C) 464ھ (D) 465ھ

22. حضرت علیؒ بن عثمان ہجویری کی مشہور کتاب ہے۔
(A) غنیۃ الطالبین (B) ریاض الصالحین
(C) کشف المحجوب (D) بلوغ المرام

23. شیخ عبدالقادر جیلانیؒ پیدا ہوئے۔
(A) 470ھ (B) 471ھ
(C) 472ھ (D) 473ھ

24. شیخ عبدالقادرؒ فوت ہوئے۔
(A) 564ھ (B) 563ھ
(C) 562ھ (D) 561ھ

25. خواجہ عثمان ہارونیؒ کے مشہور مرید ہیں۔
(A) خواجہ اجمیریؒ (B) مودود چشتی
(C) عبدالقدوس گنگوہی (D) سلیم چشتی

26. خواجہ عثمان ہارونیؒ کا مدفن ہے۔
(A) مدینہ منورہ (B) مکہ معظمہ
(C) بغداد شریف (D) اجمیر شریف

27. فریدالدینؒ عطار کا اصل نام تھا۔
(A) محمدؒ بن علی (B) محمدؒ بن عثمان
(C) محمدؒ بن عمر (D) محمدؒ بن ابی بکر

28. فریدالدینؒ عطار کی مشہور تصنیف تھی۔
(A) راحت القلوب (B) کشف الاسرار
(C) تذکرۃ الاولیا (D) سفینۃ الاولیا

29. شیخ شہاب الدین جس سلسلہ تصوف کے بانی ہیں۔
(A) نقشبندیہ (B) قادریہ
(C) چشتیہ (D) سہروردیہ

30. خواجہ معین الدینؒ اجمیری برصغیر میں سلسلہ جس کے بانی ہیں۔
(A) چشتیہ (B) سہروردیہ
(C) قادریہ (D) نقشبندیہ

31. بہاؤالدینؒ ذکریا، فرید گنج شکر اور شیخ سعدیؒ جیسے بزرگ شیخ شہاب الدین سہروردی کے تھے۔
(A) استاد (B) فیض یافتہ
(C) دوست (D) پیر بھائی

32. خواجہ اجمیریؒ کا سنہ وفات ہے۔
(A) 631ھ (B) 632ھ
(C) 633ھ (D) 634ھ

33. خواجہ بختیار کاکیؒ نے جن کی بیعت کی۔
(A) حمیدالدین ناگوریؒ (B) فریدالدینؒ عطار
(C) شیخ سہروردیؒ (D) خواجہ اجمیریؒ

34. خواجہ بختیار کاکیؒ کے مشہور مرید تھے۔
(A) بابا فرید (B) لال شہباز قلندرؒ
(C) بہاؤالدین ذکریاؒ (D) شمس الدین تبریزی

35. شیخ حمیدالدینؒ ناگوری کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔
(A) حضرت طلحہؓ

(B) حضرت سعدؓ بن ابی وقاص
(C) حضرت سعیدؓ بن زید
(D) حضرت زبیرؓ

36. شیخ شہاب الدین سہروردیؒ آپ حمید الدینؒ ناگوری کے تھے۔
(A) شاگرد (B) استاد
(C) بھائی (D) دوست

37. حضرت شمس الدین تبریزی پیدا ہوئے۔
(A) سہرورد (ایران) (B) سبزوار (عراق)
(C) غزہ (فلسطین) (D) حمص (شام)

38. مشہور شاعر جو شمس تبریزیؒ کے مرید تھے۔
(A) حافظ شیرازیؒ (B) شیخ سعدیؒ
(C) مولانا رومؒ (D) مولانا جامیؒ

39. لال شہباز قلندرؒ کا اصل نام تھا۔
(A) سید عثمان ہجویری (B) سید علی ہجویری
(C) سید عمر ہجویری (D) بوعلی قلندر

40. لال شہباز قلندرؒ کا لقب تھا۔
(A) سیف القلندر (B) سیف السلوک
(C) سیف البحر (D) سیف اللسان

41. بہاؤالدین زکریاؒ نے شیخ شہاب الدینؒ سہروردی کی بیعت کی۔
(A) کوفہ میں (B) بغداد میں
(C) مکہ میں (D) مدینہ میں

42. بہاؤالدین ذکریا ملتان میں جس سلسلہ تصوف کے بانی ہیں۔
(A) نقشبندیہ (B) قادریہ
(C) سہروردیہ (D) چشتیہ

43. بابا فرید گنج شکرؒ کا اصل نام تھا۔
(A) محمور (B) مقصود
(C) مسعود (D) محمود

44. بابا فرید کی شادی جس بادشاہ کی لڑکی سے ہوئی تھی۔
(A) غیاث الدین بلبن (B) شمس الدین التمش
(C) ناصر (D) علاؤالدین خلجی

45. شیخ صدرالدینؒ کے والد بزرگ کا نام ہے۔
(A) خواجہ بختیار کاکیؒ (B) بابا فریدؒ
(C) شاہ رکنؒ عالم (D) شیخ بہاؤالدین ذکریا

46. شیخ صدرالدینؒ عارف کے بیٹے ہیں۔
(A) بوعلی قلندر (B) شاہ رکن الدین
(C) علاؤالدین صابر (D) نظام الدینؒ اولیا

47. علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کے بابا فرید گنج شکر لگتے تھے۔
(A) ماموں (B) چچا
(C) خالو (D) پھوپھا

48. علاؤالدینؒ صابر کا سنہ وصال ہے۔
(A) 684ھ (B) 686ھ
(C) 688ھ (D) 690ھ

49. بوعلی قلندرؒ کا اصل نام تھا۔
(A) نورالدین (B) شرف الدین
(C) نظام الدین (D) قائم الدین

50. نظام الدین اولیاؒ کے مرشد تھے۔
(A) بابا فرید شکر گنجؒ (B) علاؤالدینؒ صابر
(C) صفدرالدینؒ عارف (D) لال شہباز قلندر

51. حضرت نظام الدین اولیاؒ محبوب الٰہی کا سال وفات ہے۔
(A) 719ھ (B) 721ھ
(C) 723ھ (D) 725ھ

52. حضرت شیخ رکن الدین کے مشہور مرید ہیں۔
(A) نصیرالدینؒ چراغ دہلوی
(B) محبوب الٰہیؒ نظام الدین
(C) مخدوم جہانیاںؒ جہاں گشت
(D) خواجہ گیسو دراز

53. شیخ رکن عالم نے جس مشہور بزرگ کی نماز جنازہ پڑھائی۔
(A) نظام الدین اولیاء کی

(B) بوعلی قلندرؒ کی

(C) علاؤالدین صابرؒ کی

(D) نصیرالدینؒ چراغ دہلوی کی

54. نصیرالدین چراغ دہلوی کے مرشد تھے۔

(A) علاؤالدین صابرؒ (B) بوعلی قلندرؒ

(C) شیخ رکن عالمؒ (D) نظام الدین اولیاؒ

55. مخدوم جہانیاں جہاں گشت کا اصل نام تھا۔

(A) اسلام اولین بخاری (B) جلال الدینؒ بخاری

(C) جمال الدین بخاری (D) کمال الدین بخاری

56. مخدوم جہانیاںؒ کا مزار شریف ہے۔

(A) ملتان شریف (B) تونسہ شریف

(C) اوچ شریف (D) پاکپتن شریف

57. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے مرشد ہیں۔

(A) نصیرالدینؒ چراغ دہلوی (B) شیخ رکن الدینؒ

(C) نظام الدین اولیاؒ (D) بوعلی قلندرؒ

58. نورالدین عبدالرحمٰن جامی کا سال وفات ہے۔

(A) 897ھ (B) 898ھ

(C) 899ھ (D) 900ھ

59. خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ ہیں۔

(A) نمدی امام (B) سلطان باہو

(C) میاں میرؒ (D) مجدد الف ثانیؒ

60. حضرت میر محمد المعروف میاں میرؒ پیدا ہوئے۔

(A) سرہند شریف (B) تونسہ شریف

(C) سیہون شریف (D) اوچ شریف

61. حضرت سلطان باہوؒ کا سال وصال ہے۔

(A) 1102ھ (B) 1103ھ

(C) 1104ھ (D) 1105ھ

62. نمدی امام عبداللطیفؒ سنہ وفات ہے۔

(A) 1706ء (B) 1707ء

(C) 1708ء (D) 1709ء

63. سخی سلطانؒ سرور جس بزرگ کے خلیفہ تھے۔

(A) عثمان ہارونیؒ

(B) شاہ مودودؒ چشتی

(C) شہاب الدینؒ سہروردی

(D) شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

64. جس بزرگ کے مزار پر آنے والے قافلے سنگ کہلاتے ہیں۔

(A) لال شہباز قلندرؒ (B) مخدوم جہانیاںؒ

(C) سلطان باہوؒ (D) سخی سلطان سرورؒ

65. شاہ محمد غوثؒ کا سال وفات ہے۔

(A) 1177ھ (B) 1178ھ

(C) 1179ھ (D) 1180ھ

66. شاہ محمد غوث نے لاہور میں فیض حاصل کیا۔

(A) میراں حسین زنجانیؒ سے (B) میاں میرؒ سے

(C) داتا گنج بخشؒ سے (D) شاہ جمالؒ سے

67. مناقب المحبوبین اور نافع السالکین ملفوظات ہیں۔

(A) مجدد الف ثانیؒ کے (B) عبداللطیف بھٹائی کے

(C) سلیمان تونسویؒ کے (D) بابا بلھے شاہؒ

68. حضرت وارث علی شاہ کا سال وصال ہے۔

(A) 1902ء (B) 1903ء

(C) 1904ء (D) 1905ء

69. بزرگ جنہیں عرب میں شیخ الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(A) مودود چشتی (B) شیخ سلیم چشتی

(C) معین الدینؒ چشتی (D) بابا فرید چشتی

70. مادھولال حسین نے خرقہ خلافت حاصل کیا۔

(A) شیخ بہلولؒ سے (B) میاں میرؒ سے

(C) حضرت الحیانؒ سے (D) شاہ کمالؒ سے

71. شیخ مودود چشتی نے کتنی عمر میں قرآن حفظ کیا۔

(A) 10 سال (B) 9 سال

(C) 8 سال　(D) 7 سال

72. فتنہ قادیانیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے پیر مہر علی شاہ وفات ہوئے۔

(A) 1935ء　(B) 1936ء
(C) 1937ء　(D) 1938ء

جوابات

1. (B)	2. (C)	3. (A)	4. (D)	5. (D)	6. (B)	7. (C)	8. (A)
9. (D)	10. (B)	11. (C)	12. (A)	13. (C)	14. (A)	15. (B)	16. (B)
17. (D)	18. (C)	19. (A)	20. (B)	21. (D)	22. (C)	23. (A)	24. (D)
25. (A)	26. (B)	27. (D)	28. (C)	29. (D)	30. (A)	31. (B)	32. (C)
33. (D)	34. (A)	35. (C)	36. (B)	37. (B)	38. (C)	39. (A)	40. (D)
41. (B)	42. (C)	43. (C)	44. (A)	45. (D)	46. (B)	47. (A)	48. (D)
49. (B)	50. (A)	51. (D)	52. (C)	53. (A)	54. (D)	55. (B)	56. (C)
57. (A)	58. (B)	59. (D)	60. (C)	61. (A)	62. (C)	63. (B)	64. (D)
65. (A)	66. (B)	67. (C)	68. (D)	69. (B)	70. (A)	71. (D)	72. (C)

فقہائے کرام

1. نعمانؒ بن ثابت اصل نام تھا۔
(A) امام ابوحنیفہؒ کا (B) امام مالکؒ کا
(C) امام شافعیؒ کا (D) امام احمدؒ بن حنبل کا

2. امام ابوحنیفہؒ کا وصال ہوا۔
(A) 140ھ (B) 150ھ
(C) 160ھ (D) 170ھ

3. جس شہر میں امام ابوحنیفہؒ پیدا ہوئے۔
(A) سامرہ (B) بغداد
(C) کوفہ (D) بصرہ

4. امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ شیبانی کے استاد ہیں۔
(A) امام احمدؒ (B) امام شافعیؒ
(C) امام مالکؒ (D) امام ابوحنیفہؒ

5. عباسی خلیفہ جس نے امام ابوحنیفہؒ کو قید کیا۔
(A) ابوجعفر منصور (B) ہارون
(C) مامون (D) معتصم

6. امام ابوحنیفہ کے پیدا ہونے کے بعد حضرت علیؓ سے دعا کروائی آپ کے
(A) چچا نے (B) والد نے
(C) دادا نے (D) پڑدادا نے

7. امام ابوحنیفہؒ کو عبداللہؓ بن ابی اوفی کے علاوہ اور جس صحابیؓ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔
(A) عبداللہؓ بن عمر (B) انسؓ بن مالک
(C) جابرؓ بن عبداللہ (D) عبداللہؓ بن عباس

8. کتاب جو امام ابوحنیفہؒ سے منسوب ہے۔
(A) کتاب الاخراج (B) کتاب الام
(C) کتاب المبسوط (D) کتاب الآثار

9. امام ابوحنیفہؒ کا انتقال جس حالت میں ہوا۔
(A) سجدہ (B) رکوع
(C) قعدہ (D) قیام

10. امام ابوحنیفہؒ کا مزار ہے۔
(A) کوفہ (B) بصرہ
(C) بغداد (D) دمشق

11. صحابی رسول ﷺ ابو عامر بن عمرو امام مالک کے تھے۔
(A) دادا (B) پردادا
(C) والد (D) چچا

12. امام مالکؒ جس صحابیؓ کے مکان میں رہتے تھے۔
(A) عبداللہؓ بن عباس (B) عبداللہؓ بن زبیر
(C) عبداللہؓ بن عمر (D) عبداللہؓ بن مسعود

13. امام مالکؒ مسجد نبوی میں جس صحابی کے بیٹھنے والی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے۔
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

14. حدیث کی صحیح ترین سند ہے مالکؒ عن نافعؒ عن ابن عمرؓ بقول

(A) امام بخاریؒ (B) امام مسلمؒ

(C) امام ترمذیؒ (D) امام نسائیؒ

15. امام دار الہجرت کہلاتے ہیں۔

(A) امام احمدؒ (B) امام شافعیؒ

(C) امام مالکؒ (D) امام ابوحنیفہؒ

16. امام مالک کی حدیث کی مشہور کتاب ہے۔

(A) کتاب الام (B) کتاب الآثار

(C) کتاب الاخراج (D) موطا

17. امام مالک کی موطا میں احادیث ہیں۔

(A) 1620 (B) 1720

(C) 1820 (D) 1920

18. امام مالک کے شاگرد ہیں۔

(A) امام شافعیؒ (B) امام احمدؒ

(C) امام ابو یوسفؒ (D) امام ابوحنیفہؒ

19. امام مالک مدینہ منورہ میں درس دیتے رہے۔

(A) 30 سال (B) 40 سال

(C) 50 سال (D) 60 سال

20. امام مالکؒ کا سال وصال ہے۔

(A) 177ھ (B) 178ھ

(C) 179ھ (D) 180ھ

21. امام شافعیؒ کا اصل نام تھا۔

(A) محمدؒ بن ادریس (B) محمدؒ بن ابراہیم

(C) محمدؒ بن اسماعیل (D) محمدؒ بن عبداللہ

22. امام شافعیؒ کہاں پیدا ہوئے۔

(A) شام (B) فلسطین

(C) ایران (D) مصر

23. امام شافعیؒ کی پرورش ہوئی۔

(A) بغداد (B) بیت المقدس

(C) مدینہ منورہ (D) مکہ مکرمہ

24. امام شافعیؒ کی تصانیف کی تعداد ہے۔

(A) 111 (B) 112

(C) 113 (D) 114

25. امام شافعیؒ نے موطا جتنی عمر میں حفظ کرلی تھی۔

(A) گیارہ سال (B) تیرہ سال

(C) پندرہ سال (D) سترہ سال

26. امام شافعیؒ کا سنہ وصال ہے۔

(A) 140ھ (B) 150ھ

(C) 160ھ (D) 170ھ

27. امام شافعیؒ کا مزار ہے۔

(A) ایران میں (B) شام میں

(C) فلسطین میں (D) مصر میں

28. امام شافعیؒ کے لیے روزانہ دعا کرنے والے فقہ کے امام تھے۔

(A) امام ابو یوسفؒ (B) امام محمد شیبانیؒ

(C) امام احمدؒ (D) امام مالکؒ

29. حضور ﷺ سے امام شافعیؒ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔

(A) عبدالمطلب پر (B) ہاشم پر

(C) حضرت عباسؓ پر (D) حضرت حمزہؓ پر

30. امام شافعیؒ کی روایات جمع ہیں کتاب المبسوط اور

(A) کتاب الآثار میں (B) کتاب الاخراج میں

(C) موطاس (D) کتاب الام میں

31. امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ بن حنبل کی کنیت تھی۔
(A) ابوعبدالرحمن (B) ابوعبداللہ
(C) ابوالحسن (D) ابومحمد

32. امام بخاریؒ، امام مسلمؒ اور امام ابوداؤدؒ شاگرد تھے۔
(A) امام ابوحنیفہؒ کے (B) امام مالکؒ کے
(C) امام احمدؒ کے (D) امام شافعیؒ کے

33. امام احمدؒ بن حنبل دن رات میں نوافل پڑھا کرتے تھے۔
(A) 300 (B) 200
(C) 100 (D) 50

34. امام احمدؒ بن حنبل کو زبانی احادیث یاد تھیں۔
(A) 4لاکھ (B) 6لاکھ
(C) 8لاکھ (D) 10لاکھ

35. امام احمدؒ کی جمع کردہ احادیث کا مجموعہ ہے۔
(A) موطا (B) مسند احمد
(C) کتاب الآثار (D) کتاب الام

36. مسند احمد میں مکررات احادیث نکال کر احادیث موجود ہیں۔
(A) 10ہزار (B) 20ہزار
(C) 30ہزار (D) 40ہزار

37. امام احمدؒ بن حنبل کا سن وفات ہے۔
(A) 239ھ (B) 241ھ
(C) 243ھ (D) 245ھ

38. فرقہ جس کے عقائد کا امام احمدؒ نے ڈٹ کر رد کیا۔
(A) خارجیہ (B) امامیہ
(C) باطنیہ (D) معتزلہ

39. شہر جہاں امام احمدؒ بن حنبل کی پیدائش اور وفات ہوئی۔
(A) بغداد (B) کوفہ
(C) بصرہ (D) دمشق

40. سفیانؒ بن عینیہ اور امام ابو یوسفؒ کے علاوہ آپ امام احمدؒ استاد ہیں۔
(A) امام ابوحنیفہؒ (B) امام مالکؒ
(C) امام شافعیؒ (D) امام محمد شیبانی

41. امام ابو یوسفؒ کا اصل نام تھا۔
(A) یوسف بن یعقوب (B) یعقوبؒ بن ابراہیم
(C) یعقوبؒ بن اسحاق (D) اسحاق بن ابراہیم

42. امام ابو یوسف کی مشہور کتاب ہے۔
(A) کتاب الاخراج (B) کتاب الآثار
(C) کتاب الام (D) موطا

43. امام ابو یوسفؒ فقہ میں شاگرد تھے۔
(A) امام شافعیؒ کے (B) امام احمدؒ بن حنبل
(C) محمدؒ شیبانی کے (D) امام ابوحنیفہؒ کے

44. جس عباسی خلیفہ کے دور میں امام ابو یوسفؒ قاضی القضاہ تھے
(A) مہدی عباسی (B) ہادی عباسی
(C) ہارون عباسی (D) واثق عباسی

45. امام محمدؒ بن حسن شیبانی نے جتنے دنوں میں قرآن حفظ کیا۔
(A) 6دن (B) 7دن
(C) 8دن (D) 9دن

46. امام محمدؒ شیبانی نے کتب لکھیں۔
(A) 999 (B) 998
(C) 997 (D) 996

47. امام محمد شیبانی کی مشہور تصنیف ہے۔

(A) کتاب الام (B) کتاب الآثار

(C) موطا امام مالک (D) موطا امام محمد

48. امام محمد شیبانی کا وصال ہوا۔

(A) 187ھ (B) 188ھ

(C) 189ھ (D) 190ھ

جوابات

1. (A)	2. (B)	3. (C)	4. (D)	5. (A)	6. (C)	7. (B)	8. (D)
9. (A)	10. (C)	11. (B)	12. (D)	13. (B)	14. (A)	15. (C)	16. (D)
17. (B)	18. (A)	19. (D)	20. (C)	21. (A)	22. (B)	23. (D)	24. (C)
25. (A)	26. (B)	27. (D)	28. (C)	29. (A)	30. (D)	31. (B)	32. (C)
33. (A)	34. (D)	35. (B)	36. (C)	37. (B)	38. (D)	39. (A)	40. (C)
41. (B)	42. (A)	43. (D)	44. (C)	45. (B)	46. (A)	47. (D)	48. (C)

علمائے کرام

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدفون ہیں۔

(A) جنت المعلیٰ (B) جنت البقیع

(C) بیت المقدس (D) بغداد شریف

2. ضیاء الدین مدنی، شاہ احمد نورانی، احتشام الحق تھانوی، ادریس کاندھلوی اور قاسم نانوتوی کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔

(A) خلیفہ چہارم سے (B) خلیفہ سوم سے

(C) خلیفہ اوّل سے (D) خلیفہ دوم سے

3. مفتی محمد شفیع اور مولانا محمود الحسن کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔

(A) خلیفہ چہارم سے (B) خلیفہ سوم سے

(C) خلیفہ دوم سے (D) خلیفہ اوّل سے

4. رشید احمد گنگوہی کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔

(A) ابوجندلؓ سے (B) ابوطلحہؓ سے

(C) ابودجانہؓ سے (D) ابوایوبؓ انصاری سے

5. سید احمد سعید کاظمی کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔

(A) امام محمد باقر (B) امام جعفر صادقؒ

(C) امام موسیٰ کاظمؒ (D) امام علی رضاؒ

6. ضیاء الدین مدنی، عبدالعلیم صدیقی اور بدر عالم میرٹھی کا مدفن ہے۔

(A) جنت البقیع (B) جنت المعلیٰ

(C) بیت المقدس (D) بغداد شریف

7. تبلیغی جماعت کے بانی ہیں۔

(A) محمد قاسم نانوتوی (B) محمد الیاس کاندھلوی

(C) مولانا محمود الحسن (D) حسین احمد مدنی

8. انجمن خدام الدین کے بانی ہیں۔

(A) اشرف علی تھانوی (B) احتشام الحق تھانوی

(C) احمد علی قصوری (D) احمد علی لاہوری

9. انجمن طلباء اسلام کے بانی ہیں۔

(A) جمیل احمد نعیمی (B) مفتی محمد حسین نعیمی

(C) احمد سعید کاظمی (D) شاہ احمد نورانی

10. دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔

(A) محمود الحسن (B) حسین احمد مدنی

(C) محمد قاسم نانوتوی (D) رشید احمد گنگوہی

11. وحدت عالم اسلام کے بانی تھے۔

(A) مفتی محمد عبدہٗ (B) جمال الدین افغانی

(C) مولانا محمد علی جوہر (D) محمد بن علی سنوسی

12. مجلس احرار اسلام کے بانی تھے۔

(A) مولانا شوکت علی (B) مولانا شبلی نعمانی

(C) مولانا ظفر علی خان (D) عطاء اللہ شاہ بخاری

13. مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کب اور کہاں قائم کی۔

(A) 1940ء پٹھان کوٹ (B) 1945ء لاہور

(C) 1940ء لاہور (D) 1945ء پٹھان کوٹ

14. سنوسی تحریک کے بانی تھے۔

(A) محمد الیاس کاندھلوی (B) ادریس کاندھلوی

(C) امداد اللہ مہاجر مکی (D) محمد بن علی سنوسی

15. تحریک ریشمی رومال کے قائد تھے۔
(A) مولانا حسرت موہانی (B) فضل الحق خیر آبادی
(C) محمود الحسن (D) ابوالکلام آزاد

16. جامعہ ملیہ اسلامی علی گڑھ کے بانی تھے۔
(A) محمود الحسن (B) رشید احمد گنگوہی
(C) محمد قاسم نانوتوی (D) مولانا اشرف علی

17. دار العلوم جامعہ نعیمیہ قائم کیا۔
(A) جمیل احمد نعیمی (B) مفتی احمد یار خان نعیمی
(C) مفتی محمد حسین نعیمی (D) ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی

18. جمال الدین افغانی اور مفتی محمد عبدہٗ نے تنظیم قائم کی۔
(A) مجلس احرار (B) العروۃ الوثقیٰ
(C) خدام الدین (D) وحدت اسلامی

19. مدرسہ عربیہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے بانی تھے۔
(A) مولانا مفتی نعیب الرحمٰن (B) مولانا شبیر احمد عثمانی
(C) مفتی محمد شفیع (D) محمد یوسف بنوری

20. امیر ملت محدث علی پور پیر جماعت علی شاہ فوت ہوئے۔
(A) 1951ء (B) 1952ء
(C) 1953ء (D) 1954ء

21. علامہ شبلیؒ کی مشہور کتاب سیرۃ النبی کی تکمیل کی۔
(A) ضیاء الدین مدنی (B) عبدالعلیم صدیقی
(C) سلیمان ندوی (D) ڈاکٹر اسرار احمد

22. مولانا عبدالعزیزؒ، مولانا عبدالغنیؒ، مولانا عبدالقادرؒ اور مولانا محمد رفیع کے والد گرامی تھے۔
(A) شاہ عبدالرحیم (B) شاہ ولی اللہ
(C) شاہ عبدالرحمٰن (D) شاہ عبداللہ

23. تقویۃ الایمان والے شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹی شاہ ولی اللہ کے جس بیٹے کے بیٹے تھے۔
(A) شاہ عبدالرفیعؒ (B) شاہ عبدالعزیزؒ
(C) شاہ عبدالقادرؒ (D) شاہ عبدالغنی

24. مولانا شاہ احمد نورانی اور اُن کے والد عبدالعلیم صدیقی جتنی زبانوں کے ماہر تھے۔
(A) 7 سے زائد (B) 6 سے زائد
(C) 5 سے زائد (D) 4 سے زائد

25. شاہ عبدالعلیم صدیقیؒ کی تبلیغ سے افراد مسلمان ہوئے۔
(A) 50 ہزار سے زائد (B) 40 ہزار سے زائد
(C) 30 ہزار سے زائد (D) 20 ہزار سے زائد

26. مولانا تقی عثمانی اور رفیع عثمانی کے والد گرامی تھے۔
(A) میاں محمد شفیع (B) محمد شفیع اوکاڑوی
(C) مفتی محمد شفیع (D) م۔ش

27. مولانا کوکب نورانی کے والد ماجد تھے۔
(A) مفتی محمد شفیع (B) محمد شفیع اوکاڑوی
(C) میاں محمد شفیع (D) م۔ش

28. عبدالعلیم صدیقی اور مفتی احمدؒ یار خان نعیمی کے استاد تھے۔
(A) قمر الدین سیالوی (B) پیر مہر علی شاہ
(C) نعیم الدین مراد آبادی (D) احمد رضا خانؒ بریلوی

29. شاہ عبدالقادر کے شاگرد سید احمد شہید اور شاہ عبدالغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید کے مزارات ہیں۔
(A) ایبٹ آباد (B) مانسہرہ
(C) بالاکوٹ (D) کاغان

30. شاہ عبدالعلیم صدیقی نے جتنے ممالک کا تبلیغی سفر کیا۔
(A) 40 سے زائد (B) 30 سے زائد
(C) 20 سے زائد (D) 10 سے زائد

31. مولانا عبیداللہ سندھی کا سابقہ نام تھا۔

(A) شیر سنگھ (B) بوٹا سنگھ

(C) لہنا سنگھ (D) نانک سنگھ

32. سید عطاءاللہ شاہ بخاری کا وصال ہوا۔

(A) 1964ء (B) 1963ء

(C) 1962ء (D) 1961ء

33. امیر شریعت کا خطاب ملا۔

(A) پیر جماعت علی شاہ (B) عطاءاللہ شاہ بخاری

(C) انور شاہ کشمیری (D) پیر محمد کرم شاہ

34. جنگ آزادی میں شرکت کی بناء پر مولانا فضل حق خیر آبادی کو سزا دی گئی۔

(A) عمر قید (B) سزائے موت

(C) جلاوطنی (D) 10 سال

35. حکومت برطانیہ کا ہز ہائی نیس کا خطاب ٹھکرا دیا تھا۔

(A) فضل حق خیر آبادی (B) عبدالستار نیازی

(C) قمرالدین سیالوی (D) عطاءاللہ شاہ بخاری

36. پیر کرم شاہ نے جس یونیورسٹی سے سند حاصل کی۔

(A) بغداد یونیورسٹی (B) مکہ یونیورسٹی

(C) مدینہ یونیورسٹی (D) جامعہ ازہر قاہرہ

37. مولانا ضیاءالدین مدنی نے حج کیے۔

(A) 65 (B) 60

(C) 55 (D) 50

38. ضیاءالدین مدنی کا سن وصال ہے۔

(A) 1403ھ (B) 1402ھ

(C) 1401ھ (D) 1400ھ

39. حریت میں قید کرنے کی بناء پر مولانا محمود الحسن کو کہا جاتا ہے۔

(A) اسیر لنکا (B) اسیر مالٹا

(C) اسیر قبرص (D) اسیر انڈیمان

40. مولانا الیاس کی شہرہ آفاق کتاب ہے۔

(A) حیات الشہداء (B) حیات الانبیاء

(C) حیات الاولیاء (D) حیات الصحابہ

41. مولانا غلام رسول سعیدی کی شہرہ آفاق جدید تفسیر کا نام ہے۔

(A) احکام القرآن (B) معارف القرآن

(C) تبیان القرآن (D) بیان القرآن

42. پیر کرم شاہ آف بھیرہ کی مشہور تفسیر ہے۔

(A) ضیاءالقرآن (B) معارف القرآن

(C) بیان القرآن (D) تدبر القرآن

43. مولانا مودودی کی عام فہم تفسیر ہے۔

(A) احکام القرآن (B) تفہیم القرآن

(C) تدبر القرآن (D) تبیان القرآن

44. تفسیر نعیمی کے مصنف ہیں۔

(A) راغب نعیمی (B) ڈاکٹر سرفراز نعیمی

(C) مفتی محمد حسین نعیمی (D) مفتی احمد یار خان نعیمی

45. مولوی اشرف علی تھانوی کی تفسیر کا نام ہے۔

(A) بیان القرآن (B) تدبر القرآن

(C) معارف القرآن (D) احکام القرآن

46. زبان جس میں عبدالماجد دریا آبادی نے تفسیر لکھی۔

(A) عربی (B) فارسی

(C) انگلش (D) اردو

47. تفسیر عثمانی کے مصنف ہیں۔

(A) محمد رفیع عثمانی (B) شبیر احمد عثمانی

(C) محمد تقی عثمانی (D) محمد تقی عثمانی

48. شاہ عبدالعزیز کی تفسیر عزیزی کا اصل نام ہے۔

(A) کتاب المعیار (B) بیان القرآن

(C) فتح البیان (D) فتح العزیز

جوابات

1. (A)	2. (C)	3. (B)	4. (D)	5. (C)	6. (A)	7. (B)	8. (D)
9. (A)	10. (C)	11. (B)	12. (D)	13. (B)	14. (D)	15. (C)	16. (A)
17. (C)	18. (B)	19. (D)	20. (A)	21. (C)	22. (B)	23. (D)	24. (A)
25. (A)	26. (C)	27. (B)	28. (D)	29. (C)	30. (A)	31. (B)	32. (D)
33. (B)	34. (A)	35. (C)	36. (D)	37. (A)	38. (C)	39. (B)	40. (D)
41. (C)	42. (A)	43. (B)	44. (D)	45. (A)	46. (C)	47. (B)	48. (D)

امتیں

1. امتیں کتنی ہیں؟

(A) 1000 (B) 10,000

(C) 20,000 (D) 30,000

2. قیامت کے دن امتوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟

(A) 10 (B) 80

(C) 100 (D) 120

3. کل 120 میں سے امتِ محمدیہ کی کتنی صفیں ہوں گی؟

(A) 20 (B) 50

(C) 80 (D) 100

4. سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت ------

(A) حضرت موسیٰ کی امت

(B) حضرت محمدؐ کی امت

(C) حضرت ابراہیمؑ کی امت

(D) حضرت یعقوبؑ کی امت

5. کس امت کو قیامت کے دن حمادون کے لقب سے پکارا جائے گا؟

(A) امتِ موسیٰ (B) امتِ ابراہیم

(C) امتِ محمدیہ (D) کوئی نہیں

6. روزِ قیامت ہر امت پیچھے پیچھے چلے گی اپنے اپنے

(A) معبود کے (B) نبی کے

(C) ولی کے (D) مرشد کے

7. امتِ مسلمہ کے لوگ بغیر حساب کتاب جنت داخل کر دیے جائیں گے۔

(A) 40 ہزار (B) 50 ہزار

(C) 60 ہزار (D) 70 ہزار

8. حدیث کے مطابق ہماری سمیت کل امتیں ہیں۔

(A) 70 (B) 80

(C) 90 (D) 100

9. سب سے آخری امت ہے۔

(A) آدم علیہ السلام کی (B) موسیٰ علیہ السلام کی

(C) عیسیٰ علیہ السلام کی (D) حضرت محمد ﷺ کی

10. امت جس کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔

(A) آدم علیہ السلام کی (B) نوح علیہ السلام کی

(C) ابراہیم علیہ السلام کی (D) حضرت محمد ﷺ کی

11. امتِ وسطیٰ ہے۔

(A) یہودی امت (B) عیسائی امت

(C) امت محمدی (D) تینوں امتیں C، B، A

12. جنت میں امت محمدیہ تعداد میں ہوگی۔

(A) 2/3 (B) 1/3

(C) 1/4 (D) 1/2

13. روزِ قیامت وضو کی وجہ سے امتِ مسلمہ کے چمکتے ہوں گے۔

(A) چہرے (B) ہاتھ

(C) پاؤں (D) تینوں C، B، A

14. جس بنا پر پچھلی کئی امتیں ہلاک ہو گئیں۔

(A) بزدلی (B) کثرتِ سوالات

(C) ناشکری (D) بے صبری

15. روزِ قیامت امتِ محمدی کی تعداد بڑی ہوگی امت

(A) ابراہیمی سے بھی (B) اسماعیلی سے بھی

(C) موسوی سے بھی (D) عیسوی سے بھی

16. انبیاء سابقین اپنی تبلیغ کا گواہ بنائیں گے۔

(A) امت محمدی کو (B) امت موسوی کو

(C) امت عیسوی کو (D) امت ابراہیمی کو

17. جنت میں داخل ہونے والی امتوں کے دل ہوں گے۔

(A) گھوڑوں کی طرح (B) پرندوں کی طرح

(C) شیروں کی طرح (D) ہاتھیوں کی طرح

18. لفظ امت کی جمع کیا ہے؟

(A) امتیں (B) امام

(C) امم (D) آئمہ

جوابات

1. (A)	2. (D)	3. (C)	4. (B)	5. (C)	6. (B)	7. (D)	8. (A)
9. (D)	10. (D)	11. (C)	12. (A)	13. (D)	14. (B)	15. (C)	16. (A)
17. (B)	18. (C)						

دجال

1۔ دجال دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا؟

(A) 20 (B) 30

(C) 40 (D) 50

2۔ وہ جگہ جہاں دجال داخل نہ ہو سکے گا۔۔۔۔۔۔

(A) مکہ (B) مدینہ

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

3۔ دجال کی دو آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا سے متعلق کونسی روایت درست ہے؟

(A) کافر لکھا ہوگا

(B) ک ف ر لکھا ہوگا

(C) الکاف، الفاء، الراء لکھا ہوگا

(D) تمام

4۔ جس نبی کے ہاتھوں دجال ہلاک ہوگا۔

(A) نوحؑ (B) ابراہیمؑ

(C) موسیٰؑ (D) عیسیٰؑ

5۔ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا۔

(A) فتنہ دجال (B) فتنہ مال

(C) فتنہ اولاد (D) فتنہ جنگ

6۔ دجال کے ہلاک کرنے کے بعد عیسیٰؑ دنیا میں زندہ رہیں گے۔

(A) 20 سال (B) 30 سال

(C) 40 سال (D) 50 سال

7۔ دجال جس جانور پر سوار ہو کر نکلے گا۔

(A) سفید اونٹ (B) سفید خچر

(C) سفید گھوڑا (D) سفید گدھا

8۔ دجال کے وقت مدینہ منورہ کو جھنجھوڑا جائے گا۔

(A) 3 بار (B) 4 بار

(C) 5 بار (D) 6 بار

9۔ دجال جس کے پاس ہلاک ہوگا۔

(A) باب قریش (B) باب لد

(C) باب غطفان (D) باب ثقیف

10۔ دجال کے وقت مدینہ منورہ کے دروازے ہوں گے۔

(A) 5 (B) 6

(C) 7 (D) 8

11۔ مدینہ کے ہر دروازے پر پہرہ دینے والے فرشتے ہوں گے۔

(A) 5 (B) 4

(C) 3 (D) 2

12۔ دجال سب سے زیادہ مشابہ ہوگا۔

(A) ابن قطن خزاعی کے (B) ابوجہل مخزومی کے

(C) ابولہب ہاشمی کے (D) ابوامیہ کے

13۔ دجال کا سب سے سخت مد مقابل قبیلہ ہوگا۔

(A) بنو ہاشم (B) بنو خزاعہ

(C) بنو تمیم (D) بنو کلب

14۔ دجال کے خلاف مسلمانوں کا لشکر جمع ہوگا شہر

(A) غزہ میں (B) غوطہ میں

(C) کوفہ میں (D) بصرہ میں

15۔ دجال سے جسامت میں بڑی مخلوق ہے۔

(A) ہاتھی (B) دریائی گھوڑا

(C) وہیل مچھلی (D) کوئی بھی نہیں۔

دجال

16. امت مسلمہ میں نبوت کے جھوٹے مدعی دجال ہوں گے تقریباً
(A) 30 (B) 32
(C) 34 (D) 36

17. دجال ہوگا قوم
(A) عیسائی سے (B) یہود سے
(C) ہندو سے (D) بدھ سے

18. دجال نکلے گا مشرقی علاقے
(A) یمن سے (B) مصر سے
(C) شام سے (D) خراسان سے

19. دجال کانا ہوگا آنکھ
(A) دائیں سے (B) بائیں سے
(C) دونوں سے (D) کسی سے بھی نہیں

20. دجال کی آنکھ پھولی ہوگی۔
(A) خوبانی کی طرح (B) آلو بخارے کی طرح
(C) انگور کی طرح (D) کھجور کی طرح

21. دجال کے ساتھ دو چیزیں ہوں گی۔
(A) ہوا و مٹی (B) آگ و پانی
(C) ہوا و آگ (D) پانی و ہوا

22. دجال کے علاوہ بیماری جو مدینہ نہیں آسکتی۔
(A) چیچک (B) کینسر
(C) ٹی بی (D) طاعون

23. سورۃ جس کی پہلی دس آیات یاد کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔
(A) ق (B) کہف
(C) ملک (D) مزمل

24. سمت جس سے دجال مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔
(A) مشرق (B) مغرب
(C) شمال (D) جنوب

25. دجال کی اولاد ہوگی۔
(A) کوئی نہیں (B) 100
(C) 200 (D) 300

26. دجال کا قد ہوگا۔
(A) بہت ہی لمبا (B) درمیانہ
(C) پستہ (D) لمبا

27. پہاڑ جس کے پیچھے دجال پڑاؤ ڈالے گا۔
(A) احد (B) حرا
(C) ثور (D) بدر

جوابات

1. (C) 2. (C) 3. (B) 4. (D) 5. (A) 6. (C) 7. (D) 8. (A)
9. (B) 10. (C) 11. (D) 12. (A) 13. (C) 14. (B) 15. (D) 16. (A)
17. (B) 18 (D) 19. (A) 20. (C) 21. (B) 22. (D) 23. (B) 24. (A)
25. (A) 26. (C) 27. (A)

تاریخ اسلام (متفرق)

1. موجودہ اسلامی صدی کون سی ہے؟
(A) 13 ویں (B) 14 ویں
(C) 15 ویں (D) 16 ویں

2. صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر ____ میں ابھرا۔
(A) پہلی صلیبی جنگ (B) دوسری صلیبی جنگ
(C) تیسری صلیبی جنگ (D) کوئی نہیں

3. بربر قبائل رہائشی تھے۔
(A) جنوبی کوریا کے (B) شمالی افریقہ کے
(C) اندلس کے (D) چین کے

4. فتویٰ قاضی خان ایک مستند فتویٰ ہے۔
(A) فقہ حنبلی (B) فقہ مالکی
(C) فقہ شافعی (D) فقہ حنفی

5. قسطنطنیہ پر پہلا حملہ مسلمانوں نے ____ کے دور میں کیا۔
(A) حضرت علیؓ (B) حضرت معاویہؓ
(C) مروان اوّل (D) حضرت عثمانؓ

6. جنگ طالاس ____
(A) یورپ میں لڑی گئی
(B) شام میں لڑی گئی
(C) مصر میں لڑی گئی
(D) شمالی افریقہ میں لڑی گئی

7. 712ء میں کس مجاہد نے سندھ، ملتان اور پنجاب کے کچھ حصے مسلم سلطنت میں شامل کیے؟
(A) ولید اوّل (B) محمد بن قاسم
(C) حجاج بن یوسف (D) عقبہ بن نافع

8. سب سے پہلے کس بادشاہ نے نبی پاکﷺ کو شاہی تحفہ بھیجا؟
(A) ایران کے حکمران نے (B) ابوالحکم
(C) نجاشی (D) کوئی نہیں

9. کس مسجد میں تقریباً 70 انبیاء دفن ہیں؟
(A) مسجد نبوی (B) مسجد اقصیٰ
(C) مسجد خیف (D) کوئی نہیں

10. کس کو علماء کا اغواء کار کہا جاتا ہے؟
(A) ہارون الرشید (B) ابو جعفر منصور
(C) امین الرشید (D) محمود غزنوی

11. بیت المقدس کی تباہی کے وقت تورات کی تمام نقول تباہ ہو گئیں۔ کس نے ان کو دوبارہ اکٹھا کیا؟
(A) حضرت عزیرؑ (B) حضرت ہارونؑ
(C) حضرت زکریاؑ (D) کوئی نہیں

12. سب سے پہلے کس نے اکبر کے دین الٰہی کے خلاف بغاوت کی؟
(A) حضرت مجدد الف ثانیؒ (B) حضرت شاہ ولی اللہ
(C) خواجہ باقی باللہ (D) کوئی نہیں

13. رابعہ بصری ____
(A) 80 ہجری میں پیدا ہوئیں
(B) 85 ہجری میں پیدا ہوئیں
(C) 88 ہجری میں پیدا ہوئیں
(D) 95 ہجری میں پیدا ہوئیں

14. اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے جسے عوام کے لئے ____ میں کھولا گیا؟

(A) 1987ء (B) 1977ء

(C) 1983ء (D) 1992ء

15. اسلامی ایران کے حکمران کیا کہلاتے تھے؟

(A) قیصر (B) کسریٰ

(C) سلطان (D) کوئی نہیں

16. بنو عدنان ____ کی نسل سے تھے۔

(A) عدیل بن حاتم (D) خسرو پرویز

(C) حضرت اسماعیل (D) کوئی نہیں

17. ابو مسلم خراسانی کو ____ میں قتل کیا گیا۔

(A) 130 ہجری (B) 135 ہجری

(C) 137 ہجری (D) 140 ہجری

18. افریقہ کا پہلا فاتح ____

(A) محمد بن قاسم (B) خالد بن ولید

(C) عقبیٰ بن نافع (D) کوئی نہیں

19. عرب سپین کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟

(A) افریقیہ (B) عروبہ

(C) اندلس (D) کوئی نہیں

20. ابن زیدون ایک ____

(A) مورخ تھا (B) فلسفی تھا

(C) صحافی تھا (D) شاعر تھا

21. الداخل کا اصل نام۔

(A) عبدالرحمن (B) ابن خلدون

(C) ابن بطوطہ (D) عبداللہ

22. دریائے فرات ____ میں ہے۔

(A) ایران (B) عراق

(C) شام (D) مصر

23. سمارا شہر تھا۔۔۔

(A) افغانستان کا (B) ترکی کا

(C) عراق کا (D) مصر کا

24. موسیٰ بن نصیر گورنر تھا۔۔

(A) شمالی افریقہ کا (B) عراق کا

(C) ایران کا (D) شام کا

25. ال ادریسی ایک۔۔

(A) فلسفی تھا (B) مجاہد تھا

(C) مورخ تھا (D) جغرافیہ دان تھا

26. دریائے دجلہ کہاں بہتا ہے؟

(A) عراق (B) ایران

(C) شام (D) مصر

27. خراسان کا دارالحکومت۔۔۔

(A) تہران تھا (B) نیشاپور تھا

(C) دیبل تھا (D) کوئی نہیں

28. تغرل بانی تھا۔

(A) سلطنت غزنوی (B) سلطنت سلجوق

(C) سلطنت غوری (D) سلطنت فارس

29. ترکی اور اس کے حواریوں کے درمیان ہتھیار بندی کا معاہدہ ____ میں ہوا۔

(A) 1520ء (B) 1819ء

(C) 1919ء (D) 1935ء

30. روس نے ترکی پر جنگی جارحیت کا آغاز۔۔

(A) 1718ء میں کیا (B) 1877ء میں کیا

(C) 1978ء میں کیا (D) 2000ء میں کیا

31. دارالامارۃ کی اصطلاح سے مراد ہے۔

(A) گورنر ہاؤس (B) خلیفہ ہاؤس

(C) قاضی (D) پبلک ہال

32. صاحب البدر کا مطلب ہے۔
(A) صوبائی قاضی (B) صوبائی پوسٹ ماسٹر
(C) عسکری سربراہ (D) تعلیمی سربراہ

33. مغل بادشاہ اکبر کا اصل نام تھا۔
(A) نورالدین محمد (B) شہاب الدین محمد
(C) ظہیرالدین محمد (D) جلال الدین محمد

34. بربروں کا تعلق۔
(A) انڈیا سے تھا (B) عراق سے تھا
(C) ایران سے تھا (D) افریقہ سے تھا

35. جمال الدین افغانی پیدا ہوئے۔
(A) انڈیا میں (B) عراق میں
(C) افغانستان میں (D) ایران میں

36. محمد علی حکمران تھے۔
(A) شام (B) عراق
(C) ترکی (D) مصر

37. سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) ریاض (D) کوئی نہیں

38. مسجد قبلتین واقع ہے۔
(A) حبشہ (B) مکہ
(C) طیف (D) مدینہ

39. شام اور لبنان کا دروزی فرقہ (Druzi)۔
(A) غزنوی دور میں پیدا ہوا
(B) فاطمی دور میں پیدا ہو
(C) ایوبی دور میں پیدا ہوا
(D) کوئی نہیں

40. شیخ سعدی ایک۔
(A) مورخ (B) ڈاکٹر
(C) صحافی (D) شاعر

41. Qubbat-us-Sakhra کی تعمیر
(A) مدینہ میں ہوئی
(B) یروشلم میں ہوئی
(C) مکہ میں ہوئی
(D) طیف میں ہوئی

42. Shajarat-ul-Dur _____ کی ملکہ تھی۔
(A) عراق (B) ایران
(C) شام (D) مصر

43. اسحاق موصلی ایک معروف۔۔
(A) موسیقار تھا (B) مورخ تھا
(C) قاضی تھا (D) ڈاکٹر تھا

44. یوسف بن تاشفین کا تعلق سلطنت ____
(A) مواحد سے تھا (B) مرابط سے تھا
(C) اموی سے تھا (D) سلفی سے تھا

45. یرموک۔۔
(A) شام میں واقع ہے۔
(B) مصر میں واقع ہے۔
(C) ایران میں واقع ہے۔
(D) سعودی عرب میں واقع ہے۔

46. میسوپوٹیمیا _____۔
(A) یونانی (Greek) لفظ ہے۔
(B) ترکش لفظ ہے۔
(C) فارسی لفظ ہے۔
(D) فرانسیسی لفظ ہے۔

47. 711 AD میں _____ سپین میں داخل ہوا۔
(A) عبدالرحمٰن اول (B) مروان دوم
(C) طارق بن زیاد (D) کوئی نہیں

48. 670 AD میں شمالی افریقہ کے القیروان کی بنیاد۔۔۔
(A) موسیٰ بن نصیر نے رکھی۔

(B) سلیمان اول نے رکھی۔

(C) عقبہ بن نافع نے رکھی

(D) کوئی نہیں

49. عبدالعزیز نے بادشاہ روڈرک کی بیوہ ایگولونا سے شادی کی جس کو۔

(A) اُم عاصم کے نام سے پکارا گیا۔

(B) اُم کلثوم کے نام سے پکارا گیا۔

(C) اُم حاتم کے نام سے پکارا گیا۔

(D) اُم خلدون کے نام سے پکارا گیا۔

50. 1258 AD میں ______ نے بغداد کو آگ لگا دی۔

(A) امویوں (B) منگولوں

(C) عثمانیوں (D) کوئی نہیں

51. فرانسیسی بادشاہ جس نے 777 AD میں سپین پر حملہ کیا۔

(A) روڈرک (B) Charlemagne

(C) الفونسو (D) کوئی نہیں

52. عرب سپین میں---

(A) 711 AD میں داخل ہوئے

(B) 750 AD میں داخل ہوئے

(C) 80 AD میں داخل ہوئے

(D) کوئی نہیں

53. کس خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر کو دمشق میں بلوایا؟

(A) الولید (B) عبدالعزیز

(C) عبدالمالک (D) کوئی نہیں

54. کس نے موسیٰ بن نصیر کو سپین میں مہم جوئی کرنے پر سزا دی؟

(A) الولید (B) عبدالعزیز

(C) سلیمان (D) امرتقی

55. سپین پر ایک سو سال حکومت کرنے کے بعد کس نے یمنیوں کو باری دینے سے انکار کر دیا؟

(A) عبدالرحمن دوم (B) ال حکم

(C) الولید (D) عبدالرحمن الغمری

56. فسطاط کے شہر کو ______

(A) عمر بن العاص نے قائم کیا۔

(B) حضرت عمرؓ نے قائم کیا

(C) حضرت خالدؓ بن ولید نے قائم کیا۔

(D) الولید دوم نے قائم کیا۔

57. سیاست نامہ کو۔

(A) فردوسی نے تحریر کیا

(B) مسعودی نے تحریر کیا۔

(C) مدواردی نے تحریر کیا۔

(D) نظام الملک نے تحریر کیا۔

58. احمد بن تکون نے تکونی سلطنت کی بنیاد ____ میں رکھی۔

(A) فارس (B) شام

(C) عراق (D) مصر

59. جب مسلمانوں نے سپین میں مہم جوئی کی اس وقت وہاں کا بادشاہ تھا۔

(A) روڈرک (B) الہم II

(C) فرینکلن (D) کوئی نہیں

60. مسلمانوں کے دور حکومت میں سپین کا دارالحکومت تھا۔

(A) غرناطہ (B) قلیدو

(C) خراسان (D) کوئی نہیں

61. ______ مسلم سپین کا پہلا گورنر تھا۔

(A) طریف (B) عبدالعزیز

(C) طارق بن زیاد (D) بایزید II

62. عبدالرحمن الداخل 788ء میں ____ سالہ دور حکومت کے بعد انتقال کر گیے۔

(A) 40 (B) 38

(C) 45 (D) 32

63. ہاشم بن عبدالرحمن نے سپین میں کون سا فقہ متعارف کروایا۔
(A) حنفی (B) شافعی
(C) حنبلی (D) مالکی

64. الناصر کا تعمیر کروایا ہوا خوبصورت محل تھا۔
(A) الزہرہ (B) الحمرا
(C) القرطبہ (D) کوئی نہیں

65. فاطمی سلطنت کا پہلا خلیفہ۔
(A) عبیداللہ (B) عبداللہ المہدی باللہ
(C) ال سراج تھا (D) کوئی نہیں

66. جنگ Zallaqa یا جنگ Sagrajas الفانسو اور ______ کے درمیان لڑی گئی۔
(A) ہاشم المنصور (B) یوسف بن تاشفین
(C) طارق بن زیاد (D) کوئی نہیں

67. سپین میں مورز (Moors in Spain) کو ______ نے تحریر کیا۔
(A) جے جے سنڈر (B) پی کے ہاٹی
(C) لین پول (D) کوئی نہیں

68. عبدالرحمن الناصر نے امیر المومنین کا لقب ______ میں اختیار کیا۔
(A) 313 AH (B) 317 AH
(C) 300 AH (D) کوئی نہیں

69. فنون لطیفہ کی وہ شاخ جس میں مسلمانوں نے لاثانی کامیابی حاصل کی۔
(A) خطاطی (B) مصوری
(C) فن تعمیر (D) کوئی نہیں

70. جبرالٹر کا نام ______
(A) موسیٰ بن نصیر کے نام پر رکھا گیا
(B) الطفیل کے نام پر رکھا گیا
(C) عقبی بن نافع کے نام پر رکھا گیا
(D) طارق بن زیاد کے نام پر رکھا گیا۔

71. سقوط غرناطہ ______ میں ہوا۔
(A) 1429 AD (B) 1492 AD
(C) 1592 AD (D) کوئی نہیں

72. مولدون (Muwalledun) کون تھے؟
(A) ہسپانوی نومسلم (B) افریقی غلام
(C) عرب فوجی (D) مغربی مزدور

73. جزیرہ نما آئبیریا حصہ ہے۔
(A) افریقہ کا (B) ایشیا کا
(C) یورپ کا (D) کوئی نہیں

74. معبد ذیم ______ میں واقع ہے؟
(A) یمن (B) عراق
(C) ایران (D) سعودی عرب

75. شہر سامرہ کو ______ نے تعمیر کیا۔
(A) المہدی (B) المنصور
(C) المعتصم (D) کوئی نہیں

76. مروان بیٹا تھا۔
(A) الولید کا (B) سلیمان II کا
(C) یزید I کا (D) حکم کا

77. موسیٰ بن نصیر نے ______ کے کچھ حصوں کو فتح کیا۔
(A) عراق (B) افریقہ
(C) ایران (D) ہسپانیہ

78. 89 AH میں افریقہ کا وائسرائے کون بنا؟
(A) موسیٰ بن نصیر (B) طارق بن زیاد
(C) یزید بن مغلب (D) عمر بن عبدالعزیز

79. جب افریقہ امویوں کے قبضے میں تھا تب سپین ______
(A) گوتھ (Goth) کے قبضے میں تھا۔
(B) یہودیوں کے قبضے میں تھا۔
(C) عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔
(D) مغلوں کے قبضے میں تھا۔

80. پہلی مرتبہ عبدالملک نے خالصتاً اسلامی سکہ ____ کے نام سے جاری کیا۔
(A) درہم (B) دینار
(C) پونڈ (D) کوئی نہیں

81. فردوسی ____ شاعر تھا۔
(A) فارسی (B) افریقی
(C) ایشیائی (D) عربی

82. ام المنین ایک ____ قابل ذکر خاتون تھیں۔
(A) عرب (B) ہسپانوی
(C) مصری (D) شامی

83. قاضی بن یحییٰ کے پاس گورنری تھی۔
(A) خراسان کی (B) مصر کی
(C) دونوں کی (D) کسی کی نہیں

84. کس کے دور حکومت میں مالکی فقہ کو سپین میں متعارف کروایا گیا۔
(A) ہاشم (B) عبدالرحمٰن
(C) عبداللہ (D) یزید

85. عربی حروف میں نقاط (Dots) کو ____ نے متعارف کروایا۔
(A) حجاج بن یوسف (B) یحییٰ برکی
(C) حسن بصری (D) الولید II

86. ہلاکو خان نے کب بغداد کا تختہ الٹا اور اس کو فتح کیا؟
(A) 1260 AD (B) 1265 AD
(C) 1271 AD (D) 1258 AD

87. قسطنطنیہ کو ____ نے فتح کیا۔
(A) محمد II (B) سلیمان II
(C) مراد II (D) یزید II

88. حبشہ کا جدید نام۔
(A) افریقہ (B) ایتھوپیا
(C) سوڈان (D) یمن

89. سپین کو ____ نے فتح کیا۔
(A) محمد غزالی (B) موسیٰ بن نصیر
(C) طارق بن زیاد (D) مروان II

90. ابن طفیل ____ میں رہتے تھے۔
(A) مصر (B) سپین
(C) شام (D) ایران

91. قرطبہ ____
(A) لیبیا کا شہر تھا۔
(B) ال اندلس کا شہر تھا
(C) لبنان کا شہر تھا۔
(D) مصر کا شہر تھا۔

92. بوسنیا حصہ تھا۔
(A) ترک سلطنت کا (B) برطانوی سلطنت کا
(C) فارسی سلطنت کا (D) ہسپانوی سلطنت کا

93. کون سا شہر عروس البلاد کہلاتا تھا؟
(A) بغداد (B) قرطبہ
(C) دمشق (D) مدینہ

94. قسطنطنیہ میں سب سے پہلے جہاد کے کمانڈر تھے۔
(A) خالد بن ولید (B) یزید بن معاویہ
(C) قتیبہ بن مسلم (D) کوئی نہیں

95. ہاشم ____ میں دمشق کا سربراہ بنا۔
(A) 724 (B) 717
(C) 1719 (D) 720

96. سرہند کے شیخ احمد کو ____ نے مجدد الف ثانی کا لقب دیا۔
(A) شاہ ولی اللہ (B) علامہ اقبال
(C) مولانا عبدالحلیم (D) کوئی نہیں

97. حضرت بابا فرید گنج شکر نے ____ کی بیٹی سے شادی کی۔
(A) قطب الدین ایبک (B) بایزید II
(C) الولید (D) کوئی بھی نہیں

98. "بت پرست واجب القتل ہیں" کس نے اس فیصلے کی تردید کی؟

(A) محمود غزنوی (B) شمس الدین التمش

(C) جلال الدین دروزی (D) حکم بن یزید

99. مسلم تاریخ میں پہلے دشمن جاسوس کا نام بتائیں جسے گرفتار کیا گیا؟

(A) عبداللہ بن ابی (B) ابوسفیان

(C) ہاشم بن اصابہ (D) کوئی نہیں

100. نبی پاکؐ کی پہلی سوانح عمری ______ نے تحریر کی۔

(A) ابن ہشام (B) ابن یزید

(C) ابن حاکم (D) ابن ولید

101. مزدلفہ ____ کے درمیان واقع ہے۔

(A) منیٰ اور عرفات (B) عرفات اور مکہ

(C) مکہ اور مدینہ (D) مدینہ اور عرفات

102. مسجد وزیر خان ______ میں واقع ہے۔

(A) ملتان (B) ٹھٹھہ

(C) کراچی (D) لاہور

103. پاکستان میں عشر ____ سے اکٹھا کیا جانے لگا۔

(A) 1982-83 کی ربیع فصل

(B) 1982-83 کی خریف فصل

(C) 1983-84 کی ربیع فصل

(D) 1983-84 کی خریف فصل

104. کس مسلم حکمران کی حکمرانی میں وسطی ایشیاء اسلامی سلطنت کا حصہ بنا؟

(A) یزید (B) ولید I

(C) خالد بن ولید (D) حکم

105. اس پہلے شاعر کا نام بتائیں جسے نبی پاکؐ نے انعام دیا؟

(A) ابوجندل (B) اسامہ بن زید

(C) کعب بن زوہیر (D) کوئی نہیں

106. دمشق کی جامع مسجد کو کس نے تعمیر کروایا؟

(A) حضرت امیر معاویہؓ

(B) مروان بن حکم

(C) ولید بن عبدالمالک

(D) ہاشم

107. معتزلہ ایک اسلامی مکتبہ فکر ہے جس نے 8 سے 10 صدی میں کہاں فروغ دیا؟

(A) بصرہ (B) بغداد

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

108. کس کے دورِ حکومت میں مسجد نبوی آگ لگنے کی وجہ سے متاثر ہوئی؟

(A) حضرت امیر معاویہؓ

(B) سیف بن عبدالمالک

(C) مستعصم باللہ

(D) مامون الرشید

109. لاہور میں واقع بادشاہی مسجد کو ______ نے تعمیر کروایا۔

(A) اکبر (B) شاہجہان

(C) جہانگیر (D) اورنگ زیب

110. مدینہ ہجرت کے بعد کعبہ کے رخ کا مدینہ میں منتقلی ایک خاص اہمیت کا حامل واقعہ ہے کیونکہ۔

(A) اس نے مسلمانوں اور نبی پاکؐ کی وفاداری کو مضبوط کیا۔

(B) یہ اللہ کی مرضی کا نتیجہ تھا۔

(C) یہودی دشمن تھے اس لئے کعبہ کا رخ یروشلم رکھنا بہتر نہ تھا۔

(D) نبی پاکؐ حضرت خدیجہؓ کی وفات سے پریشان تھے، اس سے وہ یہ غم بھول گئے۔

111. 1714ء ڈی میں چینی ترکستان تک مسلمانوں نے مہم جوئی کی اور کہا جاتا ہے کہ کاشغر (Kashghar) کو ______ نے فتح کیا؟

(A) ولید I (B) یزید بن محلب
(C) حجاج بن یوسف (D) قطبہ بن مسلم

112. مینار (اذان کے لیے) کو ____ نے متعارف کروایا۔
(A) حضرت بلالؓ (B) نبی پاکؐ
(C) معاویہؓ (D) خلیفہ عمرؓ

113. مصوری مسلمانوں میں عروج حاصل نہ کر سکی کیونکہ ____
(A) قرآن نے ہر قسم کی مصوری کو ممنوع قرار دیا ہے۔
(B) نبی پاکؐ نے بشمول قدرتی مناظر کے انسانوں اور جانوروں کی مصوری سے منع فرمایا ہے۔
(C) مسلم علمائے دین نے اس سے منع فرمایا ہے۔
(D) کوئی نہیں۔

114. خطاطی کے فن کو عربوں نے بہت عروج دیا کیونکہ ان کی دلچسپی۔
(A) قرآن لکھنے میں تھی۔
(B) حدیث لکھنے میں تھی۔
(C) ہر چیز لکھنے میں تھی۔
(D) کوئی نہیں

115. اسلام فار ایسٹ میں بذریعہ ____
(A) تبلیغ سے پھیلا (B) جہاد سے پھیلا
(C) تجارت سے پھیلا
(D) نبی پاکؐ کے ساتھیوں کی کوششوں سے پھیلا۔

116. اتاترک کے صدر بننے سے ترک تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا، اس کی اصلاحات میں:
(A) ترک قوم پرستی کا آغاز شامل ہے۔
(B) سیکولرازم شامل ہے۔
(C) مغربیت شامل ہے۔
(D) الحاد پرستی شامل ہے۔

117. مصر کے محمد عبدہ کا لقب استاد الاسلام تھا، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ____ کے میدان میں کام کریں۔
(A) اخلاقیات۔ (B) اجتہاد۔
(C) عربی ادب۔ (D) اسلامی فلسفہ

118. جماعت الاخوان المسلمین کو حسن البنا نے مصر میں شروع کیا جو ایک ____
(A) اجتہادی تحریک ہے۔
(B) مسلم دنیا کے Revival کی سب سے طاقتور تحریک ہے۔
(C) مصر میں شریعت کے نفاذ کی تحریک ہے۔
(D) پین اسلامک تحریک ہے۔

119. سپین کا پہلا مسلم حکمران ....
(A) عبدالرحمٰن I (B) عبدالرحمٰن II
(C) عبدالرحمٰن III (D) عبدالرحمٰن IV

120. کس رومن گورنر نے حضرت عیسیٰؑ کو پھانسی کا حکم دیا تھا؟
(A) Politus (B) Holitus
(C) Laoctus (D) کوئی نہیں

121. عبدالحمید ابن بادیس اسلامی دنیا کا اہم نام ہے، ان کے نام پر لاہور کی ایک سڑک بھی ہے۔ ان کا تعلق ____ سے ہے۔
(A) لیبیا (B) الجیریا
(C) مصر (D) مراکش

122. جرح و تعدیل سے مراد ہے۔
(A) حدیث کی سچائی پرکھنے کا طریقہ۔
(B) عدالت میں کراس معائنہ اور فیصلہ۔
(C) مالی تلافی۔
(D) کوئی نہیں۔

123. یہودیوں نے 1969ء میں مسجد الاقصیٰ کو آگ لگا دی جس کے نتیجے میں ایک اسلامی کانفرنس وجود میں آئی جو کہ آج ____ کہلاتی ہے۔
(A) او آئی سی (B) عرب لیگ
(C) آر سی ڈی (D) عرب کنونشن

124. خلیفہ عمرؓ نے عشور نامی نیا ٹیکس عائد کیا جو کہ ____ لیا جاتا ہے۔
(A) غیر ملکیوں سے 10% کی شرح سے
(B) غیر مسلم ریاستوں کے تاجروں سے
(C) نئے مفتوح علاقوں کی زراعت سے
(D) امیر تاجروں کی آمدنی سے

125. دیوان عمر سے مراد ہے؟
(A) دیوان میں رکھا ایک رجسٹر۔
(B) خلیفہ عمر کا عوامی خزانہ۔
(C) خلیفہ عمر کا عوامی سیکرٹریٹ۔
(D) بیواؤں اور یتیموں کی پنشن اور مراعات۔

126. مشرق وسطیٰ میں واقع اردن کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ
(A) یہ 1000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا علاقہ ہے۔
(B) اسرائیل کے ساتھ باقی عرب ممالک کی نسبت سب سے زیادہ سرحد رکھتا ہے۔
(C) اس کی شام، عراق اور سعودی عرب کے ساتھ ایک طویل سرحد ہے۔
(D) اس کے پاس مغربی کنارے کا علاقہ ہے جو کہ بہت زیادہ عسکری اہمیت کا حامل ہے۔

127. اذان کی ابتدا کب ہوئی؟
(A) ہجرت مدینہ کے فوری بعد
(B) ہجرت مدینہ کے ایک سال بعد
(C) ہجرت مدینہ کے دو سال بعد
(D) واقعہ معراج کے فوری بعد

128. ۲۸ھ میں قبرص پر حملے کے لیے بحری بیڑہ تیار کیا گیا۔ یہ بتائیں کس نے تیار کروایا۔
(A) حضرت عثمان (B) حضرت عبداللہ بن قیس
(C) حضرت معاویہ (D) حضرت علی

129. یہ آپ ﷺ نے کب فرمایا کہ "کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ کسی کالے کو کسی سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت صرف تقویٰ کی بنا پر ہے۔"
(A) بنو ہاشم کو دعوت تبلیغ کے وقت
(B) قریش کو کوہ صفا پر دعوت کے وقت
(C) فتح مکہ کے وقت
(D) حجۃ الوداع کے وقت

130. شداد جس نے بیس بائیس سال میں مصنوعی جنت مکمل کرائی کس ملک کا بادشاہ تھا۔
(A) فلسطین (B) مصر
(C) شام (D) یمن

131. "ایام العرب" سے مراد ہے۔
(A) عربوں کے دور حکومت
(B) عربوں کی بادشاہتیں
(C) عربوں کی تجارت
(D) عربوں کی معرکہ آرائیاں

132. ہندوستان کا پہلا شخص جو مشرف بہ اسلام ہوا۔
(A) کرنگ نور (B) بابر غوری
(C) تیمور لنگ (D) کرنگ خان

133. کرنگ نور جس کی تبلیغ پر مشرف بہ اسلام ہوا۔
(A) مشرف بن احسنؓ (B) مشرف بن مالکؓ
(C) مشرف بن خالدؓ (D) مشرف بن عوفؓ

134. داتا صاحب غزنی سے لاہور تشریف لائے۔
(A) 1035 میں (B) 1031 میں
(C) 1028 میں (D) 1032 میں

135. داتا صاحب نے لاہور میں کتنا عرصہ تبلیغ کی؟
(A) 10 سال (B) 20 سال

(C) 30 سال
(D) 40 سال

136. جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟
(A) مروان بن حکم
(B) ولید بن مغیرہ
(C) یزید ابن حکم
(D) عبدالملک بن مروان

137. یزید کی جانشینی کی مخالفت کی ______
(A) حضرت امام حسینؓ
(B) حضرت عبداللہ بن زبیرؓ
(C) حضرت عبداللہ بن عمرؓ
(D) تمام

138. حدیث ہے کہ جو ______ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔
(A) دمشق
(B) بغداد
(C) مکہ
(D) قسطنطنیہ

139. شیخ الاکبر کون کہلاتے ہیں؟
(A) حضرت ابوبکر محی الدین ابن عربی
(B) حضرت ابوبکر علاؤ الدین ابن عربی
(C) حضرت ابوبکر زکریا الدین ابن عربی
(D) کوئی نہیں

140. کوہ صفا کا دوسرا نام ______
(A) کوہ جودی
(B) کوہ فاران
(C) کوہ اعلیٰ
(D) کوہ جاند

141. مدینۃ الزہرا کس اندلسی خلیفہ نے تعمیر کیا؟
(A) خلیفہ ابن ابی عامر
(B) خلیفہ ابن ابی معتصم
(C) خلیفہ ابن ابی عبداللہ
(D) خلیفہ ابن ابی مالک

142. تبع لقب تھا۔
(A) ایران کے ہر بادشاہ کا
(B) مصر کے ہر بادشاہ کا
(C) شام کے ہر بادشاہ کا
(D) یمن کے ہر بادشاہ کا

143. سلطان محمد فاتح نے کب قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کیا؟
(A) 1451
(B) 1452
(C) 1453
(D) 1454

144. پاکستان نے غلاف کعبہ بنانے کی سعادت کب حاصل کی؟
(A) 1960 میں
(B) 1963 میں
(C) 1965 میں
(D) 1968 میں

145. مشہور تعلیمی ادارے فرنگی محل کی عمارت کس شہر میں ہے؟
(A) لکھنؤ (انڈیا)
(B) سیالکوٹ (پاکستان)
(C) ممبئی (انڈیا)
(D) گوجرانوالہ (پاکستان)

146. ابراہیم حقی پاشا ترک ______ کے وزیر اعظم تھے۔
(A) عثمانی سلطنت
(B) اموی سلطنت
(C) حنفی سلطنت
(D) صفوی سلطنت

147. ابراہیم عثمانی، عثمانی سلطنت کے کون سے خلیفہ تھے؟
(A) 18 ویں
(B) 17 ویں
(C) 16 ویں
(D) 15 ویں

148. ابراہیم لودھی نے پانی پت کے میدان میں کب وفات پائی؟
(A) 1521
(B) 1523
(C) 1526
(D) 1528

149. ابراہیم متفرقہ کس ملک میں طباعت کا موجد تھا؟
(A) ایران
(B) ترکی
(C) مصر
(D) عراق

150. باب علی محمد کس ملک کی بابی تحریک کا بانی تھا؟
(A) ایران
(B) شام
(C) یونان
(D)

151. بخت نصر نے کس قدیم سلطنت کی بنیاد رکھی؟
(A) بابلی
(B) صفوی
(C) بابلی
(D) کوئی نہیں

152. بری امام (عبداللطیف) نے کہاں جنم لیا؟
(A) سیالکوٹ
(B) سرگودھا
(C) جہلم/چکوال
(D) راولپنڈی

153. ٹیپو سلطان کب پیدا ہوئے؟
(A) 20 نومبر 1750 (B) 20 نومبر 1751
(C) 20 نومبر 1753 (D) 20 نومبر 1753

154. دجال جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا کا لغوی مطلب ہے۔
(A) جھوٹا مسیح (B) شیطان
(C) دھوکہ دینے والا (D) کوئی نہیں

155. کب طارق بن زیادہ اندلس فتح کرنے روانہ ہوئے؟
(A) 90 ہجری (B) 92 ہجری
(C) 93 ہجری (D) 94 ہجری

156. 92 ہجری میں طارق بن زیاد نے ______
(A) کنگ راڈرک کو شکست دی
(B) طلیطلہ (To Ledo) تک علاقے فتح کر لیے
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

157. 93 ہجری میں کون اپنے لشکر کے ساتھ جبل الطارق پر اترے؟
(A) موسیٰ بن نصیر (B) طارق بن زیاد
(C) عبداللہ بن عمرو (D) حسان بن نعمان

158. کب رومی بحری بیڑے نے کریٹ پر یلغار کی اور شکست کھائی؟
(A) 293 ہجری (B) 295 ہجری
(C) 298 ہجری (D) 300 ہجری

159. کب عثمانیوں نے صوفیہ (بلغاریہ) کو فتح کیا؟
(A) 785 ہجری (B) 786 ہجری
(C) 787 ہجری (D) 788 ہجری

160. 791 ہجری میں کس عثمانی سلطان نے کوسوو کے معرکے میں فتح حاصل کی؟
(A) مراد اول (B) مراد دوم
(C) مراد سوم (D) مراد چہارم

161. 818 ہجری میں عثمانیوں نے مغربی ترکی کا کون سا شہر فتح کیا؟
(A) ازمیر (B) استنبول
(C) صوفیہ (D) کوئی نہیں

162. کنواں چاہ یوسف کہاں ہے؟
(A) شام (B) مصر
(C) اردن (D) ایران

163. ولید بن عبدالملک نے اپنے دور میں ______
(A) جامع مسجد دمشق تعمیر کی
(B) مسجد نبوی کی تزئین کی
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

164. حرم شریف میں کرین حادثہ کب ہوا؟
(A) ذی الحج 1435ھ (B) ذی قعد 1435ھ
(C) ذی قعد 1436ھ (D) ذی الحج 1437ھ

165. ظہیر الدین بابر نے کس ہندوستانی حکمران کو شکست دے کر سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی؟
(A) راجہ اشوک (B) ابراہیم لودھی
(C) قطب الدین ایبک (D) محمد غوری

166. یاجوج ماجوج کو پس دیوار کس نے بند کیا؟
(A) سلیمان (B) ذوالقرنین
(C) سکندر (D) ان میں سے کوئی نہیں

167. مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟
(A) 300 (B) 400
(C) 500 (D) 1000

168. کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی۔
(A) امام مالکؒ (B) امام شافعیؒ
(C) امام احمد بن حنبلؒ (D) امام ابوحنیفہؒ

169. برصغیر کے اس معروف عالم دین کا نام بتایئے جو ماہر معیشت بھی تھے؟
(A) شاہ رفیع الدین
(B) مجدد الف ثانی

(C) شاہ ولی اللہ

(D) مولانا قاسم نانوتوی

170. تیسری صلیبی جنگ میں عیسائی فوجیوں کی سربراہی کون کر رہا تھا؟

(A) سٹیفن (B) آرنلڈ

(C) چرچل (D) رچرڈ

171. عرب خطرے کا اعلان کیسے کرتے تھے؟

(A) آگ لگا کر (B) تالیاں پیٹ کر

(C) یا صباحاہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

172. "خلق افعال العباد" (آدمی اپنے اعمال کا خود خالق ہے) کس کا نظریہ ہے؟

(A) ماتریدیہ (B) معتزلہ

(C) اشاعرہ (D) مرجئہ

173. اس مسلمان شخصیت کا نام بتائیں جنھیں سب سے پہلے نوبل انعام ملا؟

(A) انور سادات (B) ڈاکٹر عبدالسلام

(C) شیریں آبادی (D) یاسر عرفات

174. صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟

(A) بصرہ (B) قاہرہ

(C) دمشق (D) یروشلم

175. صاحبین کن فقہا کو کہا جاتا ہے۔

(A) امام ابوحنیفہ وامام ابویوسف

(B) امام ابوحنیفہ اور امام زفر

(C) امام محمد اور امام ابویوسف

(D) امام مالک وامام زفر

176. غار کہف کس ملک میں واقع ہے؟

(A) اُردن (B) عراق

(C) مصر (D) سعودی عرب

177. شیخ عبدالقادر جیلانی کا مزار کس شہر میں ہے؟

(A) بغداد (B) موصل

(C) بصرہ (D) حلب

178. شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر کتنے سال حکومت کی؟

(A) پندرہ سال (B) دس سال

(C) پانچ سال (D) تین سال

179. ملک الملوک العادلہ کس کا لقب ہے؟

(A) حضرت اسرافیل (B) حضرت ذوالقرنین

(C) حضرت امام مہدی (D) کوئی نہیں

180. هادم اللذات لقب ہے:

(A) حضرت اسرافیل (B) حضرت میکائیل

(C) حضرت عزرائیل (D) حضرت جبرائیل

181. صاحب الزمان کس کا لقب ہے؟

(A) حضرت امام مہدی (B) حضرت عباس

(C) حضرت عیسیٰ (D) کوئی نہیں

182. مورخ، فقیہ، فلسفی اور سیاستدان ہے۔

(A) شمس الدین بن خلکان

(B) عبدالرحمان بن خلدون

(C) ابوبکر محمد یحیٰ (D) محمد بن عیسیٰ

(E) کوئی نہیں

183. پاکستان کے کس آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا؟

(A) 1956ء (B) 1971ء

(C) 1973ء (D) 1980ء

184. قائداعظم کا مزار کس شہر میں ہے؟

(A) کوئٹہ (B) پشاور

(C) کراچی (D) لاہور

185. آخری مغل حکمران کا نام

(A) اکبر (B) بہادر شاہ ظفر

(C) اورنگ زیب عالمگیر (D) جہانگیر

186. حرم شریف میں کرین حادثہ کب ہوا؟
(A) ذی الحج 1435ھ (B) ذی قعد 1435ھ
(C) ذی قعد 1436ھ (D) ذی الحج 1437ھ

187. ظہیر الدین بابر نے کس ہندوستانی حکمران کو شکست دے کر سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی؟
(A) راجہ اشوک (B) ابراہیم لودھی
(C) قطب الدین ایبک (D) محمد غوری

188. ابن خلدون کہاں پیدا ہوئے؟
(A) قرطبہ (B) بغداد
(C) تیونس (D) شام

189. شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر کتنے سال حکومت کی؟
(A) پندرہ سال (B) دس سال
(C) پانچ سال (D) تین سال

190. پاکستان کے کس صوبے کو "باب اسلام" کہا جاتا ہے؟
(A) سندھ (B) پنجاب
(C) سرحد (D) بلوچستان

جوابات

1. (C)	2. (C)	3. (B)	4. (D)	5. (B)	6. (D)	7. (B)	8. (C)
9. (C)	10.()	11.(A)	12.(C)	13.(D)	14.(A)	15.(B)	16.(C)
17.(C)	18.(C)	19.(C)	20.(D)	21.(A)	22.(B)	23.(C)	24.(A)
25.(D)	26.(A)	27.(B)	28.(B)	29.(C)	30.(B)	31.(A)	32.(B)
33.(D)	34.(D)	35.(C)	36.(D)	37.(C)	38.(D)	39.(C)	40.(D)
41.(B)	42.(D)	43.(A)	44.(B)	45.(A)	46.(A)	47.(C)	48.(C)
49.(A)	50.(B)	51.(B)	52.(A)	53.(A)	54..(C)	55.(D)	56.(A)
57.(D)	58.(D)	59.(A)	60.(A)	61.(B)	62.(D)	63.(D)	64.(B)
65.(B)	66.(B)	67.(C)	68.(B)	69.(C)	70.(D)	71.(B)	72.(A)
73.(C)	74.(B)	75.(A)	76.(D)	77.(B)	78.(A)	79.(A)	80.(B)
81.(A)	82.(A)	83.(C)	84.(B)	85.(A)	86.(D)	87.(A)	88.(B)
89.(C)	90.(B)	91.(B)	92.(A)	93.(C)	94.(C)	95.(A)	96.(B)
97.(D)	98.(B)	99.(C)	100.(A)	101.(A)	102.(D)	103.(A)	104.(B)
105.(C)	106.(C)	107.(C)	108.(C)	109.(D)	110.(B)	111.(C)	112.(D)
113.(A)	114.(A)	115.(C)	116.(B)	117.(B)	118.(C)	119.(A)	120.(A)
121.(C)	122.(A)	123.(A)	124.(C)	125.(D)	126.(B)	127.(A)	128.(A)
129.(D)	130.(D)	131.(D)	132.(A)	133.(B)	134.(A)	135.(C)	136.(D)
137.(D)	138.(D)	139.(A)	140.(B)	141.(A)	142.(D)	143.(C)	144.(B)
145.(A)	146.(A)	147.(A)	148.(C)	149.(B)	150.(A)	151.(C)	152.(C)
153.(A)	154.(A)	155.(B)	156.(C)	157.(B)	158.(C)	159.(A)	160.(A)
161.(A)	162.(A)	163.(C)	164.(D)	165.(B)	166.(B)	167.(B)	168.(D)
169.(C)	170.(D)	171.(C)	172.(B)	173.(A)	174.(B)	175.(C)	176.(A)
177.(A)	178.(A)	179.(B)	180.(C)	181.(A)	182.(B)	183.(C)	184.(C)
185.(B)	186.(D)	187.(B)	188.(C)	189.(C)	190.(A)		

مشہور اسلامی کتابیں

1. مندرجہ ذیل کتب میں سے کون سی کتاب شبلی نعمانی نے لکھی؟
(A) الفاروق (B) المامون
(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

2. کس مصنف نے آئینہ اسلام کے نام سے کتاب لکھی؟
(A) الغزالی (B) الفاروقی
(C) خواجہ احمد دین (D) ابن سینا

3. اس مشہور عالم دین کا نام بتائیں جس نے احیائے علوم الدین لکھی؟
(A) اسحاق کندھی (B) ابن ترابی
(C) علامہ طبریزی (D) الغزالی

4. ان میں سے کون سی تصنیف سید اسعد گیلانی کی ہے؟
(A) پیغام رسول
(B) رسول اللہ کی حکمت انقلاب
(C) A اور B دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

5. درج ذیل میں سے کس مصنف نے ایک کتاب رسول پاک کی سیاسی زندگی کے نام سے تصنیف کی؟
(A) ڈاکٹر قدرت اللہ (B) ڈاکٹر حمید اللہ
(C) ڈاکٹر طاہر القادری (D) غلام ربانی

6. سیرت طیبہ کے نام سے کتاب کس نے لکھی؟
(A) پروفیسر خالد (B) پروفیسر میر حسن
(C) غلام ربانی (D) پروفیسر خالد علوی

7. مصفہ کس کی تحریر ہے؟
(A) ڈاکٹر طاہر القادری (B) پروفیسر میر حسن
(C) شاہ ولی اللہ (D) کوئی نہیں

8. انسان کامل کے نام سے لکھی جانیوالی کتاب کے مصنف کا نام بتائیں؟
(A) ڈاکٹر طاہر القادری (B) ڈاکٹر خالد
(C) خالد عمران (D) ڈاکٹر خالد علوی

9. مصنف کا نام بتائیں جس نے خلافت وملوکیت کے نام سے کتاب تحریر کی؟
(A) الماروردی (B) سید ابوالاعلیٰ مودودی
(C) سید قطب شاہ (D) یعقوب سروش

10. اس ہندو مصنف کا نام بتائیں جس نے "عرب کا چاند" کے عنوان سے سیرت نبیؐ پر کتاب لکھی؟
(A) اجے سنگھ (B) سوامی پرشاد
(C) لکشمن پرشاد (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

11. کس مصنف نے "اسلامی ریاست" اور "سیرت سرور عالم" کے نام سے کتب تحریر کیں؟
(A) مولانا وحید الدین خان (B) پروفیسر غلام ربانی
(C) سید ابوالاعلیٰ مودودی (D) مولانا شبلی نعمانی

12. مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب یا کتب مولانا شبلی نعمانی نے تصنیف کی/ کیں؟
(A) المامون (B) سیرت النبیؐ
(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی بھی نہیں

13. ان میں سے کون سی کتاب علامہ ابن کثیر کی تفسیر ہے؟
(A) تفسیر ابن کثیر (B) تفسیر کوثر
(C) تفسیر قرآن (D) تفسیر القرآن العظیم

14. امام فخر الدین رازی نے مفاتیح الغیب کے نام سے ایک کتاب تحریر کی؟
(A) اردو (B) عربی
(C) فارسی (D) فرانسیسی

15. معارف القرآن کے نام سے کس نے قرآن کی تفسیر تحریر کی؟
(A) سید ابوالاعلیٰ مودودی (B) اسحاق ابن احمد
(C) مفتی محمد شفیع (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

16. معارف حدیث کے مصنف کا نام بتائیں؟
(A) مولانا منظور احمد نعمانی (B) سید ابوالاعلیٰ مودودی
(C) مولانا اسحاق تبریزیؒ (D) مولانا شبلی نعمانی

17. عہد نبوی کے میدان جنگ کے عنوان سے کس نے کتاب تحریر کی؟
(A) ڈاکٹر حمید اللہ (B) علامہ رحمت فاروقی
(C) سید ابوالاعلیٰ مودودی (D) امین احسن اصلاحی

18. ''موطا امام مالک'' حدیث پر ایک کتاب ہے اس کی انفرادی خصوصیت کیا ہے؟ (EX.2000P.C.S)
(A) یہ حدیث پر پہلی کتاب ہے
(B) اس میں احادیث کی تعداد دوسری کتابوں سے زیادہ ہے
(C) اس میں احادیث کی تعداد دوسری کتب کے مقابلے میں سب سے کم ہے
(D) یہ حدیث پر لکھی جانے والی آخری کتاب ہے

19. ''الام'' کے نام سے کس نے کتاب تحریر کی؟ (P.C.S Judicial 2001)
(A) امام مالک (B) امام شافعی
(C) امام احمد (D) امام ابوحنیفہ

20. ''الھدیٰ'' کے مصنف کا نام بتائیں؟
(A) امام شافعی (B) امام مالک
(C) امام احمد (D) امام ابوحنیفہ

21. ال احکم سلطانیہ کو لکھا۔
(A) ابن خلدون نے (B) الموردی نے
(C) الفارابی نے (D) ہلاکو خان نے

22. کارل بروکلمین مصنف تھا۔
(A) اسلامی لوگوں کی تاریخ (History of Islamic People)
(B) اسلام کی تاریخ (History of Islam)
(C) اسلامی قوانین (Islamic Laws)
(D) اسلامی دنیا (Islamic World)

23. سپین میں مسلمانوں کی تاریخ (History of Muslim in Spain) کا مصنف ---
(A) میکیلین (B) فریک کاس
(C) یاقوت (D) کوئی نہیں

24. تاریخ میں اسلام (Islam in History) کا مصنف۔
(A) ابن خلدون (B) ندوی
(C) محمد منیر (D) کوئی نہیں

25. فلپ۔ کے۔ ہوٹی نے کتاب
(A) تہذیبوں کا ٹکراؤ لکھی
(B) عباسی دور حکومت لکھی
(C) عرب کی تاریخ لکھی
(D) کوئی نہیں

26. نعیم صدیقی مصنف ہے۔
(A) صراط دو عالم (B) صراط النبی
(C) نبی الخاتم (D) محسن انسانیت

27. ڈاکٹر خالد علوی مصنف ہیں۔
(A) اسلامی ریاست (B) انسان کامل
(C) نبی رحمت (D) رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی

28. ضیاء القرآن کو ____ نے لکھا؟
(A) مولانا امین احسن اصلاحی (B) ابوالکلام آزاد۔
(C) پیر محمد کرم شاہ۔ (D) کوئی نہیں

29. اُردو میں سیرت النبی کتاب کے مصنف ____
(A) شبلی نعمانی اور سلمان ندوی
(B) قاضی سلیمان منصور پوری
(C) مولانا ادریس کندھالوی
(D) ڈاکٹر محمد آصف قدادی

30. "Muhammad At Mecca" کے مصنف ____

(A) آر وی سی بوڈلی (B) اے جے آربری

(C) منٹگمری واٹ (D) Margoliouth

31. مولانا مناظر احسن گیلانی مصنف ہیں____

(A) مقالات سیرت (B) محسن انسانیت

(C) صراط المصطفیٰ (D) النبی الخاتم

32. کتاب الآثار کس نے لکھی؟

(A) امام ابوحنیفہ (B) امام حنبل

(C) امام مسلم (D) امام بخاری

33. احیائے علوم الدین کے مصنف کا نام بتائیں؟

(A) الغزالی (B) الفارابی

(C) علامہ اقبال (D) کوثر نیازی

34. شاہ ولی اللہ نے ...... تحریر کی

(A) حجۃ البالغہ (B) فوز الکبیر

(C) تفہیمات الٰہیہ (D) تمام

35. کس نے قرآن کا فارسی ترجمہ فتح الرحمٰن فی ترجمۃ القرآن کے نام سے کیا؟

(A) علامہ اقبال (B) الغزالی

(C) الفارابی (D) شاہ ولی اللہ

36. Iqbal and Quranic Wisdom کو کس نے تحریر کیا؟

(A) ایم منور (B) ذوالفقار علی خان

(C) ڈاکٹر شبیر احمد (D) سلطان ظہور اختر

37. "Iqbal-Poet Philosopher of Islam" کو تحریر کیا۔

(A) علامہ اقبال (B) ڈاکٹر جاوید اقبال

(C) ایم منور (D) ایس۔ حسین حمید

38. "Iqbal and Khawaja Ghulam Farid on Experiencing God" کو کس نے تحریر کیا؟

(A) ظہور اظہر (B) سی ایم نعیم

(C) ٹی اے قصور (D) ریاض حسن

39. کنزالایمان پر تفسیر "نورالعرفان" کس نے تحریر کی؟

(A) مفتی احمد یار خان سلیمی

(B) مفتی احمد یار خان نعیمی

(C) مفتی احمد یار خان خاکانی

(D) مفتی احمد یار آفاقی

40. قرآن مجید کا اردو ترجمہ "البیان" کے نام سے کس نے کیا؟

(A) علامہ اقبال (B) مولانا کوثر نیازی

(C) مولانا سید احمد سعید (D) کوئی نہیں

41. کتاب المکی کے مصنف ہیں۔

(A) عبداللہ بن ارسقط (B) علی ابن عباس

(C) ابوالاعلیٰ مودودی (D) جابر بن حیان

42. المحلی کے مصنف ہیں۔

(A) ابن عبداللہ (B) ابن حزم

(C) ابن ارسقط (D) ابن خزیمہ

43. تفسیر خازن کے مصنف ہیں۔

(A) شیخ علاؤ الدین علی (B) مولانا ثناء اللہ

(C) مولانا جلیل احمد ندوی (D) سید محمود الحسن

44. پیغمبر انقلاب کے مصنف ہیں۔

(A) مولانا مودودی (B) مولانا وحیدالدین خان

(C) قاضی شمس الدین (D) پیر کرم شاہ

45. انتخاب حدیث کے مصنف ہیں۔

(A) عبدالحق حقانی (B) علامہ ابن کثیر

(C) مولانا عبدالغفار حسن (D) شیخ علاؤ الدین علی

46. علامہ الماوردی نے ______ تحریر کی۔

(A) الاحکام السلطانیہ (B) الفاروق المامون

(C) تفسیر ابن راہویہ (D) سیرت طیبہ

47. مولانا شبلی نعمانی نے ______ تحریر کی۔

(A) اسلام کا نظریہ ملکیت (B) کشف المحجوب

(C) الفاروق المامون (D) علوم القرآن

48. محمد حسین ہیکل نے ______ تحریر کی۔
(A) حیات محمد ﷺ (سیرت) (B) حضرت ابوبکر صدیق
(C) حضرت عمر فاروقؓ (D) تمام

49. صفی الرحمٰن مبارک پوری نے ______ تحریر کی۔
(A) الرحیق المختوم (B) عوارف المعارف
(C) محک الفقرا (D) انسان کامل

50. عوارف المعارف کس کی تحریر ہے؟
(A) شیخ شہاب الدین سہروردی (B) سلطان باہو
(C) نور الہی (D) مولانا روم

51. الفقراء کس کی تحریر ہے؟
(A) محمد حسین ہیکل (B) طہٰ حسین
(C) شیخ عبدالقادر جیلانی (D) سلطان باہو

52. غنیۃ الطالبین کس کی تحریر ہے؟
(A) سلطان باہو (B) شیخ عبدالقادر جیلانی
(C) امام نسائی (D) میر حسین

53. محمد کی سرکار کس کی تحریر ہے؟
(A) سردار گوردت سنگھ (B) ابوالکلام آزاد
(C) ابن عربی (D) امام ملاباذی

54. قرآنی ضرب الامثال کس کی تحریر ہے؟
(A) انیس احمد خیر آبادی (B) خدا بخش کلیار
(C) امام شافعی (D) علامہ حافظ

55. رسول اللہ کے آنسو کس نے تحریر کی؟
(A) سید اسعد گیلانی (B) حافظ عبدالشکور شیخوپوری
(C) خواجہ احمد الدین (D) امام نووی

56. اولاد کو سکھاؤ محبت حضور کی کس کی تحریر ہے؟
(A) مفتی محمد عبدہ یمانی (B) فرید الدین عطار
(C) ابوالبرکات (D) سردار گوردت سنگھ

57. عرین بک کا مصنف ہے۔
(A) یاسر عرفات (B) معمر قذافی
(C) اسد میر (D) کوئی نہیں

58. کتاب البلدان (فتوح البلدان) کے مصنف ہیں۔
(A) ابن الواضح الیعقوبی (B) علی الطبری
(C) موسیٰ الخوارزمی (D) عبدالملک اصمعی

59. جامع البیان فی تفسیر القرآن العظیم کے مفسر کون ہیں؟
(A) جلال الدین سیوطیؒ (B) حافظ ابن کثیرؒ
(C) ابن جریر طبریؒ (D) ان میں سے کوئی نہیں

60. اللؤلؤ والمرجان کے مؤلف کون ہیں؟
(A) محمد عبدہؒ (B) فواد عبدالباقیؒ
(C) ابن حجر عسقلانیؒ (D) امام مالکؒ

61. المصطلح الحدیث کے مؤلف کون ہیں؟
(A) امام ابو عبدالرحمٰن (B) امام ابوداؤد
(C) ڈاکٹر محمود الطحان (D) عبدالغفار حسن

62. سنت کی آئینی حیثیت کے مؤلف کون ہیں؟
(A) سید مودودیؒ (B) ڈاکٹر خالد علویؒ
(C) عجاج الخطیب (D) ڈاکٹر محمد حماد لکھوی

63. کتاب الملل والنحل کے مصنف کا کیا نام ہے؟
(A) عبدالکریم شہرستانی (B) البیرونی
(C) ڈاکٹر احمد شلبی (D) ثناء اللہ امرتسری

64. تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر کون ہیں؟
(A) امام قرطبیؒ (B) سید قطب شہیدؒ
(C) امام حسن البناءؒ (D) احمد امین مصری

65. تاریخ ابن اثیر کا اصل نام کیا ہے؟
(A) الکامل فی التاریخ (B) تاریخ ہند
(C) طبقات ابن سعد (D) کتاب الشفاء

66. بدایۃ المجتہد کے مصنف کا کیا نام ہے؟
(A) ابن قدامہ (B) امام ابن حزم
(C) ابن رشد (D) ابن خلدون

67. شرح الصغیر کس فقہ کی معتبر کتاب ہے؟
(A) حنفی (B) مالکی
(C) حنبلی (D) شافعی

68. کتاب الخیل کے مصنف کا نام کیا ہے؟
(A) الزاہراوی (B) علامہ اصمعی
(C) ابن جاحظ (D) البیرونی

69. لسان العرب کا موضوع کیا ہے؟
(A) ایمانیات (B) لغت
(C) حدیث (D) تقابل ادیان

70. الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے مصنف کا نام کیا ہے؟
(A) ابن حزم ظاہری (B) ابن تیمیہ
(C) عبدالکریم شہرستانی (D) ابن جریر

71. کتاب الفلاحۃ کے مصنف کون ہیں؟
(A) رضی الدین قریشی (B) ابوالفداء
(C) ابن العوام (D) محمد بن احمد الحرقی

72. تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف کا نام کیا ہے؟
(A) سید حسان ندوی (B) سید ابوالحسن ندوی
(C) سید احسن ندوی (D) سید سلیمان ندوی

73. الجہاد فی الاسلام کی تصنیف کے وقت سید مودودیؒ کی عمر کتنی تھی؟
(A) 25 سال (B) 24 سال
(C) 20 سال (D) 17 سال

74. کتاب اسلام میں حلال و حرام کے مصنف کون ہیں؟
(A) امام غزالی (B) یوسف القرضاوی
(C) غلام جیلانی برق (D) نجات اللہ صدیقی

75. "الاتقان فی علوم القرآن" کے مصنف کا کیا نام ہے؟
(A) ابن حجر عسقلانی (B) امام احمد بن حنبلؒ
(C) جلال الدین سیوطیؒ (D) امین احسن اصلاحیؒ

76. "الحاد مغرب اور ہم" کے مصنف کا کیا نام ہے؟
(A) ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک (B) ڈاکٹر خالد علوی
(C) غلام جیلانی برق (D) ڈاکٹر محمد حمید اللہ

77. "تفہیمات" کے مصنف کا کیا نام ہے؟
(A) سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ (B) امین احسن اصلاحی
(C) ابوالحسن علی ندویؒ (D) منظور نعمانی

78. مشکوٰۃ المصابیح کس فن کی کتاب ہے؟
(A) اصول فقہ (B) متن حدیث
(C) اصول حدیث (D) سیرت النبی ﷺ

79. "السیاسۃ الشرعیۃ" کے مصنف کون ہیں؟
(A) ابن قیم (B) ابن تیمیہ
(C) ابن تحیہ (D) ابن رشد

80. کون سی تفسیر "تفسیر بالماثور" کا بہترین نمونہ ہے؟
(A) تفسیر القرآن العظیم (B) مفاتیح الغیب
(C) تفسیر الکشاف (D) تفسیر الخازن

81. انجیل کی روایت کے مطابق حضرت مریم کے منگیتر کا نام کیا تھا؟
(A) یوحنا (B) یوسف علیہ السلام
(C) مرقس (D) یوسف نجار

82. 325ء میں نیقیاوی کونسل میں جس انجیل پر پابندی لگی اس کا نام تھا۔
(A) متی/متّی (B) یوحنا
(C) برنباس (D) لوقا

83. زبور تورات کے کتنے عرصے بعد نازل ہوئی؟
(A) 550 (B) 450
(C) 350 (D) 250

84. زبور میں کتنی سورتیں تھیں؟

(A) 100 (B) 120

(C) 150 (D) 180

85. حضرت داؤدؑ زبور کتنی آوازوں میں پڑھتے تھے؟

(A) 20 (B) 50

(C) 60 (D) 70

86. قرآن مجید انجیل کے کتنے سال بعد نازل ہوا؟

(A) 600 (B) 500

(C) 400 (D) 300

87. ''الاتقان فی علوم القرآن'' کے مصنف کا کیا نام ہے؟

(A) ابن حجر عسقلانی (B) امام احمد بن حنبلؒ

(C) جلال الدین سیوطیؒ (D) امین احسن اصلاحیؒ

88. ''اسلام، مغرب اور ہم'' کے مصنف کا کیا نام ہے؟

(A) ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک (B) ڈاکٹر خالد علوی

(C) غلام جیلانی برق (D) ڈاکٹر محمد حمید اللہ

89. ''تفہیمات'' کے مصنف کا کیا نام ہے؟

(A) سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ (B) امین احسن اصلاحی

(C) ابوالحسن علی ندویؒ (D) منظور نعمانی

90. ''اسلامی ریاست'' کے مصنف کا نام کیا ہے؟

(A) گوہر الرحمٰن (B) امام ابن تیمیہؒ

(C) مناظر احسن گیلانی (D) سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

91. ''تفسیر فی ظلال القرآن'' کے مصنف کون ہیں؟

(A) محمد علی صابونی (B) سید قطب شہیدؒ

(C) سرسید احمد خانؒ (D) مفتی محمد شفیعؒ

92. حجۃ اللہ البالغہ کے مصنف کون ہیں؟

(A) شاہ ولی اللہ (B) مجدد الف ثانیؒ

(C) حسین احمد مدنیؒ (D) شاہ اسمٰعیل شہیدؒ

93. حجۃ اللہ البالغہ کا موضوع کیا ہے؟

(A) تفسیر (B) تاریخ

(C) فلسفۂ اخلاق وعلم الکلام (D) فقہ

94. مشکوٰۃ المصابیح کس فن کی کتاب ہے؟

(A) اصول فقہ (B) متن حدیث

(C) اصول حدیث (D) سیرت النبی ﷺ

95. ''السیاسۃ الشرعیۃ'' کے مصنف کون ہیں؟

(A) ابن قیم (B) ابن تیمیہ

(C) ابن قتیبہ (D) ابن رشد

96. ''الفقہ علی المذاہب الاربعۃ'' کس کی تصنیف ہے؟

(A) احمد مصطفیٰ المراغی (B) عبدالرحمٰن الجزیری

(C) وھبۃ الزحیلی (D) یوسف القرضاوی

97. ''الرحیق المختوم'' کا موضوع کیا ہے؟

(A) فقہ (B) تفسیر

(C) علم الکلام (D) سیرت

98. امام غزالی نے فلاسفہ کے رد وابطال میں کون سی کتاب لکھی؟

(A) تہافۃ التہافۃ (B) المقاصد الفلاسفہ

(C) تہافۃ الفلاسفہ (D) الرد علی المنطقیین

99. درج ذیل کتب میں اصول تفسیر کی کتاب کون سی ہے؟

(A) التفسیر والمفسرون (B) احکام القرآن

(C) الفوز الکبیر (D) تفسیر بیضاوی

100. امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟

(A) تفسیر القرآن (B) مفاتیح الغیب

(C) احکام القرآن (D) معالم التنزیل

101. کون سی تفسیر ''تفسیر بالماثور'' کا بہترین نمونہ ہے؟

(A) تفسیر القرآن العظیم (B) مفاتیح الغیب

(C) تفسیر الکشاف (D) تفسیر الخازن

102. علامہ اقبال کے خطبات پر مبنی کتاب کا اصل نام کیا ہے؟

(A) خطبات اقبال
(B) Lecturers of Iqbal
(C) تشکیل جدید کے اقبال کے خطبات
(D) Reconstruction of Religions thought in Islam

103. شاہ ولی اللہ کی تصنیف الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟
(A) تفسیر (B) حدیث
(C) اصول تفسیر (D) اصول حدیث

104. جامع البیان فی تفسیر القرآن العظیم کے مفسر کون ہیں؟
(A) جلال الدین سیوطیؒ (B) حافظ ابن کثیرؒ
(C) ابن جریر طبریؒ (D) ان میں سے کوئی نہیں

105. لولوء والمرجان کے مؤلف کون ہیں؟
(A) محمد عبدہؒ (B) فواد عبدالباقی
(C) ابن حجر عسقلانی (D) امام مالکؒ

106. صحیفہ صادقہ کے مؤلف کون ہیں؟
(A) عمرو بن العاصؓ (B) ابوہریرہؓ
(C) عبداللہ بن عمرؓ (D) عبداللہ بن مسعودؓ

107. سنت کی آئینی حیثیت کے مؤلف کون ہیں؟
(A) سید مودودیؒ (B) ڈاکٹر خالد علویؒ
(C) عجاج الخطیب (D) ڈاکٹر محمد حماد لکھوی

108. کتاب الملل والنحل کے مصنف کا کیا نام ہے؟
(A) عبدالکریم شہرستانی (B) البیرونی
(C) ڈاکٹر احمد شلبی (D) ثناء اللہ امرتسری

109. تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر کون ہیں؟
(A) امام قرطبیؒ (B) سید قطب شہیدؒ
(C) امام حسن البناءؒ (D) احمد امین مصری

110. دی سپرٹ آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟
(A) داؤد غزنوی (B) سید امیر علی
(C) پیر کرم شاہ (D) ایس ایم اکرام

111. تاریخ الرسل والملوک کے مصنف کون ہیں؟
(A) طبری (B) قرطبی
(C) شاطبی (D) شبلی

112. تاریخ ابن اثیر کا اصل نام کیا ہے؟
(A) الکامل فی التاریخ (B) تاریخ ہند
(C) طبقات ابن سعد (D) کتاب الشفاء

113. بدایۃ المجتہد کے مصنف کا کیا نام ہے؟
(A) ابن قدامہ (B) امام ابن حزم
(C) ابن رشد (D) ابن خلدون

114. شرح الصغیر کس فقہ کی معتبر کتاب ہے؟
(A) حنفی (B) مالکی
(C) حنبلی (D) شافعی

115. ابوالفدا کی جغرافیہ پر مشہور تصنیف کا نام کیا ہے؟
(A) کتاب العادات (B) التصریف
(C) تقویم البلدان (D) مقالات قیس

116. اسلام اور جدید دور کے مسائل کے مصنف کون ہیں؟
(A) علامہ اقبال (B) امین اصلاحی
(C) محمد تقی امینی (D) ڈاکٹر سعد صدیقی

117. کتاب الآثار کے مصنف کا نام کیا ہے؟
(A) امام ابوحنیفہؒ (B) امام محمدؒ
(C) امام ابو یوسفؒ (D) امام مالکؒ

118. لسان العرب کا موضوع کیا ہے؟
(A) ایمانیات (B) لغت
(C) حدیث (D) تقابل ادیان

119. تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر کا نام کیا ہے؟
(A) امام فخر الدین رازی (B) ابن جریر

(C) سید قطب شہید (D) حسن البناء

120. الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے مصنف کا نام کیا ہے؟

(A) ابن حزم ظاہری (B) ابن تیمیہ

(C) عبدالکریم شہرستانی (D) ابن جریر

121. انسان کامل کے مصنف کا نام کیا ہے؟

(A) عبدالمالک کاندھلوی (B) ڈاکٹر خالد علوی

(C) نعیم صدیقی (D) صفی الرحمٰن مبارکپوری

122. سیرت کے موضوع پر کتاب الرحیق المختوم کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟

(A) ابوالحسن ندوی (B) سلیم منصور خالد

(C) صفی الرحمٰن مبارکپوری (D) ڈاکٹر خالد علوی

123. کتاب الکافی کے مؤلف کون ہیں؟

(A) محمد بن حسن (B) شیخ محمد باقر

(C) محمد بن علی (D) محمد بن یعقوب

124. کتاب الفلاحۃ کے مصنف کون ہیں؟

(A) رضی الدین قریشی (B) ابوالفداء

(C) ابن العوام (D) محمد بن احمد الخرقی

125. تاریخ دعوت وعزیمت کے مصنف کا نام کیا ہے؟

(A) سید حسان ندوی (B) سید ابوالحسن ندوی

(C) سید احسن ندوی (D) سید سلیمان ندوی

126. حجۃ اللہ البالغہ کے مؤلف کون ہیں؟

(A) فخرالدین رازی (B) ابن تیمیہ

(C) شاہ ولی اللہ (D) امام غزالی

127. الجہاد فی الاسلام کی تصنیف کے وقت سید مودودیؒ کی عمر کتنی تھی؟

(A) 25 سال (B) 24 سال

(C) 20 سال (D) 17 سال

128. قاضی ابو یوسف کی علم معیشت پر شہرہ آفاق کتاب کا نام کیا ہے؟

(A) مسائل (B) کتاب الجوارح

(C) کتاب الآثار (D) کتاب الخراج

129. تہافۃ الفلاسفہ کے مصنف کون ہیں؟

(A) الماوردی (B) ابن خلدون

(C) ابن رشد (D) امام غزالی

130. کتاب اسلام میں حلال وحرام کے مصنف کون ہیں؟

(A) امام غزالی (B) یوسف القرضاوی

(C) غلام جیلانی برق (D) نجات اللہ صدیقی

131. تفسیر بالماثور کی اولین مستند اور جامع کتاب کون سی ہے؟

(A) تفسیر ابن جریر طبری

(B) تفسیر ابن کثیر

(C) تفسیر الکشاف

(D) الدر المنثور فی تفسیر بالماثور

132. "الرحیق المختوم" کا موضوع کیا ہے؟

(A) فقہ (B) تفسیر

(C) علم الکلام (D) سیرت

133. امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟

(A) تفسیر القرآن (B) مفاتیح الغیب

(C) احکام القرآن (D) عالم التنزیل

134. صحیحین سے کیا مراد ہے؟

(A) قرآن وسنت (B) بخاری ومسلم

(C) مسلم ونسائی (D) بخاری وابوداؤد

135. دی سپرٹ آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟

(A) پیر کرم شاہ (B) ایس۔ ایم اکرم

(C) سید امیر علی (D) علامہ مشرقی

136. بلوغ المرام کے مؤلف کون ہیں۔

(A) علامہ ذہبی (B) علامہ سیوطی

(C) ابن حجر عسقلانی (D) ابن عربی

137. امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کی کتنی جلدیں ہیں؟

(A) 5 (B) 4
(C) 3 (D) 2

138. شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب کا نام لکھیں؟
(A) عوارف المعارف (B) غنیۃ الطالبین
(C) فوائد الفواد (D) کشف القلوب

139. کتاب الاقضیہ کا مصنف کون ہے؟
(A) ابن قدامہ (B) ابن اثیر
(C) ابن خلدون (D) ابن رشد

140. کتاب الام کس کی تصنیف ہے؟
(A) امام شافعیؒ (B) امام سفیان ثوریؒ
(C) امام مالکؒ (D) امام احمد بن حنبلؒ

141. امام مالکؒ کی کتاب کا نام بتایئے؟
(A) سنن (B) جامع
(C) صحیح (D) موطا

142. "الفقہ الاسلامی وادلتہ" نامی کس نے تحریر کی؟
(A) ڈاکٹر طہ (B) ڈاکٹر طاہر القادری
(C) ڈاکٹر یونس خالد (D) ڈاکٹر وھبہ الزحیلی

143. امام احمدؒ کی کتاب کا کیا نام ہے؟
(A) مسند احمد (B) صحیح بخاری
(C) بخاری شریف (D) ان میں سے کوئی نہیں

144. نورالانوار کس علم کی کتاب ہے؟
(A) علم حدیث (B) علم فقہ
(C) علم اصول فقہ (D) علم اصول حدیث

جوابات

1. (C)	2. (C)	3. (D)	4. (C)	5. (B)	6. (C)	7. (C)	8. (D)
9. (B)	10. (B)	11. (C)	12. (C)	13. (D)	14. (B)	15. (C)	16. (A)
17. (A)	18. (A)	19. (B)	20. (A)	21. (B)	22. (A)	23. (C)	24. (C)
25. (C)	26. (D)	27. (B)	28. (C)	29. (A)	30. (C)	31. (D)	32. (A)
33. (A)	34. (D)	35. (D)	36. (A)	37. (C)	38. (A)	39. (B)	40. (C)
41. (B)	42. (A)	43. (A)	44. (B)	45. (C)	46. (A)	47. (C)	48. (D)
49. (A)	50. (A)	51. (D)	52. (B)	53. (A)	54. (A)	55. (B)	56. (A)
57. (B)	58. (A)	59. (C)	60. (B)	61. (C)	62. (A)	63. (A)	64. (B)
65. (A)	66. (C)	67. (B)	68. (B)	69. (B)	70. (B)	71. (C)	72. (B)
73. (B)	74. (B)	75. (C)	76. (A)	77. (A)	78. (B)	79. (B)	80. (A)
81. (D)	82. (C)	83. (D)	84. (C)	85. (D)	86. (A)	87. (C)	88. (A)
89. (A)	90. (D)	91. (B)	92. (A)	93. (C)	94. (B)	95. (B)	96. (B)
97. (D)	98. (C)	99. (C)	100. (B)	101. (A)	102. (D)	103. (C)	104. (C)
105. (B)	106. (A)	107. (A)	108. (A)	109. (B)	110. (B)	111. (A)	112. (A)
113. (C)	114. (A)	115. (C)	116. (C)	117. (A)	118. (B)	119. (B)	120. (B)
121. (B)	122. (C)	123. (D)	124. (C)	125. (B)	126. (C)	127. (B)	128. (D)
129. (D)	130. (B)	131. (B)	132. (D)	133. (B)	134. (B)	135. (C)	136. (C)
137. (B)	138. (B)	139. (A)	140. (A)	141. (D)	142. (D)	143. (A)	144. (C)

اسلامی تہذیب

1. اصطلاح ''شریعہ'' سے کیا مراد ہے؟
(A) راستہ (B) پانی کے ذرائع تک کا راستہ
(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

2. کون سا قانون سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مذہبی قانون ہے؟
(A) عمومی قانون (B) سول قانون
(C) عیسائی قانون (D) اسلامی قانون

3. ''شریعہ مسلمانوں کے فرائض پر بحث ہے''۔ شریعہ کی یہ تعریف کس نے پیش کی؟
(A) ہملٹن الیگزینڈر روسکن گب
(B) نٹ ایس۔ وکر
(C) رسل روناڑو
(D) کوئی نہیں

4. اس مسلمان قانون دان کا نام بتائیں جس کی وجہ سے فقہ کو بہت ترقی حاصل ہوئی؟
(A) امام مالک
(B) محمد ابن ادریس الشافعی
(C) ابن خلدون (D) کوئی نہیں

5. اسلامی قوانین کے بنیادی اصولوں پر لکھی جانے والی پہلی کتاب کا نام بتائیں جسے محمد ابن ادریس الشافعی نے تحریر کیا؟
(A) ال۔قانون (B) ال۔اصول
(C) ال۔رسالہ (D) ال۔شریعہ

6. اسلامی قانون میں سے قیاس سے کونسا انگریزی قانون مشابہت رکھتا ہے؟
(A) عمومی قانون (B) ذیلی قانون
(C) عمومی وسوشل قانون
(D) عمومی قانون لیگل سسٹم

7. کس سکالر کا کہنا ہے کہ انگریزی عمومی قانون اسلامی قانون سے متاثر ہے؟
(A) پروفیسر جان مکدی (B) جمیلہ حسین
(C) لارنس روسن (D) تمام

8. پروفیسر جان مکدی کے مطابق رائل انگلش کنٹریکٹ کس اسلامی قانون سے مشابہت رکھتا ہے؟
(A) اسلامی عقد (B) اسلامی جیوری
(C) اسلامی لفیف (D) اسلامی حوالہ

9. کونسا انگریزی قانون اسلامی قانون ''استحقاق'' سے مشابہت رکھتا ہے؟
(A) وراثتی محصولات
(B) Assize of Novel Disseisin
(C) Scholastic Method
(D) کوئی نہیں

10. انگریزی جیوری اسلامی۔
(A) لفیف سے مشابہت رکھتی ہے
(B) عقد سے مشابہت رکھتی ہے

(C) حوالہ سے مشابہت رکھتی ہے

(D) مدرسہ سے مشابہت رکھتی ہے

11. کس اسلامی ادارے نے انگریزی عمومی قانون میں "ایجنسی" اداروں کے ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا؟

(A) حوالہ (B) وقف

(C) اوقاف (D) کوئی نہیں

12. درج ذیل میں سے کونسے قانونی ادارے انگریزی عمومی قانون میں "انز آف کورٹ" اور اسلامی قانون میں "مدارس" کہلاتے تھے؟

(A) سکولسٹک طریقہ Scholastic methoD

(B) پڑھانے کالائسنس

(C) قانون کے سکولز

(D) تمام

13. کونسا انگریزی قانون اسلامی قانون "وقف" سے مشابہت رکھتا ہے؟

(A) ٹرسٹ (B) سکولسٹک طریقہ

(C) کنٹریکٹ (D) قانون کے سکول

14. کس سکالر نے وقف اور ٹرسٹ کے درمیان مطابقت کو نوٹ کیا؟

(A) ڈاکٹر پال برانڈ (B) ڈاکٹر پال سمتھ

(C) ڈاکٹر پال آرنلڈ (D) ڈاکٹر پال گولڈن

15. اسلامی قانون اور امریکی عمومی قانون میں مماثلت خاص طور پر ...... میں پائی جاتی ہے۔

(A) آئینی قانون (B) ٹرسٹ

(C) قانون کے سکولوں (D) کوئی نہیں

16. کس نے کہا کہ آئینی قانون کی قانونی تشریحات بیان کرنے کا طریقہ قرآن سے ملتا ہے؟

(A) ایس۔ وو ہراہ (B) آصف قریشی

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

17. کس نے کہا کہ امریکی "مقننہ" سنت سے مشابہت رکھتی ہے؟

(A) ایس، وو ہراہ (B) ٹی۔ ایس سمتھ

(C) جمیز آرنلڈ (D) کوئی نہیں

18. ایس۔ وو ہراہ کے مطابق امریکہ کا قانونی فیصلہ کرنے کے طریقے کا پراسس......۔

(A) قیاس سے ملتا ہے (B) اجماع سے ملتا ہے

(C) دونوں

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

19. درج ذیل میں سے کونسا امریکی قانون قرآن، سنت اور میثاق مدینہ سے متاثر ہے؟

(A) مذہبی آزادی

(B) دفاع اور امن وامان قائم کرنے کا قانون

(C) پرائیویسی کا حق

(D) تمام

20. امریکہ قانون "فاؤنڈنگ فادرز" اسلامی میثاق......۔

(A) مدینہ سے ماخوذ ہے (B) مکہ سے ماخوذ ہے

(C) طائف سے ماخوذ ہے (D) کوفہ سے ماخوذ ہے

21. آٹھویں صدی کے اختتام پر کس نے بین الاقوامی قانون پر پہلی کتاب لکھی؟

(A) الکندی (B) ال۔ سہروردی

(C) محمد اصفہانی (D) کوئی نہیں

22. اس پہلے یورپی کا نام بتائیں جس نے بین الاقوامی قانون پر کتاب تحریر کی؟

(A) Hugo (B) آرنلڈ سمتھ

(C) روشو (D) کوئی نہیں

23. آرنلڈ اسمتھ نے الشیبانی سے کتنے عرصہ بعد بین الاقوامی قانون پر کتاب تحریر کی؟

(A) 50 سال (B) 100 سال

(C) 5 صدیاں (D) 8 صدیاں

24. محمد الشیبانی کی بین الاقوامی قانون پر کتاب میں......

(A) پبلک بین الاقوامی قانون کو بیان کیا گیا ہے۔

(B) پرائیویٹ بین الاقوامی قانون کو بیان کیا گیا ہے۔

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

25. درج ذیل میں سے کونسا قانون کلاسیکل اسلامی قانون میں سب سے پہلے موجود تھا؟

(A) ڈیموکریٹک سوشل پلورل ازم Pluralism

(B) ڈیموکریٹک سیکولر پلورل ازم Plusalism

(C) ڈیموکریٹک مذہبی پلورل ازم Pluralism

(D) کوئی نہیں

26. کونسا اسلامی قانون یورپی قانون Commenda یعنی محدود شراکت داری کا ماخذ ہے؟

(A) قیاس (B) حوالہ

(C) قرد (D) کوئی نہیں

27. غیر قانونی ادویات کی سب سے پہلی ممانعت کس قانون میں ملتی ہے؟

(A) عمومی قانون (B) پرائیویٹ قانون

(C) اسلامی قانون (D) کوئی نہیں

28. کس اسلامی قانون دان نے پہلی دفعہ حشیش اور دیگر نشہ آور مصنوعات کو بطور دوا استعمال کی قبولیت کی بات کی؟

(A) ارزکشی (B) بوعلی سینا

(C) الکندی (D) الخوارزمی

29. کس قانون دان نے کہا کہ نشہ آور مصنوعات کے بطور نشہ آور ادویات استعمال کے درمیان میں فرق بیان کرنے والے مسلمان موجودہ امریکی قانون سے بہت آگے ہیں؟

(A) ولیم ڈیوس (B) جان گولڈ

(C) لامین ماتھرے (D) کوئی نہیں

30. انگریزی قانون ایکویٹی کس اسلامی قانون سے ماخوذ ہے؟

(A) استحسان (B) فقہ

(C) حوالہ (D) انجمنی

31. اسلامی قانون "حوالہ" نے کس قانون کی ترقی میں اپنے اثرات مرتب کیے؟

(A) فرانسیسی سول قانون اوال (Aval)

(B) اطالوی قانون اوالو (Avallo)

(C) دونوں

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

32. اس پہلے آئین یا چارٹر کا نام بتائیں جس میں سب سے پہلے عورتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کا قانون پیش کیا گیا؟

(A) میثاق مدینہ (B) میثاق مکہ

(C) میثاق طائف (D) میثاق قریش

33. کس خلیفہ نے سب سے پہلے اظہار کی آزادی کا اصول 7 ویں صدی میں بنایا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) ابن ولید (D) امیر معاویہؓ

34. کس خلیفہ نے مصر کے گورنر مالک الاشتر کو لکھا کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرے کہ وہ اسکے سامنے کچھ کہنے سے ڈریں نہیں؟

(A) ولید بن ملک (B) مروان دوئم

(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عمرؓ

35. یونیورسٹیوں میں تعلیمی آزادی کی بنیاد اسلامی روایت ہے جسکا مظاہرہ 9ویں صدی میں نظام مدرسہ میں نظر آتا ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟

(A) جارج مکدسی (B) ہگ Hagh گوڈارڈ

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

36. کس صدی میں سب سے پہلے مسلمانوں نے ڈاکٹروں کے لیے اخلاقی ضابطوں کی بنیاد رکھی؟

(A) ساتویں (B) چھٹی

(C) پانچویں (D) نویں

37. طبی اخلاقیات پر لکھی جانے والی اس پہلی کتاب کا نام بتائیں جسے اسحاق بن علی راہلوی نے لکھا؟

(A) آداب الطبیب

(B) آداب الاخلاق

(C) آداب القانون (D) آداب الاصول

38. نہر بنانے کا فن مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ دور خلافت میں درج ذیل میں سے کونسی نہر تعمیر کی گئی تھی؟

(A) نہر سعد، انبار کو پانی فراہم کرتی تھی

(B) نہر عمرو بن العاص، بصرہ کو پانی فراہم کرتی تھی

(C) دونوں

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

39. کس خلیفہ نے قحط کے دوران نیل اور بحر احمر کو ملانے کے لیے مصر میں ایک نہر کی تعمیر کا حکم دیا تھا؟

(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ

(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

40. کون ''ماحولیات'' کی تعلیم کے بانی خیال کیے جاتے ہیں؟

(A) حضرت محمدؐ (B) الطبری

(C) بوعلی سینا (D) حضرت ابوبکرؓ

41. نبی پاک ﷺ کے ''ماحولیات'' کی تعلیم کے بانی ہونے کے بارے میں حوالہ حدیث مبارکہ کس کتاب میں موجود ہے؟

(A) زراعت کے باب صحیح بخاری

(B) زراعت کے باب صحیح مسلم

(C) زراعت کے باب ترمذی

(D) کوئی بھی نہیں۔

42. ازدواجی تعلقات قائم کیے بغیر کوئی شخص طلاق دے تو مطلقہ کی عدت کتنی ہے؟

(A) 2 ماہ (B) 3 ماہ

(C) 4 ماہ (D) کوئی عدت نہیں

43. احتکار سے کیا مراد ہے؟

(A) تازہ پھل (B) ذخیرہ اندوزی

(C) منافع (D) دفینہ

44. ذمی کسے کہتے ہیں؟

(A) مزدور (B) نومسلم

(C) اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری

(D) ذمہ داران

45. زیادہ سے زیادہ حق مہر کی مقدار کتنی ہے؟

(A) سو درہم (B) پانچ سو درہم

(C) ہزار دینار (D) کوئی حد نہیں

46. مومن عورتیں کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔

(A) سسر (B) خالو

(C) بہنوئی (D) کوئی بھی نہیں

47. مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟

(A) مہر معجل (B) مہر مسمی

(C) مہر مثل (D) مہر مؤجل

48. اسلام ایک دین ہے کیونکہ یہ
(A) شریعت ہے
(B) ضابطہ حیات ہے
(C) نیکی کی طرف بلاتا ہے
(D) رہبانیت سے منع کرتا ہے

49. اسلام کا معاشی انصاف یہ ہے کہ
(A) سب کے برابر دیا جائے
(B) محنت کے مطابق دیا جائے
(C) غریبوں کو زیادہ دیا جائے
(D) امیروں سے چھین لیا جائے

50. اسلامی اقدار کے مطابق عزت کا معیار کیا ہے؟
(A) حسن خلق (B) خدمت خلق
(C) دیانت (D) تقویٰ

51. دعوت کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے؟
(A) حکمت
(B) موعظہ
(C) احسن طریقہ سے بحث کرنا
(D) تمام

52. شرعی حدود آرڈیننس کب نافذ کیا گیا؟
(A) 1978ء (B) 1979ء
(C) 1980ء (D) 1981ء

جوابات

1. (D)	2. (B)	3. (A)	4. (B)	5. (C)	6. (D)	7. (D)	8. (A
9. (B)	10. (A)	11. (A)	12. (D)	13. (A)	14. (A)	15. (A)	16. (C
17. (A)	18. (C)	19. (D)	20. (A)	21. (C)	22. (B)	23. (D)	24. (C
25. (A)	26. (C)	27. (C)	28. (B)	29. (C)	30. (B)	31. (C)	32. (A
33. (B)	34. (C)	35. (C)	36. (D)	37. (A)	38. (C)	39. (B)	40. (A
41. (A)	42. (D)	43. (B)	44. (C)	45. (D)	46. (D)	47. (C)	48. (B
49. (B)	50. (D)	51. (D)	52. (B)				

اسلام کے تحت آنے والی ابتدائی معاشرتی تبدیلیاں

1. اسلام کے تحت .... کے دوران بہت سی معاشرتی تبدیلیاں رونما ہوگئیں۔
(A) 610اور 661 (B) 610اور 655
(C) 610اور 670 (D) 610اور 675

2. کس کی رائے میں حضرت محمد ﷺ کے لیے مذہب ذاتی یا انفرادی معاملہ نہ تھا؟
(A) حلیم سورلے (B) ولیم روز مرلے
(C) موٹگمری (D) کوئی نہیں

3. کہاں پر یہ لکھا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ان برائیوں کے خلاف تبلیغ کی جو کہ انکے وقت موجود تھیں؟
(A) انسائیکلوپیڈیا آف ورلڈ ہسٹری
(B) انسائیکلوپیڈیا آف اسلامی ہسٹری
(C) انسائیکلوپیڈیا آف محمد ﷺ
(D) انسائیکلوپیڈیا آف اسلام

4. کس کی رائے میں نبی پاک ﷺ وہ پہلے مصلح تھے جنہوں نے بت پرست عربوں میں موجود بچیوں کو زندہ دفن کر دینے غریبوں کے استحصال، سود، قتل جھوٹے معاہدوں اور زنا جیسی برائیوں کی مذمت کی؟
(A) جان لاک (B) جان ایپوسیٹو
(C) ولیم کلاسی (D) ولیم سورلے

5. ولیم موٹگمری واٹس لکھتا ہے کہ محمد ﷺ ....
(A) معاشرتی اصلاح کار تھے
(B) اخلاقی اصلاح کار تھے
(C) دونوں
(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

6. لیوس کے مطابق اسلام کا غلاموں کے لیے بنایا گیا دو کونسا اصول تھا جس نے غلاموں کی زندگیوں پر بہت دوررس اثرات مرتب کیے؟
(A) انکے حق آزادی کا احترام
(B) مخصوص حالات کے علاوہ آزاد بندوں کو غلام بنانے کی شدید پابندی
(C) دونوں
(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

7. تاریخ اور مذاہب کے مطالعے کے کس پروفیسر کے مطابق صدقہ، خیرات کو غلاموں کی آزادی کے لیے استعمال کرنے کا خیال اسلام ہی کا خاصہ ہے؟
(A) جونتھن بروک پوپ (B) مجید خدری
(C) ولیم مکدبی (D) کوئی نہیں

8. اسلام کے دور میں مالک یا تو غلاموں کو آزاد (ثواب حاصل کرنے کے لیے) کرتے تھے یا پھر ان کو اجازت دے دیتے تھے کہ وہ کما کر اپنی آزادی خرید سکتے ہیں۔ یہ عمل کہلاتا ہے؟
(A) مکاتبہ (Mukatiba) (B) کتب
(C) اسیر (D) کوئی نہیں

9. درج ذیل میں سے کونسا حق قبل از اسلام عورت کو حاصل نہ تھا؟
(A) مرد سے علیحدگی کا حق (خلع)
(B) اپنی جائیداد کے انتظامات خود سنبھالنے کا حق
(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

10. کس کی رائے میں 7 ویں صدی میں اسلام کا آغاز نہایت جدت پسند تھا؟

(A) رابرٹ این بلاح (B) رابرٹ مکدی

(C) رابرٹ این رونالڈو (D) رابرٹ سمتھ

11. مسلمانوں نے بہت سے ٹیکس اور نہریں بھی بنوائیں۔ ان میں سے انبار کے علاقے کو پانی مہیا کرنے والی نہر کا نام بتائیں؟

(A) نہر عمر (B) نہر علی

(C) نہر سعد (D) کوئی نہیں

12. نہر ابی موسیٰ کس علاقے کو پانی فراہم کرتی تھی؟

(A) بغداد (B) کوفہ

(C) انبار (D) بصرہ

13. حضرت عمرؓ نے مصر میں ایک نہر تعمیر کروائی جو کہ دریائے نیل کو...... سے جوڑتی تھی۔

(A) بحیرہ احمر (B) بحیرہ اسود

(C) بحیرہ روم (D) کوئی نہیں

14. حضرت عمرؓ نے مصر میں جو نہر بنوائی اس کا مقصد کیا تھا؟

(A) سمندری راستے سے اناج کی عرب تک رسائی

(B) سمندری راستے سے اناج کی افریقی ممالک تک رسائی

(C) سمندری راستے سے اناج کی انڈیا ممالک تک رسائی

(D) کوئی نہیں

15. حضرت عمرؓ نے مصر میں جو نہر بنوائی ایک سال میں کس نے تعمیر کیا؟

(A) عمرو بن العاص (B) عبد السلام

(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

16. کس نے حضرت عمرؓ کی مصر میں بنوائی ہوئی نہر کے بارے میں کہا کہ "عرب آنے والے وقت میں ہر قحط سے آزاد ہو گیا؟"

(A) میور (B) آرنلڈ

(C) خان سمتھ (D) کوئی نہیں

17. قبل از اسلام کے مشرق وسطیٰ پر......

(A) رومیوں کا قبضہ تھا

(B) ساسانیوں کا قبضہ تھا

(C) دونوں

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

18. کن کے درمیان جنگوں نے مشرق وسطیٰ کے رہائشیوں کو تنگ کیا ہوا تھا؟

(A) رومی و یونانی جنگیں (B) رومی، فارسی جنگیں

(C) فارسی و یونانی جنگیں (D) کوئی نہیں

19. خلفائے راشدین کی فوجوں نے ______

(A) رومیوں کو شکست دی (B) فارسیوں کو

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

20. اسلامی جنگوں میں خلفائے راشدین کی فوج نے رومیوں اور فارسیوں کو شکست دی اور علاقے میں اسلامی ریاست کا قیام کیا۔ خلفائے راشدین کی فوج کے اس کمانڈر کا نام بتائیں جنہوں نے زیادہ تر ان جنگوں کی سربراہی کی؟

(A) خالد ابن ولیدؓ (B) عمرو بن العاصؓ

(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

21. اسلامی فوج نے دس سال کے اندر...... فتح کر کیا؟

(A) میسوپوٹیمیا اور ایران

(B) رومی شام اور رومی مصر

(C) تمام (D) کوئی نہیں

22. اسلامی فوجوں نے جہاں جہاں فتح حاصل کی وہاں پر اقلیتوں کے لیے......

(A) محصولات کم کیے

(B) علاقائی خود مختاری کو ممکن بنایا گیا

(C) یہودیوں اور عیسائیوں کو مذہبی آزادی دی گئی

(D) تمام

23. "یہودی اور یہاں تک کہ شام اور مصر کے عیسائی بھی رومیوں کی

بجائے اسلامی حکمرانی میں رہنے کو فوقیت دیتے تھے۔" یہ کس کی رائے ہے؟

(A) برنارڈ لیوس (B) برنارڈ شاہ

(C) برنارڈ میتھیو (D) برنارڈ آرنلڈ

24. کس علاقے میں مقامیوں (غیر مسلموں) نے عرب حملہ آوروں کو اتنی موثر مدد فراہم کی کہ انہیں بسا اوقات ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دیا جاتا تھا؟

(A) عراق (B) یمن

(C) مصر (D) فلسطین

25. درج ذیل میں سے کونسی اصلاح اسلامی دور میں معاشرے میں لائی گئیں؟

(A) خون کا بدلہ خون لیکن اسکے ساتھ قصاص کی زیادہ حوصلہ افزائی۔

(B) خون کا بدلہ خون کی صورت میں صرف مجرم کا قتل نہ کہ قبل از اسلام روایات کے مطابق مجرموں کے خاندان کے کسی بھی مرد کا قتل

(C) دونوں

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

26. کیمبرج ہسٹری آف اسلام کے مطابق اسلام نے غریبوں اور ناداروں کی مدد پر نہ صرف زور دیا بلکہ اسکے لیے ایک نہایت منظم ٹھوس نظام ترتیب دیا۔ اس نظام کا نام کیا تھا؟

(A) زکوۃ (B) دولت ٹیکس

(C) جزیہ (D) محصول

27. مضاربت کے لیے دوسری اصطلاح کیا ہے؟

(A) شراکت (B) مساقاۃ

(C) قراض (D) اجارہ

28. بیٹا اگر اپنے باپ کا قاتل ہو تو اسے کتنی وراثت ملے گی؟

(A) آدھا حصہ (B) پورا حصہ

(C) 1/8 حصہ (D) نہیں ملے گی

جوابات

1. (A)	2. (A)	3. (A)	4. (B)	5. (C)	6. (C)	7. (A)	8. (A)
9. (C)	10. (A)	11. (C)	12. (D)	13. (A)	14. (A)	15. (A)	16. (A)
17. (C)	18. (B)	19. (C)	20. (C)	21. (C)	22. (D)	23. (A)	24. (D)
25. (C)	26. (A)	27. (A)	28. (D)				

مساجد اور تعلیمی ادارے

1. اسلامی فن کا سنہری دور 750 سے ____ تک کا ہے۔
(A) 17th (B) 16th
(C) 19th (D) 18th

2. کس میدان میں اسلامی علماء نے unorthodox خیالات پیش کرنے سے پرہیز کیا؟
(A) فقہ (B) منطق
(C) فنون لطیفہ (D) موسیقی

3. چین سے اسلامی ادب کا ترجمہ ہوا۔
(A) عبرانی میں (B) لاطینی میں
(C) لاؤ یونو میں (D) انگریزی میں

4. سامرا کی عظیم مسجد سامرا واقعہ ہے۔
(A) عراق (B) ایران
(C) ترکی (D) فلسطین

5. سامرا کی عظیم مسجد مکمل ہوئی۔
(A) 847 (B) 947
(C) 1047 (D) 1147

6. 785 میں غرناطہ (Cordoba) مسجد کی بنیاد رکھی۔
(A) موروز نے (B) ڈینش نے
(C) فارسیوں نے (D) کوئی نہیں

7. غرناطہ کی مسجد کی تعمیر سے موروز (Moors) نے ____ میں اسلامی فن تعمیر کی بنیاد رکھی۔
(A) سپین (B) شمالی افریقہ
(C) فلسطین (D) عراق

8. 150 کے اواخر میں فتح پور کا شہر کس نے تعمیر کیا۔
(A) اکبر (B) بابر
(C) جہانگیر (D) عالمگیر

9. فتح پور کا شہر واقع ہے۔
(A) آگرہ (B) دہلی
(C) کلکتہ (D) عالمگیر

10. مامون الرشید نے ____ میں اہم تعلیمی ادارے قائم کیے۔
(A) بغداد (B) بصرہ
(C) کوفہ اور بصرہ (D) تمام

11. خراسان میں ایک بڑا کالج کس نے تعمیر کیا؟
(A) مامون (B) ہارون
(C) الخورشید (D) کوئی نہیں

12. بیت الحکمۃ سے مشابہ ادارہ کس عباسی خلیفہ نے بنوایا؟
(A) ہارون (B) الحاکم
(C) الفتح (D) کوئی نہیں

13. الحاکم کے ادارے کہلاتے تھے۔
(A) ہال آف وزڈم (B) ہال آف سائنس
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

14. الحاکم نے ہال آف وزڈم اور سائنس کی بنیاد رکھی۔
(A) 945 (B) 960
(C) 980 (D) 995

15. سلجوق وزیر اعظم جس نے تعلیمی اداروں کی ایک زنجیر بنوائی۔
(A) نصیر الدین خلجی (B) عبدالاسحاق شیرازی
(C) نظام الملک طوسی (D) کوئی نہیں

16. نظام الملک طوسی نے نظامیہ طرز کے عظیم ادارے ____ میں بنوائے۔

(A) نیشاپور، بغداد (B) کوراسان، عراق
(C) تمام (D) کوئی نہیں

17. نظام الملک نے نیشاپور میں نظامیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔
(A) 1066 (B) 1067
(C) 1068 (D) 1069

18. نظامیہ یونیورسٹی کے معروف پرنسپل
(A) الغزالی (B) امام الحرمین
(C) ابو اسحاق شیرازی (D) تمام

19. معرکہ بغداد کس نے کیا؟
(A) تیمور (B) ٹیپو سلطان
(C) اکبر (D) بابر

20. معرکہ بغداد کے کتنے عرصے بعد نظامیہ کو مستنصریہ یونیورسٹی میں ضم کر دیا گیا؟
(A) ایک سال (B) دو سال
(C) تین سال (D) چار سال

21. کون ملک کی 1/10 آمدن کو تعلیم پر خرچ کیا کرتا تھا؟
(A) نظام الملک طوسی (B) الحکم
(C) ہارون الرشید (D) مامون الرشید

22. نظام الملک طوسی نے بغداد کے جامعہ نظامیہ پر کتنا خرچہ کیا؟
(A) ایک ملین (B) دو ملین
(C) تین ملین (D) چار ملین

23. فارسی شاعر سعدی شیرازی ____ کا طالب علم تھا۔
(A) الازہر یونیورسٹی (B) المستنصریہ
(C) بغداد یونیورسٹی (D) نظامیہ یونیورسٹی

24. پہلا ادارہ جو کہ باقاعدہ طور پر طالب علموں کو سکالرشپ دیتا تھا۔
(A) نظامیہ (B) مستنصریہ
(C) الازہر (D) کوئی نہیں

25. عباسی خلیفہ جس نے جامعہ نظامیہ میں ترامیم کیں۔
(A) ہارون (B) المستنصر باللہ
(C) مامون (D) الحکم

26. مستنصریہ یونیورسٹی کو کھول کر کب المستنصر باللہ نے نظامیہ میں ترامیم کیں؟
(A) 1234 (B) 1235
(C) 1236 (D) 1237

27. دریا جس کے کنارے پر مستنصریہ کو چھ سال میں مکمل کیا گیا۔
(A) دجلہ (B) فرات
(C) نیل (D) کوئی نہیں

28. یونیورسٹی جس کے داخلہ گیٹ پر ایک کلاک نصب تھا۔
(A) نظامیہ (B) الازہر
(C) جامع بغداد (D) مستنصریہ

29. مستنصریہ یونیورسٹی کے داخلی گیٹ پر نصب کلاک کو بنایا۔
(A) علی بن صغیب بلتاقی (B) علی بن تغلق
(C) علی بن سہراب (D) کوئی نہیں

30. کس معروف سیاح نے مستنصریہ کا دورہ کیا؟
(A) ابن بطوطہ (B) ابن سینا
(C) ابن ہاشم (D) ابن حکم

31. سپین میں جامعہ غرناطہ کو بنایا۔
(A) عبدالرحمن اول (B) عبدالرحمن دوئم
(C) عبدالرحمن سوئم (D) عبدالرحمن چہارم

32. کون سا مؤرخ جامعہ کورڈووا کا استاد تھا؟
(A) ابن ال قطیہ (B) الغزالی
(C) ابن الہیثم (D) کوئی نہیں

33. گریناڈا یونیورسٹی کو بنایا۔
(A) ہارون الرشید (B) یوسف عبدالحاج
(C) عبدالرحمن اول (D) کوئی نہیں

34. دنیا کی دوسری بڑی اور قدیم ترین یونیورسٹی:
(A) الازہر (B) غرناطہ
(C) نظامیہ (D) بغداد

35. مصر پر فاطمی قبضے سے ایک سال قبل کس نے الازہر مسجد تعمیر کی؟
(A) جوہر الخطیب ال-سفلی
(B) نصیرالدین طوسی
(C) نظام الملک
(D) کوئی نہیں

36. تعلیمی خدمات کے لیے کب الازہر کو کھولا گیا؟

(A) جولائی 971 (B) جولائی 972
(C) جولائی 973 (D) جولائی 974

37. کس نے الازہر کا نام رکھنے میں معاونت کی؟
(A) مکریزی IV (B) مکریزی III
(C) مکریزی II (D) مکریزی I

38. مکریزی II کے مطابق الازہر الزہراسے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے۔
(A) فاطمیوں کا آغاز (B) موورز کا آغاز
(C) سلجوکیوں کا آغاز (D) مغلوں کا آغاز

39. کس ترک حکمران نے الازہر کو مشرق کی بہترین درسگاہ بنایا؟
(A) ملک زاہر بیبار (B) ملک نظامیہ
(C) حکیم بیبار (D) کوئی نہیں

40. کون لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اساتذہ کو پنشن دی؟
(A) سلجوکی (B) موورز
(C) ترک (D) عباس

41. کس ترک حکمران کے دور میں ہر گاؤں میں ایک سکول تھا اور ہائی سکول میں دس مضامین پڑھائے جاتے تھے؟
(A) سلطان محمود I (B) سلطان محمود II
(C) سلطان محمود III (D) سلطان محمود IV

42. سلطان محمود II کے ہائر سکول سے فارغ التحصیل طالب علم کو کیا کہا جاتا تھا؟
(A) دانش مند (B) عالم
(C) ارفع (D) استاد

43. سلطان محمد نے کب قسطنطنیہ میں یونیورسٹی قائم کی؟
(A) 865 A.H (B) 886 A.H
(C) 870 A.H (D) 875 A.H

44. عظیم ترک بادشاہ سلیمان نے کب تخت سنبھالا؟
(A) 1323 (B) 1322
(C) 1321 (D) 1320

45. سلطنت عثمانیہ کے دسویں اور سب سے طویل دور حکومت والے سلطان ________
(A) سلیمان (B) الحکم
(C) الطبری (D) کوئی نہیں

46. سلیمان نے کتنے طلبا کو سکالرشپ دیے؟
(A) 600 (B) 500
(C) 400 (D) 300

47. 578 A.H میں کس نے بغداد کا دورہ کیا اور بغداد کے کالجوں کی گنتی کی؟
(A) ابن زاہر (B) ابن جبیر
(C) ابن بطوطہ (D) ابن اسحاق

48. 578 A.H میں دمشق میں کتنے تعلیمی ادارے تھے؟
(A) 40 (B) 30
(C) 20 (D) 10

49. 410 A.H میں غزنی میں کس نے ایک بڑا تعلیمی ادارہ کھولا؟
(A) محمود غزنی (B) ابن جبیر
(C) ابن اسحاق (D) کوئی نہیں

50. خوارزم کالج کے پرنسپل تھے۔
(A) امام فخر الدین رازی (B) امام زہیر الدین
(C) امام مالک (D) امام حنبی

51. 5.5 ملین کی لاگت سے کس نے قاہرہ میں عظیم کالج کھولا؟
(A) ابن نصیر طوسی (B) الغزالی
(C) سلطان محمود II (D) ابن ال۔نصیر محمد

52. ترکوں نے کہاں پر اپنے وقت کا سب سے عمدہ ملٹری کالج بنوایا؟
(A) قسطنطنیہ (B) بغداد
(C) بصرہ (D) کوئی نہیں

53. کس قدیم اسلامی جامعہ میں میڈیکل سائنس پڑھائی جاتی تھی؟
(A) مستنصریہ (B) کورڈووا
(C) الازہر (D) تمام

54. اسلامی دنیا کے میڈیکل سکول کہلاتے تھے۔
(A) بیمارستان (B) بیت ال بیمار
(C) بیت ال علاج (D) کوئی نہیں

55. کس کی رائے کے مطابق سرجری کا پہلا سکول اسلامی Sicily کے شہر Salomo میں بنایا گیا؟

(A) گبن　　(B) جارج اینڈ ریو
(C) رونالڈو　　(D) میک ملن

56. کون سا اموی سائنسدان لائبریری کا موجد خیال کیا جاتا ہے؟
(A) موسیٰ بن یزید　　(B) نصیر بن یزید
(C) احسان بن یزید　　(D) خالد بن یزید

57. عباسی خلیفہ جس نے اپنی لائبریری میں ترجمے کا ڈیپارٹمنٹ بنوایا۔
(A) ہارون　　(B) منصور
(C) مامون　　(D) الحکم

58. ہارون الرشید کی بغداد میں تعمیر کردہ لائبریری کا ہیڈ کس کو بنایا گیا؟
(A) الفادی ابن یوبی　　(B) الحکم
(C) فادی ال سلطان　　(D) کوئی نہیں

59. کس خلیفہ کی نہر قتول کے کنارے واقع آرام گاہ میں 1060 کتب پر مشتمل ایک لائبریری تھی؟
(A) مامون الرشید　　(B) امین الرشید
(C) ہارون الرشید　　(D) الحکم

60. عباسی دور خلافت میں صرف بغداد میں ________ لائبریریاں تھیں۔
(A) 60　　(B) 50
(C) 40　　(D) 30

61. پہلی عوامی (پبلک) لائبریری کس نے کھولی؟
(A) غفور بن حکم　　(B) ہارون الرشید
(C) صبور بن اردشیر　　(D) کوئی نہیں

62. معری خلیفہ جس نے پہلی امپیریل لائبریری قائم کی ________۔
(A) خلیفہ عزیز　　(B) خلیفہ ہارون
(C) خلیفہ حکیم　　(D) خلیفہ مامون

63. خلیفہ عزیز کی لائبریری کے بارے میں درست بیان ہے۔
(A) ابن تویر کے مطابق اس میں 200,000 کتب تھیں
(B) ابن الوصلی کے مطابق اس میں 160,000 کتب تھیں
(C) ابن طائی کے مطابق اس میں 24,000 کتب تھیں
(D) تمام

64. خلیفہ عزیز کی لائبریری میں
(A) 2,250 سال پرانا بطلیموسی گلوب تھا
(B) 15000 کے عوض خریدا گیا عبدالحسن صوفی کا بنایا ہوا گلوب تھا
(C) دونوں
(D) کوئی نہیں

65. ہسپانوی خلیفہ جس نے اپنے دارالحکومت کارڈوا میں پہلی بڑی لائبریری بنوائی۔
(A) الحکم　　(B) ال۔ہارون
(C) الرشید　　(D) ال۔صوفی

66. الحکم کی کورڈووا لائبریری میں کتب تھیں۔
(A) 70,000　　(B) 60,000
(C) 50,000　　(D) 40,000

67. الحکم نے اغانی تحریر کا ال۔اصفہانی کا پہلا مسودہ کتنے میں خریدا؟
(A) 500 دینار　　(B) 700 دینار
(C) 1000 دینار　　(D) 1200 دینار

68. مسودوں کی کاپی کے لیے الحکم کی لائبریری میں کتنے خطاط تھے؟
(A) 2000　　(B) 3000
(C) 4000　　(D) 5000

69. شہر جو کہ اکیلا ہی 70 لائبریریوں اور 10,000 ہزار اسکالرز پر مشتمل تھا۔
(A) اندلس　　(B) بغداد
(C) چین　　(D) بصرہ

70. کس نے اپنی ساری دولت اپنی لائبریری پر خرچ کر دی اور اس کے لیے کتب حاصل کرنے کے لیے کئی بار بغداد کا دورہ کیا؟
(A) ابو نصر سہل بن مرزابان
(B) حجاج بن یوسف
(C) ابوالحسن صوفی
(D) کوئی نہیں

71. کب پادار بن نے صلیبیوں کو یروشلم پر کنٹرول کا حکم دیا؟
(A) 1095　　(B) 1195
(C) 1295　　(D) 1395

72. کس نے شمالی عراق سے لاطینی صلیبیوں کو باہر نکالا؟
(A) سلجوک (B) مورز
(C) اہل فارس (D) صفوی

73. کس کے اتفاق کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم صلیبیوں سے واپس لیا؟
(A) شام (B) مصر
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

74. صلاح الدین ایوبی نے ______ میں یروشلم کو فتح کیا؟
(A) 1187 (B) 1286
(C) 1386 (D) 1486

75. 1415 میں کس نے سٹریٹ آف جبرالٹر کے اہم تجارتی حصے پر قبضہ کیا؟
(A) فلسطین (B) پرتگال
(C) عراق (D) مصر

76. پرتگال نے Tangier پر ______ میں قبضہ کیا۔
(A) 1425 (B) 1325
(C) 1225 (D) 1125

77. 1441 میں پہلا پرتگالی جسے ______ کے ساحل پر غلام بنایا گیا۔
(A) ایران (B) عراق
(C) موریطانیہ (D) پرتگال

78. کس سال تک Lisbon میں 30,000 مسلم غلام تھے؟
(A) 1500ء (B) 1400ء
(C) 1300ء (D) 1200ء

79. کس نے 1578 میں پرتگال کو ملیامیٹ کیا؟
(A) اہل شام نے (B) اہل مراکش نے
(C) صلیبیوں نے (D) سلجوکیوں نے

80. جنگ جس نے اہل مراکش نے پرتگالیوں کو شکست دی۔
(A) جنگ ال۔کسرال۔کبیر
(B) جنگ ال۔کسرال۔عظیم
(C) جنگ ل۔کسرال۔جبیر
(D) کوئی نہیں

81. کس سال اہل ڈچ نے برازیل پر قبضہ کر لیا تھا؟
(A) 1621 (B) 1620
(C) 1619 (D) 1618

82. کب عباسیوں کو شمالی افریقہ کی طرف سے طاقتور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا؟
(A) 10th C (B) 11th C
(C) 12th C (D) 13th C

83. 1258 میں کس نے بغداد کو تباہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اسلامی تہذیب کے سنہری دور کا خاتمہ ہو گیا؟
(A) ہلاکو خان (B) تیمور
(C) چنگیز خان (D) کوئی نہیں

84. سلطنت عثمانیہ نے مصر پر قبضہ کیا۔
(A) 1924 (B) 1925
(C) 1926 (D) 1927

85. سلطنت عثمانیہ کی حکومت استنبول میں جاری رہی۔
(A) 1517 تک (B) 1617 تک
(C) 1717 تک (D) 1817 تک

86. اندھا کرنے اور پھانسی کی سزا کن میں عروج پر رہی؟
(A) مورز (B) صفوی فارس
(C) سلجوک (D) کوئی نہیں

87. کس جنگ سے 1913 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا؟
(A) جنگ بلقان (B) ترکش جنگ
(C) انڈوترک جنگ (D) کوئی نہیں

88. کس معاہدے کے تحت عثمانیوں نے ماسوائے تھریس کے کچھ حصے کے بلقان کے علاقے چھوڑ دیے؟
(A) بلقان معاہدہ (B) ترک معاہدہ
(C) صفوی معاہدہ (D) بچراہت معاہدہ

89. تنازعہ ہونے کے باوجود مشکل وقت میں ترک قوم نے کس کی طرف دیکھا؟
(A) مصطفیٰ کمال (B) مصطفیٰ عزیز
(C) مصطفیٰ پاشا (D) مصطفیٰ باج

90. ملٹری سروسز میں کہاں پر مصطفیٰ کمال نے انفرادی خصوصیات ؟

مظاہرہ کیا؟

(A) لیبیا (B) شام

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

91. کب مصطفیٰ کمال امیسیا میں مزاحمتی تحریک کے لیڈروں سے ملا اور اس تحریک کے لیے ایک پروٹوکول ڈرافٹ کیا؟

(A) 19 جون 1922 (B) 19 جون 1921

(C) 19 جون 1920 (D) 19 جون 1919

92. 1920 میں کون سا معاہدہ استنبول حکومت پر مسلط کر دیا گیا؟

(A) معاہدہ غلامان

(B) معاہدہ سروز (serves)

(C) معاہدہ زمین

(D) معاہدہ انقرہ

93. مارچ 1921 میں کہاں ہونے والی کانفرنس میں انقرہ حکومت کو استنبول حکومت کے ساتھ مفاہمت پر مجبور کیا گیا؟

(A) مصر (B) شام

(C) ترکی (D) لندن

94. استنبول کانفرنس جس میں برطانیہ نے اصلاحات کا سلسلہ پیش کیا کب ہوئی؟

(A) نومبر 1879 (B) نومبر 1877

(C) نومبر 1876 (D) نومبر 1879

95. 19 ویں صدی میں عثمانی خلیفہ جس نے گلوبل اسلامی کمیونٹی کے لیے سیاسی قوت پر زور دیا۔

(A) عبدالحمید اول (B) عبدالحمید دوئم

(C) عبدالحمید سوئم (D) عبدالحمید چہارم

96. عبدالحمید کے کس کو اپنا گرینڈ وزیر بنایا؟

(A) مدحت پاشا (B) مصطفیٰ کمال پاشا

(C) احمد کمال (D) کوئی نہیں

97. عبدالحمید II نے آئین بنانے کے لیے کب ایک کمیٹی تشکیل دی؟

(A) 1879ء (B) 1876ء

(C) 1880ء (D) 1881ء

98. عثمانی شہزادہ اردحان پر قبضہ ہوا

(A) مئی 1877 (B) مئی 1878

(C) مئی 1879 (D) مئی 1880

99. استنبول کے ایک گاؤں سین سٹیفانو میں روسیوں اور عثمانیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا؟

(A) مارچ 1875 (B) مارچ 1876

(C) مارچ 1877 (D) مارچ 1878

100. معاہدہ سین سٹیفانو میں عثمانی 100 سالوں میں ____ ملین کروش بطور جنگی جرمانہ ادا کرنے پر رضامند ہوئے۔

(A) 27 (B) 26

(C) 25 (D) 24

101. مزدلفہ میں مشعر الحرام ایک ____

(A) چوٹی ہے (B) میدان ہے

(C) مسجد ہے (D) کوئی نہیں

102. مسجد امیر حمزہ واقع ہے۔

(A) میدان بدر میں (B) میدان احد میں

(C) میدان کربلا میں (D) میدان عرفات میں

103. مسجد راس الحسین کہاں ہے؟

(A) قاہرہ میں (B) دہلی میں

(C) اسلام آباد میں (D) پیرس میں

104. مسجد صوفیہ کہاں واقع ہے؟

(A) ایران (B) ترکی

(C) خراسان (D) برطانیہ

105. دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟

(A) خانہ کعبہ (B) مسجد نبوی

(C) مسجد شہدا (D) مسجد نمرہ

106. فیصل مسجد کہاں واقع ہے؟

(A) اسلام آباد (پاکستان)

(B) لاہور (پاکستان)

(C) ریاض (سعودی عرب)

(D) دمشق (شام)

107. کس مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے؟
(A) مسجد الحرام (B) مسجد نبوی
(C) مسجد قبا (D) مسجد قبلتین

108. پاکستان کی جامعات میں سب سے قدیم جامعہ کون سی ہے؟
(A) جامعہ پشاور (B) جامعہ سندھ
(C) جامعہ پنجاب (D) جامعہ کراچی

109. نبی اکرم ﷺ نے مساجد کے بارے میں کیا فرمایا؟
(A) مساجد جنت کی نہریں ہیں
(B) مساجد جنت کے مکانات ہیں
(C) مساجد جنت کے باغات ہیں
(D) مساجد جنت کے باغیچے ہیں

جوابات

1. (B)	2. (A)	3. (A)	4. (A)	5. (A)	6. (A)	7. (A)	8. (A)
9. (A)	10. (D)	11. (A)	12. (B)	13. (C)	14. (D)	15. (C)	16. (C)
17. (A)	18. (A)	19. (A)	20. (B)	21. (A)	22. (C)	23. (D)	24. (A)
25. (B)	26. (A)	27. (A)	28. (D)	29. (A)	30. (A)	31. (C)	32. (A)
33. (A)	34. (A)	35. (A)	36. (B)	37. (C)	38. (A)	39. (A)	40. (C)
41. (B)	42. (A)	43. (A)	44. (D)	45. (A)	46. (A)	47. (B)	48. (C)
49. (A)	50. (A)	51. (D)	52. (A)	53. (D)	54. (A)	55. (A)	56. (D)
57. (B)	58. (A)	59. (A)	60. (D)	61. (C)	62. (A)	63. (D)	64. (D)
65. (A)	66. (D)	67. (B)	68. (D)	69. (A)	70. (A)	71. (C)	72. (A)
73. (C)	74. (A)	75. (B)	76. (A)	77. (C)	78. (A)	79. (B)	80. (A)
81. (B)	82. (A)	83. (A)	84. (A)	85. (A)	86 (B)	87. (A)	88. (D)
89. (A)	90. (C)	91. (D)	92. (B)	93. (D)	94. (C)	95. (B)	96. (B)
97. (B)	98. (A)	99. (D)	100. (D)	101. (C)	102. (B)	103. (A)	104. (B)
105. (A)	106. (A)	107. (C)	108. (C)	109. (C)			

مسلمان محقق اور سائنسدان

1. کس مسلمان سائنسدان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے آلات جراحی دریافت کیے؟
(A) الفارابی (B) ابوالقاسم الزہراوی
(C) ابواسحاق کندی (D) البیرونی

2. ابوالقاسم الزہراوی کی طب کی سائنس کے موضوع پر کتاب کا نام بتائیں؟
(A) التصریف (B) التخلیق
(C) التحقیق (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

3. التصریف کتنے والیم پر مشتمل ہے؟
(A) 10 (B) 20
(C) 30 (D) 40

4. درج ذیل میں سے کیا جابر ابن حیان نے دریافت کیا؟
(A) قرنبیق (B) وزنی پیمانے کا طریقہ
(C) A اور B میں سے دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

5. الرحمہ، التجمی، الزلق الشرقی، الریاست اور موازنہ کس کی پانچ معروف کتب ہیں؟
(A) الخوارزمی (B) جابر بن حیان
(C) البیرونی (D) ابن بطوطہ

6. جابر ابن حیان کی پانچ معروف کتابوں کا موضوع کیا ہے؟
(A) طبعیات (B) کیمیا
(C) بیالوجی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

7. درج ذیل میں سے کونسا بیان جابر ابن حیان سے متعلق درست ہے؟

(A) انہوں نے جراحی کا طریقہ دریافت کیا
(B) انہوں نے سلفیورک ایسڈ نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ بنایا
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

8. وہ کون سے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے صفر کا استعمال کیا؟ (Police Inspector 1999)
(A) الخوارزمی (B) البیرونی
(C) الطوسی (D) ابواسحاق کندی

9. سب سے عظیم مسلمان ماہر حسابیات کا نام بتائیں؟
(A) الخوارزمی (B) البیرونی
(C) الکندی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

10. الخوارزمی نے کس علم پر سب سے پہلی کتب تحریر کیں؟
(A) علم حساب (B) علم الجبرا
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

11. علم حساب سے متعلق اس سب سے پرانی کتاب کا نام بتائیں جو کہ الخوارزمی نے تصنیف کی؟
(A) کتاب الصفر (B) کتاب الجمع والتفریق
(C) کتاب الجبرا (D) کتاب الحساب

12. کس مسلمان سائنسدان نے علم حساب میں اعشاری نظام متعارف کروایا؟
(A) الخوارزمی (B) عمر خیام
(C) البیرونی (D) الرازی

13. درج ذیل میں سے کون سی تصنیف کے مصنف البیرونی ہیں؟
(A) کتاب الہند (B) قانون المسعودی

(C) تفہیم اور اسرار الباقیہ (D) A، B اور C تینوں

14. کس مسلمان سائنسدان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے اور زمین کی لمبائی اور چوڑائی سے متعلق مکمل طور پر صحیح اندازہ پیش کیا؟

(A) البیرونی (B) الخوارزمی

(C) بوعلی سینا (D) جابر ابن حیان

15. البیرونی نے اپنی کس کتاب میں زمین کی لمبائی و چوڑائی سے متعلق اندازہ پیش کیا؟

(A) آثار الباقیہ (B) قانون المسعودی

(C) کتاب الصفہ (D) کوئی نہیں

16. کس مسلمان سائنسدان نے یہ ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے؟

(A) البیرونی (B) الفارابی

(C) الاسحاق (D) کسی نے بھی نہیں

17. کونسے مسلمان سائنسدان مغرب میں الکندس (AL-Kindus) کے نام سے اور "عرب کا فلسفہ دان" کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟

(A) ابوحسن (B) ابواسحاق الکندی

(C) البیرونی (D) الفارابی

18. درج ذیل میں سے کون سا بیان ابواسحاق کندی کے بارے میں درست ہے؟

(A) وہ کشش ثقل کے نظریے کے پیشوا ہیں

(B) وہ موسیقی کے ایک بہت بڑے اصول مقرر کرنے والے تھے جنہوں نے موسیقی پر تقریباً آدھی درجن سے زیادہ کتب تصنیف کیں

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

19. بوعلی سینا ایک ماہر طب اور ________

(A) ماہر حساب تھے (B) فلسفہ دان تھے

(C) شاعر تھے (D) تمام A، B، C

20. بوعلی سینا 370 ہجری میں کہاں پیدا ہوا؟

(A) قندھار (B) تہران

(C) قاہرہ (D) بخارا

21. اہل عرب کس لقب سے بوعلی سینا کو پکارتے ہیں؟

(A) شیخ العرب (B) شیخ العربی

(C) شیخ الرئیس (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

22. بوعلی سینا کی کتب "کتاب الشفاء" اور "القانون فی الطب" کا موضوع بحث کیا ہے؟

(A) طبیعات (B) طب

(C) حساب (D) شماریات

23. بوعلی سینا کی علم طب پر وہ کون سی کتاب تھی جو سترہویں صدی تک یورپ کے طبی سکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی رہی؟

(A) کتاب الشفاء (B) الرحیق

(C) القانون فی الطب (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

24. کس مسلمان سائنسدان نے الحاوی کے نام سے کتاب تحریر کی؟

(A) بوعلی سینا (B) ابوبکر محمد عمر

(C) ذکریا رازی (D) علی ابن سینا

25. جب عہد سلاطین عباسیہ شروع ہوا تو کون سا شہر علم و ادب، فن اور سائنس کا مرکز بن گیا۔

(A) بلخ (B) بغداد

(C) بخارا (D) سامان

26. وہ کون سا ادارہ تھا جس کو خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد میں بنوایا تھا اور جس میں ایک ترجمہ خانہ اور کتب خانہ بھی تھا؟

(A) بیت الکتب (B) بیت الحکمت

(C) بیت الفرید (D) بیت العلم

27. عہد عباسیہ کے مشہور جغرافیہ دان کا نام بتائیں؟

(A) ہاروت (B) یاقوت

(C) ماروت (D) کوئی بھی نہیں

28. ان میں سے کون سی کتاب مسلمان سائنسدان یاقوت نے تصنیف کی؟
(A) الحاوی (B) معجم البلدان
(C) القانون فی الطب (D) صورۃ الارض

29. جغرافیہ پر سب پہلی کتاب صورۃ الارض کس نے تحریر کی؟
(A) ابن حوقل (B) الکندی
(C) ابن خلدون (D) ابن بیطار

30. کس عباسی خلیفہ کے دور میں صورۃ الارض لکھی گئی؟
(A) ہارون الرشید (B) مامون الرشید
(C) امین الرشید (D) ابوعباس

31. کس مسلمان سائنسدان نے بحر الکاہل کا بہت دفعہ وہاں پر اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں دورہ کیا؟
(A) ابن خلدون (B) ابن بیطار
(C) ابن سینا (D) ابن اسحاق

32. علم نباتیات پر وہ کونسی کتاب ہے جس میں 1400 سے زیادہ جڑی ادویات کو 150 سے زائد پرانے عربی مصنفین کی تخلیقات سے موازنہ کے بعد پیش کیا گیا؟
(A) کتاب التصرف (B) کتاب الشفاء
(C) کتاب المغنی فی الادویۃ المفردۃ
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

33. کتاب المغنی فی الادویہ المفردۃ کے مصنف ہیں۔
(A) الخوارزمی (B) ابن بیطار
(C) ابن بطوطہ (D) البیرونی

34. کتاب المغنی فی الادویہ المفردہ بیان کرتی ہے۔
(A) رائج الوقت میں موجود معلوم پودوں کی تعداد سے 100 نئے پودے
(B) رائج الوقت میں موجود معلوم پودوں کی تعداد سے 150 نئے پودے
(C) رائج الوقت میں موجود معلوم پودوں کی تعداد سے 200 نئے پودے
(D) رائج الوقت میں موجود معلوم پودوں کی تعداد سے 250 نئے پودے

35. درج ذیل میں سے کون سی کتاب عبدالملک اصمعی نے تحریر کی؟
(A) الشاۃ اور الوحوش (B) خلق الانسان
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی نہیں

36. درج ذیل کتب میں سے کونسی کتاب خالد ابن یزید نے تحریر کی؟
(A) الکیمیا (B) الحکمت فی العلم الکریمہ
(C) الحکمت (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

37. البیرونی نے آثار الباقیہ کے نام سے ایک کتاب تحریر کی۔ اس کا موضوع کیا تھا؟
(A) مسلمان قوموں کی فہرست (B) یورپی قوموں کی فہرست
(C) پرانی قوموں کی فہرست (D) عرب قوموں کی فہرست

38. کس مسلمان سائنسدان نے جلالی کیلنڈر تیار کیا؟ (PCS Judicial 2002)
(A) عمر خیام (B) البیرونی
(C) نصیر الدین طوسی (D) موسیٰ الخوارزمی

39. عمر خیام نے کس موضوع پر کتاب نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی؟
(A) طبیعات (B) حساب
(C) طب (D) کیمیا

40. عمر خیام ایک .... تھے۔
(A) ماہر طبیعات و حساب (B) ماہر علم تعمیر و فلکیات
(C) ماہر طب (D) تمام A، B، C

41. عمر خیام نے اندازہ لگایا کہ ایک سال میں 365 دن 5 گھنٹے اور 24 سیکنڈز ہوتے ہیں۔ اس تحقیق اور جدید تحقیق میں اس حوالے سے کتنا فرق ہے؟
(A) 44 سیکنڈز کا فرق ہے
(B) 46 سیکنڈز کا فرق ہے

(C) 47 سیکنڈز کا فرق ہے

(D) 48 سیکنڈز کا فرق ہے

42. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کب کہوٹہ پلانٹ کے صدر منتخب ہوئے تھے؟

(A) 1970 (B) 1975

(C) 1978 (D) 1980

43. ڈاکٹر قدیر اے خان نے کہاں سے ایم ایس سی ٹیکنالوجی کی ڈگری حاصل کی تھی؟

(A) امریکہ (B) آسٹریلیا

(C) انگلینڈ (D) ہالینڈ

44. ڈاکٹر قدیر اے خان نے Ph-D کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟

(A) بلجیم (B) ہالینڈ

(C) آسٹریلیا (D) کینیڈا

45. کب ڈاکٹر عبدالسلام کو گرینڈ نوٹیفکیشن کا نظریہ (Grand Notification) پیش کرنے پر نوبل انعام سے نوازا گیا؟

(A) 1979 (B) 1980

(C) 1978 (D) 1981

46. ڈاکٹر عبدالسلام نے کہاں پر طبیعات کا ایک بین الاقوامی ادارہ قائم کیا جہاں پر تمام دنیا کے سائنسدان اپنے مقالات پیش کرتے ہیں؟

(A) اٹلی کے شہر ٹریسٹے میں (B) مصر کے شہر قاہرہ میں

(C) امریکہ کے شہر نیویارک میں

(D) پاکستان کے شہر اسلام آباد میں

47. کس عرب سائنسدان نے آتش گیر مادہ ایجاد کیا تھا؟

(A) میر فتح اللہ (B) میر حبیب اللہ

(C) خالد ابن ولید (D) ابن بیطار

48. ولیم ہاروے (William Harway) سے کتنے سال پہلے ابن نفیس نے جسم میں خون کی گردش دریافت کی تھی؟

(A) 100 سال (B) 200 سال

(C) 300 سال (D) 400 سال

49. مصری حکمران حکیم کے دور میں پنڈولیم (Pendulum) کس نے ایجاد کیا تھا؟

(A) ابن علی (B) الرازی

(C) ابن حیان (D) ابن یوسف

50. کس مسلمان سائنسدان نے علم حساب کی ایک شاخ لاگرتھم کی بنیاد رکھی؟

(A) ابن یونس مصری (B) ابن خلدون

(C) الرازی (D) ابن بیطار

51. امام جعفر صادق ایک عظیم کیمیادان تھے اور ---------

(A) جابر ابن حیان کے استاد تھے

(B) ابن یوسف کے استاد تھے

(C) ابن خلدون کے استاد تھے

(D) ابن خیام کے استاد تھے۔

52. کس مسلمان سائنسدان نے کیمیا کے آلات پر کام کیا اور تقریباً 25 آلات کا ذکر اپنی کتاب میں کیا؟

(A) الرازی (B) ابن سینا

(C) ابن بیطار (D) جابر ابن حیان

53. نصیر الدین طوسی نے کون سا کیلنڈر ایجاد کیا؟

(A) جلالی کیلنڈر (B) خانی کیلنڈر

(C) ہجری کیلنڈر (D) کوئی نہیں

54. نصیر الدین طوسی نے کس کے مشیر کی حیثیت سے کام کیا؟

(A) ہارون الرشید (B) ہلاکو خان

(C) مامون الرشید (D) معتصم باللہ

55. ابو عثمان عمرو بن الجاحظ نے ---------

(A) کتاب تہذیب الاخلاق لکھی

(B) کتاب احیائے العلوم لکھی

(C) کتاب الحیوان لکھی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

56. جابر ابن حیان نے درج ذیل میں سے کیا دریافت کیا؟

(A) کپڑوں کو واٹر پروف بنانے کا طریقہ

(B) لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ

(C) رنگین شیشے (D) B'A اور C تینوں

57. علم کیمیا کا موجد کونسا مسلمان سائنسدان کہلاتا ہے؟

(A) الرازی (B) جابر ابن حیان

(C) ابن سینا (D) نصیر الدین طوسی

58. ابن اخی خرام نے فروسیہ وشیات الخیل کے نام سے کس موضوع پر ایک کتاب لکھی؟

(A) انسان کی بیماریاں اور ان کا علاج

(B) جانوروں کی بیماریاں اور ان کا علاج

(C) پرندوں کی بیماریاں اور ان کا علاج

(D) گھوڑوں کی بیماریاں اور ان کا علاج

59. علی ابن عیسیٰ نے کس موضوع پر تذکرۃ الکحالین تحریر کی؟

(A) آنکھوں کی بیماریاں

(B) آنکھوں کی بیماریوں کا علاج

(C) دونوں

(D) کوئی نہیں

60. کس نے آنکھوں کی بیماریوں اور ان کے علاج سے متعلق تذکرۃ الکحالین لکھی؟

(A) جابر بن حیان (B) البیرونی

(C) امام جعفر صادق (D) علی ابن عیسیٰ

61. علی ابن عیسیٰ نے آنکھوں کی بیماریوں اور ان کے علاج سے متعلق تذکرۃ الکحالین کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب میں اس نے تقریباً کتنی آنکھوں کی بیماریوں پر تبصرہ کیا تھا؟

(A) 100 (B) 110

(C) 120 (D) 130

62. طب پر عربی زبان میں لکھی جانے والی سب سے پرانی اور مستند کتاب کا نام بتائیں جس کے مصنف علی الطبری تھے؟

(A) فردوس الحکمت (B) کتاب الشفاء

(C) القانون فی الطب

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

63. ابن مسکاویہ ایک سائنسدان، فلسفہ دان اور تاریخ دان تھا۔ اس کا تعلق کس ملک سے تھا؟

(A) مصر (B) شام

(C) ایران (D) پاکستان

64. ابن مسکاویہ ایک سائنسدان، فلسفہ دان اور تاریخ دان تھے اس کے علاوہ ان کی دلچسپی

(A) الکیمیا میں بھی تھی (B) شاعری میں بھی تھی

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

65. ابن مسکاویہ کا قابل ذکر کردار کس علم کے میدان میں ہے؟

(A) علم اخلاقیات (B) تاریخ

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

66. ابن مسکاویہ کی وہ کون سی شہرہ آفاق کتاب ہے جو کہ اسلامی فلسفہ کا بہترین بیان قرار دی جاتی ہے؟

(A) کتاب السنت (B) مقاصد فلسفہ

(C) تہذیب الاخلاق

(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

67. اس مسلمان ماہر حسابیات اور ماہر طبیعیات کا نام بتائیں جس نے بطلیموس کے وقت میں سب سے پہلے امراض چشم سے متعلق ایک نظریہ پیش کیا؟

(A) ابن العربی (B) ابن الہیثم

(C) ابن بطوطہ (D) ابن بیطار

68. ابن الہیثم نے روشنی کی ہیت سے متعلق دنیا کی سب سے پہلی کون سی کتاب لکھی؟

(A) کتاب المناظر (B) کتاب الحمامہ

(C) کتاب المقدمہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

69. ابن الہیثم بصرہ میں کب پیدا ہوئے؟

(A) 960 (B) 963

(C) 962 (D) 965

70. ابن الہیثم 1039 میں کہاں فوت ہوئے؟

(A) قاہرہ (B) عراق

(C) دمشق (D) بغداد

71. الرازی وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے........

(A) آنکھ کی پتلی پر روشنی کے اثرات کے بارے میں وضاحت کی

(B) مرکبات کی درجہ بندی کی

(C) A اور B دونوں

(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

72. R. Dozy مصنف ہے۔

(A) تاریخ میں اسلام (B) روح اسلام

(C) ہسپانوی اسلام (D) کوئی نہیں

73. اس پاکستانی شخصیت کا نام بتائیں جنہیں سب سے پہلے نوبل انعام ملا؟

(A) انور سادات (B) ڈاکٹر عبدالسلام

(C) شیریں مزاری (D) یاسر عرفات

74. آبسلطانی (Aqua Regea) کے موجد ہیں۔

(A) الکندی (B) الفخش

(C) جابر بن حیان (D) الفارابی

75. ماءالملوک کس کی ایجاد ہے؟

(A) جابر بن حیان (B) ابن ملجہ

(C) فیثاغورث (D) القزوینی

76. علم باغبانی کے ماہر مسلمان سائنسدان کون تھے؟

(A) عمر خیام (B) ابن خلدون

(C) ابن بیطار (D) ابن اسحاق اندلسی

77. World As I See It کا مصنف کون ہے؟

(A) روسو (B) آئن سٹائن

(C) آدم سمتھ (D) نیوٹن

78. کس مسلمان طبیب کی کتب اٹھارہویں صدی تک یورپی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہیں۔

(A) ابن رشد (B) جابر بن حیان

(C) بوعلی سینا (D) امام رازی

جوابات

1. (B)	2. (A)	3. (C)	4. (C)	5. (B)	6. (B)	7. (C)	8. (A)
9. (A)	10. (C)	11. (B)	12. (A)	13. (D)	14. (A)	15. (A)	16. (A)
17. (B)	18. (C)	19. (D)	20. (D)	21. (C)	22. (B)	23. (C)	24. (C)
25. (B)	26. (B)	27. (B)	28. (B)	29. (A)	30. (B)	31. (B)	32. (C)
33. (B)	34. (C)	35. (C)	36. (B)	37. (C)	38. (A)	39. (A)	40. (D)
41. (D)	42. (C)	43. (B)	44. (A)	45. (A)	46. (A)	47. (A)	48. (D)
49. (D)	50. (A)	51. (A)	52. (A)	53. (B)	54. (B)	55. (C)	56. (D)
57. (B)	58. (D)	59. (C)	60. (D)	61. (D)	62. (A)	63. (C)	64. (D)
65. (C)	66. (C)	67. (B)	68. (A)	69. (D)	70. (A)	71. (B)	72. (D)
73. (D)	74. (C)	75. (A)	76. (C)	77. (A)	78. (B)		

قرونِ وسطیٰ کے اسلام میں سائنز

1. اسلامی سائنس کی اصطلاح کو سائنس کی تاریخ میں اسلامی دنیا کے کس عرصے کے لیئے استعمال کیا جاتا ہے؟

(A) 7 اور 16 ویں صدی کا درمیانی عرصہ

(B) 8 اور 17 ویں صدی کا درمیانی عرصہ

(C) 9 اور 18 ویں صدی کا درمیانی عرصہ

(D) کوئی نہیں

2. کس کی رائے میں اسلامی سائنس جدید سائنس کی بنیاد ہے؟

(A) برٹرنڈ رسل (B) رابرٹ بریفالٹ

(C) ول ڈیورنٹ (D) کوئی نہیں

3. موجودہ علماء میں سے کس نے کہا کہ مسلم سائنسدانوں نے تجرباتی سائنس اور سائنسی طریقہ کار کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا؟

(A) نوبی ای۔ ایف

(B) ول ڈورنٹ اور فیلڈنگ ایچ۔ گریزن

(C) محمد اقبال حسین نصر اور برنارڈ لیوس

(D) تمام C،B،A

4. ابتدائی اسلامی جنگوں میں عرب فوجوں نے خالد بن ولیدؓ کی سرکردگی میں ساسانی اور رومی سلطنتوں پر قبضہ کر کے کہاں خلافت قائم کی؟

(A) مشرق وسطیٰ (B) وسطی ایشیاء

(C) شمالی افریقہ (D) تمام

5. [illegible] کا کونسا علاقہ بھی خالد بن ولیدؓ نے فتح کیا تھا؟

(A) پاکستان (B) جنوبی اٹلی

(C) جزیرہ نما ایبریا (D) تمام

6. عرب جنگوں اور فتوحات نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ.....

(A) مشرق وسطیٰ سے علم و مہارت حاصل کر سکیں

(B) یونان سلطیٰ سے علم و مہارت حاصل کر سکیں

(C) ایران و انڈیا سے علم و مہارت حاصل کر سکیں

(D) تمام C،B،A

7. کونسا فن ان دو چینی قیدیوں سے حاصل کیا گیا جو کہ جنگ تالاس میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے؟

(A) لکڑی کا کام (B) روشن دان بنانا

(C) کاغذ سازی (D) کوئی نہیں

8. عربوں نے کس جگہ کاغذ سازی کی ملیں تعمیر کیں؟

(A) ثمرقند (B) بغداد

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

9. مغربی علماء کے لیئے نئی جہتوں کی تلاش کا ذریعہ صرف مسلمان تھے۔ انہوں نے انکے کام کا خاص طور پر عربی سے لاطینی میں ترجمہ کیا۔ یہ تراجم زیادہ تر کہاں کیے گئے؟

(A) اسلامی سپین (B) Sicily

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

10. سپین کے اس مترجم کا نام بتائیں جنہوں 87 کتابوں کا عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا؟

(A) گیرارڈ (B) ولیم مورلے

(C) ولیم ہاروے (D) کوئی نہیں

11. ابن بیطار کی کتاب الجامع فی الادویہ المفردہ کا کب لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا؟

(A) 1750 (B) 1745

(C) 1755 (D) 1758

12. ابن طفیل کی کتاب حئی ابن یقظان کا انگریزی میں ترجمہ کب کیا گیا؟

(A) 1708 (B) 1709

(C) 1710 (D) 1711

13. حئی ابن یقظان کا ترجمہ کس نے کیا؟

(A) سائمن اوکلے (B) ابن بیطار

(C) ولیم ہاروے (D) ابن طفیل

14. تیزاب کا موجد ہے۔

(٨) البیرونی (B) محمد بن زکریا رازی

(C) جابر بن حیان (D) خالد بن یزید

15. مسلم سائنس دان جس کے تین بیٹے بھی سائنسدان تھے۔

(A) عبدالمالک اصمعی (B) موسیٰ شاکر

(C) یعقوب کندی (D) ابن الہیثم

16. ریاضی دان جو غزنی (افغانستان) میں دفن ہے۔

(A) بوعلی سینا (B) ابن الہیثم

(C) علی بن عیسیٰ (D) البیرونی

17. مسلمانوں کی کتب پڑھ کر جتنے فی صد یورپی سائنسدانوں نے نام کمایا۔

(A) 40فی صد (B) 50فی صد

(C) 60فی صد (D) 70فی صد

18. علم طب کا امام کہلاتا ہے۔

(A) حکیم یحییٰ منصور (B) ابوالقاسم زہراوی

(C) محمد بن زکریا رازی (D) بوعلی سینا

19. البیرونی نے جس شہر کے قریب زمین کا محیط معلوم کیا۔

(A) جہلم (B) پشاور

(C) کوئٹہ (D) کراچی

20. معلم ثانی کہلاتے ہیں۔

(A) ابن حزم اندلسی (B) ابونصر فارابی

(C) محمد بن موسیٰ خوارزمی (D) البیرونی

21. سرجری کے فن کا موجد ہے۔

(A) بوعلی سینا (B) حکیم یحییٰ منصور

(C) محمد بن زکریا رازی (D) ابوالقاسم زہراوی

22. کینسر (سرطان) جیسے موذی مرض پر تحقیق کی۔

(A) محمد بن زکریا رازی (B) بوعلی سینا

(C) ابوالقاسم زہراوی (D) حکیم یحییٰ منصور

23. مشہور مصری اسوان ڈیم کا منصوبہ بنانے والا سائنسدان ہے۔

(A) ابن الہیثم (B) البیرونی

(C) الخوارزمی (D) الرازی

24. چیچک پر دنیا کی پہلی کتاب کا مصنف ہے۔

(٨) جابر بن حیان (B) محمد بن زکریا رازی

(C) ابوالقاسم زہراوی (D) حکیم یحییٰ منصور

25. کسی مشکل مسئلہ پر دعا اور نماز کے ذریعے اللہ سے رجوع کرنے والا سائنسدان تھا۔

(A) ابن الہیثم (B) البیرونی

(C) ابونصر فارابی (D) بوعلی سینا

26. عباسی خلیفہ جس کے دور میں یونانی کتب کا تراجم عروج پر تھے۔

(A) مہدی (B) ہادی

(C) ہارون (D) مامون

27. بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی۔

(A) منصور (B) مہدی

(C) مامون (D) امین

28. علم کیمیا کا باوا آدم ہے۔

(A) جابر بن حیان (B) خالد بن یزید
(C) محمد بن زکریا رازی (D) البیرونی

29. شمسی گھڑی ایجاد کی۔
(A) ابوالعباس فرغانی (B) حکیم یحییٰ منصور
(C) ابن الہیثم (D) ابن سینا

30. جالینوس العرب کہلاتا ہے۔
(A) بوعلی سینا (B) محمد بن زکریا رازی
(C) حکیم یحییٰ منصور (D) ابن نفیس

31. علم بصارت کا بانی ہے۔
(A) ابن حزم (B) ابن نفیس
(C) یعقوب کندی (D) ابن الہیثم

32. ریاضی پر دنیا کی پہلی تصنیف کا مصنف ہے۔
(A) البیرونی (B) الخوارزمی
(C) ابوالقاسم زہراوی (D) یعقوب کندی

33. الجبرے کا موجد ہے۔
(A) زہراوی (B) البیرونی
(C) الخوارزمی (D) بوعلی سینا

34. دوران خون کی گردش معلوم کرنے والا پہلا طبیب ہے۔
(A) ابن نفیس (B) عبدالملک اصمعی
(C) ابوالقاسم زہراوی (D) حکیم یحییٰ منصور

35. زمین کا محیط معلوم کیا۔
(A) الخوارزمی (B) ابن الہیثم
(C) عبدالملک اصمعی (D) البیرونی

36. گردے کی پتھری نکالنے والا آلہ ایجاد کرنے والا ہے۔
(A) جابر بن حیان (B) زہراوی
(C) کندی (D) ابن نفیس

37. ستاروں کی سب سے پہلے زیج تیار کرنے والا ہے۔
(A) ابن حزم (B) الرازی
(C) حکیم یحییٰ منصور (D) جابر بن حیان

جوابات

1. (A)	2. (B)	3. (D)	4. (D)	5. (D)	6. (D)	7. (C)	8. (C)
9. (C)	10. (A)	11. (D)	12. (A)	13. (A)	14. (C)	15. (B)	16. (D)
17. (D)	18. (C)	19. (A)	20. (B)	21. (D)	22. (C)	23. (A)	24. (B)
25. (D)	26. (D)	27. (C)	28. (A)	29. (A)	30. (B)	31. (D)	32. (B)
33. (C)	34. (A)	35. (D)	36. (B)	37. (C)			

زرعی سائنسز

1. عرب میں علم نباتات کا بانی کس کو خیال کیا جاتا ہے؟
(A) الدیناوری (B) ابن مسکاویہ
(C) ابن خلدون (D) ابن ماجہ

2. الدیناوری کی اس کتاب کا نام بتائیں جس کی بنا پر انہیں عرب میں علم نباتات کا بانی خیال کیا جاتا ہے؟
(A) بک آف باٹنی
(B) بک آف فلاورز
(C) بک آف پلانٹس
(D) کوئی نہیں

3. الدیناوری نے اپنی کتاب بک آف پلانٹس میں کم از کم کتنے پودوں کا ذکر کیا ہے؟
(A) 600 (B) 622
(C) 625 (D) 637

4. بک آف پلانٹس میں......
(A) زندگی سے موت تک پودوں کے ارتقا پر بحث کی گئی ہے۔
(B) پودوں کی بڑھوتری کے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔
(C) پھولوں اور پھلوں کی پیداوار کو موضوع بنایا گیا ہے۔
(D) تمام

5. 13ویں صدی کے اس اندلسی ماہر حیاتیات کا نام بتائیں جنہوں نے علم نباتات کے لیے ابتدائی سائنسی طریقہ کار وضع کیا؟
(A) ابوالعباس
(B) ابوانصاری بن صالح
(C) ابوالعباس النباتی
(D) کوئی نہیں

6. ابن بیطار شاگرد تھے۔
(A) ابوالعباس النباتی (B) ابوالعباس الخزری
(C) ابوالعباس الجوری (D) کوئی نہیں

7. کس نے الجامع الادویہ المفردہ تحریر کی جسے نباتات کی تاریخ کی سب سے بہترین کتاب خیال کیا جاتا ہے؟
(A) ابن موسیٰ (B) ابن خلدون
(C) ابن بیطار (D) ابن حجاج

8. کتاب الجامع فی الادویہ المفردہ میں کم از کم 1400 مختلف، پودوں، خوراکوں اور ادویات کا ذکر ہے۔ ان میں سے کتنی ابن بیطار کی اپنی دریافت ہیں؟
(A) 100 (B) 200
(C) 300 (D) 400

9. درج ذیل میں سے کونسی زراعتی ایجادات مسلمانوں کی ہیں؟
(A) لینڈ لیویلر، مصنوعی آبپاشی کا انتظام
(B) فرٹیلائزر، گنے کی صنعت
(C) ہینڈ پمپ
(D) تمام A، B، C

10. مسلم زرعی انقلاب کے دوران .... کی پیداوار ایک صنعت بن چکی تھی۔

(A) چینی (B) چاول

(C) چائے (D) کوئی نہیں

11. کون آٹھویں صدی سے تمام عرب سلطنت میں چینی بنا رہے تھے؟

(A) عرب (B) بربرز

(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

12. درج ذیل میں سے "نباتین زراعت" نامی کتاب کے بارے میں کیا درست ہے؟

(A) یہ زراعت کے مطالعے پر سب سے پہلی کتاب ہے

(B) یہ دنیا کی پہلی Cook Book ہے

(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

13. "نباتین زراعت" کے مصنف تھے:

(A) ابن بیطار (B) ابن وحشیہ

(C) ابن حجاج (D) ابن خلدون

14. 12ویں صدی میں کس نے "کتاب الفلاحۃ" تحریر کی؟

(A) ابن خلدون (B) ابن حجاج بن جبر

(C) ابن معاویہ بن زبیر (D) ابن العوام ال شبلی

15. کس نے اپنی کتاب "الفلاحۃ" میں اپنے زراعتی علم کو "نباتین زراعت" کے ساتھ ملایا؟

(A) ال۔شبلی (B) الکیمی

(C) ال۔خالد (D) کوئی نہیں

16. ابن العوام الشبلی کا تعلق کہاں سے تھا؟

(A) عراق (B) بغداد

(C) کوفہ (D) ال۔اندلس

17. کتاب الفلاحۃ میں کتنے مائکرو حیاتیاتی کلچروں کو بیان کیا گیا؟

(A) 580 (B) 585

(C) 590 (D) 595

18. کتاب الفلاحۃ کے 585 مائکرو حیاتیاتی کلچروں میں سے کتنوں کا تعلق پھل دار درختوں سے ہے؟

(A) 40 (B) 45

(C) 50 (D) 55

19. 1801 میں مورد میں Banqueri نے کتاب الفلاحۃ کا ترجمہ کس زبان میں کیا؟

(A) ہسپانوی زبان میں (B) اطالوی زبان میں

(C) انگریزی زبان میں (D) فرانسیسی زبان میں

20. پیرس میں کس نے کتاب الفلاحۃ کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا؟

(A) کلیمنٹ ملٹ (B) فلیمنگ ملٹ

(C) ایڈورڈ ملٹ (D) جان ملٹ

21. کتاب الفلاحۃ کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کب کیا گیا؟

(A) 1864 (B) 1865

(C) 1866 (D) 1867

22. ابن وحشیہ بہت بڑا تھا۔

(A) زراعت دان (B) کیمیادان

(C) ریاضی دان (D) جغرافیہ دان

23. ابن وحشیہ کی مشہور کتاب ہے۔

(A) القانون (B) الفلاحہ

(C) الفلاح النبطیہ (D) المنصوری

24. زراعت اور نباتات کا عالم تھا۔

(A) ابن الہیثم (B) ابن العوام

(C) ابن سینا (D) ابن حزم

25. ابن العوام کا وطن تھا۔

(A) مراکش (B) تیونس

(C) طرابلس (D) اندلس

26. ابن العوام کی مشہور کتاب کا نام ہے۔

(A) الحیوان (B) الفلاح النبطیہ

(C) الفلاحہ (D) الشفا

27. ابن وحشیہ کی تصنیف کی تعداد تقریباً تھی۔

(A) 100 (B) 200
(C) 300 (D) 400

28. الدینا وری ماہر نباتیات کے ساتھ ساتھ تھے۔
(A) ریاضی دان (B) جغرافیہ دان
(C) تاریخ دان (D) یہ سب A، B، C

29. دینا وری کی تفسیر قرآن کی جلدیں تھیں۔
(A) 14 (B) 13
(C) 12 (D) 11

30. دینا وری کا سال پیدائش ہے۔
(A) 815ء (B) 816ء
(C) 817ء (D) 818ء

31. ابن بیطار کا سنہ پیدائش ہے۔
(A) 1186ء (B) 1188ء
(C) 1190ء (D) 1192ء

32. الدینا وری کا تعلق صدی عیسوی سے تھا۔
(A) آٹھویں (B) نویں
(C) دسویں (D) گیارھویں

33. پودوں میں زندگی اور نر مادے کی وضاحت کی۔
(A) ابن بیطار (B) ابن العوام
(C) ابن وحشیہ (D) ابن مسکویہ

34. علم باغبانی کے ماہر مسلمان سائنسدان کون تھے؟
(A) عمر خیام (B) ابن خلدون
(C) ابن طیار (D) ابن اسحاق الکندی

جوابات

1. (A)	2. (C)	3. (D)	4. (D)	5. (C)	6. (A)	7. (C)	8. (C)
9. (D)	10. (A)	11. (C)	12. (C)	13. (B)	14. (D)	15. (A)	16. (D)
17. (B)	18. (D)	19. (A)	20. (A)	21. (A)	22. (A)	23. (C)	24. (B)
25. (D)	26. (C)	27. (C)	28. (D)	29. (B)	30. (A)	31. (C)	32. (B)
33. (D)	34. (C)						

علم النجوم (Astrology)

1. اسلام نے علم النجوم کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اسی لیے مسلمان علماء نے بھی اس سے انکار کیا۔ کس اہم عالم نے اس علم کی نفی کی؟

(A) الفارابی (B) ابن الہیثم
(C) ابو سینا اور ابن رشد (D) تمام

2. علم النجوم (Astrology) اور علم فلکیات (Astronomy) کے درمیان پہلے معنوی امتیاز کس نے قائم کیا؟

(A) البیرونی (B) الفارابی
(C) الکندی (D) ابن سینا

3. کس صدی میں البیرونی نے علم النجوم اور علم فلکیات کے درمیان امتیاز قائم کیا؟

(A) 9ویں صدی (B) 10ویں صدی
(C) 11ویں صدی (D) 12ویں صدی

4. رئیس المنجمین کہلاتا ہے؟

(A) ابو العباس فرغانی (B) عباس بن فرناس
(C) حکیم یحییٰ منصور (D) یعقوب کندی

5. حکیم یحییٰ منصور جس خلیفہ کے دربار سے وابستہ تھا۔

(A) ہارون (B) مامون
(C) واثق (D) معتصم

6. اصول علم النجوم کا مصنف ہے۔

(A) عباس بن فرناس (B) حکیم یحییٰ منصور
(C) البیرونی (D) ابو العباس فرغانی

ابو العباس فرغانی مامون کے دور کا مشہور ہے۔

(A) منجم (B) موسیقار
(C) کیمیادان (D) گلوکار

8. عباس بن فرناس جس خلیفہ کے دربار کا منجم تھا۔

(A) عبدالرحمٰن اول (B) عبدالرحمٰن الثانی
(C) ہادی (D) مہدی

9. محمود غزنوی سے وابستہ منجم تھا۔

(A) الرازی (B) ابن الہیثم
(C) البیرونی (D) ابن سینا

10. سائنس دان جو علم نجوم میں اپنے آپ کو وقت کا امام کہتا تھا۔

(A) الخوارزمی (B) فرغانی
(C) الکندی (D) البیرونی

11. فلسفی جو موسیقی اور علم نجوم کا بھی ماہر تھا۔

(A) یعقوب کندی (B) البیرونی
(C) ابن الہیثم (D) الرازی

12. حکیم یحییٰ منصور مشہور رصدگاہ کا منتظم تھا۔

(A) طلیطلہ (B) قرطبہ
(C) شماسیہ (D) کوفہ

13. بادشاہ جس نے خوش ہو کر البیرونی کو ہاتھی بمعہ زیورات انعام میں دے دیا۔

(A) خوارزم شاہ (B) جلال شاہ
(C) محمود غزنوی (D) مسعود غزنوی

14. البیرونی کے جس سے مباحثے ہوتے رہتے تھے۔

(A) ابن الہیثم (B) بوعلی سینا

(C) الخوارزمی (D) الرازی

15. علم نجوم کو کہتے ہیں۔

(A) آسٹرالوجی (B) بائی

(C) زوالوجی (D) آسٹرانومی

جوابات

1. (D) 2. (A) 3. (C) 4. (C) 5. (B) 6. (D) 7. (A) 8. (B)
9. (C) 10. (D) 11. (A) 12. (C) 13. (D) 14. (B) 15. (A)

علم الفلک (Astronomy)

1. کس کے فلکیاتی جدولوں نے لاطینی یورپی مفکروں کو علم الفلک کو دوبارہ دریافت کرنے پر مجبور کر دیا؟
(A) الخوارزمی (B) مسلمہ ابن احمد المجریطی
(C) دونوں B، A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

2. بطلیموسی نظام سے کیا مراد ہے؟
(A) یہ نظریہ کہ زمین کائنات کا مرکز ہے
(B) یہ نظریہ کہ کائنات زمین کا مرکز ہے
(C) یہ نظریہ کہ ستارے حرکت کرتے ہیں
(D) یہ نظریہ کہ چاند زمین کا مرکز ہے

3. کس صدی میں مسلم ماہرین فلکیات نے بطلیموسی نظام پر سوال اٹھانا شروع کر دیے تھے؟
(A) 10ویں صدی (B) 11ویں صدی
(C) 12ویں صدی (D) 13ویں صدی

4. وہ کونسے ماہر فلکیات تھے جنہوں نے پہلی بار بطلیموسی نظام کی تردید کرنا شروع کی؟
(A) ابن الموسیٰ (B) ابن الشعری
(C) ابن الہیثم (D) ابن حجاج

5. علم فلکیات میں تجرباتی طریقے کو کس نے متعارف کروایا؟
(A) البیرونی (B) الکندی
(C) الخوارزمی (D) العشری

6. بطلیموسی نظریے میں درستگی پیدا کرنے میں خاص طور پر قابل ذکر نام کس کا ہے؟
(A) البطلسی (B) ابن الہیثم
(C) ابن رشد (D) تمام

7. کس کے غیر۔ بطلیموسی ماڈلز کو بعد میں Heliocentric Copernican Model میں شامل کیا گیا؟
(A) نصیر الدین الطوسی
(B) محی الدین اردی
(C) ابن الشاطر
(D) تمام C، B، A

8. کوپرنیکس کے زمین کی گردش کے بارے میں نظریات کس مسلم ماہر فلکیات سے ماخوذ ہیں؟
(A) الطوسی (B) علی القوشجی
(C) دونوں B، A (D) کوئی نہیں

9. یہ کس مسلم ماہر فلکیات کا نظریہ تھا کہ "Milky Way" کہکشاں بہت سے Nebulous ستاروں کا مجموعہ ہے؟
(A) البیرونی (B) الکندی
(C) الرازی (D) الشاطر

10. کس ماہر فلکیات نے شکل تدویر کے بغیر سیاروی ماڈل بنائے؟
(A) ابن حجاج (B) ابن نفیس
(C) ابن شاطر (D) ابن بطلسی

11. کس نے یہ دریافت کیا کہ اجرام فلکی اور فلکی کروں پر وہی طبعی قوانین لاگو ہو رہے ہوتے ہیں جو کرۂ زمین پر ہوتے ہیں؟
(A) جعفر محمد ابن موسیٰ اشعری ابن شاکر

(B) صادق محمد ابن موسیٰ اشکری ابن شاکر

(C) عبداللہ محمد ابن موسیٰ اشکری ابن شاکر

(D) خدیجہ محمد ابن موسیٰ اشکری ابن شاکر

12. درج ذیل میں سے کونسی ایجاد ابن الہیثم کی ہے؟

(A) فلکی کرے کثیف ٹھوس نہیں ہوتے

(B) آسمان ہوا سے کم کثیف ہوتے ہیں

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

13. کس ماہر فلکیات نے فطرتی فلسفے کو علم فلکیات سے جدا کیا؟

(A) ابن الہیثم (B) القشجی

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

14. کس نے زمین کی گردش کے بارے میں پہلا تجربی مشاہداتی ثبوت پیش کیا؟

(A) الطوسی (B) القشجی

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

15. اسلام کے سنہرے دور میں علم فلکیات نے بہت ترقی کی۔ یہ ترقی زیادہ تر ......۔

(A) مشرقی وسطیٰ اور وسطی ایشیا میں رونما ہوئی

(B) شمالی افریقہ، انڈیا اور چین میں رونما ہوئی

(C) تمام C،B،A (D) کوئی نہیں

16. اسلامی علم فلکیات کے ادب میں تقریباً کتنے مسودے آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں جن میں سے اکثر کو ابھی تک پڑھا بھی نہیں گیا؟

(A) 5,000 (B) 10,000

(C) 15,000 (D) 20,000

17. کب حضرت عمرؓ نے قمری کیلنڈر متعارف کروایا؟

(A) 638اے۔ڈی (B) 640اے۔ڈی

(C) 655اے۔ڈی (D) 659اے۔ڈی

18. کس کا بنایا ہوا قمری کیلنڈر آج بھی مذہبی مقاصد کے استعمال ہوتا ہے۔

(A) حضرت عمرؓ (B) ابن شاکر

(C) الطوسی (D) القشجی

19. حضرت عمرؓ کا بنایا ہوا قمری کیلنڈر شمسی سال سے کتنا کم ہے؟

(A) 10دن (B) 11دن

(C) 12دن (D) 13دن

20. مشاہداتی علم فلکیات میں پہلی اہم کتاب زج ال۔سندھ تھی۔ اسکے مصنف کا نام بتائیں؟

(A) الکندی (B) الخوارزمی

(C) البحتری (D) الموسیٰ

21. زج ال۔سندھ کب تحریر میں لائی گئی؟

(A) 810 (B) 820

(C) 830 (D) 840

22. زج ال۔سندھ......۔

(A) سورج کی حرکات کے جدولوں پر مشتمل تھی

(B) چاند کی حرکات پر جدولوں پر مشتمل تھی

(C) اس وقت کے 5 معلوم سیاروں کی حرکات کے جدولوں پر مشتمل تھی

(D) تمام C،B،A

23. کس عباسی خلیفہ کے دور میں فلکیات تحقیق کی بہت زیادہ معاونت کی گئی تھی؟

(A) ہارون رشید (B) مامون الرشید

(C) امین الرشید (D) کوئی نہیں

24. کس عباسی خلیفہ نے فلکیاتی تحقیق کو بہت عروج دیا؟

(A) ابن الرشید (B) ہارون الرشید

(C) مامون الرشید (D) کوئی نہیں

25. خلیفہ مامون کے دور کا کونسا شہر فلکیاتی تحقیق کے کام کا مرکز بن گیا؟

(A) بغداد (B) دمشق

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

26. کب الفرغانی نے کتاب فی جوئی تحریر کی؟

(A) 820 (B) 830

(C) 840 (D) 850

27. کتاب فی جوئی میں الفرغانی نے ....

(A) بطلیموس کے نظام کا خلاصہ پیش کیا

(B) بطلیموس کے نظام میں درستگی پیدا کی

(C) دونوں B،A

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

28. محمد ابن جابر ال ہارانی ال بطنی نے یہ دریافت کیا کہ ....

(A) سورج کے مرکز کی سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے

(B) زمین کے مرکز کی سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے

(C) برج حمل کے مرکز کی سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے

(D) کوئی نہیں

29. البطنی کی کس دریافت نے ماہرین فلکیات کے لیے" اضافیت relativity اور space age کے دروازے کھول دیے؟

(A) ان کے نئے چاند کے اوقات

(B) شمسی اور انجمی سالوں کی لمبائی

(C) چاند اور سورج گرہن کی پیش گوئی

(D) تمام C،B،A

30. زج ال۔ ممتحن کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟

(A) یحیٰی ابن ابی منصور

(B) یحیٰی ابن ابی مالک

(C) یحیٰی ابن ابی عبداللہ

(D) یحیٰی ابن ابی ہارون

31. کس صدی میں عبدالرحمٰن ال صوفی نے ستاروں پر مشاہدات کیے اور ان کی پوزیشنیں، سائز، روشنی اور رنگ کے بارے میں بیان کیا؟

(A) 10ویں صدی (B) 11ویں صدی

(C) 12ویں صدی (D) 13ویں صدی

32. عبدالرحمٰن ال۔صوفی کی کتاب کا نام بتائیں جس میں انہوں نے ستاروں سے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں؟

(A) بک آف سٹارز

(B) بک آف برائٹ سٹارز

(C) بک آف فیوچ سٹارز

(D) بک آف فکسڈ سٹارز

33. کس نے "ایک چھوٹے بادل (A Little Cloud) کو نہ صرف بیان کیا بلکہ اس کی تصویر بھی پیش کی؟

(A) عبدالرحمٰن صوفی (B) الرازی

(C) یحیٰی منصور (D) الفرغانی

34. آج کل یہ "ایک چھوٹا بادل" کیا کہلاتا ہے؟

(A) اینڈرومیڈا کہکشاں

(B) عینڈرومیڈا کہکشاں

(C) لنڈرومیڈا کہکشاں

(D) کوئی نہیں

35. سب سے پہلے کس ماہر فلکیات نے لارج میگلین کلاؤڈ کا ذکر کیا؟

(A) الکندی (B) ابن الہیثم

(C) عبدالرحمٰن ال۔صوفی (D) عبداللہ بن اشعری

36. کس ماہر فلکیات نے 1.4 میٹر کے ڈایا میٹر کی اصطرلاب کو استعمال کرتے ہوئے سورج کی پوزیشن کے بارے میں 10,000 سے زائد entries پیش کیں؟

(A) ابن حارث (B) ابن یونس

(C) ابن مالک (D) ابن خدیج

37. تاریخ کا روشن ترین سپر نووا SN 1006 کس نے دریافت

کیا؟

(A) الکندی (B) جابر بن حیان

(C) البلخی (D) علی ابن رضوان

38. علی ابن رضوان کا تعلق کس ملک سے تھا؟

(A) شام (B) عراق

(C) ایران (D) مصر

39. 9ویں صدی کے اواخر میں کس ماہر فلکیات نے ایک سیاروی ماڈل بنایا جسے کچھ لوگ بطور ہیلوسینٹرک ماڈل بیان کرتے ہیں؟

(A) البلخی (B) الکندی

(C) الرازی (D) الشفاء

40. سیاروی نظریے پر البلخی کا کام ضائع ہو چکا ہے لیکن اسکے فلکیاتی deta کو بعد میں کس نے ریکارڈ کیا؟

(A) الہاشمی (B) البیرونی

(C) البجری (D) تمام

41. 9ویں صدی میں ابن شاکر نے فلکیات کے کس میدان میں قابل ذکر کردار ادا کیا؟

(A) فلکیاتی طبیعات (B) فلکی میکینکس

(C) دونوں A، B

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

42. اپنی کس کتاب میں ابن شاکر نے اجرام فلکی میں کشش کی قوت کا نظریہ پیش کیا؟

(A) ایسٹرل (Astral) حرکت

(B) کشش کی قوت

(C) دونوں A، B

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

43. کس صدی میں ابن الہیثم نے "مقالہ فی دار القمر" تحریر کیا؟

(A) 10ویں صدی میں (B) 11ویں صدی میں

(C) 13ویں صدی میں (D) 14ویں صدی میں

44. مقالہ فی دار القمر.....

(A) حسابیاتی علم فلکیات کو طبیعات کے ساتھ ملانے کی پہلی کوشش تھی

(B) علم فلکیات اور فلکی طبیعات پر تجرباتی طریقہ لاگو کرنے کی ابتدائی ترین کوشش تھی

(C) دونوں A، B

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

45. کس نے اس رائے کی تردید کی کہ چاند شیشے کی طرح سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے؟

(A) ابن الہیثم (B) ابن خلدون

(C) الرازی (D) ابن سجاج

46. کس ماہر فلکیات نے درست نظریہ پیش کیا کہ چاند اپنی سطح کے ان حصوں سے روشنی خارج کرتا ہے جہاں سورج کی روشنی ٹکراتی ہے؟

(A) الرازی (B) ابن خلدون

(C) ابن الہیثم (D) ابن رشد

47. البیرونی نے افغانستان میں......

(A) 8 اپریل 1019ء کو سورج گرہن کا مشاہدہ کیا

(B) 17 ستمبر 1019ء کو چاند گرہن کا مشاہدہ کیا

(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

48. الخزنی نے کب کتاب "Balance of Wisdom" تحریر کی؟

(A) 1110 (B) 1115

(C) 1118 (D) 1121

49. کس نے ثابت کیا کہ اجسام کی کشش ثقل مختلف ہوتی ہے جس کا انحصار انکے زمین سے فاصلے پر ہوتا ہے؟

(A) ابن بطی (B) ابن الہیثم

(C) الکندی (D) الخزنی

50. 18ویں صدی کے کس سائنسدان نے الخزنی کے کشش ثقل کے نظریے کو ثابت کیا؟

(A) نیوٹن (B) ابن رشد

(C) مارٹن گرو (D) کوئی نہیں

51. ابن الہیثم نے اسلامی علم فلکیات میں Hay's روایت کا آغاز اپنی کس تحریر سے کیا؟

(A) الشکوہ علی بطلیموس

(B) الشکوہ علی ارسطو

(C) الشکوہ علی افلاطون

(D) کوئی نہیں

52. اپنی کس تحریر میں ابن الہیثم نے بطلیموسی نظام کا طبعی ڈھانچہ بنایا؟

(A) مقالہ فی حیات العالم

(B) مقالہ فی حیات العلوم

(C) مقالہ فی حیات الدیار

(D) کوئی نہیں

53. کب ابن الہیثم نے اپنی تحریر ''The Model of the Motions'' میں اس بات پر زور دیا کہ اجرام فلکی طبیعات کے قوانین کے مطابق قابل شمار تھے؟

(A) 1030 (B) 1033

(C) 1035 (D) 1038

54. کس انڈین کے سیاروی نظریات پیش کیے؟

(A) آریا بھاٹا (B) برہما گپتا

(C) وارا ہا میرہ (D) تمام

55. البیرونی نے کب انڈین کے سیاری نظریات پیش کیے؟

(A) 1030 (B) 1031

(C) 1032 (D) 1033

56. البیرونی نے اپنی کس کتاب میں انڈین کے سیاروی نظریات پیش کیے؟

(A) ال۔بیرونی (B) ال۔ہند

(C) ال۔نباتات (D) ال۔فلکیات

57. کب البیرونی نے اپنا فلکیاتی انسائیکلو پیڈیا ''کتاب القانون المسعودی'' تحریر کیا؟

(A) 1030 (B) 1035

(C) 1027 (D) 1031

58. ابوعبید الجزیانی کس کے شاگرد تھے؟

(A) ابوشجاع (B) ابوسینا

(C) ابن سجاح (D) ابن خلدون

59. ابوعبیدہ الجزیانی نے کب غیر بطلیموس نظریات پیش کیے؟

(A) 1070 (B) 1071

(C) 1072 (D) 1073

60. ابوعبیدہ الجزیانی نے اپنی کس کتاب میں غیر بطلیموس نظریات پیش کیے؟

(A) علم فلکیات (B) طارق الافلاک

(C) ال۔ہند (D) کوئی نہیں

61. کس ماہر فلکیات نے یہ دریافت کیا کہ سیاروں کے مدار دائروی نہیں ہوتے ہیں؟

(A) ابن الہیثم (B) الزرقلی

(C) ابن خلدون (D) ابن شجاح

62. مسلم ماہرین فلکیات کس کام کی بنا پر مملکت یون (Yuan) کے دوران چین میں داخل ہوئے؟

(A) کیلنڈر سازی (B) علم فلکیات

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

63. کس حکمران نے ایرانیوں کو بیجنگ میں Obseveratory اور فلکیات کے مطالعے کا ادارہ بنانے کے لیے بلوایا؟

(A) قبلائی خان (B) یوان یون

(C) یون چن (D) کوئی نہیں

64. کس ایرانی ماہر فلکیات نے ایرانی گلوب سمیت قبلائی خان کو 7 فلکیاتی آلات پیش کیے؟

(A) احسان الدین (B) تقی الدین

(C) رمز الدین (D) جمال الدین

65. کب جمال الدین نے قبلائے خان کو 7 فلکیاتی آلات پیش کیے؟

(A) 1250 (B) 1255

(C) 1260 (D) 1267

66. الکشی نے اپنی کس کتاب میں ارسطو کی طبیعات کی مکمل تردید کی؟

(A) Concerning the Supposed Dependence of Astronomy on Philosophy

(B) Dependence of Astronomy on Philosophy

(C) Dependence of Astronomy on Phliosophy

(D) کوئی نہیں

67. علی الکشی نے ——۔

(A) الطوسی کے سیاروی ماڈل کو بہتر بنایا

(B) سیارہ عطارد کے لیے متبادل سیاروی ماڈل پیش کیا

(C) دونوں B،A

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

68. تقی الدین نے کب الدین کے نام سے ایک رصدگاہ قائم کی؟

(A) 1560 (B) 1555

(C) 1570 (D) 1577

69. تقی الدین نے رصدگاہ کہاں قائم کی؟

(A) بغداد (B) استنبول

(C) مصر (D) شام

70. درست میکینیکل فلکیاتی گھڑیاں کس نے ایجاد کیے؟

(A) شفی الدین (B) تقی الدین

(C) صفی الدین (D) کوئی نہیں

71. کس صدی میں مسلم ماہرین فلکیات نے چاند دیکھنے میں بہت ترقی کی؟

(A) 20ویں صدی (B) 21ویں صدی

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

72. ابتدائی خلائی پروگرام کے سلسلے میں کونسے مسلم ماہر فلکیات کا شمار انتہائی اہم شخصیات میں ہوتا تھا؟

(A) کریم کریموو (B) سلیم کریموو

(C) ندیم کریموو (D) کوئی نہیں

73. کریم کریموو کا تعلق کس ملک سے تھا؟

(A) آذربائیجان (B) ترکمانستان

(C) افغانستان (D) کوئی نہیں

74. کریم کریموو کا شمار سوویت خلائی پروگرام کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ ——

(A) انسانی خلائی اڑان ووسٹوک 1 کے بنانے والوں میں سے ایک تھے

(B) پہلے خلائی اسٹیشنوں کا آغاز کرنے والوں میں سے تھے

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

75. فاروق الباز نے کا تعلق کس ملک سے تھا؟

(A) شام (B) ایران

(C) عراق (D) مصر

76. فاروق الباز ....

(A) ناسا کے لیے کام کیا

(B) چاند پر پہلے قدم کے پروگرام میں شامل تھے

(C) دونوں B،A

(D) کوئی نہیں

77. فاروق الباز اپولو پروگرام میں کس حیثیت سے کام کرتے تھے؟

(A) لینڈنگ سائٹ سلیکشن کمیٹی کے سیکرٹری تھے

(B) بصری مشاہدے اور فوٹوگرافی کے پرنسپل محقق تھے

(C) Astronaut تربیتی گروپ کے چیئرمین تھے

(D) تمام A،B،C

78. 20 ویں اور 21 ویں صدی کے اواخر میں کس نے خلائی شٹل ڈسکوری Discovery میں بطور پے لوڈ سپیشلسٹ کام کرتے تھے؟

(A) سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز ال۔سعود

(B) سلطان بن سلمان بن عبداللہ ال۔سعود

(C) سلطان بن سلمان بن عبدالرحمن ال۔سعود

(D) سلطان بن سلمان بن باز ال۔سعود

79. انوشے انصاری......

(A) بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں سفر کرنے والی پہلی خاتون تھیں

(B) خلائی دورہ کرنے والی چوتھی شخصیت تھیں

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

80. شیخ مظفر شکور کا تعلق......

(A) ایران سے تھا (B) سعودی عرب سے تھا

(C) ملیشیا سے تھا (D) عراق سے تھا

81. شیخ مظفر شکور نے کب بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا سفر کیا؟

(A) 2005 (B) 2006

(C) 2007 (D) 2008

82. شیخ مظفر شکور نے کس مہینے میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا سفر کیا؟

(A) رجب (B) شعبان

(C) شوال (D) رمضان

83. شیخ مظفر شکور کے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے سفر کے دوران کس نے "Guidelines for Performing Islamic Rites (ibadah) at international Space Station" تحریر کیا؟

(A) شیخ مظفر شکور (B) نیشنل فتویٰ کونسل

(C) انٹرنیشنل فتویٰ کونسل (D) کوئی نہیں

84. شیخ مظفر شکور خلاباز اور......

(A) مکینیکل انجینئر تھے

(B) آرتھوپیڈک سرجن تھے

(C) علم فلکیات کے پروفیسر تھے

(D) کوئی نہیں

85. شیخ مظفر شکور وہ پہلے خلاباز تھے جنہوں نے......

(A) بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر عیدالفطر

(B) خلا میں بائیومیڈیکل تحقیق کی

(C) دونوں

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

86. شیخ مظفر شکور کی بائیومیڈیکل تحقیق کس سے متعلق تھی؟

(A) جگر کا کینسر (B) لوکیمیا کے خلیے

(C) دونوں A،B

(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

87. کب آیت اللہ خامنہ ای نے چاند دیکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا فتویٰ جاری کیا؟

(A) 2004 (B) 2005

(C) 2006 (D) 2007

88. آیت اللہ نے خامنہ ای کا تعلق تھا۔

(A) عراق سے (B) ملیشیاء سے

(C) کویت سے (D) ایران سے

89. اسلامی قمری کیلنڈر کے مطابق کب "World Record for Luner crescent sighting" منعقد ہوا؟

(A) 7 ستمبر 2001 (B) 7 ستمبر 2002

(C) 7 ستمبر 2003 (D) 7 ستمبر 2004

90. ایران میں کس جگہ "World Record for Luner Crescent Sighting" کا مقابلہ ہوا؟

(A) رشک بالا گاؤں (B) اصفہانی

(C) تہران (D) اصفہانی گاؤں

91. چاند دیکھنے کے 7 ستمبر 2002 کو منعقد ہونے والے ورلڈ ریکارڈ کو منعقد کرنے والے کا نام بتائیں؟

(A) احسن غازی مرسعید

(B) محسن غازی مرسعید

(C) لقمان غازی مرسعید

(D) نعمان غازی مرسعید

92. آنکھ کے ساتھ پہلی visibility کے لیے چاند کی عمر کا ریکارڈ کتنا ہے؟

(A) 5 گھنٹے اور 42 منٹ

(B) 7 گھنٹے اور 42 منٹ

(C) 9 گھنٹے اور 42 منٹ

(D) 11 گھنٹے اور 42 منٹ

93. مراگاہ رصدگاہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟

(A) نصیرالدین طوسی (B) ابن یونس

(C) عمر خیام (D) مالک شاہ اول

94. تیرھویں صدی میں کس حکمران کے زیر سایہ مراگاہ رصدگاہ کی بنیاد رکھی گئی؟

(A) شمشیر خان (B) سکندر اعظم

(C) ہلاکو خان (D) کوئی نہیں

95. 16 ویں صدی میں کس مغل بادشاہ نے دہلی کے قریب ذاتی رصدگاہ بنوائی؟

(A) اکبر (B) شاہجہاں

(C) جہانگیر (D) ہمایوں

96. جدید دور کی بہترین رصدگاہیں کس اسلامی ملک میں موجود ہیں؟

(A) اردن اور فلسطین (B) لبنان اور دوبئی

(C) تنزانیہ (D) تمام A،B،C

97. ایران کی کس یونیورسٹی اور رصدگاہ میں علم فلکیات کو جاننے کے لیے جدید ترین سہولیات میسر ہیں؟

(A) شیراز یونیورسٹی (B) تبریز یونیورسٹی

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

98. کب اعلان کیا گیا کہ ایرانی مستقبل قریب میں 2.0 میٹر ٹیلی سکوپ رصدگاہ ورلڈ کلاس سہولیات کے ساتھ تعمیر کریں گے؟

(A) دسمبر 2002 (B) دسمبر 2003

(C) دسمبر 2004 (D) دسمبر 2005

99. کس نے ایران کی ورلڈ کلاس رصدگاہ کی تعمیر کا ارادہ آشکار کیا؟

(A) فزکس ٹوڈے (B) فزکس

(C) فزکس انڈرسٹینڈنگ (D) کوئی نہیں

100. کس نے غالباً اصفہان میں پہلی بڑی رصدگاہ تعمیر کی تھی؟

(A) مالک شاہ اول (B) مالک شاہ دوئم

(C) مالک شاہ سوئم (D) مالک شاہ چہارم

101. کس ماہر فلکیات نے ایرانی شمسی کیلنڈر، جیلانی کیلنڈر بنایا جو کہ اپنے وقت کا سب سے درست شمسی کیلنڈر تھا؟

(A) عمر خیام (B) الرازی

(C) ابن شمس (D) ابن موسیٰ

102. کس کی رصدگاہ میں عمر خیام نے جیلانی کیلنڈر بنوایا؟

(A) مارک شاہ اول
(B) مارک شاہ دوئم
(C) مارک شاہ سوئم
(D) مارک شاہ چہارم

103. گلیلیو کی اہم ایجاد کیا تھی؟
(A) تحقیق
(B) دوربین
(C) اصطرلاب
(D) ان میں سے کوئی نہیں

104. زمین سورج کے گرد ایک چکر کتنے عرصے میں مکمل کرتی ہے؟
(A) ڈیڑھ سال میں
(B) ایک سال میں
(C) چھ ماہ میں
(D) ایک ماہ میں

105. اصطرلاب سے کیا مراد ہے؟
(A) ایکسرے
(B) سورج کا مشاہدہ کرنے والا آلہ
(C) وقت ناپنے والا آلہ
(D) زمین کی پیمائش کرنے والا آلہ

جوابات

1. (C)	2. (A)	3. (B)	4. (C)	5. (A)	6. (D)	7. (D)	8. (C)
9. (A)	10.(A)	11.(A)	12.(C)	13.(C)	14.(C)	15.(C)	16.(B)
17.(A)	18.(A)	19.(B)	20.(B)	21.(C)	22.(D)	23.(B)	24.(C)
25.(C)	26.(D)	27.(C)	28.(A)	29.(D)	30.(A)	31.(A)	32.(D)
33.(A)	34.(A)	35.(C)	36.(B)	37.(D)	38.(D)	39.(A)	40.(D)
41.(C)	42.(C)	43.(B)	44.(C)	45.(A)	46.(C)	47.(C)	48.(D)
49.(D)	50.(A)	51.(A)	52.(A)	53.(D)	54.(D)	55.(A)	56.(B)
57.(D)	58.(B)	59.(A)	60.(B)	61.(B)	62.(C)	63.(A)	64.(D)
65.(D)	66.(A)	67.(C)	68.(D)	69.(B)	70.(B)	71.(C)	72.(A)
73.(B)	74.(A)	75.(D)	76.(C)	77.(D)	78.(A)	79.(C)	80.(C)
81.(C)	82.(D)	83.(B)	84.(B)	85.(B)	86.(C)	87.(D)	88.(D)
89.(B)	90.(A)	91.(B)	92.(D)	93.(A)	94.(C)	95.(D)	96.(D)
97.(C)	98.(D)	99.(A)	100. (A)	101. (A)	102. (A)	103. (B)	104. (B)
105. (D)							

علم کیمیا (Chemistry)

1. کس کیمیادان کو کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے؟
(A) الرازی (B) جابر بن حیان
(C) الکندی (D) نصیرالدین طوسی

2. جابر بن حیان کا تعلق کس صدی سے تھا؟
(A) 10ویں صدی (B) 9ویں صدی
(C) 8ویں صدی (D) 7ویں صدی

3. کون سا مورخ الکیمیا کو تجرباتی سائنس میں تبدیل کرنے کا اعزاز جابر بن حیان کو دیتا ہے؟
(A) جان ایرک (B) جان سمتھ
(C) رابرٹ بائل (D) ایرک جان

4. ایرک جان کے مطابق کیمیا کی تاریخ میں جابر بن حیان کی اہمیت ایسی ہے جیسی کہ......
(A) رابرٹ بائل کی ہے
(B) اینٹونی لیوو زیئر
(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

5. جابر بن حیان کے استاد کا نام بتائیں؟
(A) جعفر الصادق (B) ارسطو
(C) پلاٹو (D) کوئی نہیں

6. کس کے نظریے کے مطابق دنیا میں صرف چار عناصر زمین، پانی، آگ اور ہوا ہیں؟
(A) جابر بن حیان (B) جعفر صادق
(C) رابرٹ بائل (D) ارسطو

7. "کس نے سب سے پہلے ارسطو کے نظریے کی تردید کی اور کہا کہ "میں حیران ہوں کہ کس طرح ارسطو جیسے انسان نے یہ کہا کہ دنیا میں صرف چار عناصر ہیں"؟
(A) جعفر الصادق (B) جان ایرک
(C) الرازی (D) نصیرالدین طوسی

8. جعفر الصادق نے کائنات کا ایک عملی نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ
(A) کائنات چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی تھی جس کے مخالف پولز تھے
(B) ذرات ایٹم پیدا کرتے ہیں جن سے مادہ بنتا ہے
(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

9. درج ذیل میں کونسا نظریہ جعفر الصادق نے پیش کیا؟
(A) وہ میٹریل جو کہ ٹھوس اور جاذب ہوتا ہے وہ غیر شفاف ہوتا ہے۔
(B) وہ میٹریل جو کہ ٹھوس اور غیر جاذب ہوتا ہے وہ کم و بیش شفاف ہوتا ہے
(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

10. غیر شفاف میٹریل حرارت کو جذب کرتے ہیں۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟
(A) جعفر الصادق (B) الرازی
(C) ابن حجاج (D) کوئی نہیں

11. الکندی وہ پہلے کیمیادان تھے جنہوں نے......
(A) روایتی الکیمیا کے مطالعے کی تردید کی
(B) دھاتوں کی دیگر قیمتی دھاتوں جیسے سونا چاندی وغیرہ میں کیمیائی عمل سے منتقل کے نظریے کی تردید کی۔

(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

12. کون سے کیمیادان دھاتوں کی قیمتی دھاتوں میں منتقلی کے نظریے کے تردید کرنے والوں میں سے تھے؟

(A) البیرونی (B) ابوسینا

(C) ابن خلدون (D) تمام C،B،A

13. الرازی وہ پہلے کیمیادان تھے جنہوں نے تجرباتی طریقہ کار کے ذریعے..... کو غلط ثابت کیا۔

(A) ارسطو کے چار عناصر کا نظریہ

(B) گیلن کا نظریہ Humorism

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

14. سب سے پہلے پیٹرول کی کشید کس نے کی؟

(A) البیرونی (B) الرازی

(C) الکندی (D) الطوسی

15. درج ذیل میں سے الرازی کی دریافت جات ہیں؟

(A) مٹی کا تیل (B) مٹی کے تیل کے لیمپ

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

16. صابن کی ٹکیاں اور جدید صابن کے طریقہ کار کو کس نے ایجاد کیا؟

(A) الرازی (B) جابر بن حیان

(C) ابن سجاج (D) العنتری

17. کس صدی میں نصیر الدین طوسی نے یہ دریافت کیا کہ "ایک جسم کا مادہ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا"؟

(A) 10ویں صدی (B) 11ویں صدی

(C) 12ویں صدی (D) 13ویں صدی

18. کیمسٹری کو بطور سائنس تقریباً مسلمانوں نے ہی تخلیق کیا ہے؟ یہ کس کتاب کی تحریر ہے؟

(A) The Story of Moslems

(B) The Story of Islam

(C) The Story of Chemistry

(D) The Story of Civilization

19. "The Story of Civilization" کا رائٹر تھا۔

(A) ول ڈورنٹ (B) مارل ویل

(C) جارج سلیم (D) ہیلری مارشل

20. خالص عمل التقطیر (کشید) کو کس نے 8ویں صدی میں ایجاد کیا؟

(A) جابر بن حیان (B) البیرونی

(C) الموسیٰ (D) الکندی

21. قلمرازیشن کو جابر بن حیان نے کس صدی میں ایجاد کیا؟

(A) 8ویں (B) 7ویں

(C) چھٹی (D) پانچویں

22. درج ذیل میں سے کونسی ایجاد کے بانی جابر بن حیان ہیں؟

(A) کرسٹلائزیشن اور

(B) عمل تطہیر اور عمل تکسید (پگھلائی)

(C) عمل تبخیر (D) تمام

23. خشک عمل کشید کو 9ویں صدی میں کس نے ایجاد کیا؟

(A) البیرونی (B) الرازی

(C) ابن سجاج (D) ابن موسیٰ

24. Calcination کو الرازی نے کس صدی میں ایجاد کیا؟

(A) 8ویں صدی (B) 7ویں صدی

(C) 9ویں صدی (D) 10ویں صدی

25. درج ذیل میں کونسا کیمیائی عمل الرازی نے 9ویں صدی میں ایجاد کیا؟

(A) التحلیل Solution، التصعد Sublimation

(B) التلغیم Amalgamation، التشمیع Ceration

(C) ایک مادہ کو گاڑھی پیسٹ یا میں تبدیل کرنے کا طریقہ

(D) تمام

26. Alembic کے بارے میں درج ذیل کونسا بیان درست ہے؟
(A) اسے جابر بن حیان نے دریافت کیا
(B) اسکا نام جابر بن حیان نے رکھا
(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

27. عمل کشید کے لیئے کیمیائی ریٹورٹ کو کب مغرب میں متعارف کروایا گیا؟
(A) 1060 (B) 1495
(C) 1525 (D) 1570

28. عمل کشید کے لیے کیمیائی ریٹورٹ کے موجد ہیں۔
(A) البیرونی (B) الرازی
(C) نصیرالدین طوسی (D) جابر بن حیان

29. 11ویں صدی کی کون سی ایجاد عمل کشید کی ٹیکنالوجی میں سنگ میل ثابت ہوئی؟
(A) Refrigerated coil
(B) Alembic
(C) Conica measure
(D) کوئی نہیں

30. Refrigerated coil کو کس نے ایجاد کیا؟
(A) الرازی (B) البیرونی
(C) جابر بن حیان (D) ابوسینا

31. درج ذیل میں سے کونسی ایجاد الرازی کی ہے؟
(A) فلاسک Flasks، عرق گلاب
(B) مٹی کے برتن جو اندر سے پالش تھے اور ڈھکن کے ساتھ تھے
(C) فلٹرز، تنور (Oven)، قیف (D) تمام

32. کسی جسم کا ہوا میں وزن ماپنے کے لیئے کس نے conica measure ایجاد کیا؟
(A) الرازی (B) ابن موسیٰ
(C) نصیرالدین طوسی (D) البیرونی

33. البیرونی نے 11ویں صدی میں ——
(A) لیبارٹری فلاسک ایجاد کیا (B) Pycnometer ایجاد کیا
(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

34. الخزنی نے 12ویں صدی میں ——
(A) Hydrostatic Balance ایجاد کیا
(B) steelyard ایجاد کیا
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

35. آلات کیمیا پر الخزنی کی کتاب کا نام تحریر کریں؟
(A) The Book of Balance
(B) The Book of Measurement
(C) The Book of Balance of Wisdom
(D) کوئی نہیں

36. کس کیمیادان نے پہلی بار اپنے تجربات میں تھرمومیٹر کا اطلاق کیا؟
(A) الرازی (B) ابوسینا
(C) ابن خلدون (D) ابن حق

37. ابن الہیثم نے —— کے بارے میں پہلا واضح بیان اور درست تجزیہ پیش کیا؟
(A) کیمرہ Obscura (B) پن ہول کیمرہ
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

38. مسلمانوں نے بہت سے تیزاب دریافت کیئے۔ تاہم واحد تیزاب جو کہ قدیم دنیا کے علم میں تھا۔
(A) سلفیورک ایسڈ (B) سرکہ
(C) نائیٹرک ایسڈ (D) کوئی نہیں

39. جابر بن حیان کے پیدا کردہ اس اہم معدنیاتی تیزاب کا نام بتائیں جو کہ کیمیائی صنعت میں ہزاروں سال تک سب سے زیادہ پائی جانے والی کیمیائی جنس تھی؟
(A) نائٹرک ایسڈ (B) سلفیورک ایسڈ

(C) ہائیڈروکلورک ایسڈ (D) تمام

40. کس صدی میں جابر بن حیان نے عمل کشید کے ذریعے سرکہ سے ایسٹک ایسڈ بنایا؟

(A) 5ویں صدی (B) 6ویں صدی

(C) 7ویں صدی (D) 8ویں صدی

41. جابر بن حیان نے......

(A) سٹرک ایسڈ کو دریافت کیا

(B) نائٹرک ایسڈ کو دریافت کیا

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

42. کیمیائی عناصر antimony, arsenic اور bismuth کو کس نے دریافت کیا؟

(A) الرازی (B) الخس

(C) الحمد (D) جابر بن حیان

43. جابر بن حیان وہ پہلے کیمیادان تھے جنہوں نے ......کی گروہ بندی بطور ایک عنصر کی۔

(A) سلفر (B) مرکری

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

44. کس دور خلافت میں مسلمان کیمیادانوں نے ethanol (الکوحل) کو ایک بطور خالص مرکب علیحدہ کیا؟

(A) اموی دور خلافت (B) عباسی دور خلافت

(C) صفاوی دور خلافت (D) کوئی نہیں

45. عباسی دور خلافت کے قابل ذکر کیمیادان کا نام بتائیں؟

(A) جابر بن حیان (B) الکندی

(C) الرازی (D) تمام

46. کس نے ابلتی ہوئی شراب میں flammable vapors کا سب سے پہلے ذکر کیا؟

(A) الرازی (B) جابر بن حیان

(C) القص (D) ابن عجاج

47. کس نے سب سے پہلے شراب کے عمل کشید کو بیان کیا؟

(A) الرازی (B) الکندی

(C) جابر بن حیان (D) کوئی نہیں

48. شراب کا پینا مسلمانوں میں حرام تھا۔ کس مقصد کے لیے 8ویں صدی میں اسکی کشید شروع کی گئی جو کہ 10ویں صدی تک بہت بڑے پیمانے پر پھیل گئی؟

(A) طب میں استعمال کے لیے

(B) کیمیائی صنعت میں استعمال کے لیے

(C) فارماسوٹیکل صنعت میں استعمال کے لیے

(D) تمام A،B،C

49. مسلمان کیمیادانوں اور طبیبوں نے تقریباً ...طبی مواد طب اور فارماسوٹیکل سرجنز میں استعمال کے لیے دریافت کیے؟

(A) 1000 (B) 1500

(C) 2000 (D) 2500

50. 10ویں صدی میں کس کیمیادان نے اپنے اور اپنے حواریوں کے ایجاد کردہ قدرتی کیمیائی موادوں کی گروہ بندی کی؟

(A) جابر بن حیان (B) التمیمی

(C) الخس (D) الرازی

51. سات کلاسیکل دھاتوں میں شامل ہیں ٹین، سیسہ، مرکری، لوہا، تانبا اور

(A) سونا اور ایلومینیم (B) چاندی اور کین

(C) سونا اور چاندی (D) کوئی نہیں

52. الرازی نے لکھا کہ مسلمان کیمیادان جو واحد Vegitable اجزا استعمال کرتے تھے وہ "اشنان پودے" کی ashes تھی، جس سے وہ......

(A) الکلی دھاتیں پیدا کرتے تھے

(B) الکلی تشکیلات پیدا کرتے تھے

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

53. اس پہلے کیمیا دان کا نام بتائیں جنہوں نے ساتوں کلاسیکل دھاتوں سونا، چاندی، ٹن، سیسہ، مرکری، لوہا اور تانبے کی گروہ بندی کی؟

(A) جابر بن حیان (B) الرازی

(C) التمیمی (D) الخمس

54. کس صدی میں اور کہاں پر stonepastie سرامکس کا آغاز ہوا؟

(A) 8ویں صدی، عراق (B) 9ویں صدی، عراق

(C) 10ویں صدی، مصر (D) 11 ویں صدی، مصر

55. کس صدی میں شیشے اور برتن سازی کی پیداوار کے لیے پہلا صنعتی کمپلیکس قائم کیا گیا؟

(A) 7ویں صدی (B) 6صدی

(C) 8ویں صدی (D) 9ویں صدی

56. کہاں پر پہلا شیشہ سازی اور برتن سازی کا صنعتی کمپلیکس قائم کیا گیا؟

(A) الرکاج، مصر (B) الرکاج، عراق

(C) الرکاج، ایران (D) الرکاج، شام

57. کس کیمیا دان نے عراق میں Lustreware کو ایجاد کیا؟

(A) جابر بن حیان (B) الرازی

(C) التمیمی (D) ابن حجاج

58. 8ویں صدی میں کس کے دور خلافت میں Lusterware کی ایجاد ہوئی؟

(A) فاطمی دور خلافت (B) عباسی دور خلافت

(C) صفوی دور خلافت (D) کوئی نہیں

59. پنیر (Cheese) سے گوند (Glue) بنانے کے طریقے سب سے پہلے کس کیمیا دان نے بتلائے؟

(A) الرازی (B) الخمس

(C) الحکم (D) جابر بن حیان

60. کس کتاب میں جابر بن حیان نے پنیر سے گوند بنانے کے طریقے بتلائے؟

(A) The Book of Recipies

(B) The Book of Chemistry

(C) The Book of Hidden Seeds

(D) The Book of Pearls

61. 9ویں صدی میں کہاں پر آئل فیلڈز لگائی گئیں؟

(A) باکو، عراق (B) باکو، ایران

(C) باکو، فلسطین (D) باکو، آذربائیجان

62. کس نے مسلمانوں کی لگائی ہوئی آئل فیلڈز کو بیان کیا اور کہا کہ ان تیل کے کنوؤں کی پیداوار سینکڑوں shiplods کے برابر تھی؟

(A) 10ویں صدی میں المسعودی

(B) 10ویں صدی میں مارکوپولو

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

63. کس صدی میں پہلی بار گلیوں کو عمل کشید کے ذریعے حاصل کیے گئے پٹرول سے نکلنے والی تار کے ذریعے ہموار کیا گیا؟

(A) 7ویں (B) 8ویں

(C) 9ویں (D) 8ویں

64. اس شہر کا نام بتائیں جس کی گلیوں کو سب سے پہلے تار کے ساتھ ہموار کیا گیا؟

(A) باکو (B) مدینہ

(C) اصفہان (D) بغداد

65. The Book of Hidden Pearl میں جابر بن حیان نے کس مقصد کے لیے Plated Mail ایجاد کی؟

(A) زرہیں بنانے کے لیے (B) ہیلمٹ بنانے کے لیے
(C) ڈھالیں بنانے کے لیے (D) تمام C،B،A

66. کس عرب نے دیکھا کہ ایک خاص بیری کو کھا کر اسکی بکریاں خوشگوار موڈ میں آ گئی ہیں۔ اس نے ان بیریوں کو ابالا اور دنیا کی پہلی کافی بنائی؟
(A) احمد (B) سلطان
(C) خدیج (D) خالد

67. دنیا کی پہلی کافی بنانے والا عرب کہاں بکریاں چرا رہا تھا؟
(A) ایتھوپیا، کفا (B) عراق، بغداد
(C) سعودی عرب، ریاض (D) کوئی نہیں

68. بیجوں (Beans) سے مشروب بنانے کا آغاز ایتھوپیا سے ہوا۔ 15 ویں صدی تک یہ ایتھوپیا سے ...... تک پہنچ چکا تھا؟
(A) یمن (B) ترکی
(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

69. بیجوں سے مشروب بنانے کا فن وینس میں کب آیا؟
(A) 1600 (B) 1625
(C) 1630 (D) 1645

70. انگلینڈ میں کافی کا فن کب متعارف ہوا؟
(A) 1650 (B) 1655
(C) 1660 (D) 1665

71. پاسکاروزی وہ پہلا یونانی تھا جس نے ...... کے شہر لومبارڈ میں پہلا کافی ہاؤس بنایا۔
(A) فرانس (B) امریکہ
(C) آسٹریلیا (D) لندن

72. عربی قہوہ کو انگریزی میں کیا کہا جاتا تھا؟
(A) Tea (B) Coffee
(C) Shake (D) کوئی نہیں

73. کس صدی میں مسلمانوں نے شفاف اور بے رنگ شیشے کی ابتدائی ترین مثالیں جیسا کہ quartz شیشہ تخلیق کیں؟
(A) 8 ویں صدی (B) 9 ویں صدی
(C) 10 ویں صدی (D) 11 ویں صدی

74. quartz شیشے کو کس نے ایجاد کیا؟
(A) عباس ابن فرناس (B) علی ابن فرناس
(C) احمد ابن فرناس (D) جواد ابن فرناس

75. کس عرب شاعر نے شیشے کی شفافیت کو اسطرح بیان کیا ہے کہ اگر اس سے بنے ہوئے کسی گلاس میں رنگ شامل کیا جائے تو رنگ شیشے کو چھپا دیتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ رنگ بغیر container کے کھڑا ہے؟
(A) ال بوبحتری (B) الخنس
(C) عمر خیام (D) کوئی نہیں

76. The Book of Hidden Pearls میں جابر بن حیان نے رنگین گلاس بنانے کے لیے کتنی اصل سائنسی ترکیبیں بیان کی ہیں؟
(A) 40 (B) 42
(C) 44 (D) 46

77. The Book of Hidden Peals میں جابر بن حیان وہ پہلے کیمیادان تھے جنہوں نے ......
(A) موتیوں اور پتھروں کو مصنوعی طور پر رنگنے کی ترکیب بتائی
(B) بہت اعلیٰ رنگین شیشے کو کاٹ کر مصنوعی قیمتی پتھر بنانے کی ترکیب بتائی
(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

78. اپنی کتاب On Instruments میں کس نے پہلی بار refracting parabolic mirror کو بیان کیا؟
(A) ابن سجاج (B) ابن حسن

(C) جابر بن حیان (D) ابن سہل

79. ابن الہیثم نے……

(A) محدب عدسے کو بیان کیا (B) مقعر عدسے کو بیان کیا

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

80. 9ویں صدی میں کس نے ٹوتھ پیسٹ ایجاد کی جسے انہوں نے اسلامی سپین میں بہت مشہور کیا؟

(A) افراسیاب (B) زریاب

(C) ذیشان (D) کوئی نہیں

81. زریاب نے الکازار کے قریب……

(A) عورتوں کے لیے دنیا کا پہلا بیوٹی پارلر بنایا جہاں انہوں نے نئے پرفیوم اور کاسمیٹکس متعارف کروائے

(B) جسم کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے Depelator کا استعمال متعارف کروایا

(C) بغلوں کے لیے Deodrant متعارف کروایا

(D) تمام A، B، C

82. کس آئل سے بننے والے صابن سب سے پہلے قرون وسطیٰ کے مسلم کیمیادانوں نے بنائے؟

(A) ویجیٹیبل آئل (B) ایرومیٹک آئل

(C) سوڈیم Lye (D) تمام A، B، C

83. صابن کی ٹکی کو بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی ایجاد کیا تھا۔ 7ویں صدی تک کہاں پر صابن بننا شروع ہو گیا تھا؟

(A) نابلوس (فلسطین) (B) کوفہ (عراق)

(C) بصرہ (عراق) (D) تمام

84. کس کے مسودے میں ہمیں مختلف قسم کے صابنوں جیسے خوشبودار اور رنگین، مائع اور ٹھوس شکل کے اور خاص شیونگ صابن وغیرہ کی ترکیبیں ملتی ہیں؟

(A) ابن حجاج (B) ابن مسکویہ

(C) جابر بن حیان (D) الرازی

85. کس ذہین کیمیادان نے پرفیوم کی صنعت قائم کی؟

(A) الکندی (B) جابر بن حیان

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

86. کس صدی میں پرفیوم کی صنعت کو یورپ میں اسلامی دنیا کے ساتھ تجارت کے دوران لایا گیا؟

(A) 11ویں صدی (B) 12ویں صدی

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

87. سب سے پہلے شیمپو کس بنگالی مسلمان نے بنایا؟

(A) سکی دین محمود (B) علی دین محمود

(C) تحی دین محمود (D) کوئی نہیں

88. کب سکی دین محمود نے شیمپو کو برائٹن سی فرنٹ میں "Mahomed's indian vapour Baths" کھول کر متعارف کروایا؟

(A) 1750 (B) 1745

(C) 1771 (D) 1759

89. برائٹن سی فرنٹ واقع ہے۔

(A) امریکہ میں (B) فرانس میں

(C) عراق میں (D) انگلینڈ میں

90. کس بادشاہ کے دربار میں سکی دین نے بطور شیمپو کرنے والے سرجن کے طور پر کام کیا؟

(A) جارج چہارم (B) ولیم چہارم

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

91. پہلی سپرگن کا نام بتائیں؟

The Bronze Dardanelles Connon (A)

The Silver Dardanelles Connon (B)

The Bold Dardanelles Connon (C)

(D) The Tin Dardanelles Connon

92. کب سلطنت عثمانیہ کے ترکوں نے The bronze Dardanelles Cannon کو استعمال کیا تھا؟

(A) 1445 (B) 1450

(C) 1453 (D) 1460

93. سلطنت عثمانیہ کے ترکوں نے کس کا تختہ الٹنے کے لیے canon کا استعمال کیا تھا؟

(A) بغداد (B) دہلی

(C) قسطنطنیہ (D) مصر

94. قدیم اسلامی دنیا کی کس کتاب میں پوٹاشیم نائٹریٹ کی صفائی کا بیان ملتا ہے؟

(A) ابن بختاویہ کی کتاب المقدمات

(B) حسن الرحمٰن کی۔الفروسیہ والمناصب الحربیہ

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

95. پوٹاشیم نائٹریٹ کو بیان کرنے کا پہلا مکمل طریقہ کس نے بیان کیا؟

(A) حسن الرحمٰن (B) حسن ابدال

(C) حسن اللہ (D) حسن خان

96. طریقہ حسن الرحمٰن کا تعلق کس ملک سے تھا؟

(A) مصر (B) عراق

(C) فلسطین (D) شام

97. 10ویں صدی کے عربی مسودات میں.........

(A) گن پاؤڈر کی مکمل ترکیب ملتی ہے

(B) گن پاؤڈر کی پہلی مکمل ہیئت اور قوتوں میں اسکے استعمال کا بیان ملتا ہے

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

98. دھماکہ خیز گن پاؤڈر کی جدید ترین ترکیب میں 75% پوٹاشیم ....

(A) 10% سلفر ہوتا ہے (B) 15% کاربن ہوتا ہے

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

99. دھماکہ خیز گن پاؤڈر کی جدید ترین ترکیب سے تقریباً ملتی جلتی ترکیب کس عرب انجینئر نے بتائی؟

(A) حسن الرحمٰن (B) حسن دانش

(C) بختاویہ (D) کوئی نہیں

100. دھماکہ خیز مواد کی کونسی ترکیب حسن الرحمٰن نے بیان کی؟

(A) طیار (75% پوٹاشیم نائٹریٹ، 8% سلفر، 15% کاربن)

(B) براق (74% پوٹاشیم نائٹریٹ، 10% سلفر، 15% کاربن)

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

101. پہلی دستی توپوں (مدفع) کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ...... نے 1260 میں استعمال کیا۔

(A) شامیوں (B) عراقیوں

(C) ایرانیوں (D) مصریوں

102. مصریوں نے کس جنگی میدان میں دستی توپوں کا استعمال کیا؟

(A) عین جالوت (B) کازار

(C) پانی پت (D) حسر

103. مصریوں نے کس کو روکنے کے لیے دستی توپوں کا استعمال کیا؟

(A) رومیوں (B) عربوں

(C) منگولوں (D) صفویوں

104. کس صدی تک دھماکہ خیز گن پاؤڈر کے مرکبات چین یا یورپ کے علم میں نہ تھے؟

(A) 11ویں (B) 12ویں

(C) 13ویں (D) 14ویں

105. حسن الرحمان نے کب فائر ورکس اور فائر کریکرز کو بیان کیا؟

(A) 1250 (B) 1255

(C) 1265 (D) 1270

106. جنگ عین جالوت میں مصری سپاہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے

(A) گن پاؤڈر سے بچنے کے لیے فائر پروف کپڑے پہنے

(B) آگ سے بچنے کے لیے ہاتھوں پر ایک talc لگایا

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

107. 1250 میں مملوکوں نے Franks کے خلاف کس جنگ میں گن پاؤڈر کا استعمال کیا؟

(A) جنگ اصفہان (B) جنگ المنصورہ

(C) جنگ اندلس (D) جنگ عین جالوت

108. ماءالسلوک کس کی ایجاد ہے؟

(A) جابر بن حیان (B) ابن ماجہ

(C) فیثا غورث (D) القزوینی

جوابات

1. (B)	2. (B)	3. (D)	4. (C)	5. (A)	6. (D)	7. (A)	8. (C)
9. (C)	10. (A)	11. (C)	12. (D)	13. (C)	14. (B)	15. (C)	16. (A)
17. (D)	18. (D)	19. (A)	20. (A)	21. (A)	22. (D)	23. (B)	24. (C)
25. (D)	26. (C)	27. (D)	28. (D)	29. (A)	30. (D)	31. (D)	32. (D)
33. (C)	34. (C)	35. (C)	36. (B)	37. (C)	38. (B)	39. (D)	40. (D)
41. (C)	42. (D)	43. (C)	44. (B)	45. (D)	46. (B)	47. (B)	48. (D)
49. (C)	50. (D)	51. (C)	52. (C)	53. (A)	54. (B)	55. (C)	56. (D)
57. (A)	58. (B)	59 (D)	60. (D)	61. (D)	62. (C)	63. (B)	64. (D)
65. (D)	66. (D)	67. (A)	68. (C)	69. (D)	70. (A)	71. (D)	72. (B)
73. (A)	74. (A)	75. (A)	76. (D)	77. (C)	78. (D)	79. (C)	80. (B)
81. (D)	82. (D)	83. (D)	84. (D)	85. (C)	86 (C)	87. (A)	88. (D)
89. (D)	90. (C)	91. (A)	92. (C)	93. (C)	94. (C)	95. (A)	96. (D)
97. (C)	98. (C)	99. (C)	100. (C)	101. (D)	102. (A)	103. (C)	104. (D)
105. (D)	106. (C)	107. (B)	108. (A)				

علم حسابیات

1. اسلامی دنیا میں.............. کے درمیان حسابیات کے میدان میں بہت ترقی ہوئی۔

(A) 622تا1500 (B) 622تا1600

(C) 622تا1700 (D) 622تا1800

2. مسلم دنیا میں حسابیات کی ترقی کے دور کو کس اصطلاح سے پکارا جاتا ہے؟

(A) اسلامی حسابیات (B) عروج حسابیات

(C) مسلم حسابیات (D) کوئی نہیں

3. کس عباسی خلیفہ نے زیادہ سے زیادہ یونانی کام کو عربی میں منتقل کرنے کا حکم دیا؟

(A) ہارون رشید (B) امین الرشید

(C) مامون الرشید (D) کوئی نہیں

4. اس فارسی مورخ کا نام بتائیں جنہوں نے اپنی کتاب "طارق الہند" میں بتلایا کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید کا انڈیا میں ایک سفارتخانہ تھا۔ جس سے ایک کتاب کو بغداد لایا گیا اور عربی میں اسکا ترجمہ بطور "سند ہند" کیا گیا؟

(A) الخوارزمی (B) البیرونی

(C) التعلش (D) الخلق

5. کونسا اسلامی قانون الجبرا کی تخلیق اور پذیرائی کا موجب بنا؟

(A) وارثت کا قانون (B) طلاق کا قانون

(C) خیرات کا قانون (D) زکوۃ کا قانون

6. اس اسلامی ماہر حسابیات کا نام بتائیں جن کی کتاب کے نام سے لفظ "الجبرا" مستعمل ہوا؟

(A) الفارابی (B) الغزالی

(C) الرازی (D) الخوارزمی

7. درج ذیل میں سے کونسا بیان الخوارزمی کی کتاب "حساب الجبرا و المقابلہ" سے متعلق درست ہے؟

(A) اسکے لفظ الجبر سے "الجبرا" کی اصلاح وجود میں آئی

(B) اسمیں الجبرا کے استعمال سے اسلامی وراثتی قانون کے حل کے بارے میں ایک باب شامل ہے

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

8. الخوارزمی کے علاوہ کس ماہر حسابیات نے الجبرا کے استعمال سے وراثتی قوانین کا حل پیش کیا؟

(A) 12ویں صدی کے الحسار

(B) 15ویں صدی کے القلاصدی

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

9. الخوارزمی ایک.....

(A) فارسی ماہر حسابیات تھے

(B) فارسی ماہر فلکیات اور علم نجوم تھے

(C) فارسی ماہر جغرافیہ دان تھے

(D) تمام A،B،C

10. الخوارزمی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر کام دارالحکمۃ میں کام کیا۔ یہ کہاں واقع تھا؟

(A) شام (B) اندلس

(C) بغداد (D) اصفہان

11. کس حساب دان کی الجبرا کی کتاب میں پورا ایک باب quadratic مساواتوں کے حل پر مخصوص ہے؟

(A) عبدالحمید ابن الترک
(B) عبدالمجید ابن الترک
(C) عبدالستار ابن الترک
(D) کوئی نہیں

12. ....شہر بغداد میں ایک گروہ تھا۔

(A) الصفاء (B) اخوان الصفا
(C) اخوان (D) کوئی نہیں

13. اخوان الصفاء نے ....پر 50 سے زائد خطوط کا ایک سلسلہ تحریر کیا؟

(A) سائنس (B) فلسفہ
(C) علم دینیات (D) تمام

14. اخوان الصفاء کے 50 خطوط سے پہلے دو خطوط کا موضوع کیا تھا؟

(A) ارتھمیٹک کا نظریہ (B) اعدادی نظریہ
(C) جیومیٹری (D) تمام

15. اس حساب دان کا نام بتائیں جنہوں نے برہماچترا کے بعد پہلی بار الجبرا کے لیے حسابیاتی ''Notation'' کو ترقی دی؟

(A) الحسار (B) الخیام
(C) ابن مامون (D) ابن ال۔یاسمین

16. علامتی الجبرا کے بانی کا نام بتائیں؟

(A) القلاصدی (B) ابن یاسمین
(C) ابن سینا (D) النساوی

17. الخوارزمی نے اپنی کتاب ''الجبر و المقابلہ'' میں اصطلاح ''الجبر'' کیا بیان کرنے کے لیے استعمال کی؟

(A) reduction (B) balancing
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

18. جیومیٹرک سطح وہ ہے جہاں الجبرا کے تصورات زیادہ تر جیومیٹرک ہوتے ہیں۔ اسے کس مسلم نے حیات نو دی؟

(A) الخوارزمی (B) القلاصدی
(C) المراکشی (D) عمر خیام

19. Abstract الجبرا زیادہ تر----

(A) 19ویں صدی کی پیداوار ہے
(B) 20ویں صدی کی پیداوار ہے
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

20. ''بیت الحکمۃ'' کو بغداد میں کس خلیفہ نے بنوایا تھا؟

(A) ہارون الرشید (B) امین الرشید
(C) مامون الرشید (D) کوئی نہیں

21. کس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ''عرب دانوں کی طرف سے قابل ذکر ترقی الخوارزمی کے کام سے شروع ہوتی ہے۔ خاص طور پر الجبرا کے آغاز سے''؟

(A) جے جے اوکانر (B) ایف روبرٹسن
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

22. جے جے اوکانر اور ایف روبرٹسن کی کتاب .... ہے۔

(A) Mac Tutor History of Mathematics Archive
(B) History of Mathematics
(C) Tutor of Mathematics
(D) کوئی نہیں

23. وہ کونسے حساب دان تھے جنہوں نے پہلی بار الجبرا کو بطور جیومیٹری فارم پڑھایا؟

(A) الخوارزمی (B) الکندی
(C) ابن الموسیٰ (D) ابن حجاج

24. عبدالمجید ابن ترک کا کونسا مسودہ الخوارزمی ''الجبرا'' سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے؟

(A) Logical Proves in Mixed Equations

(B) Logical Necessities in Mixed Equations

(C) Logical Claims in Mixed Equations

(D) Logical Accomodation in Mixed Equations

25. اس حساب دان کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے Irrational اعداد (سکوائر روٹ، کیوب روٹ یا فورتھ روٹ) کو quadratic مساواتوں کے حل کے لیے استعمال کیا؟

(A) ابوکامل شجاع ابن اسلم

(B) ابوکامل شجاع ابن حنیف

(C) ابوکامل شجاع ابن عبداللہ

(D) ابوکامل شجاع ابن عبدالرحمن

26. اس پہلے حساب دان کا نام بتائیں جنہوں نے non linear simltaneous مساواتوں کو تین غیر معلوم متغیرات سے حل کیا؟

(A) الخوارزمی (B) ابن مسکاویہ

(C) ابن ہجاج (D) ابوکامل شجاع ابن سلیم

27. الکرخی وہ پہلے حساب دان تھے جنہوں نے.....

(A) $ax^{2n} + bx^{n} = c$ کی شکل کی مساوات کا حل دریافت کیا

(B) الجبر کو جیومیٹریکل آپریشنوں سے آزاد کیا اور اسکی جگہ ارتھمیٹک آپریشنز کو دی

(C) الجبرائی کیلکولیس (calculus) کو متعارف کروایا

(D) تمام

28. 5 اور 6 سلسلہ کی پہلی میجک سکوائرز (squares) بغداد سے چھپنے والے کس انسائیکلوپیڈیا میں ظاہر ہوئیں؟

(A) کتاب الاخوان الصفا (B) رسالۃ الاخوان الصفا

(C) الکرخی الاخوان الصفا (D) کوئی نہیں

29. حساب دان احمد البونی نے کب میجک سکوائرز پر کام کیا؟

(A) 1000اے ڈی (B) 1200اے ڈی

(C) 1250اے ڈی (D) 1300اے ڈی

30. ...... نے الجبرا پر کتاب لکھی جو کہ تیسرے درجے کی مساواتوں کی شمولیت کی وجہ سے الجبر سے بہت آگے نکل گئی؟

(A) البیرونی (B) الرازی

(C) عمر خیام (D) ابن ہجاج

31. عمر خیام نے quadratic مساواتوں کے حل کے لیے کونسا حل پیش کیا؟

(A) ارتھمیٹک حل (B) جیومیٹرک حل

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

32. عمر خیام نے کن مساواتوں کے حل کے لیے صرف جیومیٹرک حل پیش کیے اور یہ غلط اندازہ لگا بیٹھے کہ ان کو ارتھمیٹک حل کے ساتھ حل کرنا ناممکن ہے؟

(A) جنرل کیوبک مساواتیں (B) خاص کیوبک مساواتیں

(C) جنرل سکوائر مساواتیں (D) خاص سکوائر مساواتیں

33. 12ویں صدی میں شراف الدین الطوسی نے.....

(A) کیوبک مساواتوں کے لیے الجبرائی اور نیومریکل حل تلاش کیے

(B) پہلی بار کیوبک Polynomials کے derivative دریافت کیے

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

34. شراف الدین الطوسی کی کتاب ''Equations'' میں کتنی قسم کی مساواتوں کو deal کیا گیا ہے؟

(A) 15 (B) 18

(C) 21 (D) 25

35. کس مساوات کے تجزیے میں شریف الدین الطوسی نے dynamical functional الجبرا کی ابتدائی ترین شکل پیش کی؟

(A) xP-N=O (B) x=2b/3

(C) $x^2(b-x)=d$ (D) $x^3+d=bx2$

36. شریف الدین کے اس حواری کا نام بتائیں جنہوں نے xP-N=O کو حل کرنے کے لیے نیوٹن کے نیومیریکل حل کو N کی Roots تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا؟

(A) الکاشی (B) الخوارزمی

(C) التطمش (D) البیرونی

37. ---- وہ آخری اہم عرب ماہر الجبرا تھے جنہوں نے الجبرائی notation کو بہتر بنایا۔

(A) القلاصدی (B) الخوارزمی

(C) الرازی (D) عمر خیام

38. القلاصدی سے قبل کس نے الجبرائی notations پر کام کیا؟

(A) 13 ویں صدی کے ابن البنا

(B) 12 ویں صدی کے ابن الیاسمین

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

39. آج کل علامت "X" ایک نامعلوم متغیر کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کس عربی لفظ سے ماخوذ ہے؟

(A) "شیئ" thing (B) "علامت" symbol

(C) "اعداد" (D) numbers کوئی نہیں

40. علامت "شیئ" کو عربی ٹیکسٹ جیسا کہ "الجبر" میں استعمال کیا گیا اور پھر اس قدیم ہسپانوی زبان میں "sei" پکارا گیا اور ---- لکھا گیا جو کہ جلدی اختصار کے ساتھ x کہلانے لگا۔

(A) Xyn (B) Xian

(C) Xan (D) Xei

41. انڈین اعدادی نظام کو کون جانتا تھا؟

(A) فارس کے الخوارزمی جنہوں نے کتاب On the calculation with Hindu Numeral تحریر کی

(B) عرب الکندی جنہوں نے On the use of Indian Numeral پر چار والیم تحریر کیے

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

42. اعداد کا مغرب میں پہلا ذکر کب ملتا ہے؟

(A) 900 (B) 935

(C) 945 (D) 976

43. الخوارزمی نے 825 میں کون سی کتاب لکھی؟

(A) On the calcultion with Hindu Numerals

(B) On the calcultion with English Numerals

(C) On the calcultion with French Numerals

(D) On the calcultion with American Numerals

44. الخوارزمی کی On the Calculation with Hindu Numerals کا 12 ویں صدی میں کس زبان میں ترجمہ کیا گیا؟

(A) فرانسیسی (B) اطالوی

(C) ہسپانوی (D) عربی

45. کس فارسی حساب دان نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے خود 15 ویں صدی میں decimal fractains دریافت کیے؟

(A) جمشید الکاشی (B) حسین الکاشی

(C) فسجانی الکاشی (D) کوئی نہیں

46. اس مورخ کا نام بتائیں جس نے جمشید الکاشی کے دعوے کہ انہوں

نے decimal fractions کو دریافت کیا غلط ثابت کیا اور کہا کہ ان سے تقریباً 5 صدیاں قبل اس عمل کو بغدادی حساب دان ابوالحسن الاقلیدسی نے ایجاد کیا؟

(A) جے۔ لینارٹ برگرن
(B) ایم۔ لینارٹ برگرن
(C) کیو۔ لینارٹ برگرن
(D) پی۔ لینارٹ برگرن

47. کس مسلم حساب دان نے صفر ایجاد کیا؟

(A) الخوارزمی (B) الکن[illegible]
(C) الاقلیدسی (D) ابن السمح

48. کس صدی میں عراقی حساب دان الہاشمی نے irrational اعداد کے لیے جیومیٹرک کی بجائے جنرل ثبوت پیش کیے؟

(A) 9ویں صدی (B) 10ویں صدی
(C) 11ویں صدی (D) 12ویں صدی

49. ابوجعفر الخزنی نے

(A) rational magnitudes کی تعریف فراہم کی
(B) Irrational magnitudes کی تعریف فراہم کی
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

50. اعدادی نظریے میں کس نے Congruences کے مسائل کو آج کل ولسن کا تھیورم Theorem کہلائے جانے والے تھیورم کو استعمال کرکے حل کیا؟

(A) الخوارزمی (B) ابن بجاج
(C) ابن شجاع (D) الہیثم

51. اپنی کس کتاب میں الہیثم نے congruences کے مسائل کے حل پیش کیے؟

(A) Opuscula (B) Analysis
(C) Synthesis (D) کوئی نہیں

52. کس نے پہلی بار یہ دریافت کیا کہ ہر even perfect عدد 2n-1(2n-1) کی شکل میں ہوتا ہے جہاں 2n-1 پرائم ہوتا ہے۔

(A) ابن بجاج (B) الخوارزمی
(C) ابن شجاع (D) ابن الہیثم

53. اعدادی نظریے میں ابن الہیثم اپنے 2n-1(2n-1) کے نظریے کے نتائج کو کامیابی کے ساتھ ثابت نہ کر سکے۔ کس صدی میں Euler نے اسے ثابت کیا؟

(A) 13ویں صدی (B) 15ویں صدی
(C) 16ویں صدی (D) 18ویں صدی

54. 14ویں صدی کے کمال الدین الفارسی نے عددی نظریے میں اہم حصہ ڈالا۔ انکا کونسا عددی نظریہ خاص طور پر قابل ذکر ہے؟

(A) ایمی کیبل (amicable) اعداد
(B) سکوائر فارم اعداد
(C) پوٹینشل اعداد (D) کوئی نہیں

55. کمال الدین الفارسی کی اس کتاب کا نام بتائیں جس میں وہ ایمی کیبل اعداد کا ذکر کرتے ہیں؟

(A) تذکرہ ال۔ احباب فی بیان التحب
(B) تذکرہ ال۔ احباب فی بیان الجبر
(C) تذکرہ ال۔ احباب فی بیان الفارسی
(D) کوئی نہیں

56. کس حساب دان نے spherical جیومیٹری کا آغاز اسلامی علم فلکیات میں پیش آنے والے اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا؟

(A) ابوالوفا (B) ابونصیر منصور
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

57. کیوبک مساوات $x^3 + 200x = 20x^2 = 2000$ کو کس

نے حل کیا؟

(A) عمر خیام (B) ابن سینا

(C) الخوارزمی (D) الرازی

58. الجبرا پر عمر خیام کی کتاب کا نام بتائیں جس میں انہوں نے مساواتوں کے جیومیٹرک حل کے ساتھ انکی مکمل گروہ بندی پیش کی ہے؟

(A) Demonstration of Probloms of Algebra

(B) Algebra and Equalions

(C) Equational classification

(D) Demonstration of Equational Classification

59. کس نے جیومیٹری میں حرکت (Motion) اور تبدیلی (Transformalion) کو متعارف کروایا ہے؟

(A) الرازی (B) الخوارزمی

(C) الہیثم (D) کوئی نہیں

60. کس نے Eucilidean Parallel postulate کو ثابت کرنے کی پہلی کوشش کی؟

(A) عمر خیام (B) ابن شجاع

(C) الرازی (D) ابن الہیثم

61. کس صدی میں پہلی بار عمر خیام نے non-Euclidean postulate کو تشکیل دینے کی کوشش کی؟

(A) 10ویں (B) 11ویں

(C) 12ویں (D) 13ویں

62. عمر خیام وہ پہلے حساب دان تھے جنہوں نے

(A) elliplical جیومیٹری کا مطالعہ کیا

(B) ہائپربولک جیومیٹری کا مطالعہ کیا

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

63. "الرسالہ۔ الشافیہ ال۔ شک فی الخطوط ال۔ متاوازیہ" کس کی تحریر ہے؟

(A) الخوارزمی (B) الرازی

(C) ابن شجاع (D) نصیرالدین طوسی

64. نصیرالدین طوسی نے "الرسالہ۔ الشافیہ ال۔ شک فی الخطوط ال۔ متاوازیہ" کب لکھا؟

(A) 1200 (B) 1235

(C) 1245 (D) 1250

65. نصیرالدین طوسی کے بیٹے صدرالدین نے اسی موضوع پر کب ایک کتاب تحریر کی؟

(A) 1250 (B) 1260

(C) 1988 (D) 1298

66. صدرالدین کے کاموں سے ثبوت کو کس نے 17ویں اور 18ویں صدی میں نقل کیا؟

(A) جان ویلز (B) Seccheri

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

67. کس کے تھیورمز (theorems) elliptical جیومیٹری اور ہائپربولک جیومیٹری پر پہلے تھیورمز تھے؟

(A) ابن الہیثم (B) عمر خیام

(C) نصیرالدین طوسی (D) تمام

68. 9ویں صدی میں الخوارزمی نے.....

(A) sines اور cosines کے ٹرگنومیٹری حل کے لیے جدول بنائے

(B) tangents کے لیے پہلے جدول بنائے

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

69. spherical ٹرگنومیٹری کے ابتدائی ترین بانی کا نام بتائیں؟

(A) الخوارزمی (B) الرازی

(C) ابن بجاج (D) کوئی نہیں

70. کب حباش الحیب المروازی نے co tangents اور tangents کے لیے پہلے جدول بنائے؟

(A) 810 (B) 820

(C) 830 (D) 840

71. محمد ابن جابر ال۔ برانی البطنی نے ......

(A) Secant اور cosecant کے reciprocal عمل کو دریافت کیا

(B) cosecants کے لیے پہلے جدول بنائے

(C) دونوں A،B

(D) کوئی نہیں

72. محمد ابن جابر ال۔ برانی البطنی نے cosecants کے لیے پہلے جدولوں کو کیا نام دیا؟

(A) Tables of Shadows

(B) Tables of Medows

(C) Tables of Cosecants

(D) کوئی نہیں

73. درج ذیل میں سے کس ٹرگنومیٹریکل تعلق کو البطنی نے تشکیل دیا؟

(A) $\tan a = \sin a/\cos a$

(B) $\sec a = \sqrt{1+\tan^2 a}$

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

74. کس صدی تک مسلمان حساب دان 6 کے 6 ٹرگنومیٹرک عوامل کو استعمال کر رہے تھے؟

(A) 7 ویں (B) 8 ویں

(C) 9 ویں (D) 10 ویں

75. $\sin 2x=2 \sin x \cos x$ کا ٹرگنومیٹک فارمولا کس نے بنایا؟

(A) ابوالصفا البوزجانی (B) الجیانی

(C) البیرونی (D) نصیر الدین طوسی

76. 10 ویں صدی کے کس حساب دان کے کام میں ہمیں 6 کے 6 ٹرگنومیٹک عوامل کا استعمال ملتا ہے؟

(A) البیرونی (B) جابر بن حیان

(C) ابوالصفا (D) کوئی نہیں

77. spherical ٹرگنومیٹری کے لیے کس نے sines کا درج ذیل قانون

sin A/sin a=Sin b/sine B=sinec /sinc

دریافت کیا؟

(A) جابر بن حیان (B) البطش

(C) الکندی (D) ابوالوفا

78. ٹرگنومیٹری کا درج ذیل

$$\cos a \cos b \frac{\cos(a+b)+\cos(a-b)}{2}$$

فارمولا کس نے تیار کیا؟

(A) مصری ماہر فلکیات الکاشی

(B) مصری ماہر فلکیات تقی الدین

(C) مصری ماہر فلکیات ابن یونس

(D) کوئی نہیں

79. spherical ٹرگنومیٹری پر پہلی خیال کی جانے والی کتاب کا نام لکھیں؟

(A) The Book of Unknow Acres of Sphere

(B) The Book of Sphere

(C) The Book of Sphere Trignomery

(D) کوئی نہیں

80. "The Book of unknown acres of sphere"

کس نے تحریر کیا؟

(A) الجیانی (B) الخوارزمی

(C) عمر خیام (D) البیرونی

81. الجیانی کا تعلق کہاں سے تھا؟

(A) عراق (B) فلسطین

(C) اصفہان (D) ال۔اندلس

82. کس حساب دان نے ٹرگنومیٹری کو پہلی بار بطور ایک علیحدہ مضمون لیا جبکہ ان سے پہلے اسے علم فلکیات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟

(A) البیرونی (B) عمر خیام

(C) الکندی (D) نصیر الدین طوسی

83. ٹرگنومیٹری پر نصیر الدین طوسی کی کتاب کا نام تحریر کریں؟

(A) The Book of Sphere

(B) The Book of Angles

(C) On the Sector Figure

(D) کوئی نہیں

84. کس ملک میں آج تک cosines کو جمشید الکاشی کے نام پر الکاشی کے تھیورم کہا جاتا ہے؟

(A) جرمن (B) انگلینڈ

(C) عراق (D) فرانس

85. ٹرپل اینگل فارمولا

$$\text{sine}\,3\phi = 3\sin\phi = 45m^2\phi$$

کس نے دریافت کیا؟

(A) الکاشی (B) الکندی

(C) الخوارزمی (D) جابر بن حیان

86. "سدرۃ المنتہی" میں کس حساب دان نے پہلی بار $\sin 1^{\circ}$ کی بے حد درست نیومیرک ویلیو کو جتلایا؟

(A) تقی الدین (B) الکاشی

(C) الجیانی (D) کوئی نہیں

87. کب الکاراجی نے انٹیگرل کیوبز کے لیے ثبوت تلاش کیے؟

(A) 1000اے ڈی (B) 1200اے ڈی

(C) 1500اے ڈی (D) 1700اے ڈی

88. کس مورخ نے الکاراجی کے پہلی بار الجبرائی کیلکیولس پر نظریہ پیش کرنے پر تعریف کی ہے؟

(A) جان سمتھ (B) ایڈورڈ ہالن

(C) مائیکل پاورڈ (D) الیف۔ووپیک

89. کس صدی میں فارسی حساب دان شراف الدین الطوسی نے کیوبک پولی نومیلز (ploynomils) کے derivative پہلی بار دریافت کیے؟

(A) 10ویں (B) 13ویں

(C) 11ویں (D) 12ویں

90. حالیہ دریافتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جیومیٹریکل quasicrystal نمونوں کو پہلی بار girhi ٹائلوں میں قرونِ وسطیٰ کے اسلامی فن تعمیر میں استعمال کیا گیا جسکی تاریخ......

(A) 6صدیاں قبل ہے (B) 7صدیاں قبل ہے

(C) 8صدیاں قبل ہے (D) 5صدیاں قبل ہے

91. "سائنس" نامی رسالہ کب تحریر کیا گیا؟

(A) 2005 (B) 2006

(C) 2007 (D) 2008

92. "سائنس" نامی رسالے میں چھپنے والے ایک مضمون میں کس نے یہ کہا کہ 500 سال قبل گرہی ٹائلوں کا استعمال قرونِ وسطیٰ کی اسلامی تعمیرات میں ملتا ہے؟

(A) ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر پیٹر لو

(B) پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر پال سٹین ہارڈٹ

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

93. مشاہداتی علم فلکیات میں کس کی تحریر زج۔ال۔سندھ میں مختلف اجرام فلکی کی حرکت معلوم کرنے کے لیے ٹرگنومیٹک جدول ملتے ہیں؟

(A) البیرونی (B) الخوارزمی

(C) الکندی B،A (D) کوئی نہیں

94. حسابیاتی جغرافیہ میں کونسا حساب دان شہروں کے نقشے بنانے اور انکے درمیان فاصلے کو ماپنے میں سب سے زیادہ ہنر مند سمجھا جاتا تھا؟

(A) الرازی (B) ابن موسیٰ

(C) نصیر الدین طوسی (D) البیرونی

95. اپنی کتاب "The Chronology of the Ancient nations" میں البیرونی نے......

(A) زمین کے جغرافیہ پر بحث کی ہے

(B) Planetary habitability of earth پر بحث کی ہے

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

96. البیرونی......کا بانی خیال کیا جاتا ہے؟

(A) جغرافیہ (B) حسابیات

(C) علم فلکیات (D) علم تقسیم اراضی

97. کس عمر میں البیرونی نے سورج کی زیادہ سے زیادہ اونچائی کو استعمال کرتے ہوئے خوارزم کے شہر کاتھ kath کے عرض کا حساب لگایا تھا؟ ۔

(A) 50 سال (B) 53 سال

(C) 25 سال (D) 17 سال

98. کس کے اندازے کے مطابق زمین کا قطر 6,339.9 کلومیٹر تھا جو کہ زمین کی جدید ویلیو 6,356.7 کلومیٹر سے صرف 16.8 کلومیٹر کم تھا؟

(A) البیرونی (B) الحازن

(C) الخوارزمی (D) جابر بن حیان

99. ابن الہیثم اپنی کس کتاب میں جیومیٹرک آپٹکس کی بات کرتا ہے؟

(A) بک آف جیومیٹری (B) بک آف آپٹکس

(C) بک آف جیومیٹرک آپٹکس

(D) کوئی نہیں

100. پہلے البیرونی اور پھر الخزنی وہ پہلے حساب دان تھے جنہوں نے تجرباتی سائنسی طریقہ کار کا اطلاق......

(A) ثماریات پر کیا (B) میکینکس پر کیا

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

101. 1574 میں تقی الدین نے اندازہ لگایا

(A) ستارے زمین سے کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں

(B) روشنی کی رفتار مستقل ہے

(C) دونوں B،A

(D) کوئی نہیں

102. حسابیاتی Induction کا پہلا ثبوت......

(A) الفارابی نے پیش کیا (B) الفخری نے پیش کیا

(C) الشمی نے پیش کیا (D) کوئی نہیں

103. حسابیاتی induction کو 1000 اے ڈی میں کس نے لکھا؟

(A) الکاراجی (B) الکندی

(C) ابن شجاع (D) ابن بجاج

104. الفخری نے حسابیاتی induction کو کس لیے استعمال کیا؟

(A) binomial تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے

(B) پاسکل کی triangle کو ثابت کرنے کے لیے

(C) انٹیگرل کیوبز کے فارمولے کو ثابت کرنے کے لیے

(D) تمام C،B،A

105. ابن الہیثم نے حسابیاتی induction کو کس لیئے استعمال کیا؟
(A) فورتھ پاورز کے سوال کو حل کرنے کے لئے
(B) انٹگرل پاورز کے سوال کو حل کرنے کے لیے
(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

106. اس حساب دان کا نام بتائیں جو کہ حسابیاتی induction کے ذریعے ثبوت کے سلسلے میں جدید ترین حسابیاتی induction کے سلسلہ سے بہت قریب ہے؟
(A) ابن یحییٰ المغربی السماول (B) البیرونی
(C) الخوارزمی (D) کوئی نہیں

107. کس نے 14 والیم کا ایک انسائیکلوپیڈیا تحریر کیا جسمیں ایک سیکشن cryptology کا شامل ہے؟
(A) احمد الہند (B) البیرونی
(C) الخوارزمی (D) احمد القلقاشندی

108. احمد القلقاشندی کے 14 والیم کے انسائیکلوپیڈیا کا نام تھا۔
(A) صبح العشاء (B) شام العشاء
(C) دوپہر (D) کوئی نہیں

109. "جدید تحقیقات ہمیں اسلامی حساب دانوں کا مقروض کر دیتی ہیں۔ ان خیالات جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ 16 ویں 17 ویں اور 18 ویں صدی کے یورپین حساب دانوں کے شاندار تصورات ہیں، کے بارے میں اب معلوم ہوا ہے کہ وہ تقریباً 4 صدیاں قبل مسلمان دانوں کا کارنامہ ہیں۔" یہ کس کے الفاظ ہیں؟
(A) جان جے اور کونور
(B) ایڈمنڈ ایف۔ روبرٹ سن
(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

110. اس کتاب کا نام بتائیں جس میں جان جے۔ اور کونور اور ایڈمنڈ ایف۔ روبرٹ سن نے مسلم حساب دانوں کے بارے میں تحقیق جتلائی ہے؟
(A) Mac Tutor History of Mathematics archive
(B) History of Mathematies archive
(C) Mathematics archive
(D) Mac Tutor History of Methamatics

111. کس مسلم حساب دان کے نام سے لفظ لوگرتھم Logrithm ماخوذ ہوا؟
(A) الکندی (B) ابن الہیثم
(C) الخوارزمی (D) الکراجی

112. الخوارزمی کی ایلیمنٹری الجبرا پر دنیا کی پہلی کتاب کا نام بتائیں جس نے الجبرا کے میدان میں قابل ذکر کردار کیا اور جس سے اصلاح "الجبرا" معروض وجود میں آئی؟
(A) کتاب الجبرا (B) کتاب الجبر
(C) کتاب الحساب (D) الخوارزمی

113. حسابیات کے میدان میں الخوارزمی نے......۔
(A) صفر ایجاد کیا
(B) عربی ہندسے متعارف کروائے
(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

114. الکندی......۔
(A) رمزی یا خفیہ تحریر کو تجزیے کے ذریعے بوجھنے کے فن کے بانی تھے۔
(B) علم رمزی یا خفیہ تحریر کے بانی تھے
(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

115. الکندی کی کتاب کا نام جنہوں نے پہلی بار خفیہ تحریر کے تجزیے کے فن اور فریکونسی تجزیے کی وضاحت پیش کی؟
(A) A Manuscript on Deciphering

Crytographic Messages

(B) A Manuscript on Deciphering

Crytographic Pictures

(C) A Manuscript on Deciphering

crytographic Numbers

(D) A Manuscript on Deciphering

Crytographic Figures

116. شرف الدین الطوسی نے کس تصور کو ترقی دی؟

(A) function (B) equations

(C) calculus (D) کوئی نہیں

117. علم جبر کس کے ذہن رسا کی تخلیق ہے؟

(A) ابن الہیثم (B) الخوارزمی

(C) عمر خیام (D) ابن بیطار

118. کون سا مسلم ریاضی دان معروف شاعر بھی تھا؟

(A) المسعودی (B) عمر خیام

(C) ابن وافد (D) الدمیری

119. ریاضی کس زبان کا لفظ ہے؟

(A) فارسی (B) لاطینی

(C) عربی (D) عبرانی

جوابات

1. (B)	2. (A)	3. (C)	4. (B)	5. (A)	6. (D)	7. (C)	8. (A)
9. (D)	10. (C)	11. (A)	12. (B)	13. (D)	14. (D)	15. (D)	16. (A)
17. (C)	18. (D)	19. (C)	20. (A)	21. (C)	22. (A)	23. (A)	24. (B)
25. (A)	26. (D)	27. (D)	28. (B)	29. (B)	30. (C)	31. (D)	32. (A)
33. (A)	34. (D)	35. (D)	36. (A)	37. (A)	38. (C)	39. (A)	40. (D)
41. (C)	42. (D)	43. (A)	44. (B)	45. (A)	46. (A)	47. (A)	48. (B)
49. (C)	50. (D)	51. (A)	52. (D)	53. (D)	54. (A)	55. (A)	56. (A)
57. (C)	58. (A)	59. (C)	60. (D)	61. (B)	62. (C)	63. (D)	64. (D)
65. (D)	66. (C)	67. (D)	68. (C)	69. (A)	70. (C)	71. (C)	72. (A)
73. (C)	74. (D)	75. (A)	76. (C)	77. (D)	78. (C)	79. (A)	80. (A)
81. (D)	82. (D)	83. (C)	84. (D)	85. (A)	86. (A)	87. (A)	88. (D)
89. (D)	90. (D)	91. (C)	92. (C)	93. (B)	94. (D)	95. (A)	96. (D)
97. (D)	98. (A)	99. (B)	100. (C)	101. (C)	102. (B)	103. (A)	104. (D)
105. (C)	106. (A)	107. (D)	108. (A)	109. (C)	110. (A)	111. (C)	112. (B)
113. (C)	114. (A)	115. (A)	116. (A)	117. (B)	118. (B)	119. (B)	

علم طبیعات (Physics)

1. طبیعات کی ترقی کا دورانیہ کیا ہے؟
(A) 7ویں صدی سے 14ویں صدی تک
(B) 9ویں صدی سے 15ویں صدی تک
(C) 11ویں صدی سے 17ویں صدی تک
(D) 8ویں صدی سے 16ویں صدی تک

2. طبیعات میں آپٹکس اور.........
(A) مقناطیسیت شامل ہیں (B) میکینکس شامل ہیں
(C) اسٹروفزکس شامل ہیں (D) تمام C،B،A

3. الہیثم کی کتاب "آپٹکس" کے ساتھ قرون وسطی کے...... میں تجرباتی طبیعات کا آغاز ہوا۔
(A) عراق (B) مصر
(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

4. سائنسی تاریخ کے بانی نے اپنی کس کتاب میں لکھا کہ "الہیثم نہ صرف عظیم ترین مسلم ماہر طبیعات تھے بلکہ ہر طرح سے تمام قرون وسطی کے بھی عظیم ترین ماہر طبیعات تھے"
(A) Introduction of the works of Al haythem
(B) Introduction of the Al Haythem
(C) Introduction to the History of Physics
(D) Introduction to the History of Science

5. سائنسی تاریخ کے بانی ہیں۔
(A) جارج سارٹن (B) جارج ولیم
(C) جارج مورش (D) جارج مین

6. اسلام اور طبیعات کے موضوع پر کتاب "The Winding Moion" کے مصنف کا نام تحریر کریں؟
(A) البیرونی (B) الکندی
(C) ابن بجاج (D) الہیثم

7. وہ کون تھے جنہوں نے ارضی سائنس کے لیے تجرباتی طریقے دریافت کیے؟
(A) الکندی (B) الرازی
(C) الہیثم (D) الکشی

8. البیرونی نے کس سائنس کے لیے تجرباتی طریقے کو ترویج دی؟
(A) میکینکس (B) ایسٹروفزکس
(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

9. الکندی کا شمار ان ابتدائی ترین مصنفین میں ہوتا ہے جنہوں نے......
(A) جیومیٹریکل طبیعات پر لکھا
(B) جیومیٹریکل کیمسٹری پر لکھا
(C) جیومیٹریکل آپٹکس پر لکھا
(D) جیومیٹریکل بیالوجی پر لکھا

10. الکندی کی اس کتاب کا نام بتائیں جس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ "دنیا میں ہر چیز ہر سمت میں روشنی کی شعاعیں خارج کرتی ہے۔ جو کہ ساری دنیا کو بھر دیتی ہے"؟
(A) The radis stellarum
(B) The radis

(C) The light an phenomeno

(D) کوئی نہیں

11. بغداد کے دربار سے منسلک ابن سہل ایک

(A) ماہر حسابیات تھے

(B) ماہر طبیعیات تھے

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

12. ابن سہل نے کب طبیعیات کے موضوع پر ایک کتاب On Burning Mirross and Lenses کے نام سے تحریر کی؟

(A) 935 (B) 945

(C) 971 (D) 984

13. On Burning Mirrors and Lenses میں ابن سہل نے بتلایا کہ......

(A) curved mirrors اور Lenses مڑتے ہیں

(B) curved misrors اور Lenses روشنی فوکس کرتے ہیں

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

14. عمل انعطاف (refraction) کو کس نے ایجاد کیا؟

(A) البیرونی (B) الکندی

(C) ابن سہل (D) کوئی نہیں

15. عمل انعطاف کے قوانین کس نے دریافت کیے؟

(A) ابن سہل (B) الہیثم

(C) الکندی (D) البیرونی

16. روشنی کے اپنے ہی رنگوں میں بکھر جانے کے عمل پر سب سے پہلے تجربات کس نے کیے؟

(A) الہیثم (B) ابن حجاج

(C) ابن شجاع (D) کوئی نہیں

17. الہیثم کی کونسی کتاب کا لاطینی میں ترجمہ کیا گیا؟

(A) کتاب المناظر (B) کتاب الہند

(C) کتاب القانون (D) کوئی نہیں

18. الہیثم نے بہت سے طبعی عوامل جیسا کہ...... کی وضاحت کرنے کی کوشش کی؟

(A) سائے (shadows) (B) گرہن (eclipses)

(C) قوس قزح (D) تمام

19. الہیثم کی Book of Optics نیوٹن کی کتاب Philosophiea Naturalis principia Mathematica کے طبیعیات کی تاریخ میں...... کے آغاز کی وجہ سے سب سے موثر کتاب سمجھی جاتی ہے؟

(A) آپٹکس میں سائنسی انقلاب (B) بصری ادراک

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

20. الہیثم وہ پہلے مصنف تھے جنہوں نے آنکھ کی......

(A) descritive anatomy کے بارے میں تحریر کیا

(B) Functional anatomy کے بارے میں تحریر کیا

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

21. ابن الہیثم کی اس تحریر کا نام بتائیں جس میں انہوں نے قوس قزح کی بناوٹ کی وضاحت کی؟

(A) مقالہ فی ال۔ہالہ وقوس قزح

(B) فی ال۔ہالہ وقوس قزح

(C) مقالہ فی۔ہالہ وقوس قزح

(D) کوئی نہیں

22. کس نے ابصارت کے بارے میں یہ درست نظریہ پیش کیا کہ روشنی آنکھ میں نہیں بلکہ اس چیز سے منعکس ہو رہی ہوتی ہے جسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں؟

(A) الرازی (B) الکندی

(C) اقلیدس (D) الہیثم

23. الہیثم کے بعد کس نے قوس قزح کی بناوٹ کے طبعی پہلوؤں کو سمجھانے کی کوشش کی تاہم وہ بھی الہیثم کی طرح مکمل طور پر درست نظریہ پیش نہ کر سکے؟

(A) ابن رشد (B) ابن سینا

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

24. اس پہلے ماہر طبیعات کا نام بتائیں جس نے قوس قزح کی طبعی بناوٹ کے بارے میں بالکل درست وضاحت پیش کی؟

(A) قطب الدین الہادی (B) قطب الدین الہاشم

(C) قطب الدین ال۔شیرازی (D) قطب الدین ال۔صغیر

25. قطب الدین ال۔شیرازی کے اس شاگرد کا نام بتائیں جنہوں نے قوس قزح کی اطمینان بخش وضاحت پیش کی؟

(A) کمال الدین الفارابی (B) کمال الدین الرازی

(C) کمال الدین الکندی (D) کمال الدین الفارسی

26. قوس قزح کے عمل کی طبعی وضاحت پر کمال الدین الفارسی کی کتاب کا نام بتائیں؟

(A) تنقیح المناظر (B) تقی المناظر

(C) بصر المناظر (D) کوئی نہیں

27. کس مسلم عالم کا اس امر پر اتفاق تھا کہ روشنی کی رفتار محدود ہوتی ہے؟

(A) الہیثم (B) البیرونی

(C) ابوسینا (D) تمام A، B، C

28. ''کتاب نور حداقت الابصار و نور حقیقت الانظار'' آپٹکس پر لکھی جانے والی آخری اہم کتاب کے مصنف کا نام بتائیں؟

(A) قطب الدین شیرازی (B) کمال الدین الفارسی

(C) عبداللہ بن محمد (D) تقی الدین

29. کتاب ''نور حداقت الابصار و نور حقیقت الانظار'' کس موضوع کے تین والیم پر مشتمل ہے؟

(A) بصارت (B) روشنی کا انعکاس

(C) روشنی کا انعطاف (D) تمام A، B، C

30. تقی الدین کی کتاب ''نور حداقت الابصار و نور حقیقت الانظار'' کب شائع ہوئی؟

(A) 1550 (B) 1562

(C) 1570 (D) 1574

31. کس کی تحریریں ابتدائی ترین rudimentary ٹیلی سکوپ کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں؟

(A) الرازی (B) جابر بن حیان

(C) الکندی (D) تقی الدین

32. الفارابی نے ''ویکیوم'' کے وجود سے متعلق ایک تجربہ کیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ......

(A) ہوا کا حجم پھیل کر میسر جگہ کو بھر دیتا ہے

(B) مکمل ویکیوم کا تصور درست نہیں

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

33. کس عالم نے ویکیوم سے متعلق الفارابی کے نظریے کی تردید کی؟

(A) الہیثم (B) معتزلی عالم

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

34. البیرونی اور الخزنی وہ پہلے عالم تھے جنہوں نے میکنکس پر تجرباتی سائنسی طریقے کا اطلاق کیا بالخصوص......

(A) statics کے میدان میں

(B) dynamises کے میدان میں

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

35. statics میں البیرونی نے کتنے قیمتی پتھروں کی کشش ثقل کو ماپا؟

(A) 12 (B) 14

(C) 16 (D) 18

36. کس سائنسدان نے تجربات کے دوران چیکنگ ٹیسٹ کے طریقے کو متعارف کروایا؟

(A) الکندی (B) الرازی

(C) الحجاج (D) البیرونی

37. البیرونی نے مختلف قسم کے مائعات کا وزن ماپا اور......

(A) تازہ پانی اور سمندری پانی کے درمیان وزن کے اختلاف کو ریکارڈ کیا

(B) گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کے درمیان وزن کے اختلاف کو ریکارڈ کیا

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

38. البیرونی نے کسی شے کے ہوا میں اور پانی میں وزن کے درمیان شرح کو تلاش کرنے کے لیے کونسا آلہ پیمائش ایجاد کیا؟

(A) کونیکل آلہ ماپ (B) زرخ آلہ ماپ

(C) انگاراب آلہ ماپ (D) کوئی نہیں

39. کب الخزنی نے ہائیڈروسٹیٹک توازن ایجاد کیا؟

(A) 1122 (B) 1121

(C) 1120 (D) 1119

40. الخزنی نے کس کتاب میں یہ نظریہ پیش کیا کہ کسی بھی جسم کی کشش ثقل کی شدت کا انحصار اس جسم کے زمین کے مرکز سے فاصلے پر ہوتا ہے؟

(A) The book of Balance and wisdom

(B) The book of Gravity and wisdom

(C) The book of Balance and Measurment

(D) کوئی نہیں

41. کب الجزری نے سکشن پمپ ایجاد کیا؟

(A) 1205 (B) 1206

(C) 1207 (D) 1208

42. یورپ میں کس صدی سے سکشن پمپ متعارف ہوا؟

(A) 13ویں (B) 14ویں

(C) 15ویں (D) 16ویں

43. چھ کلنڈر مونوبلاک پمپ کس نے ایجاد کیا؟

(A) تقی الدین (B) الرازی

(C) الجزری (D) کوئی نہیں

44. چھ کلنڈر مونو بلاک پمپ ویکیوم بھی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ کب ایجاد ہوا؟

(A) 1500 (B) 1525

(C) 1540 (D) 1551

45. کس چیز کی پیمائش کا ذکر سب سے پہلے 14ویں صدی میں عربی عسکری تحریروں میں ملتا ہے؟

(A) قوام (viscosity) (B) ہوا

(C) پانی (D) گیس

46. پیراشوٹ کی ابتدائی ترین شکل کس عربی سائنسدان نے ایجاد کی؟

(A) عباس ابن علی (B) عباس ابن فرناس

(C) عباس ابن ہاشم (D) عباس ابن مقدی

47. عباس ابن فرناس وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے ہنگ گلائیڈر میں کنٹرولڈ فلائٹ کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ کوشش کب کی؟

(A) 835 (B) 845

(C) 865 (D) 875،

48. کس نے اپنی کتاب History of Arabs میں کہا کہ ابن فرناس تاریخ کا وہ پہلا آدمی تھا جس نے اڑان کی سائنسی کوشش

کی؟

(A) فلپ ھیکن (B) فلپ میکڈ ولڈ

(C) فلپ ھیکن (D) فلپ ہٹی

49. کس نے حرکت کا تفصیلی نظریہ پیش کیا؟

(A) البیرونی (B) ابوسینا

(C) الکندی (D) کوئی نہیں

50. کس نے ارسطو کی طبیعات پر تنقید "ال۔معطابر" کے نام سے تحریر کی اور پہلی بار ارسطو کے اس نظریے کی کہ مستقل قوت ایک جیسی حرکت پیدا کرتی ہے کی تردید کی؟

(A) ابوالبرکت المصری (B) ابوالبرکت الکوفی

(C) ابوالبرکت البغدادی (D) کوئی نہیں

51. کس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مستقل قوت کے اطلاق سے اسراع پیدا ہوتا ہے جو کہ کلاسیکل مکینکس کا بنیادی قانون اور نیوٹن کے دوسرے قانون کا پیش رو خیال کیا جاتا ہے؟

(A) ابوالبرکت البغدادی (B) البیرونی

(C) الکندی (D) الجزری

52. البیرونی نے ارسطو کے طبیعات اور فلسفے پر نظریات پر تنقید کی اور ابو سینا نے اپنے کس شاگرد کے ساتھ انکا جواب پیش کیا؟

(A) علی المسعودی (B) علی المکی

(C) علی الملتزم (D) علی المعصومی

53. البیرونی اور ابوسینا کے درمیان بحث کس کتاب میں محفوظ ہے؟

(A) اسئلہ والجواب (B) تنقید ال ارسطو

(C) البیرونی وابوسینا بحث (D) کوئی نہیں

54. کس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اجرام فلکی میں ایک کشش کی قوت ہوتی ہے جو کہ نیوٹن کے کشش ثقل کے قانون کا پیش رو ثابت ہوا؟

(A) جعفر محمد ابن موسیٰ ابن شاکر

(B) احمد محمد ابن موسیٰ ابن شاکر

(C) عبداللہ محمد ابن موسیٰ ابن شاکر

(D) الرحمٰن محمد ابن موسیٰ ابن شاکر

55. ابن شاکر کی اس کتاب کا نام بتائیں جس میں انہوں نے اجرام فلکی کے درمیان کشش کا ذکر کیا ہے؟

(A) Astral Motion

(B) The force of Attraction

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

56. الہیثم نے کس طبیعی قانون کا آغاز کیا جو کہ بعد میں نیوٹن کا پہلا حرکت کا قانون کہلایا؟

(A) اجرام فلکی کے درمیان کشش ثقل

(B) جمود

(C) اسراع (D) حرکت

57. اس پاکستانی نوبل پرائز یافتہ ماہر طبیعات کا نام بتائیں جنہوں نے الہیثم کو ہر دور کا بہترین ماہر طبیعات قرار دیا؟

(A) ڈاکٹر قدیر اے خان (B) عبدالسلام

(C) عبدالستار (D) ڈاکٹر احسان الحق

58. کس سائنسدان نے یہ کہا کہ ہر لگائی جانے والی قوت پر ایک ردعمل کی قوت ہوتی ہے اور انکے انکی نظریے کے اندر نیوٹن کا تیسرا قانون موجود تھا؟

(A) ابن رشد (B) نصیرالدین طوسی

(C) الہیثم (D) ابن بجاج

59. کس نے اپنی کتاب میں یہ نظریہ پیش کیا کہ "حرارت بیرونی اشیاء میں حرکت سے پیدا ہوتی ہے؟

(A) البیرونی (B) ابن رشد

(C) ابوسینا (D) الکندی

60. ابو سینا نے کس کتاب میں حرارت سے متعلق نظریہ پیش کیا؟

(A) Heavens and Earth

(B) Heavens and Fire

(C) Rose and Fire

(D) کوئی نہیں

61. کس نے دریافت کیا کہ ــــ کا جسم تبدیل ہو سکتا ہے لیکن غائب نہیں ہو سکتا؟

(A) نصیر الدین طوسی (B) محمد حسین

(C) الہیثم (D) الجزری

62. کس صدی میں نصیر الدین طوسی نے conservation of mass کے قانون کی ابتدائی ترین شکل پیش کی؟

(A) 11ویں صدی (B) 12ویں صدی

(C) 13ویں صدی (D) 14ویں صدی

63. کس صدی میں البرجاندی نے "سر کیولر خود" کا نظریہ پیش کیا؟

(A) 13ویں صدی (B) 14ویں صدی

(C) 15ویں صدی (D) 16ویں صدی

64. الہیثم کی کتاب "مقالہ فی ور القمر"..... پہلی کامیاب کوشش تھی

(A) حسابیاتی علم فلکیات کو طبیعات سے جوڑنے کی

(B) علم فلکیات اور اسپٹر وفزکس پر تجرباتی طریقے کے اطلاق کی

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

65. اس پہلے سائنسدان کا نام بتائیں جنہوں نے چاند کی روشنی کے بارے میں یہ درست نظریہ پیش کیا کہ وہ اپنی سطح کے ان حصوں سے روشنی خارج کرتا ہے جہاں پر سورج کی روشنی ٹکراتی ہے؟

(A) الرازی (B) الجزری

(C) البیرونی (D) الہیثم

66. کب الدین نے یہ نظریہ پیش کیا کہ روشنی اس جسم سے خارج ہو رہی ہوتی ہے جسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ کہ آنکھ سے"؟

(A) 1550 (B) 1551

(C) 1560 (D) 1574

67. درج ذیل میں سے کیا البیرونی نے 11ویں صدی میں ایجاد کیا؟

(A) لیبارٹری فلاسک (B) Pycnometer

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

68. درج ذیل میں سے کیا الخزنی نے 12ویں صدی میں ایجاد کیا؟

(A) Hyrostatic Balance

(B) Steelyard

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

69. کس صدی میں ابن ال۔شاطر نے compass dial ایجاد کیا؟

(A) 11ویں صدی (B) 12ویں صدی

(C) 13ویں صدی (D) 14ویں صدی

70. 17ویں صدی میں کس نے سن ڈائل اور compass کے ساتھ ایک آلہ cartographic قبلہ ایجاد کیا؟

(A) محمد احمد (B) محمد عقیل

(C) محمد حسین (D) محمد انس

71. عرب نویں صدی سے...... سے آگاہ تھے جب الرازی نے اس موضوع پر کتاب تحریر کی؟

(A) مقناطیسیت (B) کشش ثقل

(C) اسراع (D) عمل ورد عمل کی قوتیں

72. کس صدی میں ابن ہجاج نے مقناطیس اور لوہے کی طرف کشش کی properties بیان کیں؟

(A) 11ویں صدی (B) 12ویں صدی

(C) 13ویں صدی (D) 14ویں صدی

73۔ یمنی سلطان ال۔اشرف کی فلکیاتی آلات پر کتاب میں......

(A) مقناطیسی compass کے پہلے فلکیاتی استعمالات کا ذکر ملتا ہے

(B) فلکیاتی ادب میں پہلی بار compass کا حوالہ ملتا ہے

(C) دونوں A، B

(D) کوئی نہیں

74۔ نظریہ اضافت کس نے پیش کیا؟

(A) نیوٹن (B) آئن سٹائن

(C) طالیس (D) اسطاخوس

جوابات

1. (D)	2. (D)	3. (C)	4. (D)	5. (A)	6. (D)	7. (A)	8. (C)
9. (C)	10. (A)	11. (C)	12. (D)	13. (C)	14. (C)	15. (B)	16. (A)
17. (A)	18. (D)	19. (C)	20. (C)	21. (A)	22. (D)	23. (C)	24. (C)
25. (D)	26. (A)	27. (D)	28. (D)	29. (D)	30. (D)	31. (D)	32. (C)
33. (C)	34. (C)	35. (D)	36. (D)	37. (C)	38. (A)	39. (B)	40. (A)
41. (B)	42. (C)	43. (A)	44. (D)	45. (A)	46. (B)	47. (D)	48. (D)
49. (B)	50. (C)	51. (A)	52. (D)	53. (A)	54. (A)	55. (C)	56. (B)
57. (B)	58. (D)	59. (C)	60. (A)	61. (A)	62. (C)	63. (D)	64. (C)
65. (D)	66. (D)	67. (C)	68. (C)	69. (D)	70. (C)	71. (A)	72. (B)
73. (C)	74. (B)						

طبِ نبوی

1. ازروئے حدیث بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔
(A) عقلمند (B) مسلمان
(C) انسان (D) شیطان

2. نمک میں جتنی امراض سے شفا ہے۔
(A) 70 (B) 80
(C) 90 (D) 100

3. حدیث کے مطابق سب سالنوں کا سردار ہے۔
(A) آلو (B) کدو
(C) گوشت (D) بینگن

4. کھانے کے لیے پیٹ کے حصے کرنے چاہیئں۔
(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

5. کھانے میں کیا گر جائے تو اُسے غوطہ دینا چاہیے۔
(A) ٹڈی (B) بجز
(C) مچھر (D) مکھی

6. حدیث کے مطابق کھانے والا خود کشی کرتا ہے۔
(A) مرچ (B) نمک
(C) مٹی (D) مولی

7. کھانا جس چیز سے شروع کرنا چاہیے۔
(A) نمک (B) مرچ
(C) سرکہ (D) دودھ

8. پھل کھانے سے آدمی قولنج کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔
(A) انار (B) انجیر
(C) انگور (D) کھجور

9. پھل جو ازروئے حدیث بواسیر کے لیے مفید ہے۔
(A) انگور (B) کھجور
(C) انجیر (D) انار

10. روغن جس کی مالش کرنے سے چالیس روز تک شیطان نہیں آتا۔
(A) بادام (B) ناریل
(C) سرسوں (D) زیتون

11. بڑھاپا جلد آ جاتا ہے کھانا ترک کرنے سے
(A) رات کا (B) دوپہر کا
(C) صبح کا (D) سہ پہر کا

12. سبزی جو دل و دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے۔
(A) شلجم (B) کدو
(C) بھنڈی (D) گوبھی

13. آقا علیہ السلام کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔
(A) ککڑی (کھیرا) (B) انگور
(C) انار (D) انجیر

14. پھل جس میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ ضرور ہوتا ہے۔
(A) کھجور (B) انگور
(C) انار (D) انجیر

15. ازروئے حدیث گوشت سب سے بہتر ہے جانور کی
(A) پسلی کا (B) پشت کا

(C) گردن کا (D) کلیجی کا

16. حدیث کے مطابق رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔

(A) پیلا (B) نیلا

(C) سرخ (D) سبز

17. حضور علیہ السلام کو پینے کی چیز سب سے زیادہ پسند تھی۔

(A) دودھ (B) پانی

(C) ستو (D) سرکہ

18. پیچش کی صورت میں پلانے کا حکم ہے۔

(A) دودھ (B) شہد

(C) سرکہ (D) پانی

19. فرمان نبوی کے مطابق اگر موت کی کوئی دوا ہوتی تو وہ ہوتی۔

(A) کالی زیری (B) اجوائن

(C) سونف (D) سنا

20. ازروئے حدیث سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔

(A) ادرک (B) سرکہ

(C) کلونجی (D) لہسن

21. ازروئے حدیث چیز جو کھانے اور بطور علاج شفا دیتی ہے۔

(A) لہسن (B) پیاز

(C) مرچ (D) مہندی

22. سر درد کی صورت میں جس چیز کا لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

(A) ہلدی (B) مہندی

(C) میدہ (D) بیسن

23. دھوپ سے گرم شدہ پانی سے غسل کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔

(A) طاعون (B) ہیضہ

(C) لقوہ (D) برص

24. مولی کھانے کے بعد پڑھنے سے منہ سے بدبو نہیں آتی۔

(A) تعوذ (B) تسمیہ

(C) درود (D) کلمہ

25. محتاجی آتی ہے جھاڑو دینے سے

(A) صبح کو (B) دوپہر کو

(C) سہ پہر کو (D) رات کو

26. کھانے میں مچھلی کے ساتھ جمع نہیں کرنا چاہیے۔

(A) ادرک (B) دودھ

(C) سرکہ (D) شہد

27. ازروئے حدیث کھانے کے فوراً بعد سونے سے سخت ہو جاتا ہے۔

(A) ہاتھ (B) معدہ

(C) دل (D) سر

28. مسواک شیطان کا منہ کرتی ہے۔

(A) کالا (B) سرخ

(C) نیلا (D) پیلا

29. حضور ﷺ کا آخری عمل تھا۔

(A) سرمہ لگانا (B) وضو کرنا

(C) غسل کرنا (D) مسواک کرنا

30. ازروئے حدیث عمل کرنے سے نزع کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔

(A) سرمہ لگانا (B) خوشبو لگانا

(C) مسواک کرنا (D) وضو کرنا

31. سورہ جو سانپ کاٹے کا منتر ہے

(A) سورہ اخلاص (B) سورہ فاتحہ

(C) سورہ کوثر (D) سورہ نصر

32. سورہ جس میں سوائے موت کے ہر بیماری میں شفا ہے۔

(A) سورہ فاتحہ (B) سورہ اخلاص

(C) سورہ کوثر (D) سورہ عصر

33. سورہ جو بیمار پر پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔

(A) سورہ نساء (B) سورہ مائدہ

(C) سورہ انعام (D) سورہ اعراف

34. سورہ جسے رات کو پڑھنے سے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔

(A) سورہ یاسین (B) سورہ واقعہ

(C) سورہ رحمٰن (D) سورہ ملک

35. سورہ جو دوا ہے زہر کی۔

(A) سورہ قدر (B) سورہ فلق

(C) سورہ ناس (D) سورہ فاتحہ

36. از روئے حدیث اللہ تعالیٰ انسان اور اس کی اولاد کی نگہبانی کرتا ہے پڑھنے سے۔

(A) آیت الکرسی (B) سورہ مزمل

(C) آیت کریمہ (D) سورہ دخان

جوابات

1. (D) 2. (A) 3. (C) 4. (B) 5. (D) 6. (C) 7. (A) 8. (B)
9. (C) 10. (D) 11. (A) 12. (B) 13. (A) 14. (C) 15. (B) 16. (D)
17. (A) 18. (B) 19. (D) 20. (C) 21. (A) 22. (B) 23. (D) 24. (C)
25. (D) 26. (B) 27. (C) 28. (A) 29. (D) 30. (C) 31. (B) 32. (A)
33. (C) 34. (B) 35. (D) 36. (A)

قرونِ وسطیٰ کی اسلامی دنیا اور طب

1. کس صدی سے مسلمانوں نے گیلن کی تخلیقات کو عربی زبان میں منتقل کرنا شروع کیا؟
(A) 8ویں صدی (B) 9ویں صدی
(C) 10ویں صدی (D) 11ویں صدی

2. گیلن کی تخلیقات کا سب سے پہلے ترجمہ کس نے کرنا شروع کیا؟
(A) ہمایوں ابن اسحاق (B) عبداللہ ابن اسحاق
(C) حذیفہ ابن اسحاق (D) خدیج ابن اسحاق

3. طب میں عربی زبان کے پہلے انسائیکلوپیڈیا کا نام بتائیں؟
(A) فردوس الادویہ (B) فردوس الطب
(C) فردوس الکامل (D) فردوس الحکمۃ

4. فردوس الحکمۃ کے مصنف کا نام بتائیں؟
(A) الطبری (B) الرازی
(C) الکندی (D) الہشیم

5. فردوس الحکمۃ وہ پہلی کتاب تھی جس میں......
(A) علم الاطفال اور بچوں کی پرورش کے موضوعات پر بات کی گئی
(B) نفسیات اور نفسیاتی تھراپی کے موضوعات پر بات کی گئی
(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

6. کس صدی میں الرازی نے "Comprehensive Book of Medicine" تحریر کی؟
(A) 7ویں صدی (B) 8ویں صدی
(C) 10ویں صدی (D) 9ویں صدی

7. "Comprehensive Book of Medicine" میں کس بیماری کے تعارف نے اسے یورپ میں بے انتہا مقبول رکھا؟
(A) خسرہ (B) چیچک
(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

8. علی ابن عباس مجوسی کی "کتاب کامل از سنا الطبیۃ" کس نام سے معروف ہوئی؟
(A) کتاب کامل (B) کتاب سنا
(C) کتاب طبیعت (D) کتاب الماکلی

9. کس طبیب کو جدید سرجری کا بانی قرار دیا جاتا ہے؟
(A) الزہروی (B) الرازی
(C) الکندی (D) کوئی نہیں

10. الزہروی کی کتاب کا بتائیں جس کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا اور کئی صدیوں تک مغربی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی؟
(A) کتاب الطب (B) کتاب الکامل
(C) کتاب الماکلی (D) کتاب التصریف

11. کتاب التصریف کتنے والیم پر مشتمل تھی؟
(A) 10 (B) 20
(C) 30 (D) 40

12. کتاب التصریف میں الزہروی نے بہت سے آلات جراحی ایجاد کیئے۔ یہ کب شائع ہوئی؟
(A) 500 (B) 560
(C) 580 (D) 1000

13. 11ویں صدی کے اس فلسفی اور ڈاکٹر کا نام بتائیں جو کہ نہ صرف

جدید طب کے بانی بلکہ تاریخ کے عظیم ترین میڈیکل علماء میں سے خیال کیے جاتے ہیں؟

(A) الزہروی (B) المجوسی

(C) الرازی (D) ابوسینا

14. ابوسینا کے طب پر اس انسائیکلوپیڈیا کا نام بتائیں جو کہ صدیوں تک یورپ میں معیاری ٹیکسٹ کتاب رہی؟

(A) The Canon of Medicine

(B) The Book of Healing

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

15. ابوسینا نے......

(A) بیکٹریا اور وائرل ناموں کو سب سے پہلے بیان کیا

(B) بخار کے علاج میں برف کے استعمال کو بتایا

(C) طب کو ادویہ سازی سے علیحدہ کیا

(D) تمام A، B، C

16. کس نے اپنی کتاب "کتاب السیدانہ" میں طب اسلامی اور ہندی طب کو لکھا کیا؟

(A) الرازی (B) ابن نفیس

(C) الکندی (D) البیرونی

17. طب اسلامی کی تاریخ میں حروف تہجی کے حساب سے تحریر کیے جانے والے پہلے انسائیکلوپیڈیا کو کس نے تحریر کیا؟

(A) البیرونی (B) الرازی

(C) الکندی (D) ابن ال جحی

18. طب کے موضوع پر ابن النفس کی کتاب کا نام تحریر کریں؟

(A) کتاب السیدانہ (B) کتاب القانون

(C) ال۔شامل فی الطب (D) کوئی نہیں

19. ابن نفیس کی وفات کب ہوئی؟

(A) 1220 (B) 1222

(C) 1225 (D) 1228

20. قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا میں بطور میڈیکل اتھارٹی کس کتاب نے ابوسینا کی The Canon of Medicine کی جگہ لی؟

(A) ال۔شامل فی الطب (B) کتاب السیدہ

(C) کتاب القانون (D) کوئی نہیں

21. 10ویں صدی میں الرازی نے طب کے میدان میں......

(A) محدود تجربے کو متعارف کروایا

(B) کلینیکل مشاہدے کو متعارف کروایا

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

22. طب کی تاریخ میں ابتدائی ترین میڈیکل تجربہ......... نے اپنے ہسپتال کے لیے سب سے صاف جگہ تلاش کرنے کے لیے کیا۔

(A) الکندی (B) الہاشمی

(C) جابر بن حیان (D) الرازی

23. الرازی نے اپنے ہسپتال کے لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے 10ویں صدی میں کس پورے شہر میں گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے اور جہاں گوشت دیر سے خراب ہوا وہیں انہوں نے اپنا ہسپتال بنایا؟

(A) اصفہان (B) فلسطین

(C) بغداد (D) سیستان

24. ابن زہر وہ پہلے طبیب تھے جنہوں نے......

(A) انسانی چیر پھاڑ (dissection) کی

(B) پوسٹ مارٹم کیا

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

25. کس بیماری کے بارے میں ابن زہر نے یہ ثابت کیا کہ اس کی وجہ پیراسائٹ (parasite) ہے؟

(A) جگر کا کینسر (B) جوڑوں کا درد

(C) آنکھ میں موتیا اترنا

(D) جلدی بیماری سکیبز Scabies

26. ابن زہر کی scabies کی وجہ کی دریافت نے کس کے رائج الوقت نظریات کو بلا کر رکھ دیا؟

(A) گیلن (B) ہپوکریٹس
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

27. کب مصر میں قحط کے دوران عبد اللطیف نے بہت سے ڈھانچوں کا معائنہ کیا اور دریافت کیا کہ گیلن کا نچلے جبڑے اور Sacrum کی ہڈیوں کی بناوٹ کا نظریہ غلط تھا؟

(A) 998 (B) 100
(C) 1100 (D) 1200

28. نبض کے سائنسی مطالعے کا بانی کون تھا؟

(A) الرازی (B) ابوسینا
(C) الکندی (D) الہیثم

29. اپنی کس کتاب میں ابوسینا نے یہ کہا نبض کے بارے میں یہ درست معلومات فراہم کی کہ "نبض کی ہر دھڑکن دو حرکات اور دو pauses پر مشتمل ہوتی ہے؟

(A) The cannon of Medicine
(B) کتاب القانون
(C) کتاب الطب (D) کوئی نہیں

30. اس طبیب کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے کلائی کے مشاہدے کے ذریعے نبض کا مشاہدہ کیا اور جن کا یہ طریقہ کار آج بھی عمل میں ہے؟

(A) جابر بن حیان (B) الہیثم
(C) الموئی (D) ابوسینا

31. ابوسینا نے اپنی کتاب "The Canon of Medicine" میں ......

(A) جراثیم سے پھیلنے والی متعدی بیماریوں جیسا کہ ٹی بی کی دریافت کی

(B) پانی اور مٹی سے پھیلنے والی بیماریوں کی دریافت
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

32. کس علم کا آغاز اسلامی دنیا سے ہوا؟

(A) علم الرجال (B) علم ناموسیات
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

33. اس طبیب کا نام بتائیں جو کہ allergic asthma کی دریافت کے ذمہ دار ہیں؟

(A) الرازی (B) ابوسینا
(C) ابن رشد (D) کوئی نہیں

34. الرازی وہ پہلے طبیب ہیں جنہوں نے ......

(A) الرجی پر آرٹیکل تحریر کیے
(B) ناموسی نظام پر آرٹیکل تحریر کیے
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

35. اس طبیب کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ بخار ایک فطرتی دفاعی میکانی نظام ہے یا پھر یہ جسم کی بیماریوں کے خلاف جنگ کا طریقہ ہے؟

(A) الکندی (B) ابن رشد
(C) الہیثم (D) الرازی

36. کن بیماریوں میں فرق کو الرازی نے واضح کیا؟

(A) چیچک اور خسرہ (B) خسرہ اور کینسر
(C) چیچک اور خناق (D) خناق اور تپ دق

37. کس بیماری کے علاج کے لیے اسلامی دنیا میں ٹیکہ لگانے کے عمل کا آغاز ہوا؟

(A) خسرہ (B) چیچک
(C) خناق (D) تپ دق

38. مسلمانوں نے پہلی چیچک کی ویکسین تیار کی۔ نام بتائیں؟

(A) Small pox (B) Cow pox
(C) Little pox (D) کوئی نہیں

39. Cow pox کو کس صدی میں ترکی میں ایجاد کیا گیا تھا؟
(A) 15 ویں صدی (B) 16 ویں صدی
(C) 17 ویں صدی (D) 18 ویں صدی

40. ایک موروثی جینیاتی بیماری ہیموفیلیا کو سب سے پہلے کس نے بیان کیا؟
(A) الرازی (B) الزہروی
(C) الکندی (D) ابن رشد

41. الزہروی کی اس کتاب کا نام بتائیں جس میں وہ ایک اندلسی خاندان کا ذکر کرتے ہیں جسکا ایک مرد معمولی سے زخم سے خون نہ رکنے کے سبب مر گیا۔ اسی سے ہیموفیلیا کی بنیاد پڑی؟
(A) القانون (B) الطب
(C) المرض (D) التصریف

42. مسلم دندان ساز دندان سازی کے بانی ہیں خاص طور پر......
(A) دانتوں کی جراحی کے بانی خیال کیے جاتے ہیں
(B) دانتوں کی بحالی کے بانی خیال کیے جاتے ہیں
(C) دونوں B، A (D) کوئی نہیں

43. دانتوں کی سرجری کے بارے میں ابتدائی ترین میڈیکل ٹیکسٹ کونسا ہے؟
(A) الشام (B) الطب
(C) التصریف (D) کوئی نہیں

44. 10 ویں صدی کے عربی دندان ساز ابوجعفر احمد بن ابراہیم ابن ابی خالد الجزار کا تعلق کس علاقے سے تھا؟
(A) جنوبی افریقہ (B) شمالی افریقہ
(C) عراق (D) ایران

45. الجزار کی اس کتاب کا نام بتائیں جسمیں وہ دانت کی بحالی کے طریقوں کی تفصیلات بتاتے ہیں؟
(A) کتاب زاد المسافر وقوت الحیدر
(B) کتاب زاد المسافر وقوت علاج
(C) کتاب زاد المسافر وقوت الطب
(D) کوئی نہیں

46. الجزار سے متاثر ہو کر کس نے اپنی کتاب "The Canon of Medicine" میں بھی ایک باب دندان سازی کے بارے میں رکھا؟
(A) ابوسینا (B) الرازی
(C) ابن خلدون (D) ابن رشد

47. کس کے خیال میں "Tooth کی وجہ dental carries "warms" ہوتے ہیں؟
(A) ابوسینا (B) الجزار
(C) دونوں B، A (D) کوئی نہیں

48. "Dental carries" کی وجہ "tooth worms" ہوتے ہیں۔ اس نظریے کو 1200 میں کس مسلم طبیب نے اپنی کتاب Book of the elite concerning the unmasking jof mystries and tearing of vells میں غلط ثابت کیا؟
(A) گوباری (B) الرازی
(C) التطش (D) کوئی نہیں

49. گوباری نے کب اس نظریے کی تردید کی کہ Dental carries کی وجہ tooth worms ہوتے ہیں؟
(A) 11 ویں صدی میں (B) 12 ویں صدی میں
(C) 13 ویں صدی میں (D) 14 ویں صدی میں

50. 10 ویں صدی کے کس طبیب نے زچگی سے متعلق ہپوکریٹس اور گیلن کے نظریات کو غلط ثابت کر کے درست نظریات پیش کیے؟
(A) علی ابن عباس الکندی (B) علی ابن عباس المجوسی

(C) علی ابن عباس المکی (D) کوئی نہیں

51. کس طبیب نے اپنی "کتاب التصریف" میں زچگی کے دوران جراحی کے لیے بہت سے آلات جراحی متعارف کروائے؟

(A) الزہروی (B) الکندی

(C) اتعلش (D) الہیثم

52. زچگی کے دوران caesarean sections کی وضاحت کہاں ملتی ہے؟

(A) فردوسی کی کتاب "شاہنامہ" میں

(B) البیرونی کی کتاب العطر الباقیہ میں

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

53. درج ذیل میں سے کس طبیب نے جنین Embsyology پر ارسطو گیلن اور ابوسینا کی وضاحتوں کی تردید کی اور اپنے نظریات پیش کیے؟

(A) الزہروی (B) الہاشم

(C) الحکم (D) ابن النفیس

54. ابن النفف شاگرد تھے۔

(A) ابن نفیس کے (B) الرازی کے

(C) ابوسینا کے (D) الحکم کے

55. ابن النفف کی اس کتاب کا نام لکھیں جس میں انہوں نے جنین سے متعلق اپنے نظریات کو تفصیل سے بیان کیا ہے؟

(A) الجامی (B) التصریف دوئم

(C) الطب (D) کوئی نہیں

56. کس صدی میں ابو المنصور الموافق نے کچھ ادویات کے ایک دوسرے سے اختلاف کو سمجھانے کے لیے کچھ کیمیائی حقائق کا پہلی بار ذکر کیا؟

(A) 7ویں صدی (B) 8ویں صدی

(C) 9ویں صدی (D) 10ویں صدی

57. کس نے پہلی بار سمندر کے پانی کی پینے کے پانی کے لیے کشید کیا؟

(A) الموافق (B) الرازی

(C) اتعلش (D) کوئی نہیں

58. کس صدی میں مسلم طبیبوں اور جراحوں نے زخموں پر کشید شدہ الکوحل کو بطور جراثیم کش ایجنٹ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا؟

(A) 8ویں صدی (B) 9ویں صدی

(C) 10ویں صدی (D) 11ویں صدی

59. مسلمانوں نے جراحی سے قبل اور اسکے دوران صفائی کو قائم رکھنے کے لیے ایسے جراثیم کش ایجنٹ بنائے کہ یورپ کے بڑے بڑے لوگ...... میں علاج کے لیے آتے تھے۔

(A) مکہ / عربیہ (B) اصفہان / ایران

(C) بغداد / عراق (D) قرطبہ / اسپین

60. الزہروی نے بہت سی معروف مرکب ادویات بنائیں جن کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب "التصریف" کے کس باب میں کیا ہے؟

(A) کاسمیٹکس (B) ادویہ

(C) ترکیب (D) کوئی نہیں

61. الزہروی کی التصریف میں کتنے نئے آلات جراحی متعارف کروائے گئے؟

(A) 150 (B) 185

(C) 190 (D) 200

62. ابوسینا وہ طبیب تھے جنہوں نے پہلی بار......

(A) کینسر کے لیے سرجیکل علاج بیان کیا

(B) سانس لینے میں آسانی کے لیے incubation کے سرجیکل عمل کو بیان کیا

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

63. کس مسلم طبیب نے سرجری کے تین مراحل آپریشن سے قبل، آپریشن اور آپریشن کے بعد کے مرحلہ بیان کیے؟

(A) ابو سینا (B) ابن الہیثم

(C) ابن النفیس (D) کوئی نہیں

64. اسلامی سپین میں کس مسلم طبیب نے سینکڑوں سرجریاں، inhalent anesthesia کے استعمال سے کیں؟

(A) ابو القاسم (B) ابن زہر

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

65. tracheotomy نامی عمل جراحی کے بانی کا نام بتائیں؟

(A) ابن زہر (B) الزہروی

(C) ابو علی سینا (D) کوئی نہیں

66. ابو القاسم الزہروی نے طب کے میدان میں کیا ایجاد کیا جو کہ آج بھی ہسپتالوں میں استعمال ہو رہی ہے؟

(A) پلاسٹر (Plaster)

(B) Adhesive bandage

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

67. سرجری کے دوران اندرونی زخموں کو سینے کے لیے catgut کا استعمال ہوتا ہے۔ اسے کس نے ایجاد کیا تھا؟

(A) ابو القاسم الزہروی (B) الکندی

(C) بو علی سینا (D) التعلش

68. الزہروی وہ طبیب تھے جنہوں نے......

(A) پہلی بار کاٹن کو بطور میڈیکل ڈریسنگ کے استعمال کیا

(B) سرجیکل نیڈلز (needles) ایجاد کیں

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

69. درج ذیل میں سے کونسی ایجاد الزہروی کی ہے؟

(A) سرجیکل سپون، سرجیکل ہک

(B) سرجیکل روڈ، bone saw

(C) تمام A، B (D) کوئی نہیں

70. کیموتھراپی کے بانی ہیں۔

(A) الکتلش (B) الرازی

(C) الکشی (D) الزہروی

71. کس صدی میں الرازی نے کیموتھراپی کا آغاز کیا؟

(A) 7ویں (B) 8ویں

(C) 9ویں (D) 10ویں

72. "رنگ کو بیماری کی تشخیص اور علاج میں بہت اہم مقام حاصل ہے" یہ نظریہ رکھنے والے وہ کونسے طبیب تھے جنہوں نے کروموتھراپی (chromotherapy) کا آغاز کیا؟

(A) بو علی سینا (B) الکندی

(C) الرازی (D) الزہروی

73. طب کی تاریخ میں Hirudo therapy کو کس نے متعارف کروایا؟

(A) الزہروی (B) بو علی سینا

(C) ابن بجاج (D) الہیثم

74. علم الاطفال کے بانی ہیں۔

(A) النفس (B) الطبری

(C) الکشی (D) الزہروی

75. الطبری نے بچوں کی صحت سے متعلق اپنے علم کو اپنی کس کتاب میں بیان کیا؟

(A) التصریف (B) فردوس الحکمۃ

(C) علم الاطفال (D) کوئی نہیں

76. الطبری کے اس طالب علم کا نام بتائیں جنہوں نے ایک کتاب Disease of children لکھی جو کہ علم الاطفال کو طب کی ایک علیحدہ فیلڈ قرار دینے والی پہلی کتاب تھی؟

(A) الرازی (B) ابن سینا

(C) زین الدین (D) کوئی نہیں

77. اس پہلی کتاب کا نام بتائیں جس میں بوڑھے لوگوں کی نگہداشت کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں اور جس سے جدید Gerontology کی بنیاد پڑی؟

(A) ابو سینا کی The conon of Medicine

(B) الطبری کی فردوس الحکمۃ

(C) الرازی کی Diseases of Children

(D) کوئی نہیں

78. اس معروف عربی طبیب کا نام بتائیں جنہوں نے بزرگ افراد کی صحت کے لیے ایک خاص کتاب "طب الشائخ" تحریر کی؟

(A) ابن الجزار القیروانی (B) ابن الجزا الطبری

(C) ابن الجزا الشائخ (D) کوئی نہیں

79. ابن الجزر نے ...... پر ایک کتاب النیان وطرق تقویت آخرۃ تحریر کی؟

(A) نیند کی خرابی (B) بھولنے کی بیماری

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

80. کس صدی میں عربی طبیب اسحاق بن حنائن نے نسیان کی ادویات پر "رسالہ ال۔شافیہ فی الدویہ النسیان" تحریر کیا؟

(A) 7ویں (B) 8ویں

(C) 9ویں (D) 10ویں

81. کس صدی سے مسلم سائنسدانوں کا طب میں حصہ بہت ہی کم ہے؟

(A) 13ویں صدی (B) 14ویں صدی

(C) 15ویں صدی (D) 16ویں صدی

82. 20ویں صدی کے اس پاکستانی سائنسدان کا نام بتائیں جو کہ نیم سے کیمیائی مرکبات نکالنے کے بانی ہیں؟

(A) احمد الزمان صدیقی (B) سلیمان الزماں صدیقی

(C) حمید الزماں صدیقی (D) سلیم الزماں صدیقی

83. Behcet's disease کا نام Hulusi behect کے نام پر رکھا گیا جو کہ

(A) ایرانی سائنسدان ہیں (B) عراقی سائنسدان ہیں

(C) فلسطینی سائنسدان ہیں (D) ترکی سائنسدان ہیں

84. کس سال Hulusi Behect نے اپنے ایک مریض میں Behect's disease syndrom کو پہچانا؟

(A) 1920 (B) 1921

(C) 1922 (D) 1224

85. Hulusi Behcet نے Behcet's disease کے بارے میں اپنی تحقیق کو Skin and venereal diseases میں کب شائع کیا؟

(A) 1933 (B) 1934

(C) 1935 (D) 1936

86. سوئیل راہبر کس بیماری کو سمجھنے کے بانی ہیں؟

(A) Hematology (B) ذیابیطس

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

87. سوئیل راہبر کا تعلق کس ملک سے تھا؟

(A) عراق (B) سعودی عرب

(C) فلسطین (D) ایران

88. کس سال راہبر نے ہیموگلوبن کی ایک شکل HAIC کو دریافت کیا؟

(A) 1960 (B) 1964

(C) 1967 (D) 1969

89. دل بند ہو جانے کی صورت میں علاج کے طور پر استعمال ہونے والا مصنوعی کارڈیک پمپ نے ایجاد کیا؟

(A) طوفی موسی وند (B) بوعلی سینا

(C) ارسل زہراو (D) کوئی نہیں

90. طوفی سوسی وند کا تعلق تھا۔

(A) عراق سے (B) ایران سے

(C) مصر سے (D) فلسطین سے

91. ڈاکٹر محمد بی۔ یونس ایک مسلم ...... طبیب ہیں جو کہ اندرونی ادویات اور rheumatology میں پریکٹس کرتے ہیں؟

(A) برطانوی (B) فرانسیسی

(C) اطالوی (D) امریکی

92. Fibromylagia کے جدید نقطہ نظر کے بانی ہیں۔

(A) ڈاکٹر محمد بی۔ یونس (B) ڈاکٹر قدیرائے خان

(C) طوفی سوسی وند (D) کوئی نہیں

93. ڈاکٹر محمد بی۔ یونس نے کب fibromyalia syndrome پر پہلا آرٹیکل لکھا۔

(A) 1980 (B) 1981

(C) 1982 (D) 1983

94. طب پر لکھی جانے والی کتاب De Gradibus کس نے لکھی؟

(A) الخوارزمی (B) الکندی

(C) ابوالموسیٰ (D) ابن سینا

95. De Gradibus میں الکندی نے پہلی بار......

(A) طب پر متعین مقدار یا کیت کا اطلاق کیا

(B) طب پر حسابیات کا اطلاق کیا

(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

96. الکندی نے De Gradibus میں طب کی بالخصوص کس شاخ پر کیت اور حسابیات کے اطلاق کا تجربہ کیا؟

(A) علم الادویہ (B) علم تشریح الاعضاء

(C) سرجری (D) کوئی نہیں

97. ''Doubt about galen'' کے مصنف کا نام بتائیں؟

(A) الرازی (B) الکندی

(C) ابن شاطر (D) ابن الہیثم

98. دنیا کا پہلا میڈیکل سٹور کہاں اور کب قائم ہوا؟

(A) قاہرہ۔700 میں (B) یمن۔715 میں

(C) مدینہ۔740 میں (D) بغداد۔754 میں

99. ابوالقاسم نے بہت سے سرجیکل آلات ایجاد کیے جن میں وہ آلات بھی شامل تھے جو کہ صرف......

(A) مردوں کے لیے مخصوص تھے

(B) عورتوں کے لیے مخصوص تھے

(C) جانوروں کے لیے مخصوص تھے

(D) بچوں کے لیے مخصوص تھے

100. کس مسلم طبیب نے آنکھ کی سرجری میں بہت ترقی کی؟

(A) ابن الہیثم (B) ابن نفیس

(C) ابوالقاسم (D) کوئی نہیں

101. ابن الہیثم کی اس کتاب کا نام بتائیں۔ جس میں انہوں نے بصارت کے عمل اور بصری ادراک کی درست وضاحت پیش کی؟

(A) بک آف آپٹکس (B) بک آف پرسیپشن

(C) بک آف بصر (D) کوئی نہیں

102. درج ذیل میں سے کیا الرازی نے متعارف کروایا تھا؟

(A) Urinalysis (B) Stool tests

(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

103. اس طبیب کا نام بتائیں جنہوں نے پہلی بار سرجیکل عمل کا تجربہ کرنے کے لیے اسے انسانوں سے پہلے جانوروں پر کیا؟

(A) ابن خلدون (B) ابن شاطر

(C) ابن نفیس (D) ابن زہر

104. فعلیات میں دوران خون کے عمل کے بانی کا نام بتائیں؟

(A) ابن النفیس (B) ابن بطوطہ
(C) افلاطون (D) ارسطو

105. ابن النفیس کے اس عمل کا نام بتائیں جسے سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا اور جس نے دورانِ خون کے نظام کی بنیاد رکھی؟
(A) پلمونری دورانِ خون (B) کورنری دورانِ خون
(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

106. درج ذیل میں سے کس چیز کے بارے میں ابتدائی ترین تصور ابن النفیس نے پیش کیا؟
(A) دل کا دورہ (B) میٹابولزم
(C) السر (D) کوئی نہیں

107. کس مسلم عالم نے گیلن اور ہپوکریٹس کے نظریات کے برعکس یہ نظریہ پیش کیا کہ جسم کا انحصار مکمل طور پر خون پر ہوتا ہے؟
(A) ابن نفیس (B) ابن ہاشم
(C) ابن الملبودی (D) کوئی نہیں

108. ابن الملبودی نے کس کے اس نظریے کی تردید کی کہ عورت بھی سپرم پیدا کر سکتی ہے؟
(A) گیلن (B) ہپوکریٹس
(C) مارٹن (D) ہارڈی

109. درج ذیل میں سے کونسی دریافت ابن الملبودی کی ہے؟
(A) دل کی شریانوں کی حرکت کا انحصار دل کی حرکت پر نہیں ہوتا
(B) ماں کے پیٹ میں بچے کا بننے والا سب سے پہلا عضو "دل" ہوتا ہے
(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

110. کس کے نظریے کے مطابق ماں کے پیٹ میں بچے کا سب سے پہلے بننے والا عضو "دماغ" ہوتا ہے؟
(A) گیلن (B) ہپوکریٹس
(C) ولیم مورلے (D) کوئی نہیں

111. منصور ابن الیاس کی کتاب "تشریح الابدان" میں کس چیز کی جامع ڈایاگرامز موجود ہیں؟
(A) جسم کے ساختی نظام کی (B) جسم کے اعصابی نظام کی
(C) دورانِ خون کے نظام کی (D) تمام A،B،C

112. مسلم طبیبوں کے کارناموں میں ——
(A) جسم میں دماغی نظام کی دریافت شامل ہیں
(B) طب کا دوسری سائنسز کے ساتھ ملاپ شامل ہیں
(C) کم از کم 2,000 طبی اور کیمیائی مواد کی دریافت شامل ہیں۔
(D) تمام A،B،C

113. ٹیکہ لگانے والی سرنج کی ایجاد کے موجد کا نام بتائیں؟
(A) عمار ابن الموصلی (B) عمار ابن المودودی
(C) عمار ابن عبداللہ (D) عمار ابن الملبودی

114. ٹیکہ لگانے والی سرنج کی ایجاد نویں صدی کے ——
(A) عراق میں ہوئی (B) ایران میں ہوئی
(C) یورپ میں (D) امریکہ میں ہوئی

115. امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس مسلمان سائنسدان نے پیش کیا؟
(A) الکندی (B) الفارابی
(C) ابن النفیس (D) ابن سینا

116. کس مسلمان طبیب کی کتب اٹھارہویں صدی تک یورپی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہیں۔
(A) ابن رشد (B) جابر بن حیان
(C) بو علی سینا (D) امام رازی

جوابات

1. (B)	2. (A)	3. (D)	4. (A)	5. (C)	6. (D)	7. (C)	8. (D)
9. (A)	10. (D)	11. (C)	12. (D)	13. (D)	14. (C)	15. (D)	16. (D)
17. (D)	18. (C)	19. (D)	20. (A)	21. (C)	22. (D)	23. (C)	24. (C)
25. (D)	26. (C)	27. (D)	28. (B)	29. (A)	30. (D)	31. (C)	32. (C)
33. (A)	34. (C)	35. (D)	36. (A)	37. (B)	38. (B)	39. (D)	40. (B)
41. (D)	42. (C)	43. (C)	44. (B)	45. (A)	46. (A)	47. (C)	48. (A)
49. (C)	50. (B)	51. (A)	52. (C)	53. (D)	54. (A)	55. (A)	56. (D)
57. (C)	58. (C)	59. (D)	60. (A)	61. (D)	62. (C)	63. (C)	64. (C)
65. (A)	66. (C)	67. (A)	68. (C)	69. (C)	70. (B)	71. (D)	72. (A)
73. (A)	74. (B)	75. (B)	76. (A)	77. (A)	78. (A)	79. (C)	80. (C)
81. (C)	82. (D)	83. (D)	84. (D)	85. (D)	86. (C)	87. (D)	88. (D)
89. (A)	90. (B)	91. (A)	92. (A)	93. (B)	94. (C)	95. (A)	96. (A)
97. (C)	98. (D)	99. (B)	100. (A)	101. (A)	102. (C)	103. (A)	104. (C)
105. (C)	106. (C)	107. (A)	108. (C)	109. (B)	110. (D)	111. (D)	112. (D)
113. (D)	114. (A)	115. (D)	116. (C)				

علم نباتات (Botany)

1. علم حیاتیات کی......

(A) علم نباتات ایک شاخ ہے

(B) علم حیوانات ایک شاخ ہے

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

2. کونسا ماہر نباتات عربی علم نباتات کا بانی خیال کیا جاتا ہے؟

(A) الدیناوری (B) ابن شجاع

(C) الوحشی (D) کوئی نہیں

3. الدیناوری کا تعلق کس صدی سے تھا؟

(A) 7ویں (B) 8ویں

(C) 9ویں (D) 10ویں

4. علم نباتات پر الدیناوری کے انسائیکلوپیڈیا کا نام بتائیں؟

(A) کتاب النبات

(B) کتاب النباتات

(c) کتاب الدینار

(D) کوئی نہیں

5. کتاب النبات کے 6 والیم میں سے صرف تیسرا اور چوتھا والیم محفوظ ہے۔ اس میں کتنے پودوں کو بیان کیا گیا ہے؟

(A) 600 (B) 621

(C) 625 (D) 637

6. کس صدی میں ابن بیطار نے نباتاتی اور ادویہ سازی پر انسائیکلوپیڈیا "کتاب الجامع فی الادویہ المفردہ" تحریر کیا جو کہ صدیوں تک ان میدانوں میں نباتاتی اتھارٹی بنا رہا ہے؟

(A) 11ویں (B) 12ویں

(C) 13ویں (d) 14ویں

7. کتاب الجامع فی الادویہ میں 1400 پودوں، خوراکوں اور ادویات کا ذکر ہے۔ جس میں سے 300 ابن بیطار کی اپنی دریافتیں ہیں۔ اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کب کیا گیا؟

(A) 1700 (B) 1725

(C) 1739 (D) 1758

8. الدینوری کا پورا نام تھا۔

(A) سلیمان بن داؤد (B) احمد بن داؤد

(C) احمد بن سلیمان (D) داؤد بن سلیمان

9. الدینوری نے نباتات کو حصوں میں تقسیم کیا۔

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 5

10. الدینوری نے پودوں کو متعارف کیا۔

(A) 1120 (B) 1220

(C) 1320 (D) 1420

11. نباتات کا مشہور عالم ہے۔

(A) نفیسی (B) نقیسی

(C) الادریسی (D) یوسفی

12. ابن بیطار کا پورا نام ہے۔

(A) محمود بن احمد (B) احمد بن محمود

(C) احمد بن عبداللہ (D) عبداللہ بن احمد

13. الجامع المفردات الادویہ والاغذیہ کا مصنف ہے۔

(A) ابن بیطار (B) الدینوری

(C) ابن مسکویہ (D) الادریسی

14. ابن بیطار پیدا ہوا۔

(A) طرابلس (B) اندلس

(C) تیونس (D) مراکش

15. نباتات میں زندگی ہے بمطابق

(A) ابن بیطار (B) الدینوری

(C) ابن مسکویہ (D) الادریسی

16. پودوں میں نر مادہ ہوتے ہیں بمطابق

(A) الدینوری (B) الادریسی

(C) ابن بیطار (D) ابن مسکویہ

17. بائبل میں بہت سے پودوں کے نام ہیں۔

(A) فارسی کے (B) عربی کے

(C) ہندی کے (D) یونانی کے

18. الدینوری کا سن وفات ہے۔

(A) 893ء (B) 894ء

(C) 895ء (D) 896ء

19. ابن بیطار کا سن وفات ہے۔

(A) 1247ء (B) 1248ء

(C) 1249ء (D) 1250ء

جوابات

1. (C)	2. (A)	3. (C)	4. (A)	5. (D)	6. (C)	7. (D)	8. (B)
9. (B)	10.(A)	11.(C)	12.(D)	13.(A)	14.(B)	15.(C)	16.(D)
17.(B)	18.(C)	19.(B)					

علم حیوانات

1. علم حیوانات کے میدان میں مسلم ماہرین حیاتیات نے ...... پر نظریات کو ترجیح دی جو کہ قرون وسطی کے اسلامی مدارس میں پڑھائے جاتے تھے؟
(A) ارتقاء (B) قدرتی چناؤ
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

2. چارلس ڈارون کے اس ماہر حیاتیات حواری کا نام بتائیں جس نے کہا کہ مسلمانوں میں نظریہ ارتقاء ہم سے بہت پہلے کا ہے؟
(A) جارج ولیم (B) جان ولیم ڈریپر
(C) ولیم میکڈی (D) کوئی نہیں

3. الخزنی کے مطابق ارتقاء پر مسلمانوں کے خیالات ...... سے اسلامی دنیا میں زبان زد عام تھے؟
(A) 9ویں صدی (B) 10ویں صدی
(C) 11ویں صدی (D) 12ویں صدی

4. اس پہلے مسلم ماہر حیاتیات کا نام بتائیں جنہوں نے 'ارتقاء' پر نظریے کو ترویج دی؟
(A) الجاحظ (B) الکندی
(C) التمش (D) ابن بجاج

5. الجاحظ وہ ماہر حیاتیات تھے جنہوں نے پہلی بار......
(A) زندگی کے لیے جدو جہد کو بیان کیا
(B) قدرتی چناؤ کی ابتدائی شکل کو بیان کیا
(C) خوراک کی زنجیر (food chain) کو بیان کیا
(D) تمام A، B، C

6. ماحول کسی بھی جاندار کی جسمانی خصوصیات کو متعین کر سکتا ہے اور یہ کہ مختلف انسانی رنگ ماحول کا نتیجہ ہی ہیں۔ اس نظریے کے بانی کا نام بتائیں؟
(A) الکندی (B) الہیثم
(C) ابن مسکاویہ (D) الجاحظ

7. ابن الہیثم کے علاوہ کس اہم عالم نے بھی ارتقاء کے موضوع پر قابل ذکر کام کیا؟
(A) مسکاویہ، الخزنی (B) البیرونی، نصیرالدین طوسی
(C) ابن خلدون، اخوان الصفا (D) تمام A، B، C

8. کس کتاب میں یہ ارتقائی خیالات پیش کیے گئے کہ کس طرح مادے سے پہلے vapour پھر پانی، پھر دھاتیں، پھر پودے، پھر جانور پھر apes اور پھر انسان بنتے ہیں ان خیالات کا اثر ڈارون پر بھی نظر آتا ہے؟
(A) ابن مسکاویہ کی کتاب فوزال۔اصغر
(B) اخوان الصفا کی کتاب ''خون الصفا کا انسائیکلوپیڈیا
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

9. کتاب الحیوان کا مصنف ہے۔
(A) اصمعی (B) دمیری
(C) زہراوی (D) جاحظ

10. حیات الحیوان کا مصنف ہے۔
(A) محمد بن دمیری (B) اصمعی
(C) جاحظ (D) ابن سینا

11. کتاب الوحوش کا مصنف ہے۔
(A) دمیری (B) جاحظ
(C) عبدالمالک اصمعی (D) ابن الہیثم

12. کتاب الخیل کا مصنف ہے۔

(A) جاحظ (B) عبدالملک اصمعی
(C) دمیری (D) الرازی

13. جاحظ کا پورا نام ہے۔
(A) محمد احمد (B) احمد عثمان
(C) عثمان عامر (D) محمد عامر

14. محمد دمیری کے نزدیک حیاتات کی قسم ہے۔
(A) حیوانات (B) ارضیات
(C) طبیعات (D) تینوں C،B،A

15. علم الحیوان پر اصمعی نے کتب لکھیں۔
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

16. کتاب الابل میں ذکر ہے۔
(A) اونٹوں کا (B) گھوڑوں کا
(C) بھیڑبکریوں کا (D) انسانوں کا

17. جاحظ کا سنہ وفات ہے۔
(A) 867ء (B) 868ء
(C) 869ء (D) 870ء

18. کمال الدین محمد دمیری کا سنہ وفات ہے۔
(A) 1402ء (B) 1403ء
(C) 1404ء (D) 1405ء

19. کتاب الشاۃ میں ذکر ہے۔
(A) گھوڑوں کا (B) اونٹوں کا
(C) بھیڑبکریوں کا (D) انسانوں کا

20. حیوانوں پر پہلی کتب کا مصنف تھا۔
(A) اصمعی (B) جاحظ
(C) دمیری (D) یعقوب کندی

21. کتاب الخیل کے مصنف کا نام کیا ہے؟
(A) الزاھراوی (B) علامہ اصمعی
(C) ابن جاحظ (D) البیرونی

22. علم حیاتیات کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں؟
(A) دو (B) پانچ
(C) سات (D) دس

جوابات

1. (C)	2. (B)	3. (D)	4. (A)	5. (D)	6. (D)	7. (D)	8. (C)
9. (D)	10.(A)	11. (C)	12.(B)	13.(C)	14. (D)	15.(C)	16.(A)
17.(B)	18.(D)	19.(C)	20.(A)	21.(B)	22. (A)		

اسلامی اقتصادیات

1. اسلام کے سنہری دور میں معیشت نے نہایت معنی خیز ترقی حاصل کی۔ مفکرین اس دور کو کس نام سے پکارتے ہیں؟
(A) پیکس اسلامکا۔ Pax Islamica
(B) ایفرو۔ایشیاٹک۔ Afro Ascatic
(C) دونوں
(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

2. قرونِ وسطیٰ کے جنوب مغربی اور شمالی افریقی تاجروں اور موجدوں نے کن علاقوں میں پہلی گلوبل معیشت قائم کی تھی؟
(A) ایشیاء
(B) افریقہ
(C) یورپ
(D) تمام A، B، C

3. قرونِ وسطیٰ کے معیشت دانوں نے کس دورانیے کو اسلامی سلطنت کے لیے دنیا کی سب سے مضبوط معیشت کی آماجگاہ بنا دیا؟
(A) ساتویں سے تیرھویں صدی تک
(B) آٹھویں سے چودھویں صدی تک
(C) نویں سے دسویں صدی تک
(D) دسویں سے گیارھویں صدی تک

4. والو آپریٹڈ ریسیپروکیٹنگ سکشن پمپ کرینک شفٹ، کنیکٹنگ روڈ کے ساتھ کس صدی میں ایجاد ہوا؟
(A) 10ویں صدی
(B) 11ویں صدی
(C) 12ویں صدی
(D) 13ویں صدی

5. کرینک شفٹ کنیکٹنگ روڈ کے ساتھ والو آپریٹڈ ریسیپروکیٹنگ سکشن پمپ کے موجد کا نام بتائیں؟
(A) الجزری
(B) الخوارزمی
(C) نصیرالدین طوسی
(D) بوعلی سینا

6. کس قوم نے پہلی شوگر ریفائنریاں قائم کیں؟
(A) یہودیوں نے
(B) عربوں نے
(C) عیسائیوں نے
(D) کوئی نہیں

7. درج ذیل سے کونسی ایجاد کا سہرا عربوں کے سر جاتا ہے؟
(A) ۔۔۔ ملیں
(B) ایک زمین پر دو سال میں چار یا اس سے زائد بار فصل اگانے کا طریقہ
(C) دونوں A، B
(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

8. کس ملک میں سال میں دو بار گندم اگائی جاتی تھی؟
(A) یمن
(B) عراق
(C) فلسطین
(D) شام

9. عراق میں کونسی فصل ایک ہی زمین پر سال میں دوبار اگائی جاتی تھی؟
(A) گندم
(B) کپاس
(C) چاول
(D) پالک

10. مسلمانوں نے زراعت کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا اور دورِ جدید کے بہت سے طریقے ایجاد کیے۔ اسکی ترقی کی بنیاد کس عنصر پر رکھی گئی؟
(A) ایک ہی زمین پر کاشت دہرانے کا بہترین نظام
(B) ترقی یافتہ سیرابی تکنیکیں
(C) نئی نئی فصلوں کا متعارف کروانا
(D) تمام A، B، C

11. دورِ خلافت میں کونسا معاشی نظام موجود تھا؟

(A) ابتدائی پروٹو۔ سرمایہ دارانہ نظام

(B) آزاد منڈی

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

12. اسلام کے سنہری دور کے کس عرصے میں ابتدائی معاشی منڈی اور مرچنٹ سرمایہ دارانہ نظام کی ابتدائی شکلیں پروان چڑھیں؟

(A) آٹھویں سے بارھویں صدی

(B) بارھویں سے تیرھویں صدی

(C) تیرھویں سے چودھویں صدی

(D) کوئی نہیں

13. اسلام کے سنہری دور کے معاشی دور کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟

(A) اسلامی معاشی نظام (B) اسلامی سرمایہ دارانہ نظام

(C) اسلامی معیشت (D) کوئی نہیں

14. عربوں کی اس کرنسی کا نام بتائیں جس کی سرکولیشن کو بڑھا کر اور آزاد مونیٹری ایریاز کو اکھٹا کر کے نہایت مضبوط مونیٹری معیشت کی بنیاد رکھی گئی؟

(A) دینار (B) درہم

(C) سونا (D) چاندی

15. دنیا کی پہلی تجارت کمپنیاں کس دور میں متعارف کروائی گئیں؟

(A) اسلامی معاشی نظام (B) مغربی معاشی نظام

(C) امریکی معاشی نظام (D) روسی معاشی نظام

16. درج ذیل میں سے کس معاشی اصول کو مسلمانوں نے متعارف کروایا تھا؟

(A) کریڈٹ کارڈ (B) بلز آف ایکسچینج

(C) بین الاقوامی تجارت (D) تمام A،B،C

17. مجمند اور متحرک سرمائے کا تعارف کس قوم نے کروایا؟

(A) عرب (B) عیسائی

(C) یہودی (D) کوئی نہیں

18. اسلامی معاشی دور میں متعارف کروائے گئے۔

(A) سٹارٹ اپ کمپنیاں (B) بچت اکاؤنٹ

(C) ٹرانزیکشنل اکاؤنٹ (D) تمام

19. اسلامی معاشی دور میں درج ذیل میں سے کونسے قوانین بھی اسلام کے سنہری دور میں موجود تھے؟

(A) بینک اور پیسے تبدیل کرنے والے Money changers

(B) لیجرز، شرح تبادل

(C) ریونیو، سرمائے کا خرچ (D) تمام A،B،C

20. وہ کونسا معاشی اصول تھا جس کے تحت مسلمانوں نے اپنی تجارت کو دور دراز کے علاقوں اور ملکوں تک پھیلا دیا؟

(A) کاروباری ساجھے داری Partnership

(B) لیجرز

(C) تنظیمی انٹر پرائزز ذخائر (D) کوئی نہیں

21. مسلمانوں کے تجارتی جال نے دنیا کو اس قابل بنا دیا کہ بغداد کے بنک میں رکھی جانے والی رقم چین کے بنک سے نکلوائی جا سکتی تھی۔ اس سے دورِ جدید کا کونسا اہم نظام معرض وجود میں آیا؟

(A) زکوۃ (B) عشر

(C) چیک (D) محصول

22. مسلمانوں کے بنائے ہوئے معاشی اصولوں کو کب اہل مغرب میں اپنایا جانے لگا اور معیشت کو ترقی دی جانے لگی؟

(A) 10ویں صدی سے (B) 13ویں صدی سے

(C) 9ویں صدی سے (D) 12ویں صدی سے

23. ویلفیئر اور پنشن کے تصورات کس عباسی خلیفہ کے دور میں متعارف کروائے گئے؟

(A) ہارون الرشید (B) مامون الرشید

(C) امین الرشید (D) المنصور

24. کس اسلامی قانون دان کے مطابق یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے جاہی اور قحط زدہ علاقوں میں خوراک فراہمی کو حکومت کی ذمہ داری بنایا؟

(A) الغزالی (B) الطوسی

(C) الجزری (D) الخوارزمی

25. اسلامی دور میں تاجروں کی نگرانی کون کرتا تھا؟

(A) شہر کے متولی (B) تاجر تنظیموں کے سربراہ

(C) ٹرسٹ کے ادارے (D) آزاد تھے

26. کونسا معاشی اصول ایک لیبر کی ویلیو (Value) ٹرانسفر سسٹم ہے، جس کا ذکر ابتدائی اسلامی قوانین میں ملتا ہے؟

(A) حوالہ (B) فقہ

(C) ایجنسی (D) استحسان

27. کس صدی سے "حوالہ" کا ذکر اسلامی قانونی کتابوں میں ملتا ہے؟

(A) گیارھویں (B) بارھویں

(C) آٹھویں (D) ساتویں

28. وہ کونسا معاشی اصول ہے جو کہ رومی قانون میں ممنوع تھا لیکن جسے قرون وسطی کے مغربیوں نے مسلمانوں کے ساتھ اطالوی شہروں کے ذریعے تجارت کے تحت بہت زیادہ استعمال کیا؟

(A) سانجھے داری (B) قرض کا تبادلہ

(C) محصولات (D) کوئی نہیں

29. کس صدی میں "وقف" کے ادارے انگلینڈ میں پہنچے جبکہ اسلامی دنیا میں یہ دسویں صدی میں مکمل و مضبوطی سے قائم ہو چکے تھے؟

(A) 12ویں صدی کے دوران

(B) 13ویں صدی کے دوران

(C) 14ویں صدی کے دوران

(D) 15ویں صدی کے دوران

30. مسلمانوں کا دور خلافت ابتدائی ویلفیئر ریاستوں کی پہلی شکل تھا۔ کونسا دور خلافت بالخصوص اس حقیقت کا غماز ہے؟

(A) حضرت ابوبکرؓ کا دور خلافت (B) عباسی دور خلافت

(C) اموی دور خلافت (D) کوئی نہیں

31. اس فارسی فلسفہ دان کا نام بتائیں جن کی معیشت کی تعریف کا شمار معیشت کی ابتدائی ترین تعریفوں میں ہوتا ہے؟

(A) الخوارزمی (B) نصیر الدین طوسی

(C) الجزری (D) بوعلی سینا

32. نصیر الدین طوسیؒ اپنی معیشت کی تعریف کو "حکمت مدنی" کہتے ہیں جس کا مطلب ہے۔

(A) دیہاتی زندگی کی سائنس

(B) شہری زندگی کی سائنس

(C) معیشت کی سائنس

(D) کوئی نہیں

33. نصیر الدین طوسیؒ کی کس کتاب میں حکمت مدنی موجود ہے؟

(A) اخلاقیات (B) علم الصفاء

(C) علم معیشت (D) علم خراج

34. اُس قانون دان کا نام بتائیں جنہوں "محصولات" پر ابتدائی کتابوں میں سے ایک کتاب لکھی؟

(A) ابو یوسف (B) ابوقاسم

(D) ان میں سے کوئی نہیں (C) ابوہاشم

35. ابو یوسف کس کے چیف قانون دان تھے؟

(A) خلیفہ ہارون الرشید (B) خلیفہ مامون الرشید

(C) خلیفہ امین الرشید (D) خلیفہ نعیم الرشید

36. لیبر یا مزدوری کی تقسیم کا تصور بھی مسلمانوں نے ہی پیش کیا تھا۔ کن علماء کی کتب میں اس تصور کا ذکر ملتا ہے؟

(A) الغزالی اور الفارابی

(B) ابن سینا، ابن مسکاویہ اور ابن خلدون

(C) نصیر الدین طوسی اور اسد دوانی

(D) تمام C،B،A

37. ٹیکس یا محصول پر ابو یوسف کی کتاب کا نام تحریر کریں؟

(A) کتاب ال۔محصول (B) کتاب ال۔خراج
(C) کتاب ال۔قانون (D) کوئی نہیں

38. کس مسلم عالم نے کہا" کہ اگر اشیاء کی طلب بڑھ جائے اور اسکی رسد کم ہو جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسکے برعکس اگر اشیاء کی رسد بڑھ جائے جبکہ اسکی طلب کم ہو جائے تو قیمت گر جاتی ہے"؟
(A) ابن تیمیہ (B) ابن مسکاویہ
(C) ابن سینا (D) الفارابی

39. کس مسلم عالم نے سب سے پہلے کچھ اشیاء کے لیے طلب کی "Price inelasticity" کا ذکر کیا؟
(A) الکندی (B) الغزالی
(C) بوعلی سینا (D) الخوارزمی

40. ان عالم اسلام کا نام بتائیں جنہوں نے "Equilibrium prices" پر سب سے پہلے بحث کی تھی؟
(A) ابن مسکاویہ (B) الغزالی
(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

41. کونسا مسلمان عالم جدید اقتصادیات کا بانی خیال کیا جاتا ہے؟
(A) ابن خلدون (B) ابن موسیٰ
(C) ابن سینا (D) ان میں سے کوئی نہیں

42. ابن خلدون اپنی کس کتاب کے مقدمے یا تعارف میں اقتصادی و سیاسی تھیوری دیتے ہیں؟
(A) کتاب۔ال۔اقتصادیات
(B) کتاب۔ال۔سیاسیات
(C) کتاب۔ال۔اسابیہ
(D) کتاب۔العبر

43. کس مسلم ماہر اقتصادیات نے سب سے پہلے لیبر تھیوری آف ویلیو کا تعارف کروایا؟
(A) ابن خلدون (B) ابن ماجہ
(C) ابن مسکاویہ (D) ابن حجاج

44. ابن خلدون کے نظریات کا موازنہ کس جدید ماہر اقتصادیات کے نظریات سے کیا جاتا ہے؟
(A) گولڈسمتھ (B) کینیان
(C) آرملڈ مہتفظ (D) کوئی نہیں

45. کس دہائی میں شیعہ اسلامی مفکروں نے رائج الوقت معاشی مسائل کے جواب دے کر ایک منفرد اسلامی معاشی فلسفے کو ترقی دی؟
(A) 1960 کی دہائی (B) 1970 کی دہائی
(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

46. اسلام اور ملوکیت کب تحریر کی گئی؟
(A) 1950 (B) 1951
(C) 1952 (D) 1953

47. "اسلام اور ملوکیت" کو کس شیعہ مفکر نے تحریر کیا؟
(A) محمد تلقانی (B) حسین حقانی
(C) مولانا مقصودی (D) طبریزہ

48. کب محمد باقر ال۔صدر نے "اقتصادنا" (ہماری اقتصادیات) تحریر کی؟
(A) 1951 (B) 1961
(C) 1978 (D) 1970

49. اقتصاد توحیدی کب لکھی گئی؟
(A) 1970 (B) 1975
(C) 1978 (D) 1980

50. ابوالحسن بنسی در نے معاشیات پر جو کتاب لکھی اسکا نام بتائیں؟
(A) اقتصادیات (B) اقتصاد توحیدی
(C) معاشی دور (D) معشیت توحید

51. کس سال حبیب اللہ پیمان نے جائیداد کے حقوق، سرمایہ اور لیبر پر اسلامی نقطہ نظر سے کچھ تشریحات پیش کیں؟
(A) 1970 (B) 1973
(C) 1975 (D) 1978

52. محمد تلقانی محمد باقر ال۔صدر۔ ابوالحسن بنسی در اور حبیب اللہ پیمان میں سے وہ کونسا شیعہ مفکر ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ

اسلامی اقتصادیات کی پیش رفت میں اکی حیثیت سب سے بالاتر ہے؟

(A) محمد باقر ال۔صدر (B) حبیب اللہ پیانی
(C) ابوالحسن بنی در (D) محمد تلعانی

53. جدید مالیات کی ایک اور شکل جس کی ابتدا اسلامی دنیا سے ہوئی وہ............

(A) مائیکروکریڈٹ ہے (B) مائیکروفنانس ہے
(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

54. مائیکروکریڈٹ اور مائیکروفنانس کا آغاز............

(A) پاکستان سے ہوا (B) بنگلہ دیش سے ہوا
(C) چین سے ہوا (D) سعودی عرب سے ہوا

55. کس بنک کے ساتھ مائیکروکریڈٹ اور مائیکروفنانس کا آغاز ہوا؟

(A) گرامین بنک (B) جان ابراہیم بنک
(C) میتھو آرنلڈ بنک (D) کوئی نہیں

56. مائیکروکریڈٹ اور مائیکروفنانس کے بانی کا نام بتائیں؟

(A) محمد شاکر (B) محمد یونس
(C) یوسف (D) محمد باقر

57. کس سال محمد یونس کو مائیکروفنانس اور مائیکروکریڈٹ بنک کی بنیاد رکھنے پر نوبل پرائز دیا گیا؟

(A) 1999 (B) 2000
(C) 2002 (D) 2006

58. ہندوستان کے کون سے معروف عالم دین ماہر معاشیات بھی تھے؟

(A) مجدد الف ثانی (B) شاہ ولی اللہ
(C) حفظ الرحمٰن سیوہاروی (D) قاسم نانوتوی

59. دور جدید کے اقتصادی مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے؟

(A) اشتراکیت (B) سرمایہ داری نظام
(C) سود (D) آزاد معیشت

60. برصغیر کے اس معروف عالم دین کا نام بتائیے جو ماہر معیشت بھی تھے؟

(A) شاہ رفیع الدین (B) مجدد الف ثانی
(C) شاہ ولی اللہ (D) مولانا قاسم نانوتوی

جوابات

1. (B)	2. (D)	3. (A)	4. (C)	5. (A)	6. (B)	7. (C)	8. (A)
9. (C)	10. (D)	11. (D)	12. (A)	13. (A)	14. (D)	15. (A)	16. (D)
17. (A)	18. (C)	19. (D)	20. (A)	21. (C)	22. (B)	23. (D)	24. (A)
25. (A)	26. (A)	27. (C)	28. (B)	29. (A)	30. (B)	31. (B)	32. (B)
33. (C)	34. (A)	35. (A)	36. (D)	37. (D)	38. (A)	39. (B)	40. (C)
41. (A)	42. (D)	43. (A)	44. (B)	45. (C)	46. (B)	47. (A)	48. (B)
49. (C)	50. (B)	51. (B)	52. (A)	53. (C)	54. (A)	55. (B)	56. (B)
57. (D)	58. (B)	59. (C)	60. (C)				

اسلامی فلسفہ

1. اسلامی فلسفے کا اہم دور کب اور کس سے شروع ہوا؟
(A) 9 ویں صدی میں الکندی سے شروع ہوا
(B) 10 ویں صدی میں الکندی سے شروع ہوا
(C) 11 ویں صدی میں الکندی سے شروع ہوا
(D) 12 ویں صدی میں الکندی سے شروع ہوا

2. 12 ویں صدی میں کس فلسفہ دان کے ساتھ اسلامی فلسفے کا سنہری دور ختم ہو گیا؟
(A) ابن سینا (B) الخوارزمی
(C) ابن رشد (D) کوئی نہیں

3. ابن رشد کی وفات کے ساتھ ہی اسلامی فلسفے کے اس مخصوص مکتبہ فکر کا خاتمہ ہو گیا جو کہ......
(A) پیری پیٹیٹک عرب کا سکول کہلاتا تھا
(B) پیری پیٹیٹک اسلامک سکول کہلاتا تھا
(C) پیری پیٹیٹک فلسفہ سکول کہلاتا تھا
(D) کوئی نہیں

4. ابن رشد کی وفات کے ساتھ مغربی اسلامی ممالک میں فلسفہ زوال پذیر ہو گیا۔ اسمیں بالخصوص کونسا مغربی اسلامی ملک شامل تھا؟
(A) سپین (B) شمالی افریقہ
(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

5. اسلامی فلسفہ 12 ویں صدی میں مغربی اسلامی ممالک میں زوال پذیر ہوا۔ لیکن مشرقی اسلامی ممالک خاص طور...... میں یہ بہت بعد تک عروج پذیر رہا۔
(A) فارس (B) انڈیا
(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

6. کس دور خلافت میں کلام (Theology) اور شریعہ (Law) میں فرق قائم کیا گیا؟
(A) اموی دور خلافت (B) صفوی دور خلافت
(C) سلجوقی دور خلافت (D) عباسی دور خلافت

7. 12 ویں صدی کے نشاۃ ثانیہ کے دور میں تھامس ایکوئنس کے مطابق کس زبان میں ابن رشد کے فلسفے کا ترجمہ کیا گیا؟
(A) یونانی (B) لاطینی
(C) انگریزی (D) کوئی نہیں

8. کس صدی میں خالص فلسفے اور کلام میں Apotheosis دیکھنے کو ملا جس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی؟
(A) 11 ویں (B) 12 ویں
(C) 13 ویں (D) 14 ویں

9. کہا جاتا ہے کہ فلسفے کو صحیح معنوں میں عروج دو لوگوں نے دیا۔ ان میں سے ایک یہودی فلسفہ دان جداہا۔ الوی تھے دوسرے کا نام بتائیں؟
(A) مسلم فلسفہ دان ابن رشد (B) مسلم فلسفہ دان ابن الحاج
(C) مسلم فلسفہ دان الغزالی (D) کوئی نہیں

10. الغزالی کی اس کتاب کا نام بتائیں جس میں انہوں نے ان فلسفہ دانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے فلسفہ اور کلام میں Apotheosis کیا؟
(A) تہافۃ الفلسفہ (B) تہافت الفکر

(C) تہافۃ العمل (D) تہافۃ الدنیا

11. الغزالی نے تہافت الفلسفہ میں فلسفہ دانوں کے خلاف جو رد عمل پیش کیا اسکے نتیجے میں کونسے عظیم فلسفہ دان منظر عام پر آئے؟

(A) ابن رشد (B) ابن بجاج

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

12. ابن رشد کے نظریات...... سے مختلف نہ تھے

(A) ابن بجاج (B) ابن طفیل

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

13. ابن بجاج اور ابن طفیل کس کی تعلیمات کے پیروکار تھے؟

(A) ابن سینا (B) الفارابی

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

14. اس مسلم فلسفہ دان کا نام بتائیں جو کہ مغربی یورپ میں سیکولر سوچ کے بانی خیال کیے جاتے ہیں؟

(A) ابن سینا (B) ابن بجاج

(C) ابن رشد (D) کوئی نہیں

15. اس اہم شخصیت کا نام بتائیں جنہوں نے عربی فلسفیانہ کام کا ہیبرو میں ترجمہ کیا اور ان پر تبصرے بھی کیے؟

(A) ابن تبون اور نربونی (B) نربونی اور گرسونی ڈس

(C) ابن تبون اور گرسونی ڈس

(D) ابن تبون اور گرسونی ڈس اور نربونی

16. قدیم ترین مذہبی و فلسفیانہ کام کا نام بتائیں؟

(A) Emunot ve-Deot

(B) Maimonides

(C) Nihilo (D) کوئی نہیں

17. مذہبی و فلسفیانہ کتاب Emunot ve- Deot کے مصنف کا نام بتائیں؟

(A) نائلہ گیون (B) خدیجہ گیون

(C) فاطمہ گیون (D) سعدیہ گیون

18. الفارابی اپنے اسلامی فلسفے کے مکتب فکر کے بانی تھے جو کہ بعد میں......

(A) ابن سینا کے فلسفے سے مغلوب ہو گئے

(B) ابن خلدون کے فلسفے سے مغلوب ہو گئے

(C) ابن معاویہ کے فلسفے سے مغلوب ہو گئے

(D) کوئی نہیں

19. الفارابی کے مکتبہ فلسفہ نے کس عظیم فلسفی کے ہوتے ہوئے فلسفہ کے میدان میں نئی جہتوں کو متعارف کروایا؟

(A) افلاطون (B) ارسطو

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

20. الفارابی فلسفے کے علم میں ارسطو کے بعد دوسرے خیال کیے جاتے ہیں۔ انکا لقب کیا ہے؟

(A) سیکنڈ فلسفی (B) سیکنڈ عالم

(C) سیکنڈ ٹیچر (D) سیکنڈ مفکر

21. کس فلسفی نے ارسطو کی فلسفیانہ فکر اور افلاطون کی فلسفیانہ فکر کے درمیان کامیاب اصلاح پیدا کی؟

(A) ابن رشد (B) ابن سینا

(C) الفارابی (D) کوئی نہیں

22. ابن رشد کس فلسفی کے کام پر اپنے تبصروں کی وجہ سے سب سے معروف ہیں؟

(A) ارسطو (B) الفارابی

(C) ابن بجاج (D) افلاطون

23. ابن رشد کی اس کتاب کا نام لکھیں جس میں انہوں نے الفارابی کی تہافت۔ال فلسفہ کے خلاف فلسفہ کا دفاع کیا؟

The Incoherence of the Incoherence (A)

The incoherence of the philosophy (B)

The Incoherence of the Fiqr (C)

(D) کوئی نہیں

24. کس فلسفی کا مسلمان فلسفیوں پر اثر تو بہت کم ہے تاہم قرون وسطیٰ کے یورپ میں وہ بہت پر اثر شخصیت ہیں؟

(A) ابن رشد (B) ابن خلدون

(C) الفارابی (D) بوعلی سینا

25. عربی فلسفیوں نے کس موضوع پر ابتدائی ترین کتابیں لکھیں؟

(A) ماحولیات (B) ماحولیاتی سائنس

(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

26. الکندی، قسطہ بن لوقا، الرازی، الجزر، التمیمی۔ ال مسیحی، بوعلی سینا، علی ابن رضوان، ابزک اسرائیلی بن سلیمان، عبد الطیف اور ابن نفیس نے ماحولیات پر پہلی کتابیں لکھیں۔ ان اصحاب نے ماحولیات میں کس چیز کو خاص طور پر موضوع بنایا؟

(A) اوزون کی تہہ (B) پانی کی کثافت

(C) آلودگی (D) کوئی نہیں

27. اس پہلے شہر کا نام بتائیں جہاں پر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کوڑے دان رکھے گئے؟

(A) قاہرہ، مصر (B) بغداد، عراق

(C) خراسان، ایران (D) غرناطہ ال۔ اندلس

28. ابتدائی مسلم سائنسدانوں اور فلسفیوں نے درج ذیل میں سے کونسی تھیوری پیش کی؟

(A) ارتقاء (B) انواع کی کایا پلٹ

(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

29. ارتقاء اور انواع کی کایا پلٹ جیسے موضوعات پر مغرب میں بہت بعد میں لکھا گیا۔ ولیم ڈریپر نے کب ان موضوعات پر لکھا؟

(A) 1850 (B) 1860

(C) 1868 (D) 1878

30. جان ولیم ڈریپر نے جس نظریات کی بنا پر ارتقاء اور انواع کی کایا پلٹ پر لکھا اسے وہ کیا نام دیتا تھا؟

(A) محمڈن تھیوری آف ایوولیوشن

(B) اسلامک تھیوری آف ایوولیوشن

(C) فلاسفک تھیوری آف ایوولیوشن

(D) کوئی نہیں

31. اس پہلے مسلم حیاتیات دان اور فلسفی کا نام بتائیں جنہوں نے "ارتقاء" کی ابتدائی ترین تھیوری پروان چڑھائی؟

(A) ابن نجاح (B) ابن باجہ

(C) الجاحظ (D) الفورابی

32. الجاحظ کی اس کتاب کا نام بتائیں جس میں انہوں نے زیست کے لیے جدوجہد (struggle for existence) پر لکھا؟

(A) بک آف اینملز (B) بک آف سٹرگل

(C) بک آف ایگزسٹنس (D) کوئی نہیں

33. ارتقاء کے موضوع پر کس مسلم فلسفی کی کتاب ال۔ فوز ال۔ اصغر نے لکھی؟

(A) ابن خلدون (B) ابن باجہ

(C) الفارابی (D) ابن مسکاویہ

34. ابن مسکاویہ نے کس کو متاثر کیا اور اس نے بھی ارتقاء پر نظریات کا آغاز کیا؟

(A) حکیم (B) ڈارون

(C) ڈیوڈ (D) کوئی

35. 12 ویں صدی کے کس فلسفی نے اس بارے میں لکھا کہ کس طرح قرون وسطیٰ کے عام لوگوں اور فطرتی فلسفیوں نے کیمیا اور

حیاتیات میں ارتقاء کو سمجھا؟

(A) الجزنی (B) الکندی

(C) ابن مسکاویہ (D) کوئی نہیں

36. الجزنی کے بعد کس عالم دہر نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے "ارتقاء" پر بحث کی؟

(A) ابن الہیثم (B) ابن مسکاویہ

(C) ابن بجاج (D) کوئی نہیں

37. ارتقاء کے موضوع پر مسلم فلسفیوں کے کام کے تراجم کس زبان میں مغرب میں نشاۃ ثانیہ کے بعد سامنے آنا شروع ہوئے؟

(A) فرانسیسی (B) یونانی

(C) لاطینی (D) انگریزی

38. منطق پر پہلی عربی تحریر کے مصنف کا نام بتائیں؟

(A) الکندی (B) الجزنی

(C) الغزالی (D) کوئی نہیں

39. منطق پر ارسطو کے نظریات سے ہٹ کر منطق پر پہلی تحریر کس کی تھی؟

(A) الجزنی (B) ابن الہیثم

(C) الفارابی (D) کوئی نہیں

40. اس آخری اہم منطق دان کا نام بتائیں جنہوں نے ارسطو کے منطق کے نظریات پر سب سے زیادہ لکھا؟

(A) الکندی (B) الغزالی

(C) ابن بجاج (D) ابن رشد

41. ابن رشد کا تعلق کہاں سے تھا؟

(A) بغداد (B) خراسان

(C) یمن (D) الاندلس

42. کس صدی تک بوعلی سینا کی منطق مکمل طور پر ارسطو کی منطق کی جگہ لے چکی تھی؟

(A) 10ویں (B) 11ویں

(C) 12ویں (D) 13ویں

43. اس پہلے منطق دان کا نام بتائیں جنہوں ارسطو کی منطق پر تنقید کے لیے تبصرے نہیں بلکہ علیحدہ کتابیں لکھیں؟

(A) ابن خلدون (B) ابن ماجہ

(C) ابن بجاج (D) ابن سینا

44. ابن الہیثم نے اپنی کس کتاب میں حسی ادراک پر بطور ذریعہ علم زور دیا ہے؟

(A) سکوپ آف نالج (B) سکوپ آف لرننگ

(C) سکوپ آف لوجک (D) کوئی نہیں

45. یونانی منطق کی مرحلہ وار تردید کو Illuminationist سکول نے تحریر کیا۔ اس سکول کے بانی کا نام بتائیں؟

(A) شہاب الدین سہروردی (B) منہاج الدین سہروردی

(C) شمس الدین سہروردی (D) فخر الدین سہروردی

46. ابن تیمیہ کی یونانی منطق کی مرحلہ وار تردید کے سلسلے کی تحریروں کا نام بتائیں؟

(A) الرد علی المنطقین (B) الفضل علی المنطقین

(C) النفس علی المنطقین (D) کوئی نہیں

47. شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا بنیادی نکتہ کیا ہے؟

(A) یونانی کے بجائے ایمانی فلسفہ

(B) ارسطو کے افکار کی عادلانہ تشریح

(C) افلاطون اور ارسطو کے افکار میں تطبیق

(D) عقلیت پر مبنی ایک نئے فلسفے کی ابتداء

48. "الاخلاق بالاحوال بالعلوم" کس مسلم فلسفی کا قول ہے؟

(A) علامہ اقبال (B) امام غزالی

(C) شاہ ولی اللہ (D) ابن رشد

49. Knowledge is the highest good کس کا قول ہے؟

(A) سقراط (B) ارسطو

(C) افلاطون (D) علامہ اقبال

50. سقراط کی تمام تر شہرت کی بنیاد اور اس کا ہونہار شاگرد رہا۔
(A) زینوفون (B) افلاطون
(C) ارسطو (D) پروٹا گوراس

51. ''خلق افعال العباد'' (آدمی اپنے اعمال کا خود خالق ہے) کس کا نظریہ ہے؟
(A) ماتریدیہ (B) معتزلہ
(C) اشاعرہ (D) مرجئہ

52. کس یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ ہر چیز کی اصل پانی ہے؟
(A) سقراط (B) تھالیز
(C) ارسطو (D) بقراط

53. ارسطو کے نزدیک خدا کیا ہے؟
(A) خالق (B) علت اولیٰ
(C) آفاقی حقیقت (D) نگہبان

54. world as i see it کا مصنف کون ہے؟
(A) روسو (B) آئن سٹائن
(C) آدم سمتھ (D) نیوٹن

55. بنیادی طور پر نظام اشتراکیت کا نظریہ کس نے پیش کیا؟
(A) ارسطو (B) افلاطون
(C) اینجلز (D) کارل مارکس

56. یہ کس نے کہا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے؟
(A) آئن سٹائن (B) علامہ اقبال
(C) نطشے (D) گبن

57. انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟
(A) خوارج (B) معطل
(C) ملحد (D) موحد

58. کس مغربی مفکر نے ہر انسانی عمل کا محرک جنسی جذبے کو قرار دیا؟
(A) فرائیڈ (B) لاک
(C) ہابز (D) روسو

59. انسانی علم حاصل کرنے کے ذرائع بتایئے؟
(A) حواس (B) عقل
(C) اجتماعی تجربہ (D) تمام

جوابات

1. (A)	2. (C)	3. (A)	4. (C)	5. (C)	6. (D)	7. (B)	8. (B)
9. (C)	10.(A)	11.(C)	12.(C)	13.(C)	14.(C)	15.(D)	16.(A)
17.(D)	18.(A)	19.(C)	20.(C)	21.(B)	22.(A)	23.(A)	24.(A)
25.(C)	26.(C)	27.(D)	28.(A)	29.(D)	30.(A)	31.(C)	32.(A)
33.(D)	34.(B)	35.(A)	36.(A)	37.(C)	38.(A)	39.(C)	40.(D)
41.(D)	42.(C)	43.(D)	44.(C)	45.(A)	46.(A)	47.(A)	48.(C)
49.(C)	50.(B)	51.(B)	52.(B)	53.(A)	54.(B)	55.(B)	56.(A)
57.(C)	58.(A)	59.(D)					

بیمارستان (Hospital)

1. قرونِ وسطیٰ کی اسلامی دنیا میں جدید لفظ ہسپتال کے لیے کونسا لفظ استعمال ہوتا تھا؟

(A) بیمارستان (B) بیمارگھر
(C) شفاگھر (D) کوئی نہیں

2. قرونِ وسطیٰ میں مریضوں کو دور دراز بنائی گئی مخصوص جگہوں پر تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ کون تھے جنھوں نے سب سے پہلے ان جگہوں اور ہسپتالوں میں فرق قائم کیا؟

(A) مسلم طبیب (B) عیسائی طبیب
(C) یہودی طبیب (D) کوئی نہیں

3. سب سے قدیم بیمارستان کا نام بتائیں؟

(A) نیشاپور (B) خراسان
(C) گندیشاپور (D) کوئی نہیں

4. گندیشاپور کب بنایا گیا؟

(A) تیسری صدی (B) چوتھی صدی
(C) پانچویں صدی (D) چھٹی صدی

5. کس ساسانی شہنشاہ نے گندیشاپور نامی بیمارستان بنوایا تھا؟

(A) شاہ پور (B) شاہنواز
(C) شاہ جہان (D) شاہ دین

6. موجودہ ایران کے کس صوبے میں گندیشاپور نامی ہسپتال بنایا گیا؟

(A) خوراستان (B) خوزستان
(C) خوزہ خیل (D) کوئی نہیں

7. ساسانیوں کے بعد 638 میں کس نے ایران کو فتح کیا تھا؟

(A) عیسائیوں نے (B) عربوں نے
(C) یہودیوں نے (D) کوئی نہیں

8. ایران پر عربوں کی فتح نے بیمارستان کو متاثر نہ کیا بلکہ اسے

(A) عوامی ہسپتال کا درجہ دے دیا گیا
(B) میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دے گیا گیا
(C) نفسیاتی بیماریوں کے علاج کی سہولت سے مزین کیا گیا
(D) تمام C،B،A

9. دورانِ جنگ نبی پاک ﷺ کے ساتھ زخمی مجاہدین کے علاج کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ موبائل ڈسپنسری ہوتی تھی۔ ان ابتدائی جنگوں میں سترہ سال کی اس مسلم خاتون کا نام بتائیں جنھوں نے میڈیکل ٹیم کی قیادت کی تھی؟

(A) عائشہ بنت قیس (B) آمنہ بنت قیس
(C) فاطمہ بنت قیس (D) رضیہ بنت قیس

10. گندیشاپور ہسپتال کے بعد دوسرا بیمارستان کہاں بنایا گیا؟

(A) مکہ (B) مدینہ
(C) دمشق (D) بصرہ

11. دمشق کے بیمارستان کو کب بنایا گیا؟

(A) 707 (B) 708
(C) 709 (D) 710

12. اس مسلم خلیفہ کا نام بتائیں جنھوں نے دمشق بیمارستان بنوایا تھا؟

(A) الولید بن عبدالملک
(B) الولید بن عبدالماجد

(C) الولید بن عبدالسنان

(D) الولید بن عبدالحق

13. کس کی رائے کے مطابق خلیفہ مامون الرشید کے دور تک بغداد میں میڈیکل سکول بہت زیادہ متحرک ہو چکے تھے؟

(A) سر تھیو ارنلڈ (B) سر جان بگوٹ گلب

(C) سر کوزی ہنگری (D) کوئی نہیں

14. سر جان بگوٹ کے مطابق مفت عوامی ہسپتال کہاں کھولا گیا؟

(A) بصرہ (B) مدینہ

(C) بغداد (D) کوفہ

15. اس خلیفہ کا نام بتائیں جسکے دور میں بغداد عوامی بیمارستان بنایا گیا؟

(A) مامون الرشید (B) ال ولید بن عبدالمالک

(C) امین الرشید (D) ہارون الرشید

16. قرون وسطی اور قبل از جدید دور کا سب سے بڑا ہسپتال کہاں تعمیر کیا گیا؟

(A) سلطنت عرب، مدینہ (B) عراق، بغداد

(C) مصر، قاہرہ (D) کوئی نہیں

17. قاہرہ کے ہسپتال کو کس سلطان نے بنایا تھا؟

(A) سلطان قالان۔المنصور

(B) سلطان قالان۔البحر

(C) سلطان قالان۔المستعصر

(D) سلطان قالان۔المہدی

18. سلطان قالان المنصور نے قاہرہ میں کب ہسپتال بنوایا؟

(A) 1280 (B) 1282

(C) 1283 (D) 1285

19. کس کی رائے کے مطابق قاہرہ ہسپتال 4 عمارتوں پر مشتمل تھا جسکے درمیان ایک صحن تھا۔ اسمیں بیماروں کے لیے مختلف حصے تھے۔ اور اسکے علاوہ اسمیں لیبارٹریاں، ڈسپنسری، بیرونی مریضوں کے کلینک، باورچی خانے، غسل خانے، لائبریری، مسجد، لیکچر ہال اور دماغی مریضوں کے لیے خوشگوار کمرے موجود تھے؟

(A) ولیم مورلے (B) ول ڈورنٹ

(C) جان کورٹ (D) کوئی نہیں

20. قرون وسطی کے کس ہسپتال میں بے خوابی کے شکار مریضوں کو ہلکا پھلکا میوزک، کہانیاں سنانے والے اور تاریخ کی کتابیں بھی فراہم کی جاتی تھیں؟

(A) قاہرہ بیمارستان (B) بغداد بیمارستان

(C) مکہ بیمارستان (D) کوئی نہیں

21. کس کی رائے میں قرون وسطی کے قاہرہ، بغداد اور دمشق کے اسلامی ہسپتال بعد میں وکٹورین زمانے میں انگلینڈ میں بننے والے جدید ہسپتالوں سے کسی طرح بھی کم نہ تھے؟

(A) پاورڈ ایم۔جان (B) ہاورڈ۔آر۔ٹرنر

(C) ہاورڈ۔ایس۔آرنلڈ (D) کوئی نہیں

22. مسلمانوں کی جدید اور بہتر طبی سہولیات کی وجہ سے مسلمانوں کی ....

(A) اوسط عمر بڑھ گئی

(B) نسل میں تیزی سے اضافہ ہوا

(C) معاشی ومعاشرتی حالت بہتر ہوگی

(D) کوئی نہیں

23. بتائیے کہ قدیم یونانی و رومی دنیا کی اوسط عمر 22 تا 28 سال کے مقابلے میں اسلامی خلافت میں اوسط عمر کیا تھی؟

(A) 30 سال سے زائد (B) 32 سال سے زائد

(C) 35 سال سے زائد (D) 40 سال سے زائد

24. اسلام کے سنہری دور میں کس طبقے کی عمر نسبتاً زیادہ تھی۔

(A) معیشت دان (B) ڈاکٹرز
(C) کھلاڑی (D) علماء

25. 10-11 ویں صدی میں کس علاقے کے علماء طبقے کی اوسط عمر 84.3 سال تھی؟
(A) عراق (B) فارس
(C) دونوں (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

26. 11 ویں صدی میں مشرق وسطی کے علماء طبقے کی اوسط عمر کیا تھی؟
(A) 72.8 سال (B) 80 سال
(C) 80.2 سال (D) 90 سال

27. 11 صدی کے کس اسلامی ملک میں علماء طبقے کی اوسط عمر 69 تا 75 سال تھی؟
(A) یمن (B) فلسطین
(C) سپین (D) کوئی نہیں

28. 12 ویں صدی کے فارس (ایران) میں علماء طبقے کی عمر........
(A) 59 تا 75 سال تک (B) 59 تا 72 سال تک
(C) 59 تا 70 سال تک (D) 59 تا 68 سال تک

29. 13 ویں صدی کے فارس (ایران) میں علماء طبقے کی عمر........
(A) 75 سال تھی (B) 80 سال تھی
(C) 85 سال تھی (D) 90 سال تھی

30. بیمارستان کا ہیڈ ڈاکٹر کیا کہلاتا تھا؟
(A) طبیب (B) السعود
(C) احتسان (D) کوئی نہیں

31. بیمارستان میں کون سا اضافی ڈیپارٹمنٹ ہوتا تھا جس کا مقصد ادویات کی با آسانی تقسیم میں ڈاکٹروں کی مدد کرنا تھا؟
(A) الادویات خانہ (فارسی)
(B) الشراب خانہ (فارسی)
(C) الکیمیا خانہ (فارسی)
(D) ان میں سے کوئی نہیں

32. قرون وسطی کے بیمارستانوں کا مقصد کیا تھا؟
(A) مریضوں کی دیکھ بھال کرنا
(B) نئے ڈاکٹروں کو تعلیم دینا
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

33. بیمارستان سے فارغ ہونے والے افراد کو........
(A) کپڑے فراہم کیے جاتے ہیں
(B) جیب خرچ فراہم کیا جاتا ہے
(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

34. کن صدیوں کے دوران مسلمانوں کے ہسپتال معیار کی نہایت اعلی سطح پر پہنچ چکے تھے؟
(A) 8 اور 12 (B) 12 اور 13
(C) 13 اور 14 (D) 14 اور 15

35. تیونس Tanisia میں 830 میں اغلبا باد میں کونسا ہسپتال بنایا گیا؟
(A) القیر وان (B) الشیر وان
(C) الهمان (D) کوئی نہیں

36. قرون وسطی کے ہسپتالوں کی ایک اور کیا اہم خصوصیت تھی جو کہ دنیا میں کہیں اور نہیں تھی؟
(A) طبیب (B) طبی آیات
(C) آپریشن تھیٹرز (D) نرسز

37. مسلمانوں کے ہسپتالوں میں دور دراز سے نرسیں بھی تعینات کی جاتی تھیں۔ وہ کن لوگوں کے ہسپتال تھے جنھوں نے سب سے پہلے لیڈی ڈاکٹروں کو بھی بھرتی کیا؟
(A) مسلمان (B) عیسائی
(C) یہودی (D) کوئی نہیں

38. قرون وسطی میں کس قبیلے کی وہ دو خواتین ڈاکٹر تھیں جنہوں نے الموحد حکمران ابو یوسف یعقوب المنصور کی 12 ویں صدی میں خدمت کی تھی؟
(A) بنو زہر (B) بنو ہاشم
(C) بنو عدی (D) بنو تمیم

39. کس صدی میں پہلی بار لیڈی سرجن کا ذکر کیا گیا؟
(A) 12 ویں صدی (B) 13 ویں صدی
(C) 14 ویں صدی (D) 15 ویں صدی

40. سب سے پہلے کس کتاب میں لیڈی ڈاکٹر کا ذکر کیا گیا؟
(A) کراہتہ ال طبیب (B) کراہتہ ۔ ال بی
(C) کراہتہ ال ہسپتال (D) کوئی نہیں

41. کراہتہ ال بی کس نے لکھی؟
(A) سراف الدین سین کوگلس
(B) صلاح الدین سین کوگلس
(C) اشراف الدین سین کوگلس
(D) کوئی نہیں

42. ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے علاوہ تھراپسٹ کی قسم کا ایک مذہبی گروہ بھی ہوتا تھا جس کا کام خون دینا، ہڈیاں سیٹ کرنا وغیرہ تھا۔ انکو کیا کہا جاتا تھا؟
(A) فقہال الاعضاء (B) فقہاالدین
(C) فقہال الجسم (D) کوئی نہیں

43. سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں جب ہسپتال اپنے عروج پر پہنچ گئے تو ایڈرین میں کونسا ہسپتال بنایا گیا؟
(A) مینٹل ہسپتال (B) میڈیکل مدرسہ
(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

44. سلطنت عثمانیہ کے کس حکمران نے مینٹل ہسپتال اور میڈیکل مدرسہ بنوایا تھا؟
(A) بایزید i (B) بایزید ii
(C) بایزید iii (D) بایزید iv

45. اسلامی ہسپتال وہ پہلے ادارے تھے جنہوں نے......
(A) انٹرن شپ کا نظام قائم کیا
(B) ایکسٹرن شپ کا نظام قائم کیا
(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

46. 12 ویں صدی میں اندلس کے کس طبیب نے سرجری کو طب میں ایک آزاد اور علیحدہ اصول کے طور پر پیش کیا؟
(A) ابن کثیر (B) ابن زہر
(C) ابن خلدون (D) جبران

47. 12 ویں صدی میں کہاں معروف تعلیمی ہسپتال ال۔ نور قائم کیا گیا جہاں پر طب کی تعلیم دیجاتی تھی؟
(A) شام (B) بغداد
(C) مصر (D) مدینہ

48. مصر میں النور ہسپتال کس مسلم حکمران نے بنوایا تھا؟
(A) نورالدین زنگی (B) صلاح الدین ایوبی
(C) شہاب الدین (D) کوئی نہیں

49. درج ذیل میں کس جید مسلم طبیب ماہر علم الاعضاء نے ہسپتال النور سے تعلیم حاصل کی؟
(A) ابن ابی اصیبعہ (B) علاؤالدین نفیس
(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

50. ابن ابی اصیبعہ معروف......۔
(A) طبی محقق تھے (B) ہڈیوں کے طبیب تھے
(C) آنکھ کا علاج کرتے تھے (D) کوئی نہیں

51. علاؤالدین ابن النفیس کی کونسی ایجاد انسانی علم الاعضاء کو بہتر طور پر سمجھنے میں سنگ میل ثابت ہوئی اور ولیم ہاروے تک یہ اس ایجاد کی ابتدائی ترین تعریف تھی؟
(A) پلمونری سرکولیشن (B) سرکولیٹری سسٹم
(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

52. قرون وسطیٰ میں طب کی تعلیم بیمارستان کے علاوہ اور کہاں دی جاتی تھی؟

(A) مدارس (B) ازآف کورٹس

(C) مساجد (D) کوئی نہیں

53. 15 ویں صدی کے دمشق میں 155 مدارس میں سے کتنے میڈیکل سکول تھے؟

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 5

54. سلطنت عثمانیہ کے کس حکمران نے سلطنت کے مدارس کے نصاب میں حدیث کے ساتھ طب کو بھی شامل کیا تھا؟

(A) سلیمان اول (B) سلیمان دوئم

(C) سلیمان سوئم (D) سلیمان چہارم

55. مسلم دنیا میں کس صدی سے نفسیاتی ہسپتال بننا شروع ہو گئے تھے؟

(A) 7 ویں (B) 8 ویں

(C) 9 ویں (D) 10 ویں

56. درج ذیل میں ابتدائی ترین نفسیاتی ہسپتال میں

(A) بغداد میں 750 میں تعمیر کیے جانے والا ہسپتال شامل تھا

(B) قاہرہ میں 800 میں تعمیر کیے جانے والا ہسپتال شامل تھا

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

57. اس معروف نفسیاتی ہسپتال کا نام بتائیں جو کہ 1270 میں تعمیر کیا گیا؟

(A) دمشق نفسیاتی ہسپتال (B) ایلیو نفسیاتی ہسپتال

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

58. مسلم ڈاکٹروں کے اخلاقی معیار پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب کا نام لکھیں؟

(A) آداب ال طبیب (B) فقہ الطبیب

(C) قانون الطبیب (D) کوئی نہیں

59. آداب الطبیب کے مصنف کا نام بتائیں؟

(A) اسحاق ابن الراھوی (B) الخوارزمی

(C) الکندی (D) کوئی نہیں

60. کس صدی میں آداب الطبیب لکھی گئی؟

(A) 12 ویں صدی (B) 11 ویں صدی

(C) 10 ویں صدی (D) 9 ویں صدی

61. پروفیشنل سطح پر کس عالم نے 10 ویں صدی میں بہت سے سیاسی، ترقی پسند طبی اور نفسیاتی خیالات کو متعارف کروایا؟

(A) الکندی (B) الرازی

(C) المجری (D) الفارابی

62. الرازی وہ پہلے عالم تھے جنھوں نے

(A) شہر میں گھومتے والے نیم حکیموں پر بات کی

(B) خبردار کیا کہ ہر ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج نہیں کر سکتا

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

63. کس مسلم عالم نے قابل علاج اور نا قابل علاج امراض کے درمیان سب سے پہلے امتیازی دیوار کھڑی کی؟

(A) الشہرزوری (B) الخوارزمی

(C) بوعلی سینا (D) الرازی

64. کس قوم کے طبیبوں نے سب سے پہلے ثابت کیا کہ دماغی امراض کی وجہ آسیب یا خدا کی سزا نہیں بلکہ دماغ کے افعال کا خراب ہونا ہے؟

(A) مسلمان طبیبوں نے (B) عیسائی طبیبوں نے

(C) یہودی طبیبوں نے (D) پارسی طبیبوں نے

65. وزٹ کرنے والا ڈاکٹر ہر وزٹ پر مریض کی حالت کے بارے میں دوہرے نوٹس بنائے۔ مریض کے ٹھیک ہونے یا فوت ہونے کی صورت میں وزٹنگ ڈاکٹر کے نوٹس کا ڈاکٹروں کی علاقائی کونسل

معائنہ کرے اور دیکھے کہ آیا ڈاکٹر کی کارکردگی مطلوبہ معیار کے مطابق تھی یا نہیں۔ طبی رو سے یہ اصول کیا کہلاتا ہے؟

(A) طبی ریویو (B) پیر ریویو pear review
(C) مرض ریویو (D) کوئی نہیں

66. کس کتاب میں سب سے پہلے پیر ریویو کا سب سے پہلے لکھا ہوا بیان ملتا ہے؟

(A) اصول الطبیب (B) نقال طبیب
(C) فراج الطبیب (D) قانون الطبیب

67. شام کے اس مسلم عالم کا نام بتائیں جنہوں نے قانون الطبیب لکھی؟

(A) بوعلی سینا (B) اسحاق بن الراہوی
(C) طبری (D) کوئی نہیں

جوابات

1. (A)	2. (A)	3. (C)	4. (A)	5. (C)	6. (B)	7. (B)	8. (D)
9. (B)	10. (C)	11. (A)	12. (A)	13. (B)	14. (C)	15. (D)	16. (C)
17. (A)	18. (D)	19. (B)	20. (A)	21. (B)	22. (A)	23. (C)	24. (D)
25. (A)	26. (A)	27. (C)	28. (B)	29. (D)	30. (B)	31. (B)	32. (C)
33. (C)	34. (A)	35. (A)	36. (D)	37. (A)	38. (A)	39. (D)	40. (B)
41. (A)	42. (B)	43. (C)	44. (B)	45. (C)	46. (B)	47. (C)	48. (A)
49. (C)	50. (A)	51. (C)	52. (A)	53. (B)	54. (A)	55. (B)	56. (C)
57. (C)	58. (A)	59. (A)	60. (D)	61. (B)	62. (C)	63. (D)	64. (A)
65. (B)	66. (D)	67. (B)					

مدارس

1. عربی زبان میں عوامی یا پبلک سکول کو کیا کہا جاتا ہے؟
(A) مدرسہ عامہ (B) مدرسہ خاصہ
(C) مدرسہ اسلامیہ (D) کوئی نہیں

2. پرائیوٹ سکول کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔
(A) مدرسہ عامہ (B) مدرسہ خاصہ
(C) مدرسہ دینیہ (D) مدرسہ اسلامیہ

3. عربی زبان میں مذہبی سکول کو--------
(A) مدرسہ اسلامیہ کہا جاتا ہے (B) مدرسہ خاصہ کہا جاتا ہے
(C) مدرسہ دینیہ کہا جاتا ہے (D) کوئی نہیں

4. اسلامی سکول کو عربی زبان میں--------
(A) مدرسہ دینیہ (B) مدرسہ عامہ
(C) مدرسہ جامعہ (D) مدرسہ اسلامیہ

5. یونیورسٹی کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟
(A) مدرسہ جامعہ (B) مدرسہ
(C) مدرسہ اسلامیہ (D) کوئی نہیں

6. سلطنت عثمانیہ میں جدید دور کے اوائل میں مدارس سے فارغ التحصیل طلباء کو کیا کہا جاتا تھا؟
(A) علماء (B) فقہا
(C) دانشمند (D) کوئی نہیں

7. جدید دور کے اوائل میں سلطنت عثمانیہ کے کس حکمران نے حدیث کا علم متعارف کروایا تھا؟
(A) سلمان اول (B) سلمان دوئم
(C) سلمان سوئم (D) کوئی نہیں

8. اسلامی سکول میں کتنے سال کی تعلیم کے بعد ایک طالب علم کو "عالم" کی ڈگری دی جاتی تھی؟
(A) 10 سال (B) 8 سال
(C) 9 سال (D) 12 سال

9. مسلم دنیا کے سب سے قدیم مدرسے کا نام بتائیں؟
(A) جامعہ القیروان (B) جامعہ القرآن
(C) جامعہ الشیروان (D) جامعہ الاسلام

10. جامعہ القیروان کب قائم کیا گیا؟
(A) 850 (B) 849
(C) 861 (D) 859

11. القیروان کہاں قائم کیا گیا؟
(A) عراق (B) مراکش/تیونس
(C) فارس (D) فلسطین

12. ایک معروف اور دولتمند تاجر محمد الفہری کی بیٹی نے جامعہ القیروان کو قائم کیا تھا۔ بیٹی کا نام بتائیں؟
(A) عائشہ الفہری (B) خدیجہ الفہری
(C) نائلہ الفہری (D) فاطمہ الفہری

13. جامعہ القیروان جیسے اہم ادارے کے بعد کونسی یونیورسٹی 959 میں قائم ہوئی جو کہ اسلامی تعلیم میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے؟
(A) الازھر یونیورسٹی (B) قیروان یونیورسٹی
(C) المصر یونیورسٹی (D) کوئی نہیں

14. مصر کے کس شہر میں الازھر یونیورسٹی قائم کی گئی؟

(A) قاہرہ (B) قیروان

(C) قازمان (D) کوئی نہیں

15. کس دور میں تاریخ کا پہلا اہم سرکاری تعلیمی ادارہ تخلیق کیا گیا؟

(A) اموی دور خلافت میں (B) عباسی دور خلافت میں

(C) حضرت عمر فاروق کے دور میں (D) کوئی نہیں

16. اس سلجوق وزیر کا نام بتائیں جنہوں نے پہلا اہم سرکاری تعلیمی ادارہ قائم کیا؟

(A) نظام الدین (B) نظام الملک

(C) نظام الشیخ (D) کوئی نہیں

17. عباسی دور خلافت میں نظام الملک کے تخلیق کردہ مدرسے کا نام بتائیں۔

(A) مدرسہ نظامیہ (B) مدرسہ مالکیہ

(C) مدرسہ اسلامی (D) مدرسہ سلجوک

18. کس حکمران نے 11 ویں صدی میں عباسی شہروں میں ریاستی مدارس قائم کیے؟

(A) نظام الملک (B) قیروان

(C) الولید (D) مالک بن ولید

19. عباسی دور کے مدارس کے اساتذہ کو کیا کہا جاتا تھا؟

(A) امام (B) شیخ

(C) نظام (D) کوئی نہیں

20. کس دور کے مدارس میں قاہرہ میں سلطان حسن کا مسجد مدرسہ بھی شامل تھا؟

(A) فاطمی دور حکومت (B) مملوک دور حکومت

(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

21. سلطنت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ کب اور کہاں تعمیر کیا گیا؟

(A) زنک (Iznik) 1331 (B) زنک 1332

(C) زنک 1333 (D) زنک 1345

22. قرون وسطیٰ میں اسلامی دنیا کے اندر ایلیمنٹری سکول کا آغاز دسویں صدی سے ہو چکا تھا۔ یہ سکول کیا کہلاتے تھے؟

(A) مدارس (B) مکتب

(C) سکول (D) کالج

23. 11 ویں صدی میں کس فارسی اسلامی فلسفہ دان نے اپنی ایک کتاب میں مکتب کے حوالے سے "بچوں کی پرورش اور تربیت میں استاد کا کردار" کے نام سے ایک باب لکھا؟

(A) اسحاق راہوی (B) بوعلی سینا

(C) الخوارزمی (D) الکندی

24. ابن سینا کے مطابق کس عمر سے بچوں کو مکتب میں بھیجنا چاہیے تھا؟

(A) 5 سال (B) 3 سال

(C) 2 سال (D) 6 سال

25. ابن سینا کے مطابق کس عمر تک بچوں کو مکتب میں پرائمری تعلیم دی جانی چاہیے تھی؟

(A) 14 سال (B) 15 سال

(C) 16 سال (D) 17 سال

26. ابن سینا کے مطابق 14 سال کی عمر کے بعد سے مکتب میں کس تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے جس میں طلباء کو اپنی پسند کے مضامین اختیار کرنے کا اختیار ہونا چاہیے تھا؟

(A) ثانوی تعلیم (B) پرائمری تعلیم

(C) اعلیٰ تعلیم (D) کوئی نہیں

27. مدارس میں طلباء کی تشکیل کے دور کو کیا کہا جاتا تھا؟

(A) ثانوی حصہ تعلیم (B) ابتدائی تعلیم

(C) ایلیمنٹری تعلیم (D) اعلیٰ تعلیم

28. مدارس کے ابتدائی دور میں اس کے نصاب میں درج ذیل میں سے کونسا مضمون شامل نہیں ہوتا تھا؟

(A) فلسفہ (B) سیکولر سائنسز

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

29. کس صدی میں کچھ اسلامی سکولوں نے 'ارتقاء' سے متعلق خیالات کو پڑھایا جانے لگا تھا؟

(A) 10ویں (B) 11ویں

(C) 12ویں (D) 13ویں

30. قرون وسطی کے اسلامی دور میں تعلیمی اداروں کے لئے کونسی اصطلاح استعمال ہونا شروع ہوگئی تھی جبکہ "مدرسہ" سے مراد کسی بھی قسم کا سکول لیا جانے لگا تھا؟

(A) کالج (B) یونیورسٹی

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

31. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق دنیا کی سب سے پرانی ڈگری دینے والی یونیورسٹی کونسی تھی؟

(A) قیروان یونیورسٹی (B) الازہر یونیورسٹی

(C) شیروان یونیورسٹی (D) کوئی نہیں

32. قرون وسطی کی سب سے بڑی تصور کی جانے والی یونیورسٹی تھی۔

(A) بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی

(B) مصر کی نظامیہ یونیورسٹی

(C) فلسطین کی نظامیہ یونیورسٹی

(D) کوئی نہیں

33. بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی کب قائم ہوئی؟

(A) 1050 (B) 1051

(C) 1091 (D) 1100

34. مستنصریہ یونیورسٹی کب قائم ہوئی؟

(A) 1231 (B) 1232

(C) 1233 (D) 1244

35. مستنصریہ یونیورسٹی کو کس عباسی خلیفہ نے قائم کیا؟

(A) امین الرشید (B) ماموں الرشید

(C) المستنصر (D) کوئی نہیں

36. المستنصریہ یونیورسٹی میں مذہبی مضامین کے علاوہ کس مضمون کو بھی نصاب میں شامل کیا گیا تھا؟

(A) فلسفہ (B) حسابیات

(C) نیچرل سائنسز (D) تمام C،B،A

37. وہ پہلے ادارے کون سے تھے جن میں قانون کے سکول (Law School) بھی موجود تھے؟

(A) مدارس (B) کالج

(C) یونیورسٹی (D) کوئی نہیں

38. قانون کے طلباء کو مدارس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جاتی تھی جو کہ doctor of Laws کے مساوی تھی۔ یہ ڈگری کیا کہلاتی تھی؟

(A) اجازۃ و۔الافتہ (B) اجازۃ و۔الطب

(C) اجازۃ و۔القانون (D) کوئی نہیں

39. قانون کے سکولوں میں ڈاکٹریٹ (اجازۃ و۔ال۔افتہ) کا آغاز کب سے ہوا؟

(A) 7ویں صدی سے (B) 8ویں صدی سے

(C) 9ویں صدی سے (D) 10ویں صدی سے

40. قانون کے سکولوں میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے سے قبل -------

(A) چار سال کا بنیادی انڈر گریجویٹ کورس کرنا پڑتا تھا

(B) 10 سال کا پوسٹ گریجویٹ کورس کرنا پڑتا تھا

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

41. قانون کے سکولوں سے پوسٹ گریجویٹ کرنے کے بعد طلباء کو کیا رتبہ دیا جاتا تھا؟

(A) فقیہ (قانون کا ماہر)

(B) مفتی (قانونی رائے کا پروفیسر)

(C) مدرس (استاد) (D) تمام

42. قانون کے سکولوں سے فارغ التحصیل طلبا کو ملنے والے رتبوں میں شامل تھے۔

(A) فقیہ (B) مفتی

(C) مدرس (D) تمام C،B،A

43. فقیہ کو بعد میں لاطینی ترجمے کے ساتھ۔

(A) پروفیسر کہا گیا (B) ڈاکٹر کہا گیا

(C) مجسٹریٹ کہا گیا (D) کوئی نہیں

44. اسلامی دور کے قانون کے سکولوں کو بعد میں انگلینڈ میں بھی کھولا گیا۔ اور یہ

(A) انز (Inns) آف کورٹ (B) ہالز آف کورٹ

(C) رومز آف کورٹ (D) کوئی نہیں

45. کس کی رائے میں مسلمانوں کے قانون کے سکولوں نے لندن میں انز آف کورٹ کے قیام کے لیے راہ ہموار کی تھی؟

(A) جان ابراہیم (B) جارج مکدسی

(C) ولیم مورے (D) جان پیلے

46. 750 سے خلافت کے کس دور میں عورتیں اپنی ذہانت اور حسن کی بناء پر بہت معروف ہوئیں؟

(A) اموی خلافت (B) ایوبی خلافت

(C) عباسی خلافت (D) کوئی نہیں

47. عباسی دور خلافت میں سے اس عورت کا نام بتائیں جو کہ آج بھی اپنے نام سے بہت معروف ہے؟

(A) محبوبہ (B) لیلی

(C) سسی (D) کوئی نہیں

48. اس غلام لڑکی کا نام بتائیں جسے ایک عباسی خلیفہ نے بڑے مہنگے داموں خریدا تھا؟

(A) تودد (Twadud) (B) مولد

(C) فرزین (D) کوئی نہیں

49. تودد کس علم کی ماہر تھی۔

(A) فلکیات علم طب، قانون

(B) فلسفہ موسیقی، تاریخ

(C) ادب، اخلاقیات، شطرنج

(D) تمام

50. کس عباسی خلیفہ نے تودد کو خریدا؟

(A) امین الرشید (B) ہارون الرشید

(C) سلیم الرشید (D) مامون الرشید

51. 12ویں صدی کے بغداد میں سب سے نمایاں خاتون "شہدا" تھیں جو کہ ------

(A) سکالر کہلاتی تھیں (B) فخر عورت کہلاتی تھیں

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

52. عباسی دور خلافت میں عورت کی صلاحیتوں کو بہت مان دیا گیا لیکن یہ سب کچھ بغداد کا تختہ الٹنے سے ختم ہو گیا۔ تاریخ بتائیں؟

(A) 1250 (B) 1251

(C) 1256 (D) 1258

53. کس صدی میں دمشق کے 160 مدارس اور مساجد میں سے 26 کو "وقف" کے نظام کے تحت عورتوں نے قائم کیا تھا؟

(A) 12ویں صدی (B) 13ویں صدی

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

54. کس کی رائے کے مطابق 12ویں صدی میں عورتوں کو "اجازۃ" (تعلیمی ڈگریاں) اور سکالر اور اساتذہ بننے کی اجازت تھی؟

(A) ابن عساکر (B) ابن سکاویہ

(C) ابن تیمیہ (D) کوئی نہیں

55. ابن عساکر نے خود کتنی عورتوں کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی تھی؟

(A) 50 (B) 55

(C) 75 (D) 80

56. 15 ویں صدی میں کس "عالم" نے خواتین علماء پر 12 والیم کی بائیوگرافیکل ڈکشنری بنائی؟

(A) السکھوی (B) الکندی

(C) الرازی (D) المسکاویہ

57. السکھوی کی عورتوں کے بارے میں بائیوگرافیکل ڈکشنری کا نام بتائیں؟

(A) العورۃ (B) دالاصول

(C) دالائی (D) کوئی نہیں

58. دالائی میں کتنی خواتین علماء و اساتذہ کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں؟

(A) 1075 (B) 1000

(C) 1500 (D) 1475

59. کس حکمران نے فارس سے علاؤ الدین اور فخر الدین جیسے علماء کو سلطنت میں بلوایا جس سے یہاں کے مدارس کو بہت شہرت حاصل ہوئی؟

(A) مراد اول (B) مراد دوئم

(C) مراد سوئم (D) کوئی نہیں

60. مراد دوئم کا تعلق .... سے تھا۔

(A) سلجوق سلطنت (B) سلطنت عثمانیہ

(C) دہلی سلطنت (D) کوئی نہیں

61. کن مدارس کے علماء نے کہا کہ منطق اور حسابیات کے علوم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا غلط ہے؟

(A) اموی دور کے مدارس (B) عباسی دور کے مدارس

(C) سلطنت عثمانیہ کے مدارس (D) کوئی نہیں

62. کس ملک میں تقریباً 30,000 کے قریب مدارس روبہ عمل ہیں؟

(A) پاکستان (B) انڈیا

(C) فلپائن (D) سوڈان

63. انڈیا کے زیادہ تر مدارس کس مذہبی مکتبہ فکر کے پیروکار ہیں؟

(A) مالکی (B) حنفی

(C) حنبلی (D) وہابی

64. انڈیا میں مذہبی ادارے کن دو شکلوں میں منقسم ہیں؟

(A) دیوبندی اور وہابی (B) دیوبندی اور بریلوی

(C) وہابی اور بریلوی (D) کوئی نہیں

65. انڈیا کے مبارکپور میں واقع بریلویوں کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے کا نام بتائیں؟

(A) جامعہ اشرفیہ (B) جامعہ نعیمیہ

(C) جامعہ طوکیہ (D) کوئی نہیں

66. دارالعلوم دیوبند انڈیا کا سب سے بڑا اور معروف مدرسہ ہے۔ یہ کہاں واقع ہے؟

(A) ضلع سہارنپور، گووا (B) ضلع سہارنپور، گجرات

(C) ضلع سہارنپور، اتر پردیش (D) ضلع سہارنپور، کلکتہ

67. 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں تقریباً کتنے مدارس کام کر رہے ہیں؟

(A) 20,000 سے زائد (B) 30,000 سے زائد

(C) 40,000 سے زائد (D) 50,000 سے زائد

68. پاکستان میں مدارس کے سلسلے میں کچھ کشمکش پائی جاتی ہے۔ کب سلیم علی نے ان ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک تحقیق کی؟

(A) 2004 (B) 2005

(C) 2006 (D) 2007

69. سلیم علی نے مدارس پر تحقیق کس کے لیے کی؟

(A) امریکہ کے قیام امن کے ادارے

(B) انگلینڈ کے قیام امن کے ادارے

(C) فرانس کے قیام امن کے ادارے

(D) انڈیا کے قیام امن کے ادارے

70. سلیم علی کی تحقیق کو ایک کتاب کی شکل دی گئی جو کہ ......

(A) 2007 میں مکمل ہوئی (B) 2005 میں مکمل ہوئی

(C) 2009 میں مکمل ہوئی (D) 2010 میں مکمل ہوئی

71. سلیم علی کی تحقیق کا نام بتائیں؟

(A) چلڈرن آف فیتھ (Children of Faith)

(B) دین اسلام (Deen-e-Islam)

(C) اسلام ان مدارس (Islam in Madaris)

(D) چلڈرن اینڈ اسلام (Children and Islam)

72. کب سے مدارس کو دنیا بالخصوص امریکہ میں شدید تنقید کا سامنا ہے؟

(A) امریکہ کی ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر 9/11 کو ہونے والے حملے کے بعد

(B) [illegible]ستان میں القاعدہ کے متوقع ٹھکانوں کی موجودگی کی وجہ سے

(C) اسامہ بن لادن کی انتہاپسند سوچ کی وجہ سے

(D) کوئی نہیں

73. کس ادارے نے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر ہونے والے حملے کے بعد کہا کہ "مدرسہ" کے معنی کو سیاسی کر دیا گیا ہے؟

(A) پیل سنٹر فار سٹڈی آف گلوبلائزیشن

(B) ییل سنٹر فار سٹڈی آف گلوبلائزیشن

(C) تھیمز سنٹر فار سٹڈی آف گلوبلائزیشن

(D) کوئی نہیں

74. اسلامی سکول میں دو کورس "حفظ" اور ......

(A) سائنس ہوتے تھے (B) عالم ہوتے تھے

(C) آرٹس ہوتے تھے (D) علوم ہوتے تھے

75. جامعۃ الازہر کہاں واقع ہے؟

(A) فلسطین (B) شام

(C) اردن (D) مصر

جوابات

1. (A)	2. (B)	3. (C)	4. (D)	5. (A)	6. (C)	7. (A)	8. (D)
9. (A)	10. (D)	11. (B)	12. (B)	13. (A)	14. (A)	15. (B)	16. (B)
17. (A)	18. (A)	19. (B)	20. (C)	21. (A)	22. (B)	23. (B)	24. (D)
25. (A)	26. (A)	27. (D)	28. (C)	29. (C)	30. (C)	31. (A)	32. (A)
33. (C)	34. (C)	35. (C)	36. (D)	37. (A)	38. (A)	39. (C)	40. (C)
41. (D)	42. (D)	43. (C)	44. (A)	45. (B)	46. (C)	47. (A)	48. (A)
49. (D)	50. (D)	51. (C)	52. (D)	53. (C)	54. (A)	55. (D)	56. (A)
57. (C)	58. (A)	59. (B)	60. (B)	61. (C)	62. (B)	63. (B)	64. (B)
65. (A)	66. (C)	67. (D)	68. (B)	69. (A)	70. (A)	71. (A)	72. (A)
73. (A)	73. (B)	74. ()	75. (D)				

اسلامی فن تعمیر

1. اسلام کی پہلی اہم تعمیر کس کو خیال کیا جاتا ہے؟
(A) تعمیر کعبہ (B) تعمیر مسجد نبوی
(C) تعمیر مسجد قبا (D) کوئی نہیں

2. کعبہ کی تعمیر کب ہوئی؟
(A) 630 A.D (B) 632 A.D
(C) 598 A.D (D) 604 A.D

3. اسلامی فن تعمیر کی ابتدائی ترین مثالوں میں اس گنبد کی تکمیل شامل ہے جو کہ------
(A) 690اے ڈی میں تعمیر ہوا (B) 691اے ڈی میں تعمیر ہوا
(C) 692اے ڈی میں تعمیر ہوا (D) 693اے ڈی میں تعمیر ہوا

4. 691اے ڈی میں تعمیر ہونے والے گنبد کا نام تحریر کریں؟
(A) قبۃ المسلم (B) قبۃ السکران
(C) قبۃ الصخرہ (Sakhrah)
(D) کوئی نہیں

5. قبۃ الصخرہ کہاں تعمیر ہوا؟
(A) یروشلم (B) مکہ
(C) بغداد (D) فلسطین

6. سامرہ کی عظیم مسجد کہاں تعمیر کی گئی؟
(A) فلسطین (B) چین
(C) ایران (D) عراق

7. سامرہ کی عظیم مسجد کب تعمیر کی گئی؟
(A) 850اے ڈی (B) 855اے ڈی
(C) 840اے ڈی (D) 847اے ڈی

8. کونسی مسجد زیر ستونی یا ستونوں پر قائم چھت کے فن تعمیر سے بنائی گئی تھی؟
(A) مسجد قبا (B) مسجد اسلام
(C) مسجد سامرہ (D) مسجد حرام

9. مسجد سامرہ کہاں تعمیر کی گئی؟
(A) ایران (B) عراق
(C) مصر (D) یونان

10. درج ذیل میں سے کونسا تعمیراتی نمونہ اسلامی فن تعمیر سے متاثر ہے؟
(A) حاجیہ صوفیہ (B) حاجیہ اشرفیہ
(C) حاجیہ نائلہ (D) کوئی نہیں

11. حاجیہ صوفیہ کی تعمیر کہاں کی گئی؟
(A) استنبول (B) عراق
(C) دمشق (D) اردن

12. سلطنت عثمانیہ کی کس مسجد کے لئے حاجیہ صوفیہ ایک ماڈل ثابت ہوئی؟
(A) شہزادہ مسجد (B) سلیمان مسجد
(C) رستم پاشا مسجد (D) تمام C،B،A

13. کس صدی میں فارس (ایران) پر مسلمانوں کی فتح سے اس کے کچھ حصے اسلامی فن تعمیر میں شامل ہوئے؟
(A) 6ویں (B) 7ویں
(C) 8ویں (D) 9ویں

14. بغداد کی تعمیر فارس کے کس شہر کی طرز پر کی گئی؟

(A) فیروز آباد (B) نوشہر آباد

(C) فارس آباد (D) کوئی نہیں

15. کس مسلمان حکمران نے شہر بغداد کی تعمیر کے لئے دو فارسی ڈیزائنروں کی خدمات حاصل کیں؟

(A) البخت (B) المنصور

(C) النصر (D) الہادی

16. المنصور نے شہر بغداد کی تعمیر کے لئے کن دو ڈیزائنروں کی خدمات حاصل کیں؟

(A) نوبخت اور نوشیر (B) نوشیر اور ماشاء اللہ

(C) نوبخت اور ماشاء اللہ (D) ماشاء اللہ اور بخت نصر

17. نوبخت اور ماشاءاللہ کا تعلق تھا۔

(A) ایران کے شہر فراسان سے

(B) ایران کے شہر خراسان سے

(C) ایران کے شہر فسطاط سے

(D) کوئی نہیں

18. کب غرناطہ کی عظیم مسجد تعمیر کی گئی؟

(A) 785 A.D (B) 790 A.D

(C) 795 A.D (D) 800 A.D

19. مسجد غرناطہ کو ۔۔۔۔۔۔ میں اسلامی فن تعمیر کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔

(A) جزیرہ نما آئبیریا (B) شمالی افریقہ

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

20. جزیرہ نما آئبیریا میں اب کونسے ممالک شامل ہیں؟

(A) سپین اور پرتگال (B) سپین اور یمن

(C) یمن اور فلسطین (D) فلسطین اور اردن

21. بتایئے کونسی عمارت مورش اسلامی فن تعمیر کو اس کے بلند ترین مقام پر لے گئی؟

(A) میز کیٹا (B) الحمرا

(C) مسجد غرناطہ (D) کوئی نہیں

22. مسجد غرناطہ کو آج کل ایک کیتھڈرل میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ اسے کس نام سے پکارا جاتا ہے؟

(A) میرینا (B) میز کیٹا(Mezquita)

(C) کیتھڈرل (D) کوئی نہیں

23. کس فن تعمیر کی جڑیں اموی دور خلافت کے دوران پائی جانے والے فن تعمیر کی عرب روایت میں پیوست ہیں؟

(A) مورش فن تعمیر (B) ایرانی فن تعمیر

(C) انگریزی فن تعمیر (D) لاطینی فن تعمیر

24. مورش تعمیر کا اثر .... کے فن تعمیر پر بہت گہرا ہے۔

(A) ایران (B) عراق

(C) مصر (D) سپین

25. اس فن تعمیر کا نام بتائیں جو کہ سپینی فن تعمیر پر اہل مور کی مہر ہمیشہ کے لئے ثبت کر گئی؟

(A) سپین کے صوبے سیوائل کی الکازار

(B) سپین کے صوبے سیوائل کی الدیجار

(C) سپین کے صوبے سیوائل کی المونزکینا

(D) کوئی نہیں

26. کونسا فن تعمیر وسطی ایشیاء میں اسلامی فن تعمیر کا آغاز خیال کیا جاتا ہے؟

(A) مورش فن تعمیر (B) ترکی یا تیموری فن تعمیر

(C) فاطمی فن تعمیر (D) عثمانی فن تعمیر

27. کس جگہ پر تیموری کی بنائی ہوئی شاندار عمارتوں نے انڈیا میں الخان فن تعمیر اور پھر مغل فن تعمیر کو بے حد متاثر کیا؟

(A) ثمرقند (B) ہرات

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

28. تیموری فن تعمیر کا آغاز ________ کے مقبرے سے ہوتا ہے۔

(A) احمد یاثاوی (B) احمد بزاز

(C) احمد قلقاشندی (D) کوئی نہیں

29. احمد یاثاوی کا مقبرہ موجودہ دور کے کس خطے میں واقع ہے؟

(A) ترکمانستان (B) ترکی

(C) اردن (D) قازقستان

30. تیموری فن تعمیر کی آخری سمجھی جانے والی عمارت ہے۔

(A) تیمور کا مقبرہ (B) الحمرا

(C) سماوی مسجد (D) کوئی نہیں

31. تیمور کے مقبرہ کہاں اور کس نام سے تعمیر کیا گیا؟

(A) ثمرقند میں ''گور تیمور'' کے نام سے

(B) بخارا میں ''گور امیر'' کے نام سے

(C) ثمرقند میں ''گور امیر'' کے نام سے

(D) بخارا میں ''گور تیمور'' کے نام سے

32. بتایئے تیمور نے ''شاہ زندان'' کہاں بنوایا تھا؟

(A) بخارا (B) ثمرقند

(C) اناطولیہ (D) کوئی نہیں

33. اس معروف مسجد کا نام بتائیں جو کہ تیمور نے مشہد میں بنوائی تھی؟

(A) گواہر شہد (B) مشہد مسجد

(C) مسجد تیمور (D) کوئی نہیں

34. تعداد میں سب سے زیادہ اور بڑی مساجد ترکی میں پائی جاتی ہیں جن پر ______

(A) مشرقی رومن سلطنت کے نمونوں کے اثرات ہیں

(B) فارس سلطنت کے نمونوں کے اثرات ہیں

(C) شامی عرب کے نمونوں کے اثرات ہیں

(D) تمام A،B،C

35. فن تعمیر میں فاطمیوں نے زیادہ تر کن کی تکنیکوں اور تعمیری موادوں کو استعمال کیا تاہم کچھ اپنی طرف سے بھی جدت پیدا کی؟

(A) تمونی (B) صفوی

(C) اموی (D) ساسانی

36. درج ذیل میں سے کونسی عمارت فاطمی فن تعمیر کی بہترین مثال ہے؟

(A) مسجد الازھر (B) الازھر یونیورسٹی

(C) مسجد ال۔حاکم (D) تمام

37. فاطمی دور حکومت میں مسجد الاقمر کب تعمیر ہوئی جو کہ آج بھی موجود ہے؟

(A) 1120 (B) 1122

(C) 1123 (D) 1125

38. درج ذیل میں سے کونسی فاطمی تعمیر کو ایک طاقتور فاطمی امیر اور وزیر بدرال۔جمالی نے بنوایا تھا؟

(A) مسجد الاقمر

(B) قاہرہ کے شہر کی دیواروں پر یادگاری گیٹ

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

39. مسجد الحاکم کی تعمیر نو کس نے کی؟

(A) ڈاکٹر سیدنا محمد برہان الدین

(B) ڈاکٹر سیدنا محمد اصلاح الدین

(C) ڈاکٹر سیدنا محمد ذاکر الدین

(D) ڈاکٹر سیدنا محمد سبحان الدین

40. کن کا فن تعمیر اسلامی آرٹ کو انتہائی بلند مقام پر لے گیا اور جس کا زیادہ تر نظارہ قاہرہ، مصر میں نظر آتا ہے؟

(A) فاطمی (B) مملوک

(C) صفوی (D) کوئی نہیں

41. مملوک کے دور میں کس اسلامی مفکر نے قاہرہ کو "کائنات کا مرکز" اور "دنیا کا باغ" کا خطاب دیا؟

(A) ابن رشد (B) ابن سینا

(C) ابن خلدون (D) کوئی نہیں

42. مملوک سلطنت دو ادوار پر مشتمل ہے۔ یہ ادوار کیا کہلاتے ہیں؟

(A) بحری اور برجی مملوک (B) بحری اور وسطی مملوک

(C) برجی اور محمدی مملوک (D) کوئی نہیں

43. بحری مملوک کس کے کمپلیکس کی تعمیر کا آغاز ہوا؟

(A) حسن (B) حسین

(C) محمد حسن (D) کوئی نہیں

44. 16ویں صدی میں انڈیا میں مغل فن تعمیر میں-----

(A) عرب فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے

(B) فارسی فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے

(C) ہندو فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے

(D) تمام A،B،C

45. کس مغل بادشاہ نے شاہی شہر فتح پور سیکری کی تعمیر کروائی؟

(A) شاہجہاں (B) ہمایوں

(C) اورنگزیب (D) اکبر

46. انڈیا کی کس ریاست میں فتح پور سیکری کا شہر موجود ہے؟

(A) آگرہ (B) گووا

(C) کلکتہ (D) گجرات

47. درج ذیل میں سے فن تعمیر کا کونسا نمونہ مغل فن تعمیر کی یادگار مثال ہیں؟

(A) تاج محل (B) شالیمار باغ

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

48. کس دور سلطنت میں پہلی چینی مسجد تعمیر کی گئی؟

(A) Yang (B) Xian

(C) Youn (D) کوئی نہیں

49. پہلی چینی مسجد کب تعمیر کی گئی؟

(A) 5ویں صدی (B) 6ویں صدی

(C) 7ویں صدی (D) 8ویں صدی

50. کس شہر سے افریقی اسلامی فن تعمیر کا آغاز ہوا؟

(A) djenne (B) ٹمبکٹو

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

51. ٹمبکٹو کی کونسی مسجد سہارا فن تعمیر کی عمدہ مثال ہے؟

(A) منکوری مسجد (B) سنکوری مسجد

(C) زنکوری مسجد (D) کوئی نہیں

52. جدید اسلامی فن تعمیر نئی سطحوں کو چھو رہا ہے۔ دبئی میں کونسی عمارت دنیا کی بلند ترین عمارت ہے؟

(A) برج الدبئی (B) برج العرب

(C) برج الابوظہبی (D) کوئی نہیں

53. شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حج ٹرمینل کے ماہر تعمیرات کا نام بتائیں؟

(A) فضل اللہ (B) فضل الرحمان

(C) فضل دین (D) ان میں سے کوئی نہیں

54. فضل الرحمن نے تعمیرات کے لیے کون سا ایوارڈ حاصل کیا؟

(A) آسکر ایوارڈ (B) آغا خان ایوارڈ

(C) نیشنل ایوارڈ (D) انٹرنیشنل ایوارڈ

55. فضل الرحمان ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟

(A) پاکستان (B) ایران

(C) فلسطین (D) بنگلہ دیش

56. کس دہائی سے ٹیوب سٹرکچر دنیا کی بلند ترین عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہو رہا ہے؟

(A) 1950 (B) 1960
(C) 1965 (D) 1970

57. فضل الرحمان نے تعمیرات میں کونسا نمونہ ایجاد کیا؟
(A) ٹیوب سٹرکچر (B) ٹلٹ سٹرکچر
(C) ہیوج سٹرکچر (D) کوئی نہیں

58. اہم اسلامی فن تعمیر کی قسموں میں -------
(A) ابتدائی عباسی عمارتیں شامل ہیں
(B) ٹی ۔ ٹائپ مساجد شامل ہیں
(C) وسطی مینار والی مساجد شامل ہیں
(D) تمام

59. کن لوگوں نے وسطی مینار والی مساجد متعارف کروائیں تھیں؟
(A) ساسانی (B) اموی
(C) عباسی (D) عثمانی

60. اسلامی فن تعمیر میں ...... کا رواج فارس کے ساسانی فن تعمیر سے ہوا۔
(A) مقبرے (B) ستون
(C) ایوان (D) کوئی نہیں

61. کن کے دور میں مساجد میں ایوان کی تعمیر کا فن اپنے عروج کو پہنچا؟
(A) عباسی (B) سلطی
(C) سلجوقی (D) کوئی نہیں

62. سلجوقیوں کے دور میں تعمیرات کا کونسا فن پارہ اسلامی فن تعمیر کا بنیادی یونٹ بن گیا؟
(A) ایوان کی تعمیر (B) گنبدوں کی تعمیر
(C) دالانوں کی تعمیر (D) صحنوں کی تعمیر

63. آج کل ایوان مساجد شاذ و نادر ہی تعمیر ہوتی ہیں۔ ماضی قریب کی کونسی مسجد ایوان مسجد کی جدید ترین مثال ہے؟
(A) شاہ فیصل مسجد (B) شاہ عبداللہ مسجد
(C) شاہ سعود مسجد (D) کوئی نہیں

64. شاہ سعود مسجد کی تعمیر 1987 میں کہاں ہوئی؟
(A) جدہ، سعودی عرب (B) ریاض، سعودی عرب
(C) مکہ، سعودی عرب (D) مدینہ، سعودی عرب

65. باغات کی تعمیر کا فن کن کی ایجاد ہے؟
(A) مسلمان (B) عیسائی
(C) یہودی (D) ہندو

جوابات

1. (A)	2. (D)	3. (B)	4. (C)	5. (A)	6. (D)	7. (D)	8. (C)
9. (B)	10. (A)	11. (A)	12. (D)	13. (B)	14. (A)	15. (B)	16. (C)
17. (B)	18. (A)	19. (C)	20. (A)	21. (B)	22. (B)	23. (A)	24. (D)
25. (A)	26. (B)	27. (C)	28. (A)	29. (D)	30. (A)	31. (C)	32. (B)
33. (A)	34. (D)	35. (A)	36. (D)	37. (D)	38. (C)	39. (A)	40. (B)
41. (C)	42. (A)	43. (A)	44. (D)	45. (D)	46. (A)	47. (C)	48. (B)
49. (C)	50. (C)	51. (B)	52. (A)	53. (B)	54. (B)	55. (D)	56. (B)
57. (A)	58. (D)	59. (D)	60. (C)	61. (C)	62. (A)	63. (C)	64. (B)
65. (A)							

نقشہ نویسی یا نقشہ نگاری، علم ارضیات ومعدنیات

1. اس عباسی خلیفہ کا نام بتائیں جن کے زیر سایہ نقشہ نگاری کے فروغ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے؟

(A) ہارون الرشید (B) مامون الرشید

(C) امین الرشید (D) عبدالمالک دوئم

2. مسلمانوں نے کس کے دور میں قدیم [illegible] جاری کیا تھا؟

(A) مامون الرشید (B) امین الرشید

(C) ہارون الرشید (D) کوئی نہیں

3. الخوارزمی نے کہاں پر پرائم میریڈین سیٹ کیا تھا؟

(A) بحر اکاہل کے مشرقی ساحل پر

(B) بحر قلزم کے مشرقی ساحل پر

(C) بحر روم کے مشرقی ساحل پر

(D) کوئی نہیں

4. کس صدی میں ارضی گلوب تیار کیا گیا؟

(A) 8ویں صدی (B) 7ویں صدی

(C) 9ویں صدی (D) 10ویں صدی

5. مامون الرشید کے کس جغرافیہ دان قدیم دنیا کا پرائم میریڈن (Prime Meridian) سیٹ کیا تھا؟

(A) الخوارزمی (B) الکندی

(C) الجزری (D) کوئی نہیں

6. 9ویں صدی کے وسط میں کس نے "General Survey of Roads and Kingdoms" تحریر کیا؟

(A) الخوارزمی (B) اصطخری

(C) ابن شجاع (D) ابن موسیٰ

7. "General Survey of Roads and Kingdoms" جغرافیہ پر وہ پہلا مشرقی ایشیائی کام ہے جس میں ------

(A) ایران کا حوالہ موجود ہے

(B) برطانیہ کا حوالہ موجود ہے

(C) کوریا کا حوالہ موجود ہے

(D) زمبابوے کا حوالہ موجود ہے

8. کس نے ان خیالات کو ترویج دی کہ جنہیں پولر کارڈینیٹ (Polar Cordinate) نظام کا آغاز سمجھا جاتا ہے؟

(A) الخوارزمی (B) الہاشم

(C) اصطخری (D) البیرونی

9. 10ویں صدی کے اوائل میں کہاں پر ارضی نقشہ نگاری کا ادارہ "بلخی مدرسہ" کے نام سے شروع کیا گیا؟

(A) بصرہ (B) بلخ

(C) ال۔اندلس (D) بغداد

10. بلخی مدرسہ کا خالق کون تھا؟

(A) ابوعبداللہ البلخی (B) ابوزید البلخی

(C) ابواسامہ البلخی (D) ابوتراب البلخی

11. جارج سارٹن نے اپنی کس کتاب میں جابر بن حیان کے نظریات کا ذکر کیا ہے؟

(A) Introduction of History of Science

(B) Introduction of History of Metals

(C) Introduction of History of Earth

(D) کوئی نہیں

12. بلخی سکول کے کس جغرافیہ دان نے World Atlases تخلیق کیے اور ہر ایک میں ایک دنیا کا نقشہ اور 20 علاقائی نقشے بھی رکھے؟

(A) اصطخری (B) المقدسی

(C) ابن حوقل (D) تمام

13. کس نے جابر بن حیان کے بارے میں لکھا کہ ''ہم جابر کی تحریروں میں دھاتوں کی ارضیاتی تشکیل کے بارے میں قابل ذکر نظریات پاتے ہیں؟

(A) جارج ولیم (B) جارج سارٹن

(C) جارج میکلڈوسی (D) کوئی نہیں

14. علم ارضیات میں البیرونی نے کس علاقے کی سرزمین کا مشاہدہ کیا؟

(A) ایران (B) عراق

(C) چین (D) انڈیا

15. کس جغرافیہ دان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سرزمین انڈیا کبھی ایک سمندر تھی؟

(A) البیرونی (B) اصطخری

(C) جابر بن حیان (D) کوئی نہیں

16. البیرونی کی اس کتاب کا نام بتائیں جس میں انہوں نے یہ نتیجہ پیش کیا کہ زمین مسلسل متحرک ہے؟

(A) Book of Coordinales

(B) Book of Geology

(C) Book of Earth

(D) کوئی نہیں

17. ابن سینا کی کتاب ''کتاب الشفا'' کا پارٹ 2 اور سیکشن 5 ----------

(A) ان کے علم معدنیات پر لکھے گئے مضمون پر مشتمل ہے

(B) ان کے علم موسمیات پر لکھے گئے مضمون پر مشتمل ہے

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

18. اس پہلی کتاب کا نام بتائیں جو کہ تین انواع دھاتوں، پودوں اور جانوروں پر بات کرتی ہے؟

(A) کتاب الشفاء (B) کتاب السبز

(C) کتاب الانواع (D) کوئی نہیں

19. اس پہلے سائنسدان کا نام بتائیں جنہوں نے ارضیاتی سائنسز میں تجربے کو متعارف کروایا؟

(A) الخوارزمی (B) الکندی

(C) الجوہری (D) ابن ہیجاج

20. "Efficient Cause of the Flow and Ebb" کے مصنف کا نام بتائیں؟

(A) الکندی (B) ابن شجاع

(C) اصطخری (D) کوئی نہیں

21. کون سا علم موضوع ہے The efficient cause of the Flow and Ebb?

(A) علم ارضیات (B) علم معدنیات

(C) علم دھات (D) علم موسمیات

22. کس صدی میں ابن وحشیہ نے ''نباتین ایگری کلچر'' تحریر کی؟

(A) 9ویں صدی (B) 10ویں صدی

(C) 11ویں صدی (D) 12ویں صدی

23. نباتین ایگری کلچر میں ابن وحشیہ نے ________

(A) فضائی تبدیلیوں کی موسمیاتی پیش گوئی کی بات کی

(B) ہوا کی حرکت پر منحصر موسمیاتی پیش گوئی کی بات کی

(C) بجلی کی گرج اور چمک کی بات کی

(D) تمام C،B،A

24. کس صدی میں بوعلی سینا نے ہوائی تھرمامیٹر ایجاد کیا؟

(A) 9ویں صدی میں (B) 10ویں صدی میں

(C) 11ویں صدی میں (D) 12ویں صدی میں

25. ہائیڈروسٹیٹک بیلنس پر کب الخزنی نے سب سے پہلی کتاب لکھی؟

(A) 1100 (B) 1121

(C) 1200 (D) 1221

26. ہائیڈروسٹیٹک بیلنس پر الخزنی کتاب کا نام تحریر کریں؟

(A) The Book of Balance of Wisdom

(B) Optics

(C) رسالہ نی دا (D) کوئی نہیں

27. 13ویں صدی کے اواخر میں کس نے ابن الہیثم کے کام کو جاری رکھا اور پہلی بار قوس قزح کی درست وضاحت پیش کی؟

(A) قطب الدین الشیرازی (B) کمال الدین فارسی

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

28. قطب الدین الشیرازی اور کمال الدین فارسی کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟

(A) باپ بیٹا (B) سسر داماد

(C) چچا بھتیجا (D) استاد شاگرد

29. اس جغرافیہ دان کا نام بتائیں جنہوں نے مکہ میں حج میں جانے والے قافلے کے ساتھ سفر شروع کیا لیکن اپنے سفر کو 30 سال تک جاری رکھا؟

(A) الرازی (B) البیرونی

(C) الخوارزمی (D) ابن بطوطہ

30. ابن بطوطہ نے کس صدی میں اپنا سفر شروع کیا؟

(A) 12ویں (B) 13ویں

(C) 14ویں (D) 15ویں

31. ابن بطوطہ کا تعلق کس اسلامی ملک سے تھا؟

(A) شام (B) عراق

(C) ایران (D) مراکش

32. کس صدی میں فتح اللہ شیرازی نے کئی پہیے والی کیرج (Carriage) کو ایجاد کی؟

(A) 16ویں صدی میں (B) 15ویں صدی میں

(C) 14ویں صدی میں (D) 13ویں صدی میں

33. زمین پر الخوارزمی کی کتاب "صورت الارض" کب مکمل ہوئی؟

(A) 800 (B) 820

(C) 833 (D) 838

34. مسلم عالم محمد الکشغری نے کب Compendium of the Languages of the Turks کو تحریر کیا؟

(A) 10ویں صدی (B) 11ویں صدی

(C) 12ویں صدی (D) 13ویں صدی

35. کس کتاب میں دنیا کا Turkocenric نقشہ پیش کیا گیا؟

(A) compendium of languages of Turks

(B) Introduction of History of sciences

(C) General Survey of Roads and Kingdans

(D) کوئی نہیں

36. دنیا کے Turkocentric نقشے میں دنیا کو .... سے گھرا ہوا دکھایا گیا ہے؟

(A) صحراؤں (B) دریاؤں

(C) نخلستان (D) بحروں

37. Turkocentric نقشہ آج کل بیرا عجائب گھر میں موجود ہے۔ یہ عجائب گھر کس شہر میں واقع ہے؟

(A) مکہ (B) تہران

(C) کرغستان (D) استنبول

38. نقشہ نویس پیری ریس کا تعلق ....
(A) سلطنت مغلیہ سے تھا
(B) سلطنت صفوی سے تھا
(C) سلطنت بنوامیہ سے تھا
(D) سلطنت عثمانیہ سے تھا

39. پیری ریس نے اپنی کس کتاب میں Navigational نقشے شائع کیے؟
(A) کتاب ال نقشہ (B) کتاب البحریہ
(C) کتاب البحر (D) کوئی نہیں

40. پیری ریس نے اپنے نقشے کب کتاب البحریہ میں شائع کیے؟
(A) 1500 (B) 1510
(C) 1513 (D) 1515

41. پیری ریس کے بنائے ہوئے دنیا کے نقشے سے متعلق درج ذیل میں سے کونسا بیان درست ہے؟
(A) محفوظ رہ جانے والے اسلامی نقشوں میں امریکہ کو ظاہر کرنے والا یہ سب سے قدیم نقشہ ہے۔
(B) اپنے اندر انٹارکٹیکا کو شامل کرنے والا سب سے پہلا نقشہ ہے
(C) یہ 16ویں صدی میں سب سے درست نقشہ خیال کیا جاتا تھا
(D) تمام A، B، C

جوابات

1. (B)	2. (A)	3. (C)	4. (B)	5. (A)	6. (B)	7. (C)	8. (D)
9. (D)	10.(D)	11.(A)	12.(D)	13.(B)	14.(D)	15.(A)	16.(A)
17.(C)	18.(A)	19.(B)	20.(B)	21.(D)	22.(B)	23.(D)	24.(C)
25.(B)	26.(A)	27.(C)	28.(D)	29.(D)	30.(B)	31.(D)	32.(A)
33.(C)	34.(B)	35.(A)	36.(D)	37.(D)	38.(D)	39.(B)	40.(C)
41.(D)							

مسلم جغرافیہ دان

1. عالم اسلام کا سب سے بڑا جیوگرافر اور مورخ تھا۔
(A) ابوالحسن مسعودی (B) الخوارزمی
(C) البیرونی (D) حسن ہمدانی

2. ابوالحسن مسعودی نے کتب تالیف کیں۔
(A) 32 (B) 33
(C) 34 (D) 35

3. ابوالحسن مسعودی کا مرتب کردہ انسائیکلو پیڈیا جتنی جلدوں پر مشتمل تھا۔
(A) 29 (B) 30
(C) 31 (D) 32

4. اسلامی دنیا کا سب سے پہلا جیوگرافر تھا۔
(A) ابن حوقل (B) البیرونی
(C) ابوالحسن مسعودی (D) الخوارزمی

5. الخوارزمی کی جغرافیہ پر کتاب تھی۔
(A) المسالک والممالک (B) آثار الباقیہ
(C) صورت الارض (D) صبور الاقالیم

6. الخوارزمی نے جتنے شہروں کے طول و عرض بلد کے جدول دیے۔
(A) 2 ہزار (B) 3 ہزار
(C) 4 ہزار (D) 5 ہزار

7. الخوارزمی اور البیرونی نے زمین کا معلوم کیا۔
(A) رقبہ (B) قطر
(C) حجم (D) ارتفاع

8. جغرافیائی سائنسدان جس نے ہندوستان کے کئی شہروں کے طول و عرض بلد تیار کیے۔
(A) یوسف کندی (B) احمد سرخسی
(C) ابن الہیثم (D) البیرونی

9. الخوارزمی نے دنیا کو جتنے اقلیم میں تقسیم کیا۔
(A) 5 (B) 6
(C) 7 (D) 8

10. کتاب الہند اور آثار الباقیہ کا مصنف ہے۔
(A) البیرونی (B) الخوارزمی
(C) ابوالحسن مسعودی (D) ابن حوقل

11. دریائے سندھ اور پنجاب کے دریاؤں کو نام دیے۔
(A) ابوزید بلخی (B) البیرونی
(C) الخوارزمی (D) سلیمان دی مرچنٹ

12. البیرونی نے کتابوں کے تراجم کیے سنسکرت اور
(A) اردو میں (B) فارسی میں
(C) ترکی میں (D) عربی میں

13. البیرونی نے کتب لکھیں۔
(A) 170 (B) 180
(C) 190 (D) 200

14. البیرونی کے نزدیک زمین کی شکل ہے۔
(A) مخروطی (B) مستطیلی
(C) بیضوی (D) دائروی

15. ہندو پنڈت جس سائنسدان کو ودیا ساگر کہتے تھے۔
(A) جابر بن حیان (B) بوعلی سینا
(C) البیرونی (D) ابن الہیثم

16. ودیا ساگر کے معنی ہے۔

(A) علم کا سمندر (B) علم کا دریا
(C) علم کی نہر (D) علم کا چشمہ

17. البیرونی نے وفات پائی۔
(A) 1044ء (B) 1046ء
(C) 1048ء (D) 1050ء

18. علم جس کا البیرونی بانی کہلاتا ہے۔
(A) ریاضیات (B) حیاتیات
(C) فلکیات (D) ارضیات

19. عربی میں جغرافیہ کی سب سے پرانی کتاب کا مصنف ہے۔
(A) ابوالقاسم بن حوقل (B) ابوالقاسم بن خرداذبہ
(C) ابودلف ینبوعی (D) احمد سرخسی

20. عربی میں چین پر پہلی کتاب لکھی۔
(A) سلیمان دی مرچنٹ (B) ابوزید بلخی
(C) حسن ہمدانی (D) محمد بن احمد المقدسی

21. بطلیموس کی کتاب جغرافیہ کا عربی ترجمہ کیا۔
(A) یعقوبی (B) ثابت بن قرہ
(C) ابوالحسن مسعودی (D) الخوارزمی

22. کثیر نقشوں والی کتاب سور الاقالیم کا مصنف تھا۔
(A) حسن ہمدانی (B) احمد سرخسی
(C) یوسف الکندی (D) ابوزید بلخی

23. جغرافیہ پر سب سے اہم ماخذ کتاب کا مصنف تھا۔
(A) البیرونی (B) محمد بن احمد
(C) ابوالقاسم بن حوقل (D) ابوالحسن مسعودی

24. محمد بن احمد المقدسی نے اسلامی ممالک کا جتنے سال سفر کیا۔
(A) 20 سال (B) 19 سال
(C) 18 سال (D) 17 سال

جوابات

1. (A)	2. (C)	3. (B)	4. (D)	5. (C)	6. (A)	7. (B)	8. (D)
9. (C)	10. (A)	11. (B)	12. (D)	13. (B)	14. (D)	15. (C)	16. (A)
17. (C)	18. (D)	19. (B)	20. (A)	21. (B)	22. (D)	23. (C)	24. (A)

اسلامی فنون لطیفہ

1. اسلام کا فنون لطیفہ کا دور 750 سے شروع ہوتا اور ۔۔۔۔ صدی میں ختم ہوتا ہے۔
(A) 12 ویں (B) 14 ویں
(C) 16 ویں (D) 18 ویں

2. مسلمانوں کے قالین سازی کے فن سے زیادہ کوئی اور فن ان کی سرزمین سے باہر شہرت حاصل نہ کر سکا۔ وہ قالین کیا کہلاتے تھے؟
(A) اورینٹل قالین (B) فارسی قالین
(C) اوریجنل قالین (D) کوئی نہیں

3. سرامکس کے کام میں چمکیلی سطح کے پیش کار کون تھے؟
(A) یہودی (B) عیسائی
(C) مسلمان (D) ساسانی

4. برتن سازی کی کونسی تکنیک مسلم برتن سازوں کی ایجاد ہے؟
(A) Tin-Opacified Glazing
(B) Stonepaste سرامکس
(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

5. پہلے اسلامی Opaque Glazes کا آغاز کہاں سے آٹھویں صدی میں ہوا؟
(A) بصرہ (B) کوفہ
(C) مکہ (D) دمشق

6. Stonepaste سرامکس کا آغاز اسلامی دنیا کے کس حصے سے 9 ویں صدی میں ہوا؟
(A) ایران (B) فلسطین
(C) مصر (D) عراق

7. برتن سازی کا پہلا صنعتی کمپلیکس کب الرقاح میں قائم ہوا؟
(A) 7 ویں صدی (B) 8 ویں صدی
(C) 9 ویں صدی (D) 10 ویں صدی

8. الرقاح کہاں واقع ہے؟
(A) عراق (B) یمن
(C) شام (D) کویت

9. عباسی دور خلافت میں کس فارسی کیمیا دان نے چمکیلے چینی کے ظروف (Lustreware) ایجاد کیے؟
(A) جابر ابن حیان (B) بوعلی سینا
(C) ابن خلدون (D) کوئی نہیں

10. جابر بن حیان نے کہاں پر آٹھویں صدی میں لسٹرویئر کا آغاز کیا؟
(A) ایران (B) مصر
(C) قسطنطنیہ (D) عراق

11. چمکیلے چینی کے ظروف کا فن کب اطالویوں نے اپنایا؟
(A) 15 ویں صدی میں (B) 16 ویں صدی میں
(C) 17 ویں صدی میں (D) 18 ویں صدی میں

12. اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ معروف ادبی نمونہ کونسا ہے؟
(A) دی بک آف ون تھاؤزنڈ اینڈ ون نائٹس
(B) دی بک آف عریبک نائٹس
(C) دی بک آف عریبک ڈیلز

(D) کوئی نہیں

13. دی بک آف ون تھاؤزنڈ اینڈ ون نائٹس بہت سی علاقائی کہانیوں کا مجموعہ ہے جنہیں کس ایرانی ملکہ نے سنایا؟

(A) شاہ نور (B) شہرزادہ

(C) شاہینہ (D) کوئی نہیں

14. دی بک آف ون تھاؤزنڈ اینڈ ون نائٹس 10 ویں صدی میں تشکیل پائی۔ کب یہ اپنی آخری شکل کو پہنچی؟

(A) 12 ویں صدی (B) 13 ویں صدی

(C) 14 ویں صدی (D) 15 ویں صدی

15. تمام عربی طلسماتی کہانیاں جب انگریزی زبان میں منتقل کی جاتی ہیں تو کیا کہلاتی ہیں؟

(A) تھاؤزنڈ نائٹس (B) عریبین نائٹس

(C) ون تھاؤزنڈ اینڈ ون نائٹس (D) کوئی نہیں

16. فردوسی کا کونسا ادبی نمونہ ایرانی تاریخ کو heroic انداز میں بیان کرتا ہے؟

(A) فردوس نامہ (B) شاہ نامہ

(C) فارسی نامہ (D) تاریخ نامہ

17. درج ذیل میں سے کونسا ادبی نمونہ ایرانی تاریخ پر معروف نمونہ ہے جس نے بعد میں آنے والے بہت سے ادب کو متاثر کیا؟

(A) عامر ارسلان (B) حامد ارسلان

(C) اسعد ارسلان (D) علی ارسلان

18. "لیلیٰ مجنوں" محبت پر لکھی جانے والی ------ کی معروف ترین مثال ہے؟

(A) عربی شاعری (B) ایرانی شاعری

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

19. لیلیٰ مجنوں 7 ویں صدی کے کس دور خلافت میں لکھی گئی؟

(A) عباسی دور خلافت (B) اموی دور خلافت

(C) صفوی دور خلافت (D) کوئی نہیں

20. انگریزی ادب کا کونسا معروف فن پارہ لیلیٰ مجنوں کے اطالوی Version سے متاثر ہے؟

(A) ہیملٹ (B) پیراڈائز لوسٹ

(C) رومیو اینڈ جیولٹ (D) کوئی نہیں

21. کونسے مسلم عالم فلسفیانہ ناول کے بانی تصور کیے جاتے ہیں؟

(A) ابن طفیل (B) ابن نفیس

(C) دونوں B،A (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

22. The incoherence of Philosophy کو کس نے لکھا؟

(A) ابن نفیس (B) الغزالی

(C) ابن خلدون (D) کوئی نہیں

23. کس نے The incoherence of Philosophy کے جواب میں پہلا عربی ناول Hayy Ibn Yadhan لکھا؟

(A) ابن نفیس (B) ابن تاجر

(C) ابن طفیل (D) کوئی نہیں

24. کس نے ابن طفیل کے Hayy-ibn Yaqdhan کے جواب میں Theologus Autodidactus لکھا؟

(A) ابن نفیس (B) بوعلی سینا

(C) الخاری (D) الکندی

25. ادب کی تاریخ کے پہلے سائنسی ناول کا نام لکھیں؟

(A) Theologus Autodidactus

(B) Theologus Automathus

(C) Theologus Philosophus

(D) کوئی نہیں

26. ابن طفیل کے کس ناول کے لاطینی ترجمے کو Philosophus

Autodidactus کا نام دیا گیا؟

(A) حسی ابن یلقان (B) حسی ابن یقظان

(C) حسی ابن موسیٰ (D) کوئی نہیں

27. ابن طفیل کے حسی ابن یقظان کا لاطینی زبان میں ترجمہ کب منظر عام پر آیا؟

(A) 1670 (B) 1671

(C) 1672 (D) 1673

28. کب سائمن اوکلے نے حسی ابن یقظان کا ترجمہ انگریزی زبان میں لکھا؟

(A) 1700 (B) 1703

(C) 1705 (D) 1708

29. Philosophus Autodidactus نے کس کو متاثر کیا اور اس نے The Aspiring Naturalist لکھا؟

(A) رابرٹ بائل (B) رابرٹ سائمن

(C) سائمن اوکلے (D) رچرڈ رچرڈسن

30. The Aspiring Naturalist کا اثر Rousseau کے کس فن پارے پر نظر آتا ہے؟

(A) ایمیلی (Emily) (B) آن ایجوکیشن

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

31. روڈیارڈ کپلنگ موگلی کی کہانی اور ٹارزن کی کہانی بھی The Aspiring Naturalist کی اثرات رکھتی ہیں۔ یہ کہانیاں کپلنگ کی کس کتاب میں ہیں؟

(A) دی جنگل بک (B) کپلنگ بک

(C) نیچرل بک (D) کوئی نہیں

32. ابن طفیل کے Hayy-ibn Yaqdhan کا کب ایڈورڈ ڈیکوک نے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا؟

(A) 1650 (B) 1668

(C) 1645 (D) 1671

33. 1708 میں سائمن اوکلے نے کس زبان میں Hayy-ibn Yaqdhan کا ترجمہ کیا؟

(A) انگریزی (B) لاطینی

(C) فرانسیسی (D) یونانی

34. انگریزی اور لاطینی کے علاوہ کس زبان میں Hayy-ibn Yaqdhan کا ترجمہ ہوا؟

(A) ڈچ (B) جرمن

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

35. Hayy-ibn Yaqdhan کے مختلف زبان میں تراجم نے کس کو متاثر کیا اور اس نے روبنسن کروسو لکھا جو کہ انگریزی کا پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے؟

(A) ڈینیل ڈیفو (B) جیمز وفس

(C) تھیمز کروسو (D) کوئی نہیں

36. Dante Alghierei کی "Divine Comedy" کس زبان کے ادب کی سب سے عظیم کہانی تصور کی جاتی ہے، یہ کہانی بالواسطہ اور بلاواسطہ طور پر عربی ادب سے متاثر ہے؟

(A) فرانسیسی (B) اطالوی

(C) فارسی (D) انگریزی

37. مورز (Meors) بھی --------

(A) جارج پیلے کے ادبی کارناموں پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔

(B) شیکسپئر کے ادبی کارناموں پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

38. جارج پیلے کے کس ناول کا کردار "Titus Andronius" مورش کردار سے مشابہت رکھتا ہے؟

(A) دی جیل آف اکازار (B) دی جیل آف ونٹر

(C) دی جیل آف لینڈز (D) دی جیل آف وار

39. شیکسپیئر کا معروف کردار اوتھیلو بھی بالکل مورش ہے۔ اوتھیلو شیکسپیئر کے کس ناول کا کردار ہے؟

(A) دی مرچنٹ آف وینس (B) ہیملٹ

(C) ٹویلفتھ نائٹ (D) کوئی نہیں

40. قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا میں تھیٹرز کی معروف ترین شکل کونسی موجود تھی؟

(A) کٹھ پتلی تھیٹر (B) براہ راست کھیل

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

41. اسلامی دنیا کے تھیٹرز میں براہ راست مذہبی کھیل کس نام سے پیش ہوتے تھے؟

(A) تعزیہ (B) تانیہ

(C) وجد (D) کوئی نہیں

42. اسلامی دنیا کے تھیٹرز میں براہ راست سیکولر کھیل کس نام سے پکارے جاتے تھے؟

(A) اخراجا (B) اخراج

(C) تعزیہ (D) کوئی نہیں

43. ترکی شیڈو تھیٹرز کا نام بتائیں جس نے کٹھ پتلی کے فن میں بہت شہرت حاصل کی؟

(A) اخراجا (B) کاراگوز

(C) عرج (D) کوئی نہیں

44. کاراگوز تھیٹرز براستہ انڈیا ---------

(A) روس میں پہنچا (B) چین میں پہنچا

(C) جاپان میں پہنچا (D) کوئی نہیں

45. کن لوگوں نے تھیٹرز کے فن کو چینیوں سے حاصل کر کے اسے وسطی ایشیا کے ترک لوگوں تک پہنچایا؟

(A) منگول (B) تاتاری

(C) جاپانی (D) کوئی نہیں

جوابات

1. (C)	2. (A)	3. (C)	4. (C)	5. (A)	6. (D)	7. (B)	8. (C)
9. (A)	10. (D)	11. (A)	12. (A)	13. (B)	14. (C)	15. (B)	16. (B)
17. (A)	18. (C)	19. (B)	20. (C)	21. (C)	22. (B)	23. (C)	24. (A)
25. (A)	26. (B)	27. (B)	28. (D)	29. (A)	30. (C)	31. (A)	32. (D)
33. (A)	34. (C)	35. (A)	36. (B)	37. (C)	38. (A)	39. (A)	40. (C)
41. (A)	42. (A)	43. (B)	44. (B)	45. (A)			

اسلامی موسیقی

1. مغربی موسیقی میں استعمال ہونے والے بہت سے آلات موسیقی عربی آلات موسیقی سے ماخوذ ہیں۔ بتائیے بانسری کس عربی آلہ موسیقی سے نکلا ہے؟

(A) العود (Alude) (B) العودہ
(C) العورا (D) کوئی نہیں

2. Rebec آلہ موسیقی کس عربی آلہ موسیقی سے ماخوذ ہے؟

(A) العود (B) رباب
(C) رو (D) کوئی نہیں

3. انگریزی Albuka --------

(A) عربی البا سے نکلا ہے
(B) عربی ال۔بک سے نکلا ہے
(C) عربی رباب سے نکلا ہے
(D) عربی العود سے نکلا ہے

4. انگریزی گٹار عربی-------

(A) نقارہ سے نکلا ہے (B) دف سے نکلا ہے
(C) تراب سے نکلا ہے (D) کتارا سے نکلا ہے

5. انگریزی Nakev عربی-----

(A) کاستان سے نکلا ہے (B) نقارہ سے نکلا ہے
(C) طبل سے نکلا ہے

6. کس عربی آلہ موسیقی سے انگریزی آلہ موسیقی Adufe ماخوذ ہے؟

(A) دف (B) طبل
(C) نقارہ (D) کوئی نہیں

7. کس عربی آلہ موسیقی سے انگریزی آلہ موسیقی Anafil ماخوذ ہے؟

(A) ال۔نفر (B) دف
(C) طبل (D) کوئی نہیں

8. کونسا انگریزی آلہ موسیقی عربی آلہ موسیقی ال۔شبابہ سے ماخوذ ہے؟

(A) گٹار (B) Adufe
(C) Exabeba (D) Theorobo

9. کون انگریزی آلہ موسیقی عربی آلہ موسیقی ال۔طبل سے ماخوذ ہے؟

(A) Atable (B) تیگر
(C) Canon (D) کوئی نہیں

10. کونسا انگریزی آلہ موسیقی عربی آلہ موسیقی ال۔تبال سے ماخوذ ہے؟

(A) Atambal (B) Theorbo
(C) Canon (D) Castanet

11. اس انگریزی آلہ موسیقی کے بارے میں بتائیں جو کہ عربی آلہ موسیقی کاستان سے ماخوذ ہے؟

(A) Canon (B) Castanet
(C) Adufe (D) کوئی نہیں

12. انگریزی Sonajas de Azofer عربی------

(A) سوج السرف سے ماخوذ ہے
(B) دنوج سے ماخوذ ہے
(C) صنوج سے ماخوذ ہے (D) کوئی نہیں

13. انگریزی Canon عربی-------

(A) قونان سے ماخوذ ہے (B) قانون سے ماخوذ ہے

(C) قنوج سے ماخوذ ہے (D) کوئی نہیں

14. انگریزی Geige Wamkin عربی-----

(A) Ghienak سے ماخوذ ہے

(B) الفصر سے ماخوذ ہے

(C) اشبابہ سے ماخوذ ہے

(D) نقارہ سے ماخوذ ہے

15. انگریزی Theorbo عربی-------

(A) نقارہ سے ماخوذ ہے (B) سنوج سے ماخوذ ہے

(C) العو سے ماخوذ ہے (D) تراب سے ماخوذ ہے

16. وہ کونسا قبیلہ تھا جس کا اسلامی موسیقی پر اثر سب سے زیادہ ہے؟

(A) سلجوق ترک (B) صفوی

(C) فاطمی (D) تاتاری

17. مختلف دھنوں میں بغیر موسیقی کے مذہبی گانے کیا کہلاتے ہیں؟

(A) ناشید (B) نعت

(C) حمد (D) کوئی نہیں

18. صوفی عبادات کو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟

(A) عبادۃ (B) ذکر

(C) صوم (D) کوئی نہیں

19. کونسے ترک صوفی اپنی دل فریب مذہبی موسیقی کی وجہ سے مغرب میں بہت معروف ہیں؟

(A) Mevlevi (B) کلمدش

(C) میرب (D) کوئی نہیں

20. ترکی میں مقدس گانوں کے پروگراموں کو کیا کہتے ہیں؟

(A) محافل ادب (B) میلاد

(C) محافل سماء (D) کوئی نہیں

21. شاعری کی کس مذہبی شکل میں کسی کی مدح رکھی جاتی ہے؟

(A) قصیدہ (B) غزل

(C) نظم (D) آزاد نظم

22. قصیدہ کی قسموں میں حمد نعت-------

(A) منقبت شامل ہیں (B) مدح شامل ہیں

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

23. قصیدہ کی ایک شکل..........

(A) منقبت ہے (B) مدح ہے

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

24. منقبت کس کی تعریف میں لکھی جاتی ہے؟

(A) اللہ پاک کی تعریف میں

(B) نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں

(C) صوفیا کرام کی تعریف میں

(D) کوئی نہیں

25. "مدح" کس کی تعریف میں لکھی جاتی ہے؟

(A) قابل احترام شخصیات (B) طلباء

(C) فلاحی اداروں (D) روزہ داروں

26. انڈیا اور پاکستان میں مذہبی گانے کیا کہلاتے ہیں؟

(A) منقبت (B) قوالی

(C) حمد (D) کوئی نہیں

27. روائتی قوالی کے پروگراموں میں حمد نعت-----

(A) منقبت شامل ہیں (B) غزل شامل ہیں

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

28. پاکستان کے اس قوال کا نام بتائیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قوالی میں جتنی جہتیں اور موسیقی کے سٹائل اس نے متعارف کروائے ہیں ابھی تک کوئی اور نہ کر سکا؟

(A) استاد نصرت فتح علی خان (B) استاد عشرت خان

(C) استاد حامد علی خان (D) کوئی نہیں

29. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر مختلف علاقائی طریقوں سے جو موسیقی پرفارم کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟

(A) مولد موسیقی (B) سکری موسیقی

(C) منظومہ موسیقی (D) مدح نبوی

30. تازیہ کچھ موسیقی کا اور کچھ مذہبی کھیل ہے۔ یہ سب سے زیادہ کس ملک میں پایا جاتا ہے؟

(A) عراق (B) ایران

(C) مصر (D) بنگلہ دیش

31. کونسا میوزک محرم کے دوران حضرت امام حسینؓ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر افسوس کے لیے بجایا جاتا ہے؟

(A) عاشورہ موسیقی (B) محرم موسیقی

(C) غمگین موسیقی (D) کوئی نہیں

32. کس عربی لفظ سے لفظ سکری ماخوذ ہے؟

(A) ذکر (B) ادب

(C) عبادہ (D) صوم

33. سکری کو قادریہ سلسلے کے صوفی زیادہ تر پرفارم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق ------

(A) مشرقی افریقہ (B) جنوبی افریقہ

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

34. اخلاقی گانے منظومہ کہاں ادا کیے جاتے ہیں؟

(A) ایتھوپیا (B) فلسطین

(C) ویت نام (D) ایران

35. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہے جانے والے اشعار کو کیا کہتے ہیں؟

(A) مدح نبوی (B) نعت

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

36. پاکستان کے معروف صوفی گلوکار ہیں۔

(A) نصرت فتح علی خان (B) عابدہ پروین

(C) صابری برادرز (D) تمام C،B،A

جوابات

1. (A)	2. (C)	3. (C)	4. (D)	5. (C)	6. (A)	7. (A)	8. (C)
9. (A)	10. (A)	11. (B)	12. (A)	13. (C)	14. (B)	15. (D)	16. (A)
17. (A)	18. (B)	19. (A)	20. (C)	21. (A)	22. (C)	23. (C)	24. (C)
25. (A)	26. (C)	27. (C)	28. (A)	29. (A)	30. (C)	31. (A)	32. (A)
33. (C)	34. (A)	35. (C)	36. (D)				

آلات (Instruments)

1. اصطرلاب (Astrolab) قدیم زمانے میں کس کام آتی تھی؟
(A) اجرام فلکی کی بلندی معلوم کرنے کے کام آتا تھا
(B) جہازرانی میں کام آتا تھا
(C) دونوں B،A
(D) دونوں میں سے کوئی نہیں

2. اسلامی دنیا میں تانبے کی اصطرلاب بنائی جاتی [illegible] زیادہ تر .... کی تلاش میں معاونت کرتی تھیں۔
(A) قبلہ
(B) ڈوبے ہوئے جہاز
(C) دم دار ستارے
(D) کوئی نہیں

3. اصطرلاب کی ابتدائی ترین معلوم مثال کس تاریخ میں ملتی ہے؟
(A) 300 ہجری
(B) 308 ہجری
(C) 310 ہجری
(D) 315 ہجری

4. اس پہلے شخص کا نام بتائیں جسے اسلامی دنیا میں اصطرلاب بنانے کا کریڈٹ جاتا ہے؟
(A) فزری
(B) جسری
(C) غامدی
(D) کوئی نہیں

5. 10ویں صدی میں کس نے پہلی بار اصطرلاب کے 1000 سے زائد مختلف میدانوں میں استعمال کو بیان کیا؟
(A) فزری
(B) الصوفی
(C) الکندی
(D) الموی

6. کس نے کئی سال تک سورج کی پوزیشن کے لیے 1000 سے زائد entries اصطرلاب سے مشاہدہ میں لائیں؟
(A) ابن یوسف
(B) ابن یونس
(C) الخجندی
(D) الفارابی

7. ابن یونس کی اصطرلاب کا قطر کتنا تھا؟
(A) 1.4 میٹر
(B) 1.3 میٹر
(C) 1.2 میٹر
(D) 1.1 میٹر

8. 8 گراریوں کے ساتھ اصطرلاب کو البیرونی نے کب بنایا؟
(A) 900
(B) 950
(C) 968
(D) 996

9. کس نے املاء کے سائنسی مطالعہ کی اصطرلاب کو ایجاد کیا اور اس پر ابتدائی ترین تحریریں بھی لکھیں؟
(A) البیرونی
(B) الکندی
(C) الہیثم
(D) الرازی

10. الزرقی کا تعلق ______
(A) عراق سے تھا
(B) ایران سے تھا
(C) اندلس سے تھا
(D) مصر سے تھا

11. کس صدی میں الزرقی نے پہلی یونیورسل اصطرلاب بنائی جو کہ پرانی اصطرلاب کے برعکس زمین پر کہیں بھی استعمال ہو سکتی تھی؟
(A) 9ویں صدی
(B) 10ویں صدی
(C) 11ویں صدی
(D) 12ویں صدی

12. الزرقی کی یونیورسل اصطرلاب یورپ میں کس نام سے پکاری گئی؟
(A) Saphaea
(b) Aster
(C) Aster Lab
(D) کوئی نہیں

13. ہیلوسینٹرک (Heliocentric) سیاروی ماڈل کے لیے السجزی نے ایک اصطرلاب بنائی۔ اسکا نام بتائیں؟

(A) زراق (B) زوراق

(C) اعطر (D) صوفیہ

14. 14ویں صدی میں کہاں پر ابن شاطر نے اصطرلاب کلاک ایجاد کیا تھا؟

(A) مصر (B) ایران

(C) عراق (D) شام

15. اسلامی دنیا میں بہت سے اینالوگ کمپیوٹر بنائے گئے تاکہ ـــــ

(A) سورج کے عرض بلد کا حساب رکھا جا سکے

(B) چاند کے عرض بلد کا حساب رکھا جا سکے

(C) سیاروں کے عرض بلد کا حساب رکھا جا سکے

(D) تمام A،B،C

16. ابو اسحاق الزرقالی نے کہاں پر اینالوگ کمپیوٹر Equatorium ایجاد کیا؟

(A) عراق (B) یمن

(C) فلسطین (D) ال-اندلس

17. Plainosphere ابتدائی ترین ـــــ

(A) ستار چارٹ تھا (B) اینالوگ کمپیوٹر تھا

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

18. 11ویں صدی میں کس نے Plainosphere کو ایجاد کیا اور اس پر کتاب لکھی؟

(A) الفارابی (B) البیرونی

(C) الکاشی (D) الجزری

19. جابر ابن الافلح نے Torquetum ایجاد کیا جو کہ ایک ـــــ

(A) مشاہداتی آلہ ہے

(B) میکینیکل اینالوگ کمپیوٹر ہے

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

20. کب الجزری نے اپنا سب سے بڑا فلکیاتی کلاک ایجاد کیا؟

(A) 1200 (B) 1203

(C) 1208 (D) 1206

21. الجزری کا فلکیات کلاک پہلا پروگرام ایبل اینالوگ کمپیوٹر خیال کیا جاتا ہے۔ اسکا نام کیا تھا؟

(A) پروگرام کلاک (B) Castle کلاک

(C) Rumble کلاک (D) کوئی نہیں

22. ابوبکر اصفہانی نے کب تانبے کی اصطرلاب ایجاد کی؟

(A) 1230 (B) 1232

(C) 1334 (D) 1235

23. 15ویں صدی میں الکاشی نے کیا ایجاد کیا؟

(A) پلیٹ آف کنجکشن Conjuction

(B) میکینیکل سیاروی کمپیوٹر

(C) دونوں A،B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

24. الجزری نے واٹر پاورڈ فلکیاتی کلاک ایجاد کیا جو کہ ـــــ

(A) سورج کے متحرک ماڈلز کو دکھاتا تھا

(B) چاند کے متحرک ماڈلز کو دکھاتا تھا

(C) ستاروں کے متحرک ماڈلز کو دکھاتا تھا

(D) تمام A،B،C

25. کس نے لہروں کی قوت سے چلنے والا پہلا فلکیاتی کلاک بنایا؟

(A) الجزری (B) الکاشی

(C) الرازی (D) تقی الدین

26. تقی الدین نے پہلا میکینیکل الارم کلاک کب ایجاد کیا؟

(A) 1530 (B) 1545

(C) 1550 (D) 1559

27. تین ڈائلوں والا مشاہداتی کلاک کس نے ایجاد کیا؟

(A) تقی الدین (B) الموسیٰ

(C) المرزی (D) ابن حجاج

28. اپنی کس کتاب میں تقی الدین نے اپنے اس کلاک کا ذکر کیا ہے جو کہ

ایک ہی ڈائل کے ساتھ گھنٹے، منٹ اور سیکنڈز بتاتا تھا؟

(A) سدرۃ المنتہیٰ (B) کواکب۔الدنیا

(C) ال۔دوریہ (D) کوئی نہیں

29. مسلمان نماز کے اوقات کا حساب رکھنے کے لیے شمسی ڈائلوں کا استعمال کرتے تھے جو کہ مساجد پر نصب ہوتے تھے۔ اس سلسلے کی پہلی مثال کس صدی میں ملتی ہے؟

(A) 12ویں صدی (B) 13ویں صدی

(C) 14ویں صدی (D) 15ویں صدی

30. 14ویں صدی میں دمشق کی اموی مسجد کے کس مواقیت (وقت کا حساب رکھنے والا) نے پہلا شمسی ڈائل بنایا؟

(A) ابن ال۔شاطر (B) ابن ال۔صفاء

(C) الرازی (D) الکاشی

31. پورے سال میں وقت کو برابر وقت کے گھنٹوں میں استعمال کرنے کا خیال کس کی ایجاد ہے؟

(A) ابن ال۔شاطر (B) ابن حنیفہ

(C) الرازی (D) ال۔خشی

32. الخوارزمی نے کہاں پر 9ویں صدی میں Sine quadrant کو ایجاد کیا؟

(A) قاہرہ (B) بغداد

(C) اصفہان (D) اندلس

33. سب سے پہلے sextant کو ابو محمد الخجاندی نے کہاں پر ایجاد کیا؟

(A) ایران (B) عراق

(C) مصر (D) فلسطین

34. سب سے پہلے Magnifying lens کا ذکر کس کتاب میں ملتا ہے؟

(A) بک آف لینز (B) بک آف اپٹی

(C) بک آف لائٹ (D) بک آف آپٹکس

35. مشاہداتی ٹیوب کا پہلا ذکر الخجی کی تحریروں میں ملتا ہے لیکن اسکا پہلا بالکل صحیح بیان کس نے دیا؟

(A) الرازی (B) الرشدی

(C) الخجی (D) البیرونی

36. کون اپنی کتاب میں طویل الفاصلہ Magnifying Device کا ذکر کرتے ہیں جسے ابتدائی ٹیلی سکوپ کہا جاسکتا ہے؟

(A) ابن شاطر (B) ابن خلدون

(C) الرازی (D) تقی الدین

37. پہلی فلکیاتی Compass کا ذکر فلکیاتی آلات پرمبنی کس کتاب میں ملتا ہے؟

(A) یمنی سلطان الاحمد (B) یمنی سلطان الحامد

(C) یمنی سلطان الرازی (D) یمنی سلطان الاشرف

38. ابتدائی ترین جنتری یا تقویم .... کی ہے۔

(A) الزرقالی (B) ابن حنیفہ

(C) ال۔شاطر (D) الرازی

39. جنتری یا تقویم (Almanac) کب تحریر کی گئی؟

(A) 1050 (B) 1060

(C) 1075 (D) 1087

40. الزرقالی کی تقویم سورج، چاند اور سیاروں کی روزمرہ کی صحیح پوزیشن بیان کرتی تھی۔ اسکا کب کس نام سے لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا؟

(A) 12ویں صدی میں جیرارڈ آف ٹولیڈو کے نام سے

(B) 13ویں صدی میں الیفونسائن ٹیبلز کے نام سے

(C) دونوں A، B (D) دونوں میں سے کوئی نہیں

41. الخزنی نے کس صدی میں فلکیاتی آلات پر ایک رسالہ "رسالہ فی۔آلات" کے نام سے تحریر کیا؟

(A) 12ویں صدی (B) 13ویں صدی

(C) 14ویں صدی (D) 15ویں صدی

1416 (D) 1414 (C)

42. 14 ویں صدی کے مصر میں کس نے قریباً 100 سے زائد مختلف قسم کے سائنسی اور فلکیاتی آلات پر ایک کتاب لکھی جس میں سے زیادہ تر اُن کے اپنے ایجاد کردہ تھے؟

(A) نجم الدین ثاقب (B) نجم الدین المصری

(C) نجم الدین حلی (D) نجم الدین کوفی

43. الکاشی نے کب فلکیاتی مشاہداتی آلات پر کتاب لکھی؟

1410 (A) 1412 (B)

جوابات

1. (C)	2. (A)	3. (D)	4. (A)	5. (B)	6. (B)	7. (A)	8. (D)
9. (A)	10. (C)	11. (C)	12. (A)	13. (B)	14. (D)	15. (D)	16. (D)
17. (C)	18. (B)	19. (C)	20. (D)	21. (B)	22. (D)	23. (C)	24. (A)
25. (D)	26. (D)	27. (A)	28. (A)	29. (C)	30. (A)	31. (A)	32. (B)
33. (A)	34. (D)	35. (D)	36. (A)	37. (D)	38. (A)	39. (D)	40. (C)
41. (B)	42. (B)	43. (D)					

اسلامی ایجادات

1. سرکے سے ایسیٹک ایسڈ کو کس نے بنایا؟

(A) الکندی (B) الخوارزمی

(C) جابر بن حیان (D) کوئی نہیں

2. درج ذیل میں سے کس تیزاب کو جابر بن حیان نے بنایا؟

(A) نائٹرک ایسڈ (B) سلفیورک ایسڈ

(C) ہائیڈروکلورک ایسڈ (D) تمام A، B، C

3. تمام اسلامی دنیا میں ابتدائی ترین ریسٹورنٹ وجود میں آئے۔

(A) 8ویں صدی (B) 9ویں صدی

(C) 10ویں صدی (D) 11ویں صدی

4. 10ویں صدی کے اواخر میں کس مسلم عالم نے اسلامی ریسٹورنٹ کا ذکر کیا؟

(A) الکندی (B) المکدسی

(C) ابن شجاع (D) الرازی

5. ...... کے ریسٹورانوں میں Three Course Meals پیش کیے جاتے تھے؟

(A) عراق (B) ایران

(C) مصر (D) اسلامی سپین

6. 9ویں صدی کے اس شخص کا نام بتائیں جس نے اس بات پر زور دیا کہ کھانا تین مختلف courses سوپ، کھانا اور میٹھا میں پیش کیا جانا چاہیے اور اس طرح Three course meals کا وجود بنا؟

(A) الرازی (B) زریاب

(C) النفس (D) کوئی نہیں

7. قیمتی پتھروں اور موتیوں پر مصنوعی رنگت چڑھانے کے بانی کا نام بتائیں؟

(A) جابر بن حیان (B) افراسیاب

(C) زریاب (D) ابن شجاع

8. جابر بن حیان نے اپنی کس کتاب میں مصنوعی رنگت چڑھانے کا طریقہ کار بیان کیا ہے؟

(A) The Book of Hidden Pearls

(B) The Book of Hidden Secrets

(C) The Book of Hidden treasures

(D) کوئی نہیں

9. دمشق سٹیل دنیا کا معروف ترین سٹیل تھا۔ جسے دمشق، ...... میں پیدا کیا جاتا تھا؟

(A) ایران (B) عراق

(C) مصر (D) شام

10. سلطنت عثمانیہ کے فوجی دستوں نے کب سے Matchlock Muskets کو بنایا اور استعمال کرنا شروع کیا؟

(A) 1440 (B) 1445

(C) 1450 (D) 1455

11. یورپ میں Matchlock کے میکانی نظام کا ذکر کب سے ملتا ہے؟

(A) 1405 (B) 1418

(C) 1425 (D) 1475

12. پوٹاشیم نائٹریٹ کو ہتھیاروں کے اندر بطور گن پاوڈر کے استعمال

کے لیے purify کرنے کے عمل کو سب سے پہلے کس نے کیا؟

(A) ابن بختاویہ (B) ابن اکسیر

(C) ابن ملجہ (D) ابن بطوطہ

13. کب ابن بختاویہ نے اپنی کتاب ''المقدمات'' میں پوٹاشیم نائٹریٹ کو بطور گن پاؤڈر کے استعمال ھک کے لیے purity کرنے کے عمل کو بیان کیا؟

(A) 1026 (B) 1027

(C) 1028 (D) 1029

14. پوٹاشیم نائیٹریٹ کی purification کا پہلا مکمل پراسیس کب عرب کیمیادان حسن الرحمٰن نے کیا؟

(A) 1270 (B) 1271

(C) 1272 (D) 1273

15. حسن الرحمٰن نے اپنی کس کتاب میں پوٹاشیم نائیٹریٹ کو Purify کرنے کا طریقہ بیان کیا؟

(A) الکتاب الفردوسیہ والمناصب الحربیہ

(B) الکتاب الفردوسیہ

(C) الکتاب المناصب

(D) الکتاب الحربیہ

16. حسن الرحمٰن کا تعلق کس علاقے سے تھا؟

(A) مصر (B) یمن

(C) ایران (D) شام

17. درج ذیل میں سے کیا محمد ابن زکریا الرازی نے 9ویں صدی میں ایجاد کیا؟

(A) مٹی کا تیل (B) مٹی کے تیل کا لیمپ

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

18. کب الجزری نے پانی نکالنے والی بہت سی مشینری ایجاد کی؟

(A) 1200 (B) 1202

(C) 1204 (D) 1206

19. پہلے روشن دان .... میں ventillators بنائے گئے۔

(A) شام (B) عراق

(C) مصر (D) چین

20. کس نے 1200 میں روشن دانوں کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ قاہرہ کے تقریباً ہر گھر میں روشن دان تھے۔ جنکی قیمت اکے سائز اور ہیت کے لحاظ سے ایک سو سے 500 دینار تک ہوتی تھی؟

(A) عبداللطیف البغدادی (B) عبدالرشید البغدادی

(C) عبدالحمید البغدادی (D) عبدالنجم البغدادی

21. پانی نکالنے والی مشین کے لیے کام کرنے والے water wheel کو قوت فراہم کرنے کے لیے bridge dam سب سے پہلے کہاں تعمیر کیا گیا؟

(A) ایران (B) عراق

(C) مصر (D) شام

22. دنیا کا پہلا bridge dam کتنے کیوبک فٹ پانی نکالتا اور علاقے کے سارے گھروں کو پانی مہیا کرتا تھا؟

(A) 30 (B) 20

(C) 40 (D) 50

23. cobwork کے عمل کو سب سے پہلے کس نے بیان کیا؟

(A) الرازی (B) الکندی

(C) التطش (D) ابن خلدون

24. الجزری نے گیئر اور ہائیڈرو پاورز سے چلنے والا سب سے پہلا واٹر سپلائی سسٹم بنایا جو کہ......

(A) مساجد کو پانی فراہم کرتا تھا

(B) بیمارستان ہسپتالوں کو پانی فراہم کرتا تھا

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

25. سب سے پہلا گیئرز اور ہائیڈرو پاور سے چلنے والا واٹر سپلائی سسٹم کب اور کہاں بنایا گیا؟

(A) 13 ویں صدی کے بغداد میں

(B) 13 ویں صدی کے قاہرہ میں

(C) 13 ویں صدی کے اصفہان میں

(D) 13 ویں صدی کے دمشق میں

26. چھت پر باغ (roof-garden) بنانے کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟

(A) مسلمان مصریوں (B) مسلمان شامیوں

(C) مسلمان عراقیوں (D) کوئی نہیں

27. مصر کے کس شہر میں 11 ویں صدی کے اوائل میں بلند و بالا عمارتوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جن کی چھتوں پر باغ تھے؟

(A) قاہرہ (B) فسطاط

(C) دمشق (D) کوئی نہیں

28. ناصر خسرو کے مطابق مصر کے شہر فسطاط میں پائی جانے والی بلند و بالا عمارتیں زیادہ سے زیادہ کتنی منزلوں پر مشتمل تھیں؟

(A) 11 (B) 12

(C) 13 (D) 14

29. مینار اسلامی فن تعمیر کا ہی خاصہ ہے۔ قبل از جدید دور کے بلند ترین مینار کا نام بتائیں؟

(A) قطب مینار (B) مسجد مینار

(C) روشن مینار (D) کوئی نہیں

30. قطب مینار کی بلندی کتنی تھی؟

(A) 7 میٹر (B) 71 میٹر

(C) 72.5 میٹر (D) 73.5 میٹر

31. جدید دور کے سب سے بلند مینار کا نام بتائیں؟

(A) مسجد حسن دوئم (B) مسجد حسن سوئم

(C) مسجد حسن چہارم (D) مسجد حسن پنجم

32. مسجد حسن دوئم کے مینار کی بلندی کیا ہے؟

(A) 200 میٹر (B) 210 میٹر

(C) 220 میٹر (D) 230 میٹر

33. مسجد حسن دوئم کے مینار کی تعمیر کب ہوئی؟

(A) 1930 (B) 1945

(C) 1955 (D) 1986

34. Bridge مل واٹر مل سب سے پہلے کہاں پر 12 ویں صدی میں تعمیر ہوئی؟

(A) غرناطہ (B) قاہرہ

(C) اصفہان (D) فسطاط

35. پہلی فیولنگ مل کا حوالہ 10 ویں صدی کے ..... میں ملتا ہے۔

(A) عراق (B) ایران

(C) مصر (D) شام

36. Miners نے سب سے پہلے سٹیمپ مل کو 973 سے ..... میں تعمیر اور استعمال کرنا شروع کیا؟

(A) بخارا (B) قاہرہ

(C) سمرقند (D) اصفہان

37. پہلی پن چکی کہاں تعمیر کی گئی؟

(A) سیستان، افغانستان (B) اصفہان، ایران

(C) قاہرہ، مصر (D) کوئی نہیں

38. کس نے منجمد لپ اسٹک کو ایجاد کیا؟

(A) ابوالقاسم الزہراوی (B) الرازی

(C) الکندی (D) جابر بن حیان

39. الزھروی نے اپنی کس کتاب میں لپ اسٹک کا ذکر کیا؟
(A) التصریف (B) الجزور
(C) ال۔ سائنس (D) کوئی نہیں

40. درج ذیل میں سے کس آئیٹم کو سب سے پہلے الزھروی نے اپنی کتاب التصریف میں بیان کیا؟
(A) ہاتھوں کی کریم لوشن (B) suintan لوشن
(C) دونوں (D) کوئی نہیں

41. 9ویں صدی کے کس کیمیادان نے Comphor کو ایجاد کیا؟
(A) الرازی (B) الطمش
(C) الکندی (D) ابن باجہ

42. الکندی کے اس کتاب کا نام بتائیں جس میں انہوں نے camphor کو بنانے کا طریقہ کار بتلایا ہے؟
(A) کیمیا العطر (B) العطر
(C) طریقہ العطر (D) کوئی نہیں

43. "غالیا" نامی پرفیوم کس کی ایجاد ہے؟
(A) الخوارزمی (B) الہیثم
(C) الکندی (D) الرازی

44. کس نے ایک مصنوعی موسمی simulation کیمرے کو ایجاد کیا؟
(A) عباس ابن فرناس (B) الخوارزمی
(C) الطمش (D) کوئی نہیں

45. مصنوعی موسمی Simulation..............
(A) سے لوگ ستاروں اور بادلوں کو دیکھتے
(B) مصنوعی گرج چمک کو دیکھ کر حیران ہوتے
(C) کو تہہ خانے میں موجود لیبارٹری کے میکانی نظام سے پیدا کیا جاتا
(D) تمام

46. کب الجزری نے Comshafls کو ایجاد کیا؟
(A) 1200 (B) 1202
(C) 1204 (D) 1206

47. 1206 میں کس نے (wheel) پہیے کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے escapement کا میکانی نظام ایجاد کیا؟
(A) الخوارزمی (B) الہیثم
(C) الجزری (D) کوئی نہیں

48. 953 میں...... کے خلیفہ المعیز نے ایک ایسے پین کا مطالبہ کیا جو کہ اسکے ہاتھوں اور کپڑوں کو گندہ نہ کرے جسکے نتیجے میں اسے ایک ایسا پن دیا گیا جس کی سیاہی اسکے اندر تھی اور نب کے ذریعے باہر آتی تھی؟
(A) شام (B) یمن
(C) عراق (D) مصر

49. خلیفہ المعیز نے کب ؟؟؟ کا مطالبہ کیا؟
(A) 900 (B) 919
(C) 940 (D) 953

50. کس نے اپنی کتاب "المجالس وال میسرفت" میں ریکارڈ پیش کیا کہ مصر کے خلیفہ المعیز نے فاونٹین پن بنانے کی ہدایت کی؟
(A) قاضی النعمان (B) الزھروی
(C) ابن بیطار (D) یقدان بن خدیج

51. کس نے 1206 میں ہائیڈرولکس پاورڈ آٹومیٹک آپریٹرز ایجاد کیئے؟
(A) الزہروی (B) الجزری
(C) الکندی (D) الہیثم

52. بلاک پرنٹنگ کی ایجاد 9ویں سے 10ویں صدی کے دوران کہاں ہوئی؟
(A) شام (B) ایران
(C) عراق (D) مصر

53. لاین ٹاؤن سنڈے آر کے مطابق کس نے 9 ویں صدی میں metronome ایجاد کیا؟

(A) عباس ابن فرناس　　(B) الجزری

(C) الخوارزمی　　(D) الکندی

54. آن آف (On/Off) سوئچ کو مسلم انجینئروں نے ..... کے درمیان ایجاد کیا؟

(A) 9 ویں سے 10 ویں صدی

(B) 9 ویں سے 11 ویں صدی

(C) 9 ویں سے 12 ویں صدی

(D) 9 ویں سے 13 ویں صدی

55. درج ذیل میں سے کیا احمد ابن موسیٰ ابن شاکر نے ایجاد کیا؟

(A) سیلف فیڈنگ لیمپ

(B) سیلف ٹرمنگ لیمپ

(C) دونوں A، B　　(D) کوئی نہیں

56. اپنی کس کتاب میں 1206 میں الجزری نے 50 سے زائد میکانی devices کو بیان کیا جس میں سے زیادہ تر انکی اپنی ایجاد تھیں؟

(A) The book of Knowledge of ingenious mechanical devices

(B) The book of ingenious Mehanical divices

(C) The book of Mechanical devices

(D) کوئی نہیں

57. کس خلیفہ البغداد کے محل میں ایک سنہرا درخت ہوتا جس پر دھاتی پرندے تھے جو کہ انکی شاخوں پر Automatically گاتے تھے؟

(A) ہارون الرشید　　(B) مامون الرشید

(C) امین الرشید　　(D) کوئی نہیں

58. آٹومیٹک مشین کی خصوصیات رکھنے والا سنہرا درخت کب بنایا گیا؟

(A) 827　　(B) 820

(C) 818　　(D) 810

59. ..... میں عباسی خلیفہ المقتدر کے محل میں بھی ایک سنہرا درخت تھا جس پر دھاتی پرندے automatically گاتے تھے؟

(A) 900　　(B) 912

(C) 914　　(D) 915

60. کس نے ایک آٹومیٹک فلوٹ پلیئر ایجاد کیا جو کہ پہلی پروگرام ایبل مشین تھی؟

(A) الخوارزمی　　(B) الکندی

(C) بنوموسیٰ　　(D) کوئی نہیں

61. کس نے پہلا پروگرام ایبل humanoid robot تخلیق کیا؟

(A) بنوموسیٰ　　(B) الجزری

(C) الہیثم　　(D) کوئی نہیں

62. پہلا پروگرام ایبل ریبورٹ کب بنایا گیا؟

(A) 1206　　(B) 1205

(C) 1204　　(D) 1203

63. جدید دور کے فلش ٹوائلٹ کے فلش میکانی نظام کے موجد کا نام بتائیں؟

(A) الجزری　　(B) التلمش

(C) الکندی　　(D) الخوارزمی

64. مسلم طبیبوں نے کس صدی میں الکوحل کے بطور جراثیم کش کے استعمال کو متعارف کروایا؟

(A) 9 ویں صدی　　(B) 10 ویں صدی

(C) 11 ویں صدی　　(D) 12 ویں صدی

65. درج ذیل میں سے کس چیز کی دوائی کا آغاز قرون وسطیٰ کے عرب

دنیا سے ہوا؟

(A) کھانسی کا سیرپ (B) پیٹ درد کا سیرپ

(C) السر کی ٹیبلٹ (D) کوئی نہیں

66. مشاہداتی ٹیوب کو کس نے ایجاد کیا؟

(A) البطنی (B) الکلجی

(C) البیرونی (D) الخوارزمی

67. مشاہداتی ٹیوب کو سب سے پہلے بیان کس نے کیا؟

(A) البطنی (B) البیرونی

(C) الکندی (D) الخوارزمی

68. کس فاطمی خلیفہ کے دور میں گھریلو کبوتروں کے استعمال سے فضائی میل کے نظام کی بنیاد ڈالی گئی ہے؟

(A) عزیز (B) ہارون

(C) رازی (D) عبداللہ

69. اسماعیل الفاروقی کے مطابق درج ذیل میں سے کس چیز کو جابر بن حیان نے ایجاد کیا؟

(A) فائر پروف کاغذ

(B) ایسی سیاہی جو کہ اندھیرے میں بھی پڑھی جا سکتی ہو

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

70. واٹر پروف کپڑے اور لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے والے مواد کے موجد کا نام بتائیں؟

(A) جابر بن حیان (B) الموسیٰ

(C) القطش (D) الخوارزمی

71. کس صدی میں مسلم علماء نے گراف پیپر کو متعارف کروایا؟

(A) 9ویں صدی (B) 10ویں صدی

(C) 11ویں صدی (D) 12ویں صدی

72. پنڈولم والی گھڑی کس نے ایجاد کیا؟

(A) ارسطو (B) کوپرنیکس

(C) علی بن یونس (D) اقلیدس

جوابات

1. (C)	2. (D)	3. (C)	4. (B)	5. (D)	6. (B)	7. (A)	8. (A)
9. (D)	10. (A)	11. (D)	12. (A)	13. (D)	14. (A)	15. (A)	16. (D)
17. (C)	18. (D)	19. (C)	20. (A)	21. (A)	22. (D)	23. (D)	24. (A)
25. (D)	26. (A)	27. (B)	28. (D)	29. (A)	30. (C)	31. (A)	32. (B)
33. (D)	34. (A)	35. (B)	36. (C)	37. (A)	38. (A)	39. (A)	40. (C)
41. (C)	42. (A)	43. (C)	44. (A)	45. (D)	46. (D)	47. (C)	48. (D)
49. (D)	50. (A)	51. (B)	52. (D)	53. (A)	54. (C)	55. (C)	56. (B)
57. (B)	58. (A)	59. (D)	60. (C)	61. (B)	62. (A)	63. (A)	64. (B)
65. (A)	66. (A)	67. (B)	68. (A)	69. (C)	70. (A)	71. (B)	72. (C)

مسلم فتوحات یا مسلم معرکے

1. مسلم فتوحات نے ....

(A) ساسانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا

(B) سلطنت روم کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

2. لوگ ساسانی اور سلطنت روم کی حکمرانی میں بہت پریشان تھے اس لیے وہ مسلمانوں کو خوش آمدید کہتے تھے۔ ان سلطنتوں کے زیر سایہ کس مذہب کے لوگ تھے؟

(A) یہودی اور عیسائی (B) Monophysiles

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

3. ساسانی اور رومی سلطنت کے زیر سایہ لوگ شام میں آباد تھے۔ بتایئے ایران میں ان کے زیر سایہ کون تھا؟

(A) عیسائی (B) یہودی

(C) دونوں (D) کوئی نہیں

4. رومی سلطنت DWAR راشدون اور پھر اموی خلفاء کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں مسلمانوں نے کونسا علاقہ فتح کیا؟

(A) گریٹر شام، مصر اور شمالی افریقہ

(B) رومی آرمینا اور ساسانی آرمینیا

(C) تمام A، B (D) کوئی نہیں

5. راشدون کے زیر سایہ معرکہ شام کب رونما ہوا؟

(A) 600 (B) 632

(C) 634 (D) 637

6. پہلے فتنے کے بعد ساسانیوں کی زمین فتح کرنے کے سلسلے میں امویوں نے ترشقونیہ (Transoxiana) کے ساتھ کس علاقے کی طرف پیش قدمی کی؟

(A) گریٹر خراسان (B) شاہراہ ریشم

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

7. ساسانیوں پر فتح کے بعد گریٹر خراسان اور شاہراہ ریشم کے علاقے کن کے قبضے میں آئے؟

(A) علاقائی ایرانی اور ترکی قبائل (B) مملکت تیگ

(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

8. مملکت ایران کے آخری ساسانی حکمران کا نام بتائیں؟

(A) یزدگرد اول (B) یزدگرد دوئم

(C) یزدگرد سوئم (D) یزدگرد چہارم

9. کب تک مکمل خراسان عرب کے کنٹرول میں آ چکا تھا؟

(A) 703 (B) 705

(C) 707 (D) 709

10. کب تک عربوں نے اپنا اثر و رسوخ مشرق میں چین کی سرحدوں تک بڑھا لیا تھا جو کہ جنگ طلاس کا پیش خیمہ ثابت ہوا؟

(A) 751 (B) 749

(C) 739 (D) 725

11. معرکہ ترشقونیہ کا دورانیہ کیا تھا؟

(A) 662-709 (B) 656-709

(C) 649-709 (D) 738-709

12. معرکہ شمالی افریقہ کب رونما ہوا؟

(A) 635 (B) 645

652 (C) 641 (D)

13. راشدون کے زیر سایہ 639 میں کونسا معرکہ شروع ہوا؟

(A) معرکہ آرمینیا (B) معرکہ مصر

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

14. امویوں نے کب شمالی افریقہ پر قبضہ کیا؟

660 (A) 665 (B)

670 (C) 675 (D)

15. کس کے دور میں قسطنطنیہ کا دوسری بار تختہ عربوں نے 718-717 میں الٹا؟

(A) راشدون کے دور میں (B) عباسیوں کے دور میں

(C) صفویوں کے دور میں (D) امویوں کے دور میں

16. معرکہ Tbileri کب ہوا؟

730 (A) 733 (B)

736 (C) 739 (D)

17. جنوبی اٹلی کا معرکہ کب ہوا؟

800 (A) 823 (B)

825 (C) 827 (D)

18. پہلے فتنے کے بعد امویوں نے کس کی سرزمین کو دوبارہ سے فتح کرنا شروع کیا؟

(A) رومی (B) مصری

(C) ساسانی (D) کوئی نہیں

19. 7ویں صدی کے شمالی انڈیا میں کس کے دور میں پہلی مسلم پیش قدمی ہوئی؟

(A) ابتدائی راجپوت حکمرانی (B) ابتدائی برہمن حکمران

(C) ابتدائی مغل حکمرانی (D) کوئی نہیں

20. 664 میں کس کی سپہ سالاری میں مسلم افواج نے ایران سے شمالی انڈیا کے خلاف مہم کا آغاز کیا؟

(A) ال۔مہلب ابن ابی خدیج (B) ال۔مہلب ابن ابی عبداللہ

(C) ال۔مہلب ابن ابی سفراح (D) کوئی نہیں

21. شمالی انڈیا کے خلاف مہم میں سفراح پاکستان کے جنوبی پنجاب کے کس علاقے تک پہنچا؟

(A) کراچی (B) کوئٹہ

(C) ملتان (D) طیر

22. 712 میں کس نے معرکے کے دوران راجہ داہر کو شکست دی؟

(A) محمد بن قاسم (B) محمد جبران

(C) طارق بن زیاد (D) صلاح الدین ایوبی

23. محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو کہاں پر شکست دی؟

(A) حیدرآباد۔سندھ (B) لاہور۔پنجاب

(C) طیر۔سرحد (D) کوئی نہیں

24. کب محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو حیدرآباد میں شکست دینے کے بعد وہاں اموی حکمرانی قائم کی؟

711 (A) 712 (B)

713 (C) 714 (D)

25. انڈین برصغیر کا مغربی حصہ بہت ہی کمزور ریاستوں میں منقسم تھا۔ کونسا عراقی حکمران اس کمزوری سے آگاہ تھا اور حملے کے لئے مناسب وقت کے انتظار میں تھا؟

(A) صلاح الدین ایوبی (B) محمد بن قاسم

(C) حجاج بن یوسف (D) ابن یزید

26. موجودہ سری لنکا کے بادشاہ نے تحائف سے بھرے ہوئے 89 بحری جہاز کس مسلم حکمران کے لئے بھیجے؟

(A) خلیفہ الولید (B) حجاج بن یوسف

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

27. سری لنکا کے بادشاہ نے تحائف کے جو جہاز بھیجے انہیں ڈاکوؤں نے

سندھ کے دیبل (Debal) کے علاقے میں لوٹ لیا۔ آج کل یہ علاقہ کیا کہلاتا ہے؟

(A) کراچی (B) ملیر

(C) کوئٹہ (D) لاہور

28. جب سری لنکا کے تحائف کے جہازوں کو لوٹا گیا تو اس وقت سندھ پر کس کی حکومت تھی جس سے حجاج بن یوسف نے نقصان کی تلافی مانگی مگر اس نے انکار کر دیا؟

(A) راجہ داہر (B) راجہ اشوک چندر

(C) راجہ دودہال (D) راجہ بھیم سنگھ

29. راجہ داہر سے نمٹنے کے لیے حجاج بن یوسف نے کس کو روانہ کیا؟

(A) محمد بن قاسم (B) ولید اول

(C) طارق بن زیاد (D) صلاح الدین ایوبی

30. محمد بن قاسم کا حجاج بن یوسف سے کیا رشتہ تھا؟

(A) بھتیجا (B) داماد

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

31. معرکہ سندھ کا دورانیہ بتائیں؟

(A) 664-712 (B) 663-712

(C) 660-712 (D) 658-712

32. کونسا معرکہ اس وقت شروع ہوا جب مور (moors) عیسائی ایریا میں میں داخل ہوئے؟

(A) جزیرہ نما ایریا کا معرکہ (B) معرکہ ہسپانیہ

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

33. مور کب عیسائی ایریا میں داخل ہوئے؟

(A) 710 (B) 711

(C) 712 (D) 713

34. ایریا میں آج کے دور کا کونسا علاقہ آتا ہے؟

(A) سپین اور پرتگال (B) جبرالٹر، انڈورا اور ہسپانیہ

(C) تمام A،B (D) کوئی نہیں

35. کس بربر سپہ سالار کے زیرِ سایہ مورش افواج 30 اپریل کو جبرالٹر پر اتریں؟

(A) طارق بن زیاد (B) محمد بن قاسم

(C) صلاح الدین ایوبی (D) کوئی نہیں

36. ایک سال کے بعد طارق بن زیاد کی افواج کے ساتھ کس کی افواج شامل ہوئیں؟

(A) موسیٰ بن حکیم (B) موسیٰ بن نصیر

(C) موسیٰ بن جم (D) موسیٰ بن خدیج

37. کتنے سالوں کی مہم جوئی کے بعد جزیرہ نما ایریا کے زیادہ حصے اسلامی حکمرانی میں آ گئے؟

(A) 6 سال (B) 7 سال

(C) 8 سال (D) 9 سال

38. جزیرہ نما ایریا کا کون سا مفتوحہ علاقہ پہلی emirate بنا اور پھر خلافت غرناطہ کے نام سے آزاد اموی خلافت بنی؟

(A) الاندلس (B) عراق

(C) فارس (D) کوئی نہیں

39. جب غرناطہ کی خلافت ...... میں ختم ہوئی تو علاقہ چھوٹے چھوٹے طائفوں میں منقسم ہو گیا اور آہستہ آہستہ عیسائیوں نے اپنی مہم جوئی شروع کر دی؟

(A) 1025 (B) 1029

(C) 1031 (D) 1035

40. کب عیسائی مملکتوں نے ال-اندلس کا تختہ مکمل طور پر الٹ دیا؟

(A) 1492 (B) 1480

(C) 1468 (D) 1459

41. معرکہ ہسپانیہ کا دورانیہ کیا تھا؟

(A) 711-726 (B) 709-731

(C) 711-718 (D) 718-754

42. معرکہ سپتمانیہ کا دورانیہ کیا تھا؟

(A) 719-725 (B) 719-720

(C) 719-723 (D) 719-721

43. امویوں کی طرف سے دوسری بار قسطنطنیہ کا تختہ الٹنے کی کوشش کی طرف سے ناکام کرنے کے عمل نے 718 میں ایشیا صغیر کے معرکوں کو ہوا دی۔

(A) مملکت بلغاریہ (B) مملکت روم

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

44. جزیرہ نما ایبریا میں شکست کے بعد اموی شمال مشرق کی طرف بڑھے جہاں پر انہیں 721 میں کس میدان جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا؟

(A) جنگ طولاؤس Toulouse

(B) جنگ Eovadonga

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

45. امویوں کے دوسری بار قسطنطنیہ میں حملے کو کس نے جنگ Toues میں روکا؟

(A) فرینک چارلس مارٹل (B) فرینک ایڈورڈ مارٹل

(C) فرینک ڈاروِن مارٹل (D) فرینک ایلیزبتھ مارٹل

46. کب اموی افواج نے انڈین راجپوتوں کے ہاتھوں جنگ راجستان میں شکست کھائی اور مملکت کے مشرقی حصے کو کھو دیا؟

(A) 730 (B) 733

(C) 744 (D) 738

47. کب بربر انقلاب نے امویوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ مزید کوئی مہم سرانجام دینے کے قابل بھی نہ رہے؟

(A) 735 (B) 740

(C) 745 (D) 750

48. 756 میں کہاں سے عباسیوں کے نکلنے کے ساتھ ہی جزیرہ نما ایبیرین پر ایک علیحدہ عرب ریاست قائم ہوئی؟

(A) ال۔اندلس (B) عراق

(C) فارس (D) غرناطہ

49. مملکت اموی کی کس مخصوص بغاوت نے 750 میں عباسی بغاوت کے لئے راہ ہموار کر دی؟

(A) خارجی بغاوت (B) زیدی بغاوت

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

50. چارلس مارٹل کے اس پوتے کا نام بتائیں جس نے آج کے دور کے Catalonia کے حصوں میں معرکہ ہسپانیہ قائم کیا؟

(A) Charlamagne

(B) Charles Dixon

(C) Charles Hungry

(D) کوئی نہیں

51. Charlamagne نے کب Girona کو دوبارہ فتح کیا؟

(A) 780 (B) 872

(C) 784 (D) 785

52. Charlamagne نے کب بارسلونا کو دوبارہ فتح کیا؟

(A) 890 (B) 895

(C) 822 (D) 801

53. Nubia میں عسکری مہم کے بار بار ناکام ہونے کے بعد..... میں عرب کمانڈر نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسے سمجھوتے کیے جو کہ دونوں اطراف کے لوگوں کے درمیان تعلقات کو چھ سال

تک چلاتے رہے؟

(A) [illegible] (B) ایران

(C) مصر (D) عراق

54. اہل Nubia اور مصر کے عرب کمانڈروں کے درمیان ہونے والے سمجھوتوں کے سلسلے کو کیا نام دیا گیا؟

(A) البقط (B) الحلف

(C) البسط (D) الیمان

55. چونکہ Nubia میں مسلمان کمزور ہو گئے تھے تاہم اندر ہی اندر اسلام تقویت حاصل کر رہا تھا۔ کب Nubia کے ایک مسلمان شہزادے دونگولا Dongola کا تخت بطور بادشاہ حاصل کیا؟

(A) 1300 (B) 1311

(C) 1313 (D) 1315

56. کس صدی میں فنج Fung نامی علاقائی لوگ جنوبی Nubia سے ابھرے اور انہوں نے سنار sinnar نامی بادشاہت قائم کی؟

(A) 12ویں (B) 13ویں

(C) 14ویں (D) 15ویں

57. سلطنت سنار کو کس اور نام سے بھی پکارا جاتا تھا؟

(A) السلطنۃ الزرقا (B) ال۔ملک الزرقا

(C) ال۔دولۃ الزرقا (D) کوئی نہیں

58. سلطنت سنار نے کب سرکاری طور پر اسلام قبول کیا؟

(A) 1520 (B) 1523

(C) 1525 (D) 1545

59. سلطنت سنار نے 1606 تک موجودہ دور کے کس علاقے پر قبضہ کر کے وہاں پر پہلی اسلامی بادشاہت قائم کر لی تھی؟

(A) نیروبی (B) کینیا

(C) سوڈان (D) نیپال

60. سلطنت سنار کی بادشاہت کب تک قائم رہی؟

(A) 1820 (B) 1821

(C) 1822 (D) 1823

61. افریقہ کے اغلابادی Aghlabids حکمرانوں نے موجودہ دور کے کس علاقے کو اپنا اڈا بنا کر بہت سے علاقوں کو فتح کیا؟

(A) تیونسیہ Tunisia (B) آرمینیا

(C) مصر (D) سوڈان

62. اطالوی جزیرہ صقلیہ پر کب اغلابادیوں نے Emirates قائم کیں؟

(A) 901 (B) 902

(C) 903 (D) 904

63. 846 میں اغلابادیوں نے کس اہم علاقے کا تختہ الٹا؟

(A) روم (B) اٹلی

(C) قسطنطنیہ (D) مراکش

64. درج ذیل میں سے کونسا علاقہ 840 میں عباسیوں کے دور میں فتح ہوا؟

(A) انباس (B) Crile

(C) دوہا (D) مریطیا

65. جس وقت عباسیوں کی مملکت بکھر رہی تھی اس وقت انکی رقیب کونسی شیعہ جماعتیں ابھر رہی تھیں؟

(A) فاطمی (B) بایئد buyeds

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

66. عباسیوں کی تقسیم اور شیعہ جماعتوں فاطمی اور بایئد کے ابھرنے کے دوران کس نے سائپرس کو فتح کر لیا اور 975 تک لیونٹ تک پہنچ گئے؟

(A) مغربی اہل روم (B) مشرقی اہل روم

(C) صفوی (D) کوئی نہیں

67. کب رومیوں نے سائپرس کو فتح کیا؟

(A) 960 (B) 962

(C) 961 (D) 965

68. روسی علاقے میں ...... کی آمد تک کامیابی کے ساتھ فاطمیوں سے لڑتے رہے؟

(A) سلجوقی ترک (B) صفوی

(C) عباسی (D) اموی

69. کب Alp ارسلان اور اتحادی ترکمن قبائل نے نہ صرف عباسیوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کرلیا بلکہ رومیوں کے علاقوں میں بھی داخل ہو گئے؟

(A) 1063 (B) 1066

(C) 1068 (D) 1070

70. اسلام کے جدید دور نے کس اہم ترین اسلامی مملکت کا عروج دیکھا؟

(A) مشرقی وسطی اور یورپ میں سلطنت عثمانیہ

(B) وسطی ایشیا اور ایران میں سلطنت صفوی

(C) انڈیا میں مغلیہ سلطنت

(D) تمام A،B،C

71. کس مغل بادشاہ کے 1707 میں انتقال پر سلطنت مغلیہ زوال پذیر ہوئی؟

(A) بابر (B) اورنگ زیب

(C) اکبر (D) تیمور

72. 1707 میں اورنگ زیب کی وفات کے ساتھ سلطنت مغلیہ زوال پزیر ہوئی۔ سرکاری طور پر برطانیہ نے اسکے خاتمے کا اعلان کب کیا؟

(A) 1850 (B) 1857

(C) 1860 (D) 1863

73. صفوی سلطنت کا خاتمہ اسکے کس آخری حکمران کی وفات سے ہوا جنہوں نے 1750 سے 1760 میں اپنی وفات تک حکمرانی کی؟

(A) اسماعیل اول (B) اسماعیل دوئم

(C) اسماعیل سوئم (D) اسماعیل چہارم

74. سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کب ہوا؟

(A) 1917 (B) 1918

(C) 1919 (D) 1920

75. خلافت کا مکمل خاتمہ کب ہوا؟

(A) 3 مارچ 1921 (B) 3 مارچ 1922

(C) 3 مارچ 1923 (D) 3 مارچ 1924

76. 3 مارچ 1924 کو کس صدر نے اپنی اصلاحات کے سلسلے میں خلافت کو ختم کردیا؟

(A) مصطفی کمال پاشا (B) مصطفی کمال اتاترک

(C) محمد ابراہیم (D) کوئی نہیں

77. محمد بن قاسم نے سندھ کو کب فتح کیا؟

(A) 650ء (B) 712ء

(C) 725ء (D) 730ء

78. قبرص کب فتح کیا گیا؟

(A) 25 ہجری (B) 32 ہجری

(C) 30 ہجری (D) 35 ہجری

جوابات

1. (C)	2. (C)	3. (C)	4. (C)	5. (D)	6. (C)	7. (C)	8. (C)
9. (D)	10. (A)	11. (A)	12. (C)	13. (C)	14. (B)	15. (D)	16. (C)
17. (D)	18. (C)	19. (A)	20. (C)	21. (C)	22. (A)	23. (A)	24. (B)
25. (C)	26. (C)	27. (A)	28. (A)	29. (A)	30. (C)	31. (A)	32. (C)
33. (C)	34. (C)	35. (A)	36. (B)	37. (C)	38. (A)	39. (C)	40. (A)
41. (C)	42. (B)	43. (C)	44. (C)	45. (A)	46. (D)	47. (B)	48. (D)
49. (C)	50. (A)	51. (D)	52. (D)	53. (C)	54. (A)	55. (D)	56. (D)
57. (A)	58. (B)	59. (C)	60. (B)	61. (A)	62. (B)	63. (A)	64. (B)
65. (C)	66. (B)	67. (D)	68. (A)	69. (C)	70. (A)	71. (B)	72. (B)
73. (C)	74. (B)	75. (D)	76. (B)	77. (B)	78. (B)		

عصر حاضر میں اسلامی دنیا

1. افغانستان کس خطے میں واقع ہے؟
(A) جنوب مغربی ایشیاء
(B) جنوب مشرقی ایشیاء
(C) مغربی ایشیاء (D) شمالی ایشیاء

2. افغانستان کے مشرق میں..........
(A) چین واقع ہے (B) جموں کشمیر واقع ہے
(C) پاکستان واقع ہے (D) تمام A،B،C

3. مشرق میں چین اور جموں کشمیر اور پاکستان واقع ہیں۔ افغانستان کے جنوب میں کون سا ملک واقع ہے؟
(A) انڈیا (B) ایران
(C) چین (D) سمندر

4. افغانستان کا رقبہ کتنا ہے؟
(A) 722,225 مربع کلومیٹر
(B) 523,225 مربع کلومیٹر
(C) 652,225 مربع کلومیٹر
(D) 600,225 مربع کلومیٹر

5. افغانستان کا دارالحکومت کون سا ہے؟
(A) کابل (B) قندھار
(C) تورا بورا (D) کوئی نہیں

6. افغانستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟
(A) کابل (B) پکتیا
(C) قندھار (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

7. افغانستان کا اہم ترین پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟
(A) امو (B) ہلمند
(C) قراقرم (D) ہندوکش

8. افغانستان کی کل آبادی کتنی ہے؟
(A) 20,596,103 (B) 30,123,341
(C) 29928987 (D) 28,513,110

9. افغانستان کے سب سے اہم دریا کا نام بتائیں جو تاجکستان کی سرحد پر واقع ہے؟
(A) آمو دریا (B) کابل
(C) ہلمند (D) ہری رود

10. افغانستان کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟
(A) آمو دریا (B) ہری رود
(C) کابل (D) ہلمند

11. مسلمانوں کی آبادی کا تناسب افغانستان میں کتنا ہے؟
(A) 99 فیصد (B) 95 فیصد
(C) 80 فیصد (D) 75 فیصد

12. کس مسلمان سلطان نے افغانستان کو مکمل طور پر ترک سلطنت میں مدغم کر دیا تھا؟
(A) بابر (B) ابراہیم لودھی
(C) محمود غزنوی (D) تیمور لنگ

13. کس کے دور میں اسلامی تہذیب نے افغانستان میں شان و شوکت حاصل کی؟
(A) ایرانی سلطنت (B) غوری سلطنت
(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

14. کس منگول حکمران نے 1220 میں شمال کی طرف سے وارد ہو کر افغانستان کو فتح کر لیا؟
(A) چنگیز خان (B) تیمور لنگ
(C) بابر (D) کوئی نہیں

15. منگول فاتح تیمور لنگ نے شمالی افغانستان پر قبضہ کیا۔ اس کا سب سے کامیاب جانشین کون تھا؟
(A) بابر (B) اکبر
(C) ہمایوں (D) شاہ جہاں

16. بابر نے کابل کب فتح کیا؟
(A) 1505 (B) 1504
(C) 1520 (D) 1610

17. 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران کون افغانستان پر قبضے کے لیے حملے کرتے رہے؟
(A) مغل حکمران (B) صفوی حکمران
(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

18. صفوی سلطنت کا مرکز کہاں پر تھا؟
(A) مصر (B) عراق
(C) ایران (D) کویت

19. عبدالرحمٰن خان افغانستان کا امیر کب بنا؟
(A) 1880 (B) 1890
(C) 1895 (D) 1870

20. اس سرحد کا نام بتائیں جو برطانیہ نے 1893ء میں ہندوستان اور افغانستان کے درمیان قائم کی؟
(A) ڈیوڈ کی لائن (B) ڈیورنڈ لائن
(C) انڈیا افغانستان بارڈر (D) فرنٹیئر لائن

21. افغانستان نے کتنی اینگلو افغان نامی جنگیں لڑیں؟
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

22. افغانستان نے پہلی اینگلو افغان نامی جنگ ....
(A) 1838 تا 1842 تک لڑی
(B) 1839 تا 1843 تک لڑی
(C) 1840 تا 1844 تک لڑی
(D) کوئی نہیں

23. دوسری اینگلو افغان نامی جنگ کب سے کب لڑی گئی؟
(A) 1878 تا 1880
(B) 1881 تا 1882
(C) 1883 تا 1884
(D) 1885 تا 1886

24. تیسری اینگلو افغان نامی جنگ کب لڑی گئی؟
(A) 1917 (B) 1918
(C) 1919 (D) 1920

25. افغانستان نے کس طاقت کے خلاف اینگلو افغان جنگیں لڑیں؟
(A) روس (B) ایران
(C) برطانیہ (D) تاجکستان

26. پہلی اینگلو افغانستان جنگ کی وجہ رقابت کو کیا کہا جاتا ہے؟
(A) Great Game (B) Tussle
(C) Anglo Game (D) Great Rivalry

27. جدید افغانستان کا پہلا بادشاہ کون ہے؟
(A) کریم خان (B) اکرام اللہ
(C) عبدالعزیز خان (D) امان اللہ

28. کس سال افغانستان میں محمد داؤد نے شاہ کا تختہ الٹ کر شہنشاہیت کے خاتمے اور خود صدر بننے کا اعلان کیا؟
(A) 1965 (B) 1970
(C) 1973 (D) 1975

29. افغانستان کی کس جماعت سے پرچم اور خلق نامی سیاسی پارٹیاں وجود میں آئیں؟
(A) پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان
(B) پیپلز پارٹی آف افغانستان
(C) ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان
(D) پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی

30. البانیہ کس خطے میں واقع ہے؟
(A) جنوبی یورپ (B) جنوب مشرقی یورپ

(C) جنوبی مغرب یورپ (D) شمال مشرقی یورپ

31. البانیہ کے مغرب میں کیا واقع ہے؟

(A) بحیرہ احمر (B) بحیرہ بلقان

(C) ADRIATIC SEA

(D) اٹلی

32. البانیہ کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 35,748 مربع کلومیٹر (B) 40,748 مربع کلومیٹر

(C) 28,748 مربع کلومیٹر (D) 20,500 مربع کلومیٹر

33. البانیہ کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟

(A) تیرانہ (B) السلونیہ

(C) کیمرون (D) البامہ

34. البانیہ میں کون سا پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے؟

(A) کوہ قاف (B) الپس

(C) طیرانہ (D) عظیم الپس

35. البانیہ کی کتنی فیصد آبادی مسلمان ہے؟

(A) 70 (B) 65

(C) 80 (D) 56

36. یورپ کی کون سی ریاست کی اکثریت مسلمان ہے؟

(A) بوسنیا (B) رومانیہ

(C) البانیہ (D) ترکی

37. البانیہ کو کب سلطنت عثمانیہ میں ضم کیا گیا؟

(A) 1450ء (B) 1468ء

(C) 1460ء (D) 1479ء

38. کس لیڈر کی رہنمائی میں البانیہ نے 28 نومبر 1912ء کو سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی تھی؟

(A) اسماعیل کمال (B) کمال پاشا

(C) انور کمال (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

39. کب بڑی طاقتوں کے منتخب کردہ کمیشن نے سرحدی حد بندی کی وجہ سے البانیہ کو اس کے آدھے علاقے سے الگ کر دیا؟

(A) 1913 (B) 1914

(C) 1915 (D) 1916

40. البانیہ میں کب البانین کیمونسٹ پارٹی نے عنان حکومت سنبھالی؟

(A) 1940ء (B) 1935ء

(C) 1944ء (D) 1945ء

41. الجیریا کہاں واقع ہے؟

(A) مغربی شمالی افریقہ (B) شمالی افریقہ

(C) شمال مغربی افریقہ (D) جنوبی افریقہ

42. الجیریا کی شمالی سرحد پر..........

(A) بحیرہ قلزم واقع ہے (B) بحیرہ روم واقع ہے

(C) بحیرہ احمر واقع ہے (D) کوئی نہیں

43. الجیریا کے مشرق میں..........واقع ہے۔

(A) تیونس (B) لیبیا

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

44. الجیریا کے جنوب میں..........واقع ہے۔

(A) نائجیریا (B) مالے

(C) موریطانیہ A،B،C (D) تمام

45. اس ملک کا نام بتائیں جو الجیریا کی مغربی سرحد پر واقع ہے؟

(A) مراکش (B) چاڈ

(C) لبنان (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

46. الجیریا کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 2,401,321 مربع کلومیٹر

(B) 3,112,013 مربع کلومیٹر

(C) 2,381,741 مربع کلومیٹر

(D) 1,124,995 مربع کلومیٹر

47. الجیریا کا دارالحکومت کون سا ہے؟

(A) لپاس (B) الپس

(C) الجائرس/الجزائرس (D) کوئی نہیں

48. الجیریا کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟

(A) کونسٹانٹائن (B) اوران

(C) الجارس (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

49. الجیریا میں کون سا پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے؟

(A) اٹلس (B) ہاگر

(C) دونوں B، A (D) دونوں ہی نہیں

50. اس صحرا کا نام بتائیں جو الجیریا کے کل رقبے کے 90 فیصد حصہ پر پھیلا ہوا ہے؟

(A) سب صحارا (B) صحارا

(C) اٹلس (D) الپس

51. الجیریا میں مسلمان کل آبادی کا کتنے فیصد ہیں؟

(A) 99 فیصد (B) 85 فیصد

(C) 70 فیصد (D) 90 فیصد

52. ساتویں صدی میں الجیریا بنو امیہ خلافت کا ایک صوبہ بن گیا تھا تاہم مسلمانوں کو کس قبائلی یہودی عورت کی طرف سے مزاحمت کا سامنا رہا؟

(A) کوثر (B) کاہنہ

(C) قیریطہ (D) کاملہ

53. کب ہسپانوی عیسائیوں نے شمالی افریقہ کی مختلف بندرگاہوں پر قبضہ کرلیا؟

(A) 15ویں صدی میں (B) 16ویں صدی میں

(C) 17ویں صدی میں (D) 18ویں صدی میں

54. الجیریا کے مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ سے مدد کی اپیل پر کب ہسپانوی عیسائیوں کو شمالی افریقہ سے نکالا گیا؟

(A) 1518 (B) 1502

(C) 1515 (D) 1521

55. 1518ء کے بعد الجیریا کی حیثیت سلطنت عثمانیہ میں کیا تھی؟

(A) خودمختار صوبہ (B) نوآبادی

(C) صوبہ (D) خودمختار ریاست

56. فرانس نے اپنے ملک میں قزاق حملوں کا بہانہ کرتے ہوئے کب الجیریا پر قبضہ کرلیا تھا؟

(A) 1834 (B) 1840

(C) 1830 (D) 1835

57. قبائل الجیریا کا وہ کون سا رہنما تھا جو فرانس کی قابض انتظامیہ کے خلاف 1847 تک گوریلا کارروائیاں کرتا رہا؟

(A) عبدالقادر (B) قادرالعبد

(C) عبدا (D) عبداللہ عبد

58. کس نے مصر میں آٹھ جلاوطن رہنماؤں کے ساتھ مل کر الجیریا کی آزادی کیلئے فرانسیسی قابضین کے خلاف جدوجہد کی خاطر ایک انقلابی کمیٹی قائم کی؟

(A) احمد بن بیلا (B) بن بلاء

(C) عبدالقادر (D) احمد بن قادر

59. احمد بن بیلا نے کب انقلابی کمیٹی قائم کی؟

(A) 1951 (B) 1952

(C) 1953 (D) 1954

60. احمد بن بیلا کی انقلابی کمیٹی کس نام سے پکاری جاتی رہی؟

(A) نیشنل لبریشن فرنٹ (B) نیشنل لبریشن فورم

(C) نیشنل لبریشن گروپ (D) نیشنل لبریشن پارٹی

61. الجیریا نے کب آزادی حاصل کی؟

(A) 1962 (B) 1952

(C) 1965 (D) 1960

62. الجیریا کی جنگ آزادی کے دوران کتنے لوگ دوسرے ممالک میں پناہ گزین ہوئے؟

(A) 15 لاکھ (B) 18 لاکھ

(C) 19 لاکھ (D) 20 لاکھ

63. اسلامک سالویشن فرنٹ نے این ایل ایف کو کب صوبائی اور میونسپل انتخابات میں واضح اکثریت سے شکست دی تھی؟

(A) 1985ء (B) 1995ء

(C) 1990ء (D) 1991ء

64. آذربائیجان مغربی ایشیاء کے کس حصے میں واقع ہے؟
(A) ٹرانس کا کوہ قاف (B) ٹرانس قراقرم
(C) ٹرانس ایشیا (D) زیریں کوہ قاف

65. آذربائیجان کے شمال کیا واقع ہے؟
(A) روس (B) بھارت
(C) پاکستان (D) فرانس

66. آذربائیجان کے جنوب میں.............واقع ہے۔
(A) فرانس (B) ایران
(C) سری لنکا (D) کوئی نہیں

67. آذربائیجان کی مغربی سرحد پر کون سا ملک ہے؟
(A) ترکمانستان (B) تاجکستان
(C) آرمینیا (D) افغانستان

68. آذربائیجان کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 85,101 مربع کلومیٹر (B) 86,600 مربع کلومیٹر
(C) 86,312 مربع کلومیٹر (D) 87,242 مربع کلومیٹر

69. ....آذربائیجان کا دارالحکومت ہے۔
(A) آکو (B) باکو
(C) باکا (D) کوئی نہیں

70. آذربائیجان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟
(A) گانکا (B) باکو
(C) سمکیت (D) کیروآباد

71. آذربائیجان میں کون سا پہاڑی سلسلہ چھایا ہوا ہے؟
(A) عظیم کوہ قاف (B) زیریں کوہ قاف
(C) بائی کوہ قاف (D) گریٹ ایلپس

72. کاراباخ میں آرمینیوں کی اکثریت کی وجہ سے کتنا عرصہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی رہی؟
(A) 1988 تا 1990 (B) 1988 تا 1992
(C) 1988 تا 1993 (D) 1988 تا 1994

73. آذربائیجان کا وہ کون سا خود مختار علاقہ ہے جو اس سے آرمینیا کی ایک پہاڑی پٹی کی وجہ سے کٹا ہوا ہے؟
(A) گورنو کیراباخ (B) آذرآباد
(C) نیکسی وان (D) میکسی وان

74. عربوں نے آذربائیجان کو کب فتح کیا؟
(A) پانچویں صدی (B) ساتویں صدی
(C) چھٹی صدی (D) آٹھویں صدی

75. 11ویں اور 12ویں صدی میں موجودہ آذربائیجان کا کنٹرول کس کے پاس تھا؟
(A) ایران (B) ترک قبائل
(C) مغل (D) عباسی

76. آذربائیجان کب ایک آزاد ملک کے طور پر معرض وجود میں آیا؟
(A) 1920 (B) 1925
(C) 1991 (D) 1917

77. پاپولر فرنٹ آف آذربائیجان کس قسم کی جماعت ہے؟
(A) اسلامسٹ (B) سوشلسٹ
(C) نیشنلسٹ (D) کمیونسٹ

78. کب سے آرمینیا نے آذربائیجان کا اس کے علاقے نیکسی وان سے براہ راست منقطع کیا ہوا ہے؟
(A) 1993 (B) 1992
(C) 1991 (D) 1990

79. آذربائیجان اپنے علاقے نیکسی وان سے کس ملک کے ذریعے رابطے میں ہے؟
(A) ترکی (B) ایران
(C) دونوں A،B (D) تاجکستان

80. بحرین کس خطے میں واقع ہے؟
(A) مشرق وسطی (B) جنوبی ایشیاء
(C) فاریسٹ (D) جنوب مشرقی ایشیاء

81. 33 چھوٹے جزائر کا مجموعہ بحرین کہاں واقع ہے؟
(A) جنوبی خلیج فارس (B) خلیج فارس

(C) شمالی خلیج فارس (D) بحیرۂ عرب

82. بحرین کے مغرب میں کس ملک کی سرحد ہے؟

(A) سعودی عرب (B) کویت

(C) ابوظہبی (D) ایران

83. بحرین کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟

(A) عمان (B) مانامہ

(C) بحرین سٹی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

84. بحرین میں مسلمان آبادی کتنے فیصد ہے؟

(A) 100فیصد (B) 97فیصد

(C) 95فیصد (D) 90فیصد

85. بحرین کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 600مربع کلومیٹر (B) 622مربع کلومیٹر

(C) 610مربع کلومیٹر (D) 765مربع کلومیٹر

86. عباسیوں نے بحرین کا کنٹرول کب سنبھال کرا سے خلافت میں ضم کیا؟

(A) ساتویں صدی (B) آٹھویں صدی

(C) چھٹی صدی (D) نویں صدی

87. ایران نے بحرین پر کب قبضہ کیا تھا؟

(A) 1605 (B) 1615

(C) 1602 (D) 1601

88. بحرین نے کب ایرانیوں سے آزادی حاصل کی؟

(A) 1781 (B) 1782

(C) 1783 (D) 1784

89. بحرین نے کس ملک سے 1971 میں آزادی حاصل کی؟

(A) امریکہ (B) فرانس

(C) کوریا (D) برطانیہ

90. بحرین نے آئینی بادشاہت سے کب آزادی حاصل کی؟

(A) 6دسمبر1973 (B) 8دسمبر1973

(C) 6دسمبر1973 (D) 12اکتوبر1973

91. کون سا ملک بحرین کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟

(A) عراق (B) سعودی عرب

(C) ایران (D) قطر

92. بحرین کا قطر کے ساتھ سرحدی اور بحری حدود کا تنازع ہے وہ کون سا جزیرہ ہے جس پر بحرین وقطر دونوں ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور تنازع رکھتے ہیں؟

(A) جزیرہ حیدر (B) جزیرہ حوور

(C) جزیرہ مانا (D) جزیرہ فارس

93. کون سی تنظیم بحرین کی حکومت کے خلاف برسرپیکار ہے؟

(A) بحرین فریڈم موومنٹ

(B) اسلامک فرنٹ فار دی لبریشن آف بحرین

(C) دونوں B،A (D) ان میں سے کوئی نہیں

94. بنگلہ دیش کس خطہ میں واقع ہے؟

(A) جنوبی ایشیاء (B) ایشیاء مائنر

(C) جنوب مشرقی ایشیاء (D) جنوب مغربی ایشیاء

95. بنگلہ دیش کے مشرق میں کیا واقع ہے؟

(A) برما (B) انڈیا

(C) قطر (D) عمان

96. بنگلہ دیش کی کے جنوب میں کیا واقع ہے؟

(A) خلیج بنگال (B) چین

(C) خلیج فارس (D) نیپال

97. بنگلہ دیش کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 140,000مربع کلومیٹر (B) 144020مربع کلومیٹر

(C) 247,570مربع کلومیٹر (D) 97,570مربع کلومیٹر

98. بنگلہ دیش کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟

(A) چٹاگانگ (B) براہم آباد

(C) نیوڈھاکہ (D) ڈھاکہ

99. بنگلہ دیش کی اکثر آبادی دو دریاؤں گنگا اور............ کے ڈیلٹا

کے درمیانی علاقے میں آباد ہے۔

(A) سندھ (B) آمو دریا

(C) برہم پترا (D) جمنا

100. بنگلہ دیش میں مسلمان آبادی کتنے فیصد ہے؟

(A) 99 فیصد (B) 77 فیصد

(C) 70 فیصد (D) 88 فیصد

101. بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان اہم ترین وجہ تنازع کیا ہے؟

(A) سرحدی تنازعہ (B) مذہب

(C) گنگا سے مشترکہ پانی لینا

(D) بھارت کی طرف سے مداخلت

102. کس اسلامی ملک کی شمالی سرحد جنوبی بحیرہ چین کے ساتھ واقع ہے؟

(A) بنگلہ دیش (B) عمان

(C) برونائی دارالسلام (D) کوئی نہیں

103. برونائی دارالسلام کے باقی اطراف میں کیا واقع ہے؟

(A) بحیرہ چین (B) ملائیشیا

(C) انڈونیشیا (D) تھائی لینڈ

104. برونائی کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 5,770 مربع کلومیٹر (B) 9,000 مربع کلومیٹر

(C) 6,765 مربع کلومیٹر (D) 2,789 مربع کلومیٹر

105. برونائی کا دارالحکومت کون سا ہے؟

(A) برونائی سٹی (B) دارالسلام

(C) بندر سری بگوان (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

106. برونائی کے سلطان ''مود حسن البولکیا'' کی وجہ شہرت کیا ہے؟

(A) وہ دنیا کے سب سے امیر آدمیوں میں ایک ہے

(B) وہ دنیا کے سب سے عقلمند آدمیوں میں سے ایک ہے

(C) وہ دنیا کے سب سے خوش نصیب آدمیوں میں ایک ہے

(D) وہ دنیا کے سب سے بوڑھے بادشاہوں میں ایک ہے

107. برونائی نے کس ملک سے یکم جون 1984 کو آزادی حاصل کی؟

(A) فرانس (B) سپین

(C) برطانیہ (D) سعودی عرب

108. وسطی افریقی ملک چاڈ کے شمال میں کیا واقع ہے؟

(A) ایران (B) عراق

(C) برونائی (D) لیبیا

109. مغرب کی طرف کس ملک کے ساتھ چاڈ کی سرحد ہے؟

(A) کیمرون (B) نائیجریا

(C) نائیجر (D) تمام A،B،C

110. چاڈ کے ساتھ کون سا سمندر واقع ہے؟

(A) یہ چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے

(B) بحیرہ عرب (C) بحیرہ چین

(D) بحیرہ روم

111. چاڈ کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 284,000 مربع کلومیٹر

(B) 1,284,000 مربع کلومیٹر

(C) 3,284,000 مربع کلومیٹر

(D) 3,101,234 مربع کلومیٹر

112. چاڈ کا سب سے بڑا شہر اور اس کا دارالحکومت کون سا ہے؟

(A) نیروبی (B) عابد جانی

(C) لوگون (D) انجمینا / انجمنا

113. چاڈ کا آدھا شمالی حصہ کس جگہ واقع ہے؟

(A) صحارا (B) لیبیڈی

(C) سب صحارا (D) صحرائے گوبی

114. سرح ماؤنڈون اور ابیے چی نامی شہر کس ملک میں واقع ہے؟

(A) چاڈ (B) مصر

(C) لیبیا (D) انڈونیشیا

115. چاڈ میں مسلمان کتنے فیصد ہیں؟

(A) 60 (B) 50

(C) 90 (D) 77

116. قبرص کس سمندر میں واقع ہے؟
(A) دریائے چین (B) بحیرہ احمر
(C) بحیرہ روم (D) بحیرہ عرب

117. ترکی کی فوج نے شمالی قبرص کا ایک تہائی حصہ کب آزاد کیا؟
(A) 1947 (B) 1974
(C) 1980 (D) 1955

118. قبرص کا دارالحکومت کون سا ہے؟
(A) بالائی نکوشیا (B) یونانی نکوشیا
(C) نکوشیا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

119. مصر کس براعظم میں واقع ہے؟
(A) افریقہ (B) ایشیاء
(C) دونوں A، B میں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

120. مصر کہاں واقع ہے؟
(A) شمال مشرقی افریقہ (B) جنوب مغربی ایشیا
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

121. مصر کا کون سا حصہ ایشیاء میں واقع ہے؟
(A) جزیرہ نما سینائی (B) صحارا
(C) جزیرہ گولان (D) سب صحارا

122. ایشیاء اور افریقہ کے درمیان واقع واحد زمینی راستہ کون سا ہے؟
(A) صحارا (B) جزیرہ نما سینائی
(C) ایشیا مائنر (D) سطح مرتفع سینائے

123. مصر کو کون سا دریا غیر متوازی حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟
(A) دریائے آمو (B) دریائے دجلہ
(C) دریائے نیل (D) دریائے فرات

124. قاہرہ مصر کا دارالحکومت ہے اس شہر کی دوسری اہم خصوصیت کیا ہے؟
(A) یہ مصر کا سب سے بڑا شہر ہے
(B) یہ تاریخی شہر ہے
(C) یہ مصر کا واحد صنعتی شہر ہے
(D) یہ مصر کا سب سے چھوٹا شہر ہے

125. مصر کے مشرق میں .... ہے۔
(A) غزہ کی پٹی (B) بحیرہ احمر
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

126. مصر کے مغرب میں کون سا ملک واقع ہے؟
(A) چاڈ (B) شام
(C) لیبیا (D) نمیبیا

127. مصر کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 677,739 مربع کلومیٹر
(B) 907,739 مربع کلومیٹر
(C) 1101449 مربع کلومیٹر
(D) 888,739 مربع کلومیٹر

128. مصر میں مسلمانوں کی آبادی کتنے فیصد ہے؟
(A) 94 (B) 80
(C) 100 (D) 74

129. پہلی تہذیب جس کے ذریعے زرعی آبپاشی، تعلیم، شہری زندگی اور وسیع پیمانے کا سیاسی نظام بنا کہاں پر وجود میں آئی؟
(A) وادی سندھ (B) وادی نیل
(C) نیل کا پاٹ (D) بلتستان

130. مصر کا کتنا حصہ صحرا پر مشتمل ہے؟
(A) 55 فیصد (B) 90 فیصد
(C) 40 فیصد (D) 75 فیصد

131. مصر کا مغربی علاقہ صحرائے لیبیا پر مشتمل جو کہ کس صحرا کا ایک حصہ ہے؟
(A) صحارا (B) صحرائے سینا
(C) صحرائے نیل (D) صحرائے اعظم

132. مصر کے کس صحرا کی سرحد بحیرہ احمر اور سویز خلیج سے ملتی ہے؟
(A) صحرائے لیبیا (B) صحرائے سویز
(C) صحرائے عرب (D) صحرائے صحارا

133. مصر میں صحرائے لیبیا ایک وسیع ریتلے علاقے پر واقع ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟

(A) Grean Sand Sea
(B) Libyan Sand Sea
(C) Great Sand Sea
(D) Grean Saro Sea

134. مصر کے انتہائی جنوب میں سوڈان کی سرحد کے ساتھ کون سا صحرا واقع ہے؟

(A) صحرائے لیبیا (B) صحرائے سوڈان
(C) صحرائے نوبیان (D) صحرائے شرق

135. مصر کے جزیرہ نما سینا میں ایک پہاڑ کس نام سے مشہور ہے؟

(A) جولان کی پہاڑیاں (B) سینائی کی پہاڑیاں
(C) جبل موسیٰ (D) موسیٰ کا پہاڑ

136. مصر نے کس دریا پر آسوان ڈیم ہے؟

(A) نیل (B) فرات
(C) آسوان (D) کوئی نہیں

137. 48 کلومیٹر لمبی اور 16 کلومیٹر چوڑی کی آسوان ڈیم کی جھیل کا کیا نام ہے؟

(A) سادات جھیل (B) نصر جھیل
(C) آسوان جھیل (D) بلند جھیل

138. مصر میں واقع خاکنائے سویز مصر کو جزیرہ نما سائی کے ذریعے .... سے ملاتی ہے۔

(A) امریکہ (B) اسرائیل
(C) افریقہ (D) فلسطین

139. مصر میں واقع خاکنائے سویز مصر کو جزیرہ نما سینا کے ذریعے افریقہ سے ملاتی ہے خاکنائے سویز کس کے ذریعے بحیرہ احمر کو خلیج سویز سے قطع کرتی ہے؟

(A) نہر سویز (B) نہر نیل
(C) نہر سینا (D) دریائے سویز

140. دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کون سی ہے جو کہ عالم اسلام کا اعلیٰ تعلیم کیلئے مصروف ترین ادارہ بھی ہے؟

(A) الازہر یونیورسٹی (B) مصر یونیورسٹی
(C) قاہرہ یونیورسٹی (D) قدائی یونیورسٹی

141. الازہر یونیورسٹی کہاں پر واقع ہے؟

(A) الازہر (B) قاہرہ
(C) دمشق (D) تریپولی

142. الازہر یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آیا؟

(A) 988 عیسوی (B) 955 عیسوی
(C) 1020 عیسوی (D) 905 عیسوی

143. الازہر یونیورسٹی کی بنیاد کس نے رکھی؟

(A) الازہر (B) مطلب
(C) جوہر (D) اشامہ

144. 12 ویں صدی میں جامعہ الازہر یونیورسٹی کو کس شخصیت نے مغربی حملہ آوروں کے خلاف ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا؟

(A) الازہر (B) صلاح الدین ایوبی
(C) الجدلی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

145. مصری حکومت کے زیر انتظام الازہر یونیورسٹی میں اصلاحات کا عمل کب شروع ہوا؟

(A) 1924-25ء (B) 1965-68ء
(C) 1920-22ء (D) 1925-30ء

146. جامعہ الازہر کی مرکزی لائبریری میں کتنی کتب (جن میں ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں بھی ہیں) موجود ہیں؟

(A) 90,000 (B) 180,000
(C) 80,000 (D) 75,000

147. امویوں نے مصر پر کب حکومت کی؟

(A) 661-750 (B) 630-690
(C) 650-750 (D) 750-840

148. عباسیوں نے مصر پر کب حکومت کی؟

(A) 668-980 (B) 750-868
(C) 731-860 (D) 750-940

149. 969-1171 تک مصر پر کس کی حکومت تھی؟
(A) ایرانی (B) فاطمی
(C) عباسی (D) مختلف قبائل

150. 1171ء میں فاطمی خاندان سے مصر کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں گیا؟
(A) صلاح الدین ایوبی (B) سلطان آف لیبیا
(C) الازہر (D) القضائی

151. مصر کو شام کے ساتھ اکٹھا کس نے کیا؟
(A) عباسی (B) فاطمی
(C) ایرانی (D) صلاح الدین ایوبی

152. 1157ء اور 1250ء کے درمیان مصر اور شام پر کس کی حکومت تھی؟
(A) سلجوقی (B) مملوک سلطان
(C) ایرانی (D) مقامی سلطان

153. سلطنت عثمانیہ نے مملوکوں کو کب شکست دے کر مصر کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا؟
(A) 1510-11 (B) 1520-1
(C) 1516-17 (D) 1550-1

154. کس فرانسیسی حکمران نے مصر پر بہت بڑا حملہ کیا اور اپنی حکمرانی نیل کے پاٹ سے لے کر قاہرہ تک قائم کی؟
(A) نپولین (B) لوئیس
(C) قیصر (D) چارلس دوم

155. محمد علی نامی فوجی افسر نے مصر کا کنٹرول کب سنبھالا؟
(A) 1830ء (B) 1800ء
(C) 1805ء (D) 1810ء

156. نہر سویز کب مکمل ہوئی؟
(A) 1890ء (B) 1869ء
(C) 1860ء (D) 1865ء

157. 19ویں صدی میں نہر سویز کی کیا اہمیت تھی؟
(A) یہ ایشیاء اور یورپ کے درمیان تجارت اور رسل و رسائل کا بڑا ذریعہ تھی
(B) یہ افریقہ اور ایشیاء کے درمیان تجارت اور رسل و رسائل کا بڑا ذریعہ تھی
(C) یہ افریقہ اور یورپ کے درمیان تجارت اور رسل و رسائل کا بڑا ذریعہ تھی
(D) یہ ایشیاء اور یورپ کے درمیان غلاموں کی تجارت کا ذریعہ تھی

158. برطانیہ کی افواج نے مصر پر کب قبضہ کیا؟
(A) 1890ء (B) 1895ء
(C) 1882ء (D) 1875ء

159. برطانیہ کے مصر پر قبضہ کے دوران کس شخص کی رہنمائی میں مصری قوم پرست ایک مضبوط طاقت کے طور پر ابھرے؟
(A) کمال اتاترک (B) مصطفیٰ کمال
(C) جمال عبدالناصر (D) کمال پاشا

160. پہلی جنگ عظیم کے بعد مصر کے آزادی کے مطالبے کو برطانیہ نے رد کرتے ہوئے کیا جواب دیا؟
(A) وہ نہر سویز کی حفاظت کیلئے اپنے دستے مصر میں رکھنا چاہتے تھے
(B) انہیں اپنی سلطنت کا ہندوستان اور ایشیاء سے رابطہ رکھنے کیلئے مصر کے ہوائی اڈے ریڈیو نشریات اور مواصلات کے دوسرے ذرائع کی ضرورت تھی
(C) دونوں A، B بیانات درست ہیں
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

161. برطانیہ نے مصر کو کب خود مختار ریاست قرار دیا؟
(A) 1945ء (B) 1920ء
(C) 1930ء (D) 1922ء

162. کس ملک میں ''مسلم برادر ہوڈ (اخوان المسلمین)'' نامی ایک بین الاقوامی مسلمان تنظیم کی بنیاد رکھی گئی؟
(A) مصر (B) سوڈان
(C) لیبیا (D) ترکی

163. مسلم برادر ہوڈ کس مقصد کیلئے کام کر رہی ہے؟
(A) ایک بنیاد پرست مسلمان ریاست کے قیام کیلئے کام کر رہی ہے
(B) مصر پر حکمرانی کے لیے
(C) اسلام کے کردار کو حکومت اور معاشرے میں زیادہ کرنے کے لیے
(D) عیسائیوں کو ختم کرنے کے لیے

164. 1928ء میں مسلم برادر ہوڈ کی بنیاد کس نے رکھی؟
(A) حسن البناء (B) حسن الترابی
(C) حسن الدلال (D) موسیٰ بن شاہ

165. کب مصری حکومت نے مسلم برادر ہوڈ کو outbanned کیا؟
(A) 1940 (B) 1942
(C) 1943 (D) 1948

166. مصری حکومت نے حسن البناء کو کب قتل کیا؟
(A) 1949 (B) 1948ء
(C) 1951ء (D) 1952ء

167. 1952ء میں جمال عبدالناصر نے ....
(A) مصری حکومت کا کنٹرول سنبھالا
(B) مسلم برادر ہوڈ کو قانونی شکل دی
(C) دونوں A، B
(D) کوئی نہیں

168. جمال عبدالناصر نے مسلم برادر ہوڈ پر پابندی کب لگائی؟
(A) 1955ء (B) 1954ء
(C) 1953ء (D) 1956ء

169. اس تنظیم کا نام بتائیں جس کے ایک خفیہ بازو نے 1954ء میں جمال عبدالناصر کو قتل کرنے کی کوشش کی؟
(A) اخوان المسلمین (B) مسلم برادر ہوڈ
(C) جہاد (D) مسلم یونٹی

170. مسلم برادر ہوڈ کا سب سے بااثر ادیب کون سا تھا جسے 1966ء میں جمال عبدالناصر نے پھانسی دے دی تھی؟
(A) سید قطب (B) احمد دیدات
(C) سید احمد (D) ولی قطب

171. سید قطب کی تحریروں نے مصر کی فوج میں بہت سے ایسے نوجوانوں کو متاثر کیا جن کا تعلق .... نامی گروپ سے تھا۔
(A) جہاد (B) مسلم برادر ہوڈ
(C) مسلم یونٹی (D) کوئی نہیں

172. اکتوبر 1981ء میں کس شخصیت کو جہاد گروپ سے وابستہ نوجوان نے قتل کر دیا تھا؟
(A) انور سادات (B) روبن ڈیوڈ
(C) انور ابراہیم (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

173. 1984ء اور 1987ء میں مسلم برادر ہوڈ نے کس ملک کی سیاسی پارٹی سے اتحاد کر کے پارلیمنٹ میں نشستیں جیتیں؟
(A) ترکی (B) سوڈان
(C) مصر (D) لیبیا

174. آج کل مسلم برادر ہوڈ کس علاقے میں کام کر رہی ہے؟
(A) مشرق وسطیٰ (B) شمالی افریقہ
(C) جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیاء
(D) تمام

175. شام کے حماہ نامی قصبے میں مسلم برادر ہوڈ کے پیدا کردہ حکومت مخالف جذبات کو کب کچلا گیا؟
(A) 1980ء (B) 1982ء
(C) 1984ء (D) 1990ء

176. 1989ء میں مسلم برادر ہوڈ نے کس ملک کی فوجی بغاوت میں ایک اہم کردار ادا کیا؟
(A) مصر (B) لبنان
(C) سوڈان (D) نائیجیریا

177. کس ملک میں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کیلئے مسلم برادر ہوڈ

نے طویل پرامن راستہ اختیار کیا؟

(A) عراق (B) افغانستان

(C) اردن (D) شام

178. مصری فوج میں ایک خفیہ سوسائٹی نے (جو اپنے آپ کو آزاد افسر کہلواتے تھے) جنرل عبدالناصر کی رہنمائی میں کب حکومت کا کنٹرول سنبھالا؟

(A) جولائی 1952ء (B) جولائی 1955ء

(C) جنوری 1952ء (D) جنوری 1955ء

179. ناصر جمال نے نہر سویز کو کب قومی تحویل میں لیا؟

(A) 1960ء (B) 1965ء

(C) 1956ء (D) 1962ء

180. مصر اور شام کو ملا کر کس نام سے پکارا گیا؟

(A) عرب لیگ (B) یونائیٹڈ عرب ری پبلک

(C) یونائیٹڈ فرنٹ (D) یونائیٹڈ گروپ

181. یونائیٹڈ عرب ری پبلک کب وجود میں آیا؟

(A) 1960 (B) 1958

(C) 1962 (D) 1963

182. مصر اور شام کی مشترکہ ریاست کا وجود کب ختم ہوا؟

(A) 1959ء (B) 1960ء

(C) 1961ء (D) 1964ء

183. مصر نے اپنا نام یونائیٹڈ عرب ری پبلک سے دوبارہ مصر کب اپنایا؟

(A) 1972ء (B) 1975ء

(C) 1971ء (D) 1965ء

184. کس معاہدے کے تحت اسرائیل جزیرہ سینا اور مصر سے نکل گیا اور اپنے معمول کے تعلقات مصر کے ساتھ قائم رکھنے پر راضی ہوگیا؟

(A) کیمپ ڈیوڈ معاہدہ (B) مصر اسرائیل معاہدہ

(C) اوسلو معاہدہ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

185. چیچنیا کی مغربی سرحد پر کیا واقع ہے؟

(A) تاجکستان (B) سلوواکیہ

(C) انگشتیا (D) آذربائیجان

186. چیچنیا کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 15,000 مربع کلومیٹر (B) 10,000 مربع کلومیٹر

(C) 20,000 مربع کلومیٹر (D) 12,000 مربع کلومیٹر

187. چیچنیا کے لوگوں کی اکثریت کا مذہب کیا ہے؟

(A) عیسائیت (B) اسلام

(C) ہندو (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

188. چیچنیا کے عوام اپنے آپ کو کس نام سے پکارتے ہیں؟

(A) مسلمان (B) نوک چی

(C) اچکیریا (D) رشین مسلم

189. چیچنیا کے لوگ اپنی ریاست کو کس نام سے پکارتے ہیں؟

(A) نوک چی (B) مچھلاں

(C) اچکیریا (D) مادر وطن

190. چیچنیا کب سے سوویت یونین کی خود مختار مشترکہ چیچن انگش ریاست کا حصہ تھا؟

(A) 1930 (B) 1932

(C) 1934 (D) 1936

191. کب چیچن انگش ریاست ختم ہوگئی؟

(A) 1944 (B) 1945

(C) 1946 (D) 1947

192. چیچنیا نے اپنے آپ کو انگشتیا سے الگ کرکے اپنی خود مختاری کا اعلان کب کیا؟

(A) 1994ء (B) 1999ء

(C) 1991ء (D) 1990ء

193. روس کے حملوں سے قبل چیچنیا کی معیشت کا دارومدار کس شے پر تھا؟

(A) پیٹرول (B) سونا

(C) یورینیم　(D) چاندی

194. سلطنت روس نے چیچنیا کو کب اپنے ساتھ ضم کیا؟
(A) 1870ء　(B) 1859ء
(C) 1855ء　(D) 1800ء

195. چیچن انگش کا وجود دوبارہ کب عمل میں آیا؟
(A) 1965ء　(B) 1957ء
(C) 1950ء　(D) کبھی نہیں

196. چیچن جنرل ذہو خار دودایوف نے گروزنی میں کیمونسٹ حکومت کا خاتمہ کب کیا؟
(A) 1991ء　(B) 1993ء
(C) 1995ء　(D) 1989ء

197. چیچنیا کی مسلم تحریک آزادی کو کچلنے کیلئے صدر بورس یلسن نے کب چیچنیا پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا؟
(A) 1996ء　(B) 1997ء
(C) 1994ء　(D) 1992ء

198. کب چیچنیا اور روس نے جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا؟
(A) 1993　(B) 1994
(C) 1995　(D) 1996

199. چیچنیا نے مکمل آزادی حاصل کرنے کیلئے دوبارہ اپنی تحریک کا آغاز کب کیا؟
(A) اگست 2000ء　(B) اگست 1999ء
(C) اگست 1998ء　(D) اگست 1996ء

200. اردن کہاں واقع ہے؟
(A) شمال مشرقی ایشیاء　(B) وسطی ایشیاء
(C) شمال مغربی ایشیاء　(D) جنوب مشرقی ایشیاء

201. اردن کی شمالی سرحد .... کے ساتھ ہے۔
(A) عراق　(B) عمان
(C) براہ نائی　(D) شام

202. اردن کے مشرق میں کیا واقع ہے؟
(A) عراق　(B) سعودی عرب
(C) دونوں A،B　(D) کوئی نہیں

203. اردن کے جنوب میں کیا واقع ہے؟
(A) خلیج عقبہ　(B) سعودی عرب
(C) دونوں A،B　(D) کوئی نہیں

204. اردن کے مغرب میں کیا واقع ہے؟
(A) اسرائیل　(B) مغربی کنارہ
(C) دونوں A،B　(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

205. 1967ء میں اسرائیل نے کس ملک سے بذریعہ جارحیت مغربی کنارہ چھین لیا تھا؟
(A) مصر　(B) اردن
(C) لبنان　(D) شام

206. اردن کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 89,556 مربع کلومیٹر　(B) 70,566 مربع کلومیٹر
(C) 99,556 مربع کلومیٹر　(D) 55,689 مربع کلومیٹر

207. کون سا دریا اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحد بناتا ہے؟
(A) دریائے اردن　(B) دریائے سرخ
(C) دریائے اسرائیل　(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

208. وادئ اردن عظیم گہری گھاٹی (Great Rift Vally) کی تہ میں واقع ہے۔ اس کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ۔
(A) یہ دنیا کا سب سے نچلا مقام ہے
(B) یہ ایشیاء کا نچلا ترین مقام ہے
(C) یہ افریقہ کا نچلا ترین مقام ہے
(D) یہ دنیا کا گرم ترین مقام ہے۔

209. اردن کی زیادہ تر آبادی کس قوم پر مشتمل ہے؟
(A) افریقین　(B) ایشیائی
(C) عرب　(D) بربر

210. اردن کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟
(A) اومان　(B) عمان
(C) الفرہ　(D) ٹریپولی

211. اردن کی واحد بندرگاہ کا کیا نام ہے؟
(A) الامان (B) الرفاع
(C) العقبہ (D) عمان

212. سلطنت عثمانیہ نے اردن پر 1517ء سے لے کر کب تک حکومت کی؟
(A) 1918ء (B) 1922ء
(C) 1900ء (D) 1905ء

213. کب برطانیہ نے اردن کی انتظامی ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا؟
(A) 1920 (B) 1921
(C) 1922 (D) 1923

214. برطانیہ نے اردن کی تقسیم کے دوران دریائے اردن کے مغرب میں واقع سرزمین کو فلسطین کا نام دیا اور مشرقی حصہ میں واقع سرزمین کو کیا نام دیا گیا؟
(A) اسرائیل (B) ٹرانس جارڈن
(C) یونائیٹڈ جارڈن (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

215. کب ٹرانس اردن کی فوج نے دوسری عرب لیگ آف نیشنز کی افواج کے ساتھ مل کر اسرائیل کی نئی قائم شدہ ریاست پر حملہ کیا؟
(A) مئی 1948 (B) مئی 1949
(C) مئی 1950 (D) مئی 1951

216. ٹرانس اردن نے نئی قائم شدہ ریاست اسرائیل پر حملہ کر کے بہت سے علاقوں بشمول .... پر قبضہ کر لیا؟
(A) غزہ کی پٹی (B) مغربی کنارہ
(C) بیت المقدس (D) کوئی نہیں

217. اپریل 1949ء میں شاہ عبداللہ نے اپنے ملک کا نام Trans Jordan سے تبدیل کر کے کیا نام رکھا؟
(A) Hashemite Kingdom of Jordan
(B) جمہوری پبلک آف اردن
(C) Kingdom of Jordan
(D) Democratic Kingdom

218. کب اردن اور اسرائیل پانی کی وجہ سے مسلسل سرحدی تنازعات میں ملوث تھے؟
(A) 1949 (B) 1950
(C) 1951 (D) 1952

219. قازقستان کے شمال میں روس اور مشرق میں ....
(A) چین واقع ہے (B) کرغستان واقع ہے
(C) ترکمانستان واقع ہے (D) کوئی نہیں

220. قازقستان کے مغرب میں کیا واقع ہے؟
(A) بحیرہ کیسپئن (B) روس
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

221. قازقستان کے چھوٹے حصے کس براعظم میں واقع ہیں؟
(A) یورپ (B) امریکہ
(C) افریقہ (D) یوریشیا

222. وسط ایشیا کے سب سے بڑے ملک کا نام بتائیں؟
(A) کرغستان (B) قازقستان
(C) روس (D) کوئی نہیں

223. قازقستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 3,717,300 مربع کلومیٹر
(B) 4,717,300 مربع کلومیٹر
(C) 2,717,300 مربع کلومیٹر
(D) 1,717,300 مربع کلومیٹر

224. روس کے بعد سابقہ سوویت یونین کی سب سے بڑی ریاست کون سی تھی؟
(A) قازقستان (B) کرغستان
(C) تاجکستان (D) آرمینیا

225. قازقستان کا دارالحکومت کون سا ہے؟
(A) الماتے (B) آستانہ
(C) دوشنبے (D) قازق ملی

226. قازقستان کی کرنسی کا کیا نام ہے؟

(A) ترق　　(B) دینار
(C) تیخ　　(D) ڈالر

227. لبنان کس خطے میں واقع ہے؟
(A) جنوب مغربی ایشیاء　　(B) جنوب مشرقی ایشیاء
(C) شمالی ایشیاء　　(D) جنوب مغربی ایشیاء

228. بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر کون سا ملک واقع ہے؟
(A) اسرائیل　　(B) لبنان
(C) اردن A،B　　(D) ترکی

229. لبنان کی کون سی سرحد شام کے ساتھ ہے؟
(A) شمالی　　(B) مشرقی
(C) دونوں　　(D) کوئی نہیں

230. لبنان کی جنوبی سرحد کس ملک کے ساتھ ہے؟
(A) لیبیا　　(B) اسرائیل
(C) قبرص　　(D) یونان

231. لبنان کا شام کے ساتھ مشترکہ پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟
(A) Anti Syrian Mountain
(B) Caucasus
(C) Anti-Lebanon Mountain
(D) Trans Syriun Sountain

232. لبنان کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 10,452 مربع کلومیٹر　　(B) 10,500 مربع کلومیٹر
(C) 11,350 مربع کلومیٹر　　(D) 12,102 مربع کلومیٹر

233. لبنان کی شمالی بندرگاہ کس شہر میں واقع ہے؟
(A) ہیلسنز　　(B) تریپولی
(C) لبنان سٹی　　(D) لائبیریا

234. لبنان میں عرب آبادی کا تناسب کیا ہے؟
(A) 93فیصد　　(B) 85فیصد
(C) 90فیصد　　(D) 95فیصد

235. لبنان میں مسلمان آبادی کا تناسب کیا ہے؟
(A) 75فیصد　　(B) 70فیصد
(C) 80فیصد　　(D) 60فیصد

236. لبنان میں سیاسی طاقت اور سرکاری انتظامیہ مذہبی گروہوں کی بنیاد پر منظم ہیں۔ اس پالیسی کو کیا کہا جاتا ہے؟
(A) Confusionism
(B) Liberialism
(C) Relegionalism
(D) Confessionalism

237. لبنان میں اسلام کب پہنچا؟
(A) 636ء　　(B) 637ء
(C) 650ء　　(D) 645ء

238. عباسیوں نے لبنان کا کنٹرول امیہ خلافت سے کب لیا؟
(A) 760ء　　(B) 750ء
(C) 765ء　　(D) 755ء

239. عثمانیوں نے لبنان کو کب فتح کیا؟
(A) 1520ء　　(B) 1521ء
(C) 1516ء　　(D) 1515

240. سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1920ء میں لیگ آف نیشنز نے لبنان کس ملک کے حوالے کیا؟
(A) فرانس　　(B) اٹلی
(C) روس　　(D) برطانیہ

241. لبنان ایک خودمختار ملک کب بنا؟
(A) 1944ء　　(B) 1943ء
(C) 1940ء　　(D) 1945ء

242. لیبیا کس خطے میں واقع ہے؟
(A) جنوبی افریقہ　　(B) مشرقی افریقہ
(C) شمالی افریقہ　　(D) جنوب مغربی افریقہ

243. لیبیا کے شمال مغرب میں کون سا ملک ہے؟
(A) لبنان　　(B) تیونس
(C) اسرائیل　　(D) ترکی

244. لیبیا کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 1,560,132 مربع کلومیٹر
(B) 1,508,310 مربع کلومیٹر
(C) 1,75,000 مربع کلومیٹر/1759540
(D) 1,613,810 مربع کلومیٹر

245. لیبیا کے مشرق میں کون سا ملک ہے؟
(A) لبنان (B) مصر
(C) چاڈ (D) تیونس

246. لیبیا کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت کون سا شہر ہے؟
(A) ترپیولی (B) بن جدید
(C) بن غازی (D) نیو ترپیولی

247. لیبیا کا کتنے فیصد حصہ بنجر پتھریلا اور ریتلا ہے؟
(A) 80فیصد (B) 90فیصد
(C) 85فیصد (D) 50فیصد

248. لیبیا کا اہم ترین معاشی وسیلہ کون سا ہے؟
(A) پٹرولیم (B) چاندی
(C) سونا (D) لوہا

249. لیبیا میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے؟
(A) 99فیصد (B) 97فیصد
(C) 98فیصد (D) 95فیصد

250. ترپیولی اور بن غازی کس ملک کی بندرگاہیں ہیں؟
(A) تیونس (B) چاڈ
(C) لیبیا (D) لبنان

251. کس شخصیت کے زیر اثر موجودہ لیبیا 643ء میں اسلامی ملک بنا؟
(A) عمرو ابن العاص (B) عمرو ابن الجبار
(C) عمرو ابن العاصم (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

252. اٹلی نے لیبیا کو فتح کرنے کی مہم کب شروع کی؟
(A) 1918ء (B) 1911ء
(C) 1915ء (D) 1900ء

253. سلطنت عثمانیہ لیبیا سے دستبردار کب ہوئی؟
(A) 1912ء (B) 1900ء
(C) 1915ء (D) 1905ء

254. دوسری جنگ عظیم کے بعد کس ملک نے لیبیا کا کنٹرول سنبھالا تھا؟
(A) فرانس (B) برطانیہ
(C) دونوں A، B نے (D) اٹلی

255. لیبیا کب آزاد ہوا؟
(A) یکم جنوری 1960ء (B) یکم جنوری 1945ء
(C) یکم جنوری 1952ء (D) یکم جنوری 1948ء

256. کس شخصیت کی زیر قیادت نوجوان فوجیوں کے ایک گروہ نے لیبیا کی شاہی حکومت کا تختہ الٹا؟
(A) حافظ الاسد (B) کرنل احمد بن جابر
(C) کرنل معمر القذافی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

257. کرنل معمر القذافی نے کب لیبین ری پبلک کے نام سے ایک جمہوریہ قائم کی؟
(A) 1961 (B) 1964
(C) 1969 (D) 1971

258. نائیجیریا کس خطے میں واقع ہے؟
(A) شمالی افریقہ (B) مغربی افریقہ
(C) مشرقی افریقہ (D) جنوبی افریقہ

259. نائیجیریا جنوب میں کیا واقع ہے؟
(A) بحیرۂ احمر (B) بحیرۂ عرب
(C) بحر اکاہل (D) بحیرۂ مردار

260. نائیجیریا کا سب سے بڑا شہر ہے۔
(A) ناگوس (B) لاگوس
(C) راگوس (D) کوئی نہیں

261. نائیجیریا کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟
(A) ابوجا (B) نائیجیریا
(C) عدن (D) لاؤس

262. افریقہ کا سب سے گنجان آباد ملک کون سا ہے؟
(A) نائیجیریا (B) الجیریا
(C) لیبیا (D) چاڈ

263. نائیجیریا کی اس جگہ کا نام بتائیں جہاں تیل کے سب سے زیادہ ذخائر پائے جاتے ہیں؟
(A) سطح مرتفع نائیجیریا (B) بحر اکاہل
(C) صحرائے نائیجر (D) نائیجر کا پاٹ

264. نائیجیریا کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 723,768 مربع کلومیٹر (B) 623,000 مربع کلومیٹر
(C) 823,768 مربع کلومیٹر (D) 923,768 مربع کلومیٹر

265. نائیجیریا کے اہم دریا کون کون سے ہیں؟
(A) نائیجر اور یانو (B) نائیجر اور بینو
(C) نائیجر اور نیل (D) نیل اور بینو

266. کس ملک میں سطح مرتفع جاس واقع ہے؟
(A) لیبیا (B) نائیجیریا
(C) چاڈ (D) الجیریا

267. نائیجیریا میں واقع جیسالینڈ کیا ہے؟
(A) میدان (B) پہاڑ
(C) دریا (D) بندرگاہ

268. سطح مرتفع بورد با کس ملک میں واقع ہے؟
(A) نائیجیریا (B) الجزائر
(C) لیبیا (D) تیونس

269. جس مقام پر نائیجیریا، نائیجر، چاڈ اور کیمرون ملتے ہیں وہاں کون سی اہم جھیل واقع ہے؟
(A) نائیجر جھیل (B) کیمرون جھیل
(C) چاڈ جھیل (D) نائیجیریا جھیل

270. نائیجیریا کی 70% آبادی..........نامی نسل گروہ پر مشتمل ہے۔
(A) فولانی (B) یوروبہ
(C) اگبو (D) تمام C،B،A

271. نائیجیریا کب ایک خود مختار ملک بنا؟
(A) یکم اکتوبر 1965ء (B) یکم اکتوبر 1962ء
(C) یکم اکتوبر 1958ء (D) یکم اکتوبر 1960ء

272. فلسطین نیشنل اتھارٹی کا کیا مرتبہ ہے؟
(A) عبوری انتظامیہ (B) نیم خود مختار
(C) مکمل خود مختار (D) صوبہ

273. فلسطین نیشنل اتھارٹی کی تشکیل کن علاقوں میں ہوئی؟
(A) مغربی کنارہ اور غزہ پٹی
(B) مغربی کنارے، گولان کی پہاڑیاں اور غزہ پٹی
(C) مغربی کنارے اور گولان کی پہاڑیاں
(D) گولان کی پہاڑیاں اور غزہ پٹی

274. فلسطین نیشنل اتھارٹی کے مقننہ اور انتظامیہ کے پہلے عام انتخابات کب ہوئے؟
(A) جنوری 1969 (B) جنوری 1968
(C) جنوری 1967 (D) جنوری 1966

275. فلسطین نیشنل اتھارٹی کے پہلے عام انتخابات میں صدر کس کو نامزد کیا گیا تھا؟
(A) یاسر عرفات (B) ابو نضال
(C) شیخ ناصر (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

276. فلسطین نیشنل اتھارٹی (PNA) کے خارجی معاملات کون کنٹرول کرتا ہے؟
(A) PNA کے وزیر خارجہ (B) PNA کے صدر
(C) اسرائیل
(D) اسرائیل اور PNA دونوں

277. سوڈان کس خطہ میں واقع ہے؟
(A) جنوبی افریقہ (B) شمالی افریقہ
(C) مشرقی افریقہ (D) مغربی افریقہ

278. افریقہ کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟
(A) سوڈان (B) نائیجیریا
(C) لیبیا (D) کینیا

279۔ سوڈان کے شمال میں ______ واقع ہے۔
(A) چین (B) مصر
(C) فلسطین (D) اسرائیل

280۔ سوڈان کے مغرب میں کون سا ملک ہے؟
(A) لیبیا
(B) سنٹرل افریقن ریپبلک
(C) چاڈ (D) تینوں (A، B، C)

281۔ سوڈان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟
(A) خرطوم (B) جوبا
(C) کوستی (D) ام درمان

282۔ سوڈان کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 2,505,813 مربع کلومیٹر
(B) 3,205,810 مربع کلومیٹر
(C) 3,913,314 مربع کلومیٹر
(D) 1,505,800 مربع کلومیٹر

283۔ سوڈان کا کتنا رقبہ صحرا پر مشتمل ہے؟
(A) 20 فیصد (B) 35 فیصد
(C) 30 فیصد (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

284۔ کس ملک میں دریائے نیل اور اس کے ماخذ وائٹ نیل اور بلیو نیل واقع ہیں؟
(A) سوڈان (B) لیبیا
(C) مصر (D) تیونس

285۔ سوڈان میں نیل کے مغربی علاقہ میں کون سا صحرا واقع ہے؟
(A) صحرائے چاڈ (B) صحرائے لیبیا
(C) صحرائے صحارا (D) صحرائے نیل

286۔ سوڈان میں مسلمان آبادی کا تناسب کیا ہے؟
(A) 70 فیصد (B) 65 فیصد
(C) 90 فیصد (D) 80 فیصد

287۔ سوڈان کی پہلی مکمل مقامی حکومت کب وجود میں آئی؟
(A) 9 جنوری 1951 (B) 9 جنوری 1952
(C) 9 جنوری 1953 (D) 9 جنوری 1954

288۔ سوڈانائزیشن کا مطلب کیا ہے؟
(A) مقامی صنعت کا فروغ
(B) غیر سوڈانی باشندوں کا انخلاء
(C) تمام اہم انتظامی اور فوجی عہدوں پر فائز غیر ملکیوں کی سوڈانی باشندوں سے تبدیلی
(D) سوڈانی مصنوعات کے فروغ کے لیے مہم کی تیاری

289۔ جمہوریہ سوڈان کا قیام کب عمل میں آیا؟
(A) یکم جنوری 1956ء (B) یکم جنوری 1958ء
(C) یکم جنوری 1960ء (D) یکم جنوری 1962ء

290۔ 1972ء میں سوڈان کا پہلا صدر کون تھا؟
(A) بشیر محمد (B) جعفر محمد النمیری
(C) محمد نمیری (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

291۔ حسن الترابی کس سیاسی جماعت کے سربراہ تھے؟
(A) اسلامک فرنٹ (B) نیشنل اسلامک فرنٹ
(C) اسلامائزیشن (D) کوئی نہیں

292۔ سوڈان میں 1966ء کے انتخابات میں کون قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اور جنرل سیکرٹری کا عہدہ حاصل کیا؟
(A) شیخ ترابی (B) شیخ حسن الترابی
(C) حسن الترابی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

293۔ تاجکستان کس خطے میں واقع ہے؟
(A) وسطی ایشیا
(B) جنوب مشرقی وسطی ایشیا
(C) شمالی وسطی ایشیا
(D) مغربی وسطی ایشیا

294۔ تاجکستان کے جنوب میں کون سا ملک ہے؟
(A) افغانستان (B) آرمینیا
(C) آذربائیجان (D) ایران

295. تاجکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے؟
(A) ایران (B) عراق
(C) روس (D) چین

296. تاجکستان کا سب سے بڑا شہر اور دارلحکومت کون سا ہے؟
(A) الماتے (B) دوشنبے
(C) گورنو (D) بدخشاں

297. تاجکستان کے اندر لسانیت کی بنیاد پر ایک سیاسی حیثیت کا "گورنو بدخشاں" خود مختار صوبہ ہے جو کہ ملک کے
(A) 45فیصد پر مشتمل ہے (B) 20فیصد پر مشتمل ہے
(C) 35فیصد پر مشتمل ہے (D) 37فیصد پر مشتمل ہے

298. تاجکستان نے روس سے کب آزادی حاصل کی؟
(A) 1992ء (B) 1993ء
(C) 1991ء (D) 1990ء

299. تاجکستان میں مسلمان آبادی کی شرح کیا ہے؟
(A) 80فیصد (B) 70فیصد
(C) 100فیصد (D) 85فیصد

300. تاجکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 243,100 مربع کلومیٹر
(B) 193,100 مربع کلومیٹر
(C) 143,100 مربع کلومیٹر
(D) 200,234 مربع کلومیٹر

301. وسط ایشیاء کا سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے؟
(A) تاجکستان (B) کرغستان
(C) ازبکستان (D) آذربائیجان

302. مشرقی تاجکستان میں کون سا پہاڑی سلسلہ واقع ہے؟
(A) کوہ تاجک (B) پامیر
(C) کوہ مردار (D) ہمالیہ

303. شمال مشرقی تاجکستان میں موجود سابقہ سوویت یونین کی سب سے اونچی چوٹی کا نام کیا ہے؟
(A) جبل الاسماعیل (B) اسماعیل سمانی پیک
(C) گریٹ پیک (D) گیشر برم

304. اسماعیل سمانی پیک کی بلندی ہے۔
(A) 7495 میٹر (B) 7490 میٹر
(C) 7480 میٹر (D) 7475 میٹر

305. تاجکستان کے کس حصہ میں تیان شان کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے؟
(A) شمال (B) وسط
(C) دونوں A،B (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

306. سائز دریاوشان کو خارنی ہون واکش اور پنج نامی دریا کس ملک میں واقع ہیں؟
(A) تاجکستان (B) آرمینیا
(C) ازبکستان (D) افغانستان

307. تاجکستان کے جنوبی حصے اور افغانستان کے درمیان کون سا دریا بطور سرحد واقع ہے؟
(A) امو (B) سائز
(C) پنج (D) واکش

308. پنج اور واکش نامی دریا مل کر وسط ایشیا کا سب سے بڑا کون سا دریا بناتے ہیں؟
(A) دریائے سندھ (B) امودریا
(C) دریائے جمنا (D) دریائے گنگا

309. تاجکستان کے ساتھ کون سا سمندر واقع ہے؟
(A) بحیرۂ روم (B) بحیرۂ احمر
(C) بحیرۂ چین (D) کوئی بھی نہیں

310. موجودہ تاجکستان میں اسلام کب پہنچا؟
(A) 7ویں صدی (B) 8ویں صدی
(C) 6ویں صدی (D) 9ویں صدی

311. تاجک لوگ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟
(A) انڈوایرانین (B) عرب
(C) ترک (D) آریائی

312. اسلامک ری برتھ پارٹی کس ملک سے تعلق رکھتی ہے؟
(A) آذربائیجان (B) ترکی
(C) ازبکستان (D) تاجکستان

313. تاجکستان کی مقننہ کا کیا نام ہے؟
(A) تاجک اولی (B) چیمبر آف ایجز
(C) مجلس اولی (D) مجلس

314. ترکی کس خطہ میں واقع ہے؟
(A) جنوب مشرقی یورپ (B) جنوب مغربی ایشیاء
(C) دونوں A،B (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

315. ترکی کے جنوب میں کیا واقع ہے؟
(A) عراق (B) شام
(C) بحیرہ روم (D) تمام A،B،C

316. ترکی کے مغرب میں کیا واقع ہے؟
(A) اٹلی (B) ایجین سمندر
(C) فرانس (D) بحیرۂ اسود

317. ترکی کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 879,452 مربع کلومیٹر
(B) 999,452 مربع کلومیٹر
(C) 709,452 مربع کلومیٹر
(D) 779,454 مربع کلومیٹر

318. ترکی کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟
(A) انقرہ (B) استنبول
(C) تھریس (D) اناطولیہ

319. ترکی کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟
(A) انقرہ (B) نیو ترکی
(C) استنبول (D) نیو انقرہ

320. 1923ء میں جدید ترکی کی بنیاد کس شخصیت نے رکھی؟
(A) مصطفیٰ کمال اتاترک (B) احمد کمال پاشا
(C) مصطفیٰ پاشا (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

321. ترکی سیکولر ریاست کب بنا؟
(A) 1928 (B) 1922
(C) 1930 (D) 1926

322. ترکی کا اہم علاقہ جو ایشیا میں واقع ہے کیا کہلاتا ہے؟
(A) ایشیاء مائنر (B) اناطولیہ
(C) تھریس (D) واخ

323. اناطولیہ کن بحیرہ کے درمیان واقع ہے؟
(A) بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم
(B) بحیرہ قلزم اور بحیرہ اوقیانوس
(C) بحیرہ روم اور بحیرہ اسود
(D) بحیرہ اسود اور بحیرہ احمر

324. ترکی کا یورپ میں موجود حصہ کو کیا کہا جاتا ہے؟
(A) اناطولیہ (B) یورپ مائنر
(C) تھریس (D) سب یورپ

325. حضرت نوح کی کشتی جس پہاڑ پر آرکی وہ ترکی کی سب سے بلند چوٹی ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟
(A) کوہ نوح (B) کوہ مراد
(C) کوہ آرارط (D) کوہ آرک

326. کوہ نوح کی بلندی کتنی ہے؟
(A) 5137 میٹر (B) 5140 میٹر
(C) 5145 میٹر (D) 5150 میٹر

327. ترکی کے بلند مشرقی سطح مرتفع سے کون سا دریا نکلتا ہے؟
(A) دجلہ (B) فرات
(C) دونوں A،B (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

328. دریائے دجلہ اور فرات کس سمندر میں گرتے ہیں؟
(A) خلیج فارس (B) بحیرۂ اسود
(C) بحیرۂ روم (D) بحیرۂ عرب

329. ترکی کی سب سے لمبی جھیل کون سی ہے؟
(A) جھیل گولو (B) جھیل الحمراء
(C) وان گولو (D) نمکین جھیل

330. قدیم دنیا کے اس خطے کا نام بتائیں جس کا تعلق ترکی کے ایشیاء میں موجود حصے سے ہے؟

(A) مشرق بعید (B) ایشیا صغیر (ایشیائے کوچک)
(C) اناطولیہ (D) ایشیائی ترکی

331. ترکی میں مسلمان آبادی کی شرح کیا ہے؟
(A) 90فیصد (B) 95فیصد
(C) 85فیصد (D) 99فیصد

332. ترکی کی کرنسی کون سی ہے؟
(A) ریال (B) لیرا
(C) ترکش ڈالر (D) یورو

333. سلجوق ترک قبیلوں نے مشرق اور وسطی اناطولیہ کو کب تحت و تاراج کیا؟
(A) 12ویں صدی (B) 10ویں صدی
(C) 11ویں صدی (D) 13ویں صدی

334. ترکمان سلجوق نے وسطی اناطولیہ پر 12ویں اور 13ویں صدی تک حکومت کی۔ ان کی سلطنت کا کیا نام تھا؟
(A) سلجوق (B) یمن
(C) روم (D) چین

335. کب چنگیز خان نے منگولوں کے ساتھ مل کر حملہ کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا؟
(A) 1258ء (B) 1240ء
(C) 1250ء (D) 1210ء

336. تاریخ میں عثمانیہ خاندان فاتح ترکوں کے رہنما کے طور پر ابھرا۔ ان فاتح ترکوں نے بازنطینیوں کو کہاں شکست دی؟
(A) ترکی (B) یورپ
(C) ایشیاء (D) اناطولیہ

337. سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟
(A) مراد (B) عثمان
(C) عمر (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

338. عثمان کو اناطولیہ میں اس وقت فتح حاصل ہوئی جب اس کے کس بیٹے نے صوبائی دارالحکومت برصہ پر قبضہ کیا؟
(A) اورخان (B) بایزید

(C) عمر (D) عثمان دوم

339. سلطنت عثمانیہ کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟
(A) دریائے دجلہ سے دریائے فرات تک
(B) دریائے ڈینیوب سے دریائے فرات تک
(C) دریائے فرات سے دریائے نیل تک
(D) دریائے ڈینیوب سے دریائے فرات تک

340. دریائے ڈینیوب سے دریائے فرات تک پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ کس نے قائم کی تھی؟
(A) مراد اول (B) بایزید اول
(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

341. مراد اول اور بایزید اول کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟
(A) بھائی تھے (B) باپ بیٹا
(C) دادا پوتا (D) ولی عہد

342. کوسوو کی پہلی جنگ جس میں ترکوں کی فتح ہوئی، میں مراد اول قتل ہوا لیکن اس کے بیٹے بایزید اول نے سلطنت عثمانیہ مکمل کر دیا؟
(A) 1382 (B) 1384
(C) 1389 (D) 1390

343. 1402ء میں کس نے اناطولیہ پر حملہ کر کے بایزید کو قید کر لیا اور وہ اسی سال دوران قید فوت ہو گیا؟
(A) تیمور لنگ (B) سلجوق
(C) چنگیز خان (D) عباسی

344. بایزید کے کس بیٹے نے یورپ اور اناطولیہ میں عیسائی اور ترکمان جری دستوں کو شکست دی؟
(A) محمود دوم (B) محمود اول
(C) بایزید دوم (D) محمد دوم

345. محمود اول کے کس فاتح بیٹے نے سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں ایک بار پھر یورپ میں دریائے ڈینیوب تک وسیع کر دیں؟
(A) بایزید دوم (B) مراد اول
(C) مراد دوم (D) محمود دوم

346. سلطنت عثمانیہ کے کس فرد کی فتوحات 1453ء میں قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) اور اناطولیہ کے علاقے سے دریائے فرات تک کی تاریخ پر محیط ہوئیں؟

(A) مراد دوم (B) بایزید دوم
(C) محمد دوم (D) اورہان دوم

347. عثمانیوں کے سابقہ دور میں مفتوحہ زمینوں کو مربوط اور استحکام دینے کیلئے کس شخصیت نے فتوحات کا سلسلہ ترک کر دیا؟

(A) ارحان دوم (B) بایزید دوم
(C) محمود دوم (D) محمد دوم

348. سلطنت عثمانیہ کے کس فرد نے مسلمانوں کی پرانی خلافت کے مراکز سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے؟

(A) سلیمان اول (B) محمد ثانی
(C) مراد دوم (D) اورجان دوم

349. سلیمان اول نے کب مملوک سلطنت کو تباہ اور فتح کیا؟

(A) 1518 (B) 1517
(C) 1519 (D) 1521

350. سلیمان اول نے مملوک سلطنت کو شکست دے کر کون سا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا؟

(A) شام اور فلسطین (B) مصر اور عرب
(C) تمام A، B، C (D) کوئی نہیں

351. سلیمان اول کب سلطنت عثمانیہ کی توسیع کرنے کیلئے دریائے ڈینیوب کی طرف بڑھا تاکہ ہنگری کو فتح کرکے ویانا کا محاصرہ کر سکے؟

(A) 1520ء (B) 1570ء
(C) 1800ء (D) 1529ء

352. کس کی زیر حکمرانی سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچی؟

(A) مراد دوم (B) اورحان دوم
(C) سلیمان اول (D) محمود دوم

353. سلطنت عثمانیہ کا زوال کب شروع ہوا؟

(A) سلیمان اول کے دور کے آخر میں
(B) مراد دوم کے دور کے آخر تک
(C) محمد دوم کے دور کے آخر میں
(D) سلیمان اول کے دور کے بعد

354. سلطنت عثمانیہ کا زوال کب تک جاری رہا؟

(A) 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک
(B) 1919 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک
(C) 1920 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک
(D) 1921 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک

355. جون آف آسٹریا کی قیادت میں خود ساختہ "ہولی لیگ" نامی بحری بیڑا کب مشرقی بحیرہ روم میں داخل ہوا اور سلطنت عثمانیہ کے بحری بیڑے کو لیپانٹو کی جنگ میں شکست دی؟

(A) 1585ء (B) 1571ء
(C) 1590ء (D) 1515ء

356. ایرانی بادشاہ شاہ عباس اول نے 1623ء میں .... کو فتح کیا۔

(A) بغداد (B) مشرقی عراق
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

357. کس کی زیر قیادت سلطنت عثمانیہ کی فوج نے ایرانیوں کو عراق سے نکال دیا اور 1638ء میں کاکیشیا کو فتح کر لیا؟

(A) مراد سوم (B) محمد سوم
(C) مراد چہارم (D) محمد چہارم

358. سلطنت عثمانیہ کے انحطاط کو دیکھتے ہوئے کس کی زیر قیادت تنظیمات نامی اصلاحی تحریک شروع ہوئی؟

(A) محمود اول (B) محمود دوم
(C) محمود سوم (D) محمود چہارم

359. "تنظیمات" کا کیا مطلب ہے؟

(A) تنظیم نو (B) نشاۃ ثانیہ
(C) اصلاحات (D) جدیدیت

360. سلطنت عثمانیہ کے زوال کی اہم ترین وجہ کیا تھی؟
(A) ناقابل برداشت غیر ملکی قرضہ
(B) ناقابل برداشت یورپی قرضہ
(C) اندرونی بغاوتیں　(D) بیرونی حملے

361. سلطنت عثمانیہ پر قرضہ کی وجہ سے تنظیمات کے آخری سالوں میں آمدنی کا بڑا حصہ سود کی ادائیگی میں چلا جاتا تھا۔ یہ سود کی رقم کتنی تھی؟
(A) کل وصولیوں کے نصف سے زیادہ
(B) کل وصولیوں کا ایک تہائی حصہ
(C) کل وصولیوں کا ایک چوتھائی حصہ
(D) کل وصولیوں کا دو تہائی حصہ

362. ترکی میں "ینگ ترک" نامی ایک آزاد حزب مخالف کی تحریک نے عبدالحمید پر قانون اور پارلیمنٹ کو قائم رکھنے کیلئے دباؤ ڈالا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اس واقعے کو کیا کہا جاتا ہے؟
(A) ینگ ترک ریوولوشن 1930ء
(B) ینگ ترک ریوولوشن 1908ء
(C) ینگ ریوولوشن 1908ء
(D) ینگ ترک پریشر 1908ء

363. 1912ء میں جنگ عظیم اول کے نتیجہ میں ترکی میں ایک بغاوت نے جنم لیا جس کی قیادت کس نے کی؟
(A) انور پاشا　(B) مراد ششم
(C) کمال پاشا　(D) اتاترک پاشا

364. ترکی کب جنگ عظیم اول میں شامل ہوا؟
(A) 1915ء　(B) 1913ء
(C) 1914ء　(D) 1917ء

365. سلطنت عثمانیہ کے زوال کے پیچھے کیا وجہ/وجوہات کارفرما تھیں؟
(A) پہلی جنگ عظیم میں شکست
(B) غیر ملکی حملے
(C) اندرونی بغاوتیں، قحط، فاقے اور بیماریاں
(D) یہ تمام وجوہات A، B، C

366. پہلی جنگ عظیم کے دوران اور بعد میں ترکی میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے؟
(A) 50 لاکھ　(B) 60 لاکھ
(C) 65 لاکھ　(D) 55 لاکھ

367. پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد ترکی کی حکومت کا کنٹرول اتحادی طاقتوں کے پاس آ گیا۔ کون سا ملک ان اتحادی طاقتوں کا سربراہ تھا؟
(A) برطانیہ　(B) امریکہ
(C) روس　(D) آسٹریا

368. 1912 میں یونانیوں کی فوج نے ....
(A) ازمیر پر قبضہ کرلیا
(B) مغربی اناطولیہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا
(C) دونوں A، B
(D) کوئی نہیں

369. یونانیوں کے ازمیر پر قبضہ اور مسلمانوں کے قتل عام کے ردعمل میں کس موومنٹ کا قیام عمل میں آیا؟
(A) ترکش نیشنلسٹ موومنٹ
(B) مسلم نیشنلسٹ موومنٹ
(C) اسلامی نیشنلسٹ موومنٹ
(D) کوئی نہیں

370. ترکش نیشنلسٹ موومنٹ کا سربراہ کون تھا؟
(A) کمال پاشا　(B) محمود سوم
(C) آغا کمال　(D) مصطفیٰ کمال اتاترک

371. ترک جنگ آزادی کے دوران اتاترک نے کس کو شکست دے کر اپنے علاقے آزاد کروائے؟
(A) یونان اور برطانیہ　(B) فرانس اور اٹلی
(C) دونوں　(D) کوئی نہیں

372. اتاترک اور اتحادیوں کے درمیان کب Treaty of Lausanne طے پایا؟

(A) 1920 (B) 1921
(C) 1922 (D) 1923

373. Treaty of Lausanne کے مطابق کون سا علاقہ ترک ریاست کو واپس مل گیا؟
(A) مشرقی تھریس (B) اناطولیہ
(C) دونوں A، B (D) کوئی نہیں

374. ترکی کی جنگ آزادی کا عرصہ کیا تھا؟
(A) 1918-1923 (B) 1920-24
(C) 1923-25 (D) 1916-19

375. استنبول میں سلطان کی حکومت مکمل طور پر ختم کر کے انقرہ کو دار الحکومت بناتے ہوئے ترکی کو کب جمہوریہ قرار دیا گیا؟
(A) 1925 (B) 1926
(C) 1923 (D) 1930

376. ترکی کب دوسری جنگ عظیم میں شامل ہوا؟
(A) فروری 1945 (B) مارچ 1945
(C) اپریل 1945 (D) مئی 1945

377. دوسری جنگ عظیم میں ترکی نے کس ملک کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا؟
(A) جاپان (B) جرمنی
(C) دونوں A، B (D) روس

378. ترکی کی پہلی خاتون وزیر اعظم تانسو چلر کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے؟
(A) ٹروپاتھ پارٹی (B) رفاہ پارٹی
(C) ڈیموکریٹک پارٹی (D) پیپلز پارٹی

379. 1923ء میں ترکی کا جمہوریہ بننے کے بعد پہلا اسلامی وزیر اعظم کون بنا؟
(A) بلند ایجوت (B) نجم الدین اربکان
(C) کمال ایجوت (D) ان میں سے کوئی نہیں

380. اربکان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے؟
(A) ویلفیئر پارٹی (رفاہ) (B) مدر لینڈ پارٹی
(C) باتھ پارٹی (D) ملت پارٹی

381. فوجی دباؤ کے نتیجہ میں اربکان نے وزیر اعظم کے عہدے سے کب استعفیٰ دیا تھا؟
(A) جون 1997ء (B) جنوری 1998ء
(C) جون 1979ء (D) جنوری 1999ء

382. ترکی نے کب یورپی یونین میں شمولیت کی درخواست دی جسے مسترد کر دیا گیا؟
(A) 1980 (B) 1983
(C) 1985 (D) 1987

383. یورپین یونین نے کس بنیاد پر ترکی کی یورپین یونین میں شمولیت کی درخواست قبول نہ کی؟
(A) شمالی قبرص میں ترکی کی فوجوں کی موجودگی
(B) حکومت اور کرد آبادی کے درمیان جنگ تنازع
(C) ترکی کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ریکارڈ پر
(D) تمام A، B، C

384. ازبکستان کس خطہ میں واقع ہے؟
(A) وسطی ایشیاء (B) مڈل ایشیاء
(C) جنوبی ایشیاء (D) شمالی ایشیاء

385. ازبکستان کے جنوب میں کون سا ملک واقع ہے؟
(A) افغانستان (B) ترکمانستان
(C) دونوں A، B (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

386. ازبکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 557,400 مربع کلومیٹر (B) 337,400 مربع کلومیٹر
(C) 66,400 مربع کلومیٹر (D) 447,400 مربع کلومیٹر

387. کرک الپوغ نامی خود مختار ریاست ازبکستان کے 37 فیصد علاقے پر مشتمل ہے۔ ازبکستان میں اس کا محل وقوع کیا ہے؟
(A) مشرق (B) مغرب
(C) جنوب مغرب (D) جنوب مشرق

388. ازبکستان کا دارالحکومت کون سا ہے؟
(A) سمرقند (B) بخارا
(C) تاشقند (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

389. ازبکستان نے سوویت یونین سے کب آزادی حاصل کی؟
(A) 1991ء (B) 1990ء
(C) 1993ء (D) 1992ء

390. آزادی کے بعد ازبکستان کا اعلان کس قسم کی ریاست کے طور پر ہوا؟
(A) سیکولر (B) ڈیموکریٹک
(C) دونوں A،B (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

391. ازبکستان سے ملحق سمندر کون سا ہے؟
(A) بحیرۂ احمر (B) بحیرۂ عرب
(C) بحیرۂ روم
(D) ازبکستان چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہے

392. ازبکستان میں کون سا پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے؟
(A) تیان شان (B) پامیر الائی
(C) ان میں سے کوئی بھی نہیں (D) دونوں A،B

393. ازبکستان کا کتنا حصہ صحرا اور لق ودق میدان پر مشتمل ہے؟
(A) دو تہائی (B) آدھا
(C) چار تہائی (D) ایک تہائی

394. دنیا کے بڑے صحراؤں میں سے ایک شمال وسطی ازبکستان میں واقع ہے اور قازقستان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟
(A) قزل قوم (B) صحرائے سرخ
(C) صحرائے ازبک (D) وسط ایشیائی صحرا

395. ازبکستان کے شمال مشرق میں کون سا صحرا واقع ہے؟
(A) قزل قوم (B) صحرائے ازبک
(C) شمالی صحرا (D) میرزا قول

396. وسط ایشیاء کے دو طویل دریاؤں آمو دریا اور سائر دریا کے درمیان کون سا ملک واقع ہے؟
(A) تاجکستان (B) افغانستان
(C) ازبکستان (D) کرغستان

397. ازبکستان اور قازقستان کے درمیان کیا واقع ہے؟
(A) بحیرہ ارال (B) بحیرۂ احمر
(C) بحیرۂ عرب (D) آمو دریا

398. آمو دریا کی ازبکستان میں کیا اہمیت ہے؟
(A) یہ ازبکستان کا سب سے چھوٹا دریا ہے
(B) یہ ازبکستان کا سب سے بڑا دریا ہے
(C) یہ ازبکستان کیلئے معاشی طور پر اہم ہے
(D) یہ ازبکستان کیلئے دفاعی لحاظ سے اہم ہے

399. وادی فرغانہ اور سمرقند کے شہر کس ملک میں واقع ہیں؟
(A) تاجکستان (B) ایران
(C) قازقستان (D) ازبکستان

400. ازبکستان کی کرنسی کا کیا نام ہے؟
(A) ڈالر (B) پاؤنڈ
(C) روبل (D) سوم

401. ازبکستان کی پارلیمنٹ کا کیا نام ہے؟
(A) مجلس (B) علیا مجلس
(C) شوریٰ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

402. موجودہ ازبکستان میں اسلام کب آیا؟
(A) 7ویں صدی (B) 8ویں صدی
(C) 7ویں اور 8ویں صدی (D) 6صدی

403. کس صدی میں سامانی نامی ایرانی سلطنت موجودہ ازبکستان میں وجود میں آئی؟
(A) 17ویں (B) 18ویں
(C) 19ویں (D) 21ویں

404. 19ویں صدی میں سامانی سلطنت نے کون سی اہم مسلم تہذیب روشناس کروائی؟
(A) سمرقند (B) پارس
(C) بخارا (D) اشک آباد

405. ویں صدی میں کس منگول حکمران نے موجودہ ازبکستان کو فتح کیا؟

(A) تیمور (B) بابر
(C) چنگیز خان (D) کوئی نہیں

406. 14 ویں صدی میں کس منگول حکمران نے موجودہ ازبکستان کو فتح کیا؟

(A) تیمور لنگ (B) چنگیز خان
(C) مراد سوئم (D) بایزید اول

407. تیمور لنگ 1369ء میں کس شہر کو اپنی وسیع و عریض سلطنت کا شاندار اور عظیم الشان دارالحکومت بنایا؟

(A) بخارا (B) سمرقند
(C) بغداد (D) بغداد

408. کون سا اسلامی ملک تانبا برآمد کرتا ہے؟

(A) نائیجیریا (B) عراق
(C) ایران (D) متحدہ عرب امارات

409. کون سا اسلامی ملک اپنی غیر ملکی آمدنی کا 64 فیصد حصہ یورینیم کی برآمد سے حاصل کرتا ہے؟

(A) پاکستان (B) بنگلہ دیش
(C) اردن (D) نائیجیریا

410. آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟

(A) انڈونیشیا (B) اردن
(C) بنگلہ دیش (D) شام

411. کون سا اسلامی ملک 17,000 جزیروں پر مشتمل ہے؟

(A) ترکی (B) مصر
(C) شام (D) انڈونیشیا

412. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟

(A) انڈونیشیا میں سرگرم آتش فشاں سب سے زیادہ تعداد میں ہیں
(B) ملائیشیا میں سرگرم آتش فشاں سب سے زیادہ تعداد میں ہیں
(C) ایران میں سرگرم آتش فشاں سب سے زیادہ تعداد میں ہیں
(D) عراق میں سرگرم آتش فشاں سب سے زیادہ تعداد میں ہیں

413. انڈونیشیا کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے جو اس کا دارالحکومت بھی ہے؟

(A) جکارتہ (B) [illegible]
(C) بنڈونگ (D) میدان

414. انڈونیشیا کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 19,04,000 مربع کلومیٹر 1919440
(B) 2904000 مربع کلومیٹر
(C) 3904000 مربع کلومیٹر
(D) 490,4000 مربع کلومیٹر

415. انڈونیشیا کی سرکاری زبان ہے۔

(A) مالی (B) باہاسا
(C) باسا (D) کوئی نہیں

416. انڈونیشیا کی کرنسی کا کیا نام ہے؟

(A) ریال (B) روپیہ
(C) رنگٹ (D) ڈالر

417. تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک عراق تیل کی پیداوار سے کتنے فیصد آمدنی حاصل کرتا ہے؟

(A) 80 فیصد (B) 86 فیصد
(C) 90 فیصد (D) 96 فیصد

418. عراق کے مشرق میں کون سا ملک ہے؟

(A) ترکی (B) اردن
(C) ایران (D) کویت

419. عراق کے شمال میں کون سا ملک ہے؟

(A) ترکی (B) سعودی عرب
(C) شام (D) فلسطین

420. عراق کے مغرب میں ....

(A) شام واقع ہے (B) اردن واقع ہے
(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

421. عراق کے جنوب میں کون سا ملک ہے؟

(A) سعودی عرب (B) کویت
(C) دونوں B،A (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

422. عراق کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 23,8000 مربع کلومیٹر
(B) 50,0500 مربع کلومیٹر
(C) 43,8317 مربع کلومیٹر
(D) 90,0200 مربع کلومیٹر

423. عراق کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟
(A) اربیل (B) موصل
(C) بغداد (D) کرکوک

424. سعودی عرب کے مشرق میں کیا واقع ہے؟
(A) خلیج فارس
(B) خلیج عرب
(C) خلیج سوڈان
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

425. کونسے اسلامی ملک میں ربع خالی (Empty Quarter) نامی ریت کا سب سے بڑا صحرا پایا جاتا ہے؟
(A) ایران (B) فلسطین
(C) عراق (D) سعودی عرب

426. سعودی عرب کا دارالحکومت کون سا ہے؟
(A) ریاض (B) جدہ
(C) مکہ (D) مدینہ

427. سعودی عرب کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 440,000 مربع کلومیٹر
(B) 2440,000 مربع کلومیٹر
(C) 2240,000 مربع کلومیٹر
(D) 2255,000 مربع کلومیٹر

428. سعودی عرب کی سب سے بڑی پیداوار تیل ہے۔ یہ اپنی آمدنی کا کتنے فیصد تیل سے حاصل کرتا ہے؟
(A) 80 فیصد (B) 90 فیصد
(C) 95 فیصد (D) 100 فیصد

429. الدمام کس ملک کی بندرگاہ کا نام ہے؟ (P.C.S Judicial)
(A) سعودی عرب (B) یمن
(C) قطر (D) متحدہ عرب امارات

430. جنوب مشرق ایشیاء میں جزیرہ ملائی کے ساتھ کون سا اسلامی ملک واقع ہے؟
(A) ایران (B) عراق
(C) قطر (D) ملائیشیا

431. ملائیشیا کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟
(A) جارج ٹاؤن (B) ایپوہ
(C) کوالالمپور (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

432. ملائیشیا کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(A) 229,000 مربع کلومیٹر
(B) 329,000 مربع کلومیٹر
(C) 429,000 مربع کلومیٹر
(D) 529,000 مربع کلومیٹر

433. جنوب مشرقی ایشیاء میں آبنائے ملاکا نامی ایک سمندری راستہ ہے۔ اگر اس راہ گزر کو بند کر دیا جائے تو تمام سمندری بین الاقوامی تجارت بند ہو جائے گی۔ آبنائے ملاکا کس اسلامی ملک کی ملکیت ہے؟ (P.C.S. Judicial 2002)
(A) انڈونیشیا (B) برونائی
(C) ملائیشیا (D) سعودی عرب

434. دنیا میں ملائیشیا کس چیز کا ایک تہائی حصہ پیدا کرتا ہے؟
(A) ربڑ (B) ٹن
(C) دونوں (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

435. کوالالمپور اور جکارتہ کس کی بندرگاہیں ہیں؟
(A) آبنائے ملاکا (B) انڈونیشیاء
(C) آبنائے جبل الطارق (D) جکارتہ

436. رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اسلامی ملک کون سا ہے؟
(A) مالدیپ (B) متحدہ عرب امارات
(C) قطر (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

437. مالدیپ کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت کون سا ہے؟

(A) مالے (B) مورینا

(C) مالدیپ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

438. جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی علاقے پر بحیرہ عرب اور خلیج عمان پر کون سا اسلامی ملک واقع ہے؟

(A) شام (B) اومان

(C) سوڈان (D) مصر

439. مسقط کس ملک کا دارالحکومت ہے؟

(A) شام (B) متحدہ عرب امارات

(C) سعودی عرب (D) اومان

440. اومان کی سرکاری زبان کونسی ہے؟

(A) اومانی (B) انگریزی

(C) فارسی (D) کوئی نہیں

441. اومان کی کرنسی کون سی ہے؟

(A) دینار (B) ریال

(C) پاؤنڈ (D) اومانی ریال

442. جزیرہ نما عرب کے مشرقی حصے میں کون سا وہ اسلامی ملک واقع ہے جو خلیج اومان سے لے کر خلیج فارس کے جنوبی ساحل تک پھیلا ہوا ہے؟

(A) متحدہ عرب امارات (B) اومان

(C) سعودی عرب (D) عراق

443. ابوظہبی کس ملک کا دارالحکومت ہے؟

(A) ایران (B) متحدہ عرب امارات

(C) عراق (D) مصر

444. متحدہ عرب امارات کی سرکاری زبان کون سی ہے؟

(A) دینار (B) درہم

(C) پاؤنڈ (D) شلنگ

445. متحدہ عرب امارات کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 83,600 مربع کلومیٹر (B) 73,000 مربع کلومیٹر

(C) 63,000 مربع کلومیٹر (D) 53,000 مربع کلومیٹر

446. وہ کون سا ملک ہے جو سعودی عرب کے شمال مشرق خلیج فارس کے انتہائی شمال اور عراق کے جنوب میں واقع ہے؟

(A) اومان (B) ایران

(C) مسقط (D) کویت

447. کویت کا دارالحکومت کون سا ہے؟

(A) کویت شہر (B) سالمیہ

(C) ابوظہبی (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

448. کویت کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 14,000 مربع کلومیٹر (B) 15,000 مربع کلومیٹر

(C) 16,000 مربع کلومیٹر (D) 17,818 مربع کلومیٹر

449. کس اسلامی ملک میں کوئی ریلوے لائن نہیں پائی جاتی؟

(A) ایران (B) متحدہ عرب امارات

(C) سوڈان (D) کویت

450. وہ کونسا اسلامی ملک ہے جس کی سرزمین انتہائی ناہموار ہے؟

(A) کویت (B) متحدہ عرب امارات

(C) ملائیشیا (D) کرغستان

451. کرغستان کا دارالحکومت کون سا ہے؟

(A) اوش (B) کرغز

(C) بشکیک (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

452. کرغستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 21,000 مربع کلومیٹر

(B) 159,000 مربع کلومیٹر

(C) 198,500 مربع کلومیٹر

(D) 123,000 مربع کلومیٹر

453. جزیرہ بلقان میں کون سا اسلامی ملک ایک تکون کی شکل پایا جاتا ہے؟

(A) کویت (B) عراق

(C) فلسطین (D) بوسنیا ہرزگووینا

454. بوسنیا ہرزگووینا کا دارالحکومت کون سا ہے؟

(A) بنجہ لوکا (B) موسطار

(C) [illegible] (D) [illegible]

455. بوسنیا ہرزو گووینا کا کل رقبہ کتنا ہے؟

(A) 41,000 مربع کلومیٹر (B) 51,000 مربع کلومیٹر

(C) 61,000 مربع کلومیٹر (D) 71,000 مربع کلومیٹر

456. کوسووا جنگ کے بعد مسلمانوں نے دنیا کو کب فتح کیا تھا؟

(A) 1398ء (B) 1498

(C) 1598 (D) 1698

457. افریقہ میں دنیا کی سب سے بڑی جھیل کون سی پائی جاتی ہے؟

(A) جھیل وکٹوریہ (B) افریقی جھیل

(C) یوگنڈا جھیل (D) کوئی نہیں

458. کس اسلامی ملک کو جھیلوں کا ملک کہا جاتا ہے؟

(A) یوگنڈا (B) پاکستان

(C) کویت (D) عراق

459. مالابار اور فلپائن میں اسلام کیسے پہنچا؟ (P.C.S Judicial 2003)

(A) مسلمان تاجروں اور مبلغوں کے ذریعے

(B) صوفیائے کرام کے ذریعے

(C) مسلمان حکمرانوں کے ذریعے

(D) مجاہدین کے ذریعے

460. غزہ کا زیادہ تر علاقہ کس ملک کے کنٹرول میں ہے؟ (P.C.S Executive 1999)

(A) فلسطین (B) اردن

(C) شام (D) اسرائیل

461. وسط ایشیا میں 1996ء سے کون سا ملک بذریعہ ریل ایران سے رابطہ میں ہے؟ (P.C.S. Executive 1999)

(A) ازبکستان (B) کرغستان

(C) ترکمانستان (D) تاجکستان

462. "بلندی" سعودی عرب کے اس علاقے کے لئے ... جو اپنے تیل کے خزانے کی وجہ سے امیر اور مشہور ہے۔ اس علاقے کا کیا نام ہے؟ (P.C.S. Executive 2000)

(A) نجد (B) عروض

(C) تہامہ (D) حجاز

463. 1973ء کے آئین میں مولانا سمیع الحق نے شریعت بل سے ... کون سی ترمیم پیش کی؟ (P.C.S. Executive 1999)

(A) نویں ترمیم (B) دسویں ترمیم

(C) گیارہویں ترمیم (D) بارہویں ترمیم

464. دائی انگا کی مسجد کہاں واقع ہے؟ (P.C.S. 2000)

(A) قصور (B) ملتان

(C) لاہور (D) راولپنڈی

465. دنیا کے کرومائیٹ کے وسیع ترین ذخائر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کس علاقے میں واقع ہیں؟

(A) مسلم باغ (B) چاغی

(C) [illegible] (D) سبی

466. مسلمان آبادی چھ براعظموں پر پھیلی ہوئی ہے کتنے براعظموں میں مسلمان ممالک واقع ہیں؟

(A) 6 (B) 4

(C) 3 (D) 5

467. مسلمان ملکوں کی کل تعداد کتنی ہے؟

(A) 57 (B) 56

(C) 58 (D) 59

468. کس مسلم ملک کی سالانہ آمدنی سب سے کم ہے؟

(A) صومالیہ (B) سوڈان

(C) یوگنڈا (D) افغانستان

469. مسلم ملک بوسنیا کس براعظم میں واقع ہے؟

(A) افریقہ (B) ایشیا

(C) یورپ (D) امریکہ

470. بیسویں صدی کے آغاز تک خلافت اسلامیہ کا تعلق کس سے تھا؟

(A) مصر (B) ترکی

(C) انڈونیشیا (D) عراق

471۔ مسلم ملک بوسنیا کس براعظم میں واقع ہے؟
(A) افریقہ (B) یورپ
(C) ایشیا (D) امریکہ

472۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟
(A) مراکش (B) ملائیشیا
(C) مصر (D) پاکستان

473۔ غار کہف کس ملک میں واقع ہے؟
(A) شام (موجودہ اردن) (B) عراق
(C) مصر (D) سعودی عرب

474۔ کس مسلمان ملک کے ادیب کو ادب کا نوبل انعام ملا ہے؟
(A) مصر (B) شام
(C) سعودی عرب (D) پاکستان

475۔ علامہ اقبال نے کس اسلامی ملک کی تعلیمی پالیسی مرتب کی تھی؟
(A) ترکی (B) سعودی عرب
(C) افغانستان (D) ایران

476۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اسلامی ملک کون سا ہے؟
(A) مالدیپ (B) افغانستان
(C) یمن (D) کویت

477۔ رباط کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟
(A) مراکش (B) سوڈان
(C) نائیجیریا (D) سینیگال

478۔ مولانا جلال الدین رومی کا مزار کس ملک میں ہے؟
(A) ایران (B) عراق
(C) ترکی (D) افغانستان

جوابات

1. (A)	2. (D)	3. (B)	4. (C)	5. (A)	6. (A)	7. (D)	8. (C)
9. (A)	10. (D)	11. (A)	12. (C)	13. (C)	14. (A)	15. (A)	16. (B)
17. (C)	18. (C)	19. (A)	20. (B)	21. (C)	22. (A)	23. (A)	24. (C)
25. (C)	26. (A)	27. (D)	28. (C)	29. (A)	30. (B)	31. (C)	32. (C)
33. (A)	34. (B)	35. (A)	36. (C)	37. (B)	38. (A)	39. (A)	40. (C)
41. (A)	42. (B)	43. (C)	44. (D)	45. (A)	46. (C)	47. (C)	48. (C)
49. (C)	50. (B)	51. (A)	52. (B)	53. (B)	54. (A)	55. (A)	56. (A)
57. (A)	58. (A)	59. (D)	60. (A)	61. (A)	62. (B)	63. (C)	64. (A)
65. (A)	66. (B)	67. (C)	68. (B)	69. (B)	70. (B)	71. (A)	72. (D)
73. (C)	74. (B)	75. (B)	76. (A)	77. (C)	78. (D)	79. (C)	80. (A)
81. (A)	82. (A)	83. (B)	84. (A)	85. (D)	86 (B)	87. (C)	88. (C)
89. (D)	90. (A)	91. (C)	92. (B)	93. (C)	94. (A)	95. (A)	96. (A)
97. (B)	98. (D)	99. (C)	100. (D)	101. (C)	102. (C)	103. (B)	104. (A)
105. (C)	106. (A)	107. (C)	108. (D)	109. (D)	110. (A)	111. (B)	112. (D)
113. (A)	114. (A)	115. (A)	116. (C)	117. (D)	118. (C)	119. (C)	120. (C)
121. (A)	122. (B)	123. (C)	124. (A)	125. (C)	126. (C)	127. (C)	128. (A)
129. (B)	130. (B)	131. (A)	132. (C)	133. (C)	134. (C)	135. (C)	136. (A)
137. (B)	138. (C)	139. (A)	140. (A)	141. (B)	142. (A)	143. (C)	144. (B)
145. (A)	146. (A)	147. (A)	148. (B)	149. (B)	150. (A)	151. (D)	152. (B)
153. (C)	154. (A)	155. (C)	156. (B)	157. (A)	158. (C)	159. (C)	160. (C)
161. (D)	162. (A)	163. (C)	164. (A)	165. (D)	166. (A)	167. (C)	168. (B)
169. (B)	170. (A)	171. (A)	172. (A)	173. (C)	174. (D)	175. (B)	176. (C)
177. (C)	178. (A)	179. (C)	180. (B)	181. (B)	182. (C)	183. (C)	184. (A)
185. (B)	186. (A)	187. (B)	188. (B)	189. (C)	190. (D)	191. (A)	192. (C)
193. (A)	194. (B)	195. (B)	196. (A)	197. (C)	198. (D)	199. (B)	200. (C)
201. (D)	202. (C)	203. (C)	204. (C)	205. (B)	206. (A)	207. (A)	208. (A)
209. (C)	210. (B)	211. (C)	212. (A)	213. (C)	214. (A)	215. (A)	216. (C)
217. (A)	218. (B)	219. (A)	220. (C)	221. (A)	222. (B)	223. (C)	224. (A)
225. (B)	226. (C)	227. (A)	228. (B)	229. (C)	230. (B)	231. (C)	232. (A)
233. (C)	234. (A)	235. (D)	236. (D)	237. (A)	238. (B)	239. (C)	240. (A)

241. (B)	242. (C)	243. (B)	244. (C)	245. (B)	246. (A)	247. (B)	248. (A)
249. (B)	250. (C)	251. (A)	252. (B)	253. (A)	254. (C)	255. (C)	256. (C)
257. (C)	258. (B)	259. (C)	260. (B)	261. (A)	262. (A)	263. (D)	264. (D)
265. (B)	266. (B)	267. (A)	268. (A)	269. (C)	270. (D)	271. (D)	272. (A)
273. (A)	274. (A)	275. (A)	276. (C)	277. (B)	278. (A)	279. (B)	280. (D)
281. (A)	282. (A)	283. (C)	284. (A)	285. (B)	286. (A)	287. (D)	288. (C)
289. (A)	290. (B)	291. (B)	292. (C)	293. (B)	294. (A)	295. (D)	296. (B)
297. (A)	298. (C)	299. (D)	300. (C)	301. (A)	302. (B)	303. (B)	304. (A)
305. (C)	306. (A)	307. (C)	308. (B)	309. (D)	310. (B)	311. (A)	312. (D)
313. (C)	314. (C)	315. (D)	316. (B)	317. (D)	318. (B)	319. (A)	320. (A)
321. (A)	322. (B)	323. (C)	324. (C)	325. (A)	326. (A)	327. (C)	328. (A)
329. (C)	330. (B)	331. (D)	332. (B)	333. (A)	334. (C)	335. (A)	336. (D)
337. (B)	338. (A)	339. (B)	340. (C)	341. (B)	342. (C)	343. (A)	344. (B)
345. (C)	346. (C)	347. (B)	348. (A)	349. (D)	350. (C)	351. (D)	352. (C)
353. (A)	354. (A)	355. (B)	356. (C)	357. (C)	358. (B)	359. (A)	360. (B)
361. (A)	362. (B)	363. (A)	364. (C)	365. (D)	366. (B)	367. (A)	368. (C)
369. (A)	370. (D)	371. (C)	372. (D)	373. (C)	374. (A)	375. (C)	376. (A)
377. (C)	378. (A)	379. (B)	380. (A)	381. (A)	382. (D)	383. (D)	384. (A)
385. (C)	386. (D)	387. (B)	388. (C)	389. (D)	390. (C)	391. (A)	392. (D)
393. (A)	394. (A)	395. (D)	396. (C)	397. (A)	398. (B)	399. (D)	400. (D)
401. (B)	402. (C)	403. (C)	404. (C)	405. (C)	406. (A)	407. (B)	408. (A)
409. (D)	410. (A)	411. (D)	412. (A)	413. (A)	414. (A)	415. (B)	416. (B)
417. (C)	418. (C)	419. (A)	420. (C)	421. (C)	422. (C)	423. (C)	424. (B)
425. (D)	426. (A)	427. (C)	428. (A)	429. (A)	430. (D)	431. (C)	432. (B)
433. (C)	434. (A)	435. (A)	436. (A)	437. (B)	438. (B)	439. (D)	440. (A)
441. (A)	442. (A)	443. (B)	444. (A)	445. (A)	446. (A)	447. (A)	448. (D)
449. (D)	450. (D)	451. (C)	452. (C)	453. (D)	454. (B)	455. (B)	456. (A)
457. (A)	458. (A)	459. (A)	460. (D)	461. (D)	462. (A)	463. (C)	464. (C)
465. (B)	466. (B)	467. (A)	468. (A)	469. (C)	470. (B)	471. (B)	472. (C)
473. (A)	474. (A)	475. (C)	476. (A)	477. (A)	478. (C)		

اسلامی دارالحکومت

1. فیصل مسجد اسلام آباد کا سنگِ بنیاد کس نے رکھا ہے
(A) شاہ فیصل (B) شاہ خالد
(C) شاہ فہد (D) شاہ عبداللہ

2. نبی جس نے یروشلم 1000 ق م میں دارالحکومت بنایا۔
(A) یونس (B) عزیر
(C) داؤد (D) سلیمان

3. یروشلم یعنی بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔
(A) 1187ء (B) 1188ء
(C) 1189ء (D) 1190ء

4. پہاڑ جس پر یروشلم واقع ہے۔
(A) جودی (B) طور
(C) مریم (D) صیہون

5. خلیفہ دوم کے عہد میں یروشلم فتح ہوا
(A) 634ء (B) 635ء
(C) 636ء (D) 637ء

6. یروشلم مقدس شہر ہے نزدیک
(A) یہودیوں کے (B) عیسائیوں کے
(C) مسلمانوں کے (D) تینوں کے

7. 636ء میں فتح کے بعد یروشلم میں جس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔
(A) مسجد ابوبکر (B) مسجد عمر
(C) مسجد عثمان (D) مسجد علی

8. بغداد کے معنی ہیں۔
(A) انصاف کا باغ (B) آرام کا باغ
(C) اسلام کا باغ (D) خوشبو کا باغ

9. بغداد کی بنیاد رکھی۔
(A) مامون عباسی (B) ہارون عباسی
(C) منصور عباسی (D) ولید اموی

10. بغداد کی بنیاد رکھی گئی۔
(A) 759ء (B) 760ء
(C) 761ء (D) 762ء

11. فقہ کا امام جن کا مزار بغداد میں ہے۔
(A) امام شافعی (B) امام ابوحنیفہ
(C) امام مالک (D) امام احمد بن حنبل

12. شیخ عبدالقادر جیلانی کا مزار ہے۔
(A) بغداد (B) کوفہ
(C) بصرہ (D) نجف

13. صحابی جس نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کو فتح کیا۔
(A) خالد بن ولید (B) عمرو بن عاص
(C) ابوعبیدہ (D) سعد بن ابی وقاص

14. جبوتی میں زبان جو کثرت سے بولی جاتی ہے۔
(A) عربی (B) فارسی
(C) انگلش (D) فرانسیسی

15. نیل ازرق اور نیل ابیض کے سنگم پر شہر واقع ہے۔
(A) بیروت (B) عمان
(C) قاہرہ (D) خرطوم

16. دنیا کا قدیم ترین آباد دارالحکومت ہے۔

(A) تل ابیب (B) دمشق
(C) بغداد (D) انقرہ

17. اموی مسجد دمشق تعمیر کروائی۔
(A) مروان (B) سلیمان
(C) ولید (D) ہشام

18. امیر معاویہؓ ایوبی، ابن عربی اور سیدہ زینبؓ کے مزارات ہیں۔
(A) بغداد میں (B) کوفہ میں
(C) کربلا میں (D) دمشق میں

19. تنزانیہ کے دارالحکومت دارالسلام کی سیاحت کی۔
(A) ابن بطوطہ (B) ابن خلدون
(C) مارکوپولو (D) ہیون سانگ

20. مساجد کے طور پر شہر مشہور ہے بنگلہ دیش کا
(A) چٹاگانگ (B) ڈھاکہ
(C) کھلنا (D) راج شاہی

21. سقوط ڈھاکہ ہوا۔
(A) 16 ستمبر 1971ء (B) 16 اکتوبر 1971ء
(C) 16 نومبر 1971ء (D) 16 دسمبر 1971ء

22. ماضی میں غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے جزیرہ مشہور تھا۔
(A) انڈیمان (B) مالٹا
(C) گوری (D) جافنا

23. گوری سینیگال کے دارالحکومت کے قریب واقع ہے۔
(A) ڈاکار (B) بنجول
(C) دارالسلام (D) کمپالا

24. ایتھوپیا کے دارالحکومت عدیس ابابا کا معنی ہے۔
(A) گلاب کا پھول (B) نیا پھول
(C) بڑا پھول (D) کنول کا پھول

25. سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔
(A) ریاض (B) جدہ
(C) مکہ مکرمہ (D) مدینہ منورہ

26. اردن کے دارالحکومت عمان سے یروشلم دور ہے۔
(A) 30 میل (B) 40 میل
(C) 50 میل (D) 60 میل

27. ملائیشیا کا دارالحکومت کوالالمپور سنگاپور سے دور ہے۔
(A) 100 میل (B) 200 میل
(C) 300 میل (D) 400 میل

28. یوگنڈا کا دارالحکومت کمپالا جس جھیل کے کنارے آباد ہے۔
(A) بیکال (B) سپیریئر
(C) تانگانیکا (D) وکٹوریہ

29. اومان کا دارالحکومت مسقط جس خلیج کے کنارے واقع ہے۔
(A) خلیج عدن (B) خلیج عمان
(C) خلیج فارس (D) خلیج بنگال

30. صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کی بنیاد رکھی۔
(A) عربوں نے (B) ترکوں نے
(C) ایرانیوں نے (D) مصریوں نے

31. اہرام مصر جس مشہور شہر کے نزدیک واقع ہیں۔
(A) بیروت (B) عمان
(C) قاہرہ (D) انقرہ

32. قاہرہ کی مشہور یونیورسٹی جامع الازہر قائم ہوئی۔
(A) 981ء (B) 983ء
(C) 985ء (D) 987ء

33. قاہرہ سے مشہور شہر سویز کا فاصلہ ہے۔
(A) 80 میل (B) 70 میل
(C) 60 میل (D) 50 میل

34. عربوں نے کابل فتح کیا۔

(A) 655ء (B) 656ء
(C) 657ء (D) 658ء

35. مغل حکمران بابر کا تعمیر کردہ قلعہ بالا حصار کس شہر میں ہے۔
(A) دوشنبہ (B) الماتا
(C) کابل (D) تاشقند

36. کابل شہر کے قریب پہاڑی سلسلہ ہے۔
(A) کوہ سلیمان (B) کوہ ہمالیہ
(C) کوہ قراقرم (D) کوہ ہندوکش

جوابات

1. (B)	2. (C)	3. (A)	4. (D)	5. (C)	6. (D)	7. (B)	8. (A)
9. (C)	10. (D)	11. (B)	12. (A)	13. (C)	14. (A)	15. (D)	16. (B)
17. (C)	18. (D)	19. (A)	20. (B)	21. (D)	22. (C)	23. (A)	24. (B)
25. (A)	26. (C)	27. (B)	28. (D)	29. (B)	30. (A)	31. (C)	32. (D)
33. (A)	34. (B)	35. (C)	36. (D)				

مشہور اسلامی شہر

1. مصر کے شہر سکندریہ کی بنیاد رکھی۔
(A) بخت نصر (B) قلوپطرہ
(C) سکندر اعظم (D) حمورابی

2. مصر کے شہر سکندریہ کی بنیاد رکھی گئی۔
(A) 331ق م (B) 332ق م
(C) 333ق م (D) 334ق م

3. سکندریہ کا قاہرہ سے فاصلہ ہے۔
(A) 126 میل (B) 127 میل
(C) 128 میل (D) 129 میل

4. عجوبہ عالم روشنی کا مینار تھا۔
(A) سکندریہ میں (B) قاہرہ میں
(C) ممفس میں (D) ہیلیو پولیس

5. زلزلے سے روشنی کا مینار تباہ ہوا جس صدی عیسوی میں
(A) 12ویں صدی (B) 13ویں صدی
(C) 14ویں صدی (D) 15ویں صدی

6. کھنڈرات جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب کی علامت ہیں۔
(A) ٹیکسلا (B) بابل کے
(C) موہنجوداڑو کے (D) ہڑپہ کے

7. نبی جو بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے۔
(A) نوح (B) ہود
(C) صالح (D) ابراہیم

8. بابل کا بغداد سے فاصلہ ہے۔
(A) 60 میل (B) 70 میل
(C) 80 میل (D) 90 میل

9. بابل کے معلق باغات بنائے اپنی ملکہ کے لیے۔
(A) حمورابی (B) قلوپطرہ
(C) بخت نصر (D) سکندر اعظم

10. بابل کے معلق باغات بنائے گئے۔
(A) 585ق م (B) 586ق م
(C) 587ق م (D) 588ق م

11. بابل کے معلق باغات کی منزلیں تھیں۔
(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

12. بابل کے معلق باغات کی بلندی تھی؟
(A) 300فٹ (B) 400فٹ
(C) 500فٹ (D) 600فٹ

13. شہر جہاں حروف تہجی کا آغاز ہوا۔
(A) بابل (B) دمشق
(C) قاہرہ (D) بصرہ

14. مشہور فاتح جس کا بابل میں انتقال ہوا۔
(A) جولیس سیزر (B) نپولین
(C) سکندر اعظم (D) تیمور لنگ

15. بندر عباس کا معنی ہے۔
(A) عباس کے بندر (B) عباس کی بندرگاہ
(C) عباسیوں کے بندر (D) بندروں کے گھر

16. بندر عباس جس ملک کی بندرگاہ ہے۔

(A) لبنان (B) ترکی
(C) مصر (D) ایران

17. بعلبک شہر کا نام جس دیوتا سے منسوب ہے۔
(A) بعل (B) ہبل
(C) لات (D) منات

18. ملک جس کا ایک شہر بعلبک ہے۔
(A) اردن (B) لبنان
(C) فلسطین (D) شام

19. بنڈونگ شہر جس ملک میں ہے۔
(A) الجزائر (B) مراکش
(C) ملائیشیا (D) انڈونیشیا

20. مشہور بنڈونگ تاریخی کانفرنس ہوئی۔
(A) 1953ء (B) 1954ء
(C) 1955ء (D) 1956ء

21. تیونس کو مصر سے ملانے والی سڑک لیبیا کے جس شہر سے گزرتی ہے۔
(A) بن غازی (B) تریپولی
(C) طرابلس (D) لاگوس

22. جدہ کا معنی ہے۔
(A) خاتون (B) عظیم
(C) اماں (D) وادی

23. جدہ میں عظیم خاتون دفن ہے۔
(A) حضرت آسیہؑ (B) اماں حواؑ
(C) حضرت سارہؑ (D) حضرت ہاجرہؑ

24. جدہ جس سنہ میں آباد ہوا۔
(A) 646ء (B) 645ء
(C) 644ء (D) 643ء

25. جدہ کو جس خلیفہ نے آباد کیا۔
(A) خلیفہ اول (B) خلیفہ دوم
(C) خلیفہ سوم (D) خلیفہ چہارم

26. جدہ کا مکہ سے فاصلہ ہے۔
(A) 66 کلومیٹر (B) 68 کلومیٹر
(C) 70 کلومیٹر (D) 72 کلومیٹر

27. جدہ کو جس پرانی بندرگاہ کی جگہ آباد کیا گیا۔
(A) حدیبیہ (B) شعیبیہ
(C) شمیسیہ (D) طائف

28. ہجرت حبشہ کے وقت مسلمان جس بندرگاہ سے بحیرہ احمر پار کر کے حبشہ پہنچے۔
(A) شعیبیہ (B) ینبوع
(C) ابھا (D) دمام

29. جدہ سے مکہ کے راستے مشہور مقام ہے۔
(A) بدر (B) ابواء
(C) حدیبیہ (D) جحفہ

30. حدیبیہ کا موجودہ نام ہے۔
(A) رضوانیہ (B) شمیسیہ
(C) بدریہ (D) عثمانیہ

31. صلح حدیبیہ کے مقام پر بنائی گئی مسجد کا نام ہے۔
(A) مسجد رضوانیہ (B) مسجد عثمانیہ
(C) مسجد نمرہ (D) مسجد شجرہ

32. پاکستانی جس نے جدہ ایئرپورٹ اور حج ٹرمینل کا نقشہ بنایا۔
(A) فضل الرحمٰن (B) عبدالرحمٰن
(C) فضل الٰہی (D) فضل دین

33. شام کا شہر جہاں سے ترکی، عراق اور لبنان تک ریل کا سلسلہ ہے۔
(A) موصل (B) دمشق

(C) حلب (D) تکریت

34. دوحہ جس خلیج کے کنارے آباد ہے۔
(A) خلیج بنگال (B) خلیج فارس
(C) خلیج باسفورس (D) خلیج عدن

35. حکمران جس کا پایہ تخت ثمرقند تھا۔
(A) محمود غزنوی (B) ابراہیم بن ادھم
(C) ظہیر الدین بابر (D) تیمور لنگ

36. ثمرقند بخارا سے دور ہے۔
(A) 150 میل (B) 160 میل
(C) 170 میل (D) 180 میل

37. ثمرقند اور بخارا جس ملک کے شہر ہیں۔
(A) ترکمانستان (B) ازبکستان
(C) قازقستان (D) ترکستان

38. کابل سے قندھار کا فاصلہ ہے۔
(A) 250 میل (B) 260 میل
(C) 270 میل (D) 280 میل

39. قندھار کا پھل جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔
(A) انجیر (B) بادام
(C) انار (D) انگور

40. کربلا کا بغداد سے فاصلہ ہے۔
(A) 50 میل (B) 60 میل
(C) 70 میل (D) 80 میل

41. واقعہ کربلا پیش آیا۔
(A) 679ء (B) 680ء
(C) 681ء (D) 682ء

42. کربلا کا نجف سے فاصلہ ہے۔
(A) 60 میل (B) 50 میل
(C) 40 میل (D) 30 میل

43. عباسی خلیفہ جس نے کربلا میں مزارات منہدم کروا دیے تھے۔
(A) منصور (B) معتصم
(C) واثق (D) متوکل

44. متوکل عباسی نے کربلا میں مزارات شہید کب کروائے تھے۔
(A) 840ء (B) 850ء
(C) 860ء (D) 870ء

45. خلیفہ راشد جس نے کوفہ شہر آباد کروایا تھا۔
(A) خلیفہ دوم (B) خلیفہ سوم
(C) [illegible] (D) اول

46. خلیفہ [illegible] کے حکم پر سعد بن ابی وقاص نے کوفہ کب آباد کیا۔
(A) 636ء/15ھ (B) 637ء/16ھ
(C) 638ء/17ھ (D) 639ء/18ھ

47. کوفہ جس دریا کے کنارے آباد ہے۔
(A) نیل (B) شط العرب
(C) دجلہ (D) فرات

48. امام علی رضا اور ہارون عباسی کے مزارات ایرانی شہر میں ہیں۔
(A) مشہد (B) تہران
(C) زاہدان (D) اصفہان

49. بہاولپور جس دریا کے کنارے ہے۔
(A) چناب (B) سندھ
(C) ستلج (D) جہلم

50. بہاولپور ریاست کا جداگانہ وجود ختم کیا گیا۔
(A) 1952ء (B) 1953ء
(C) 1954ء (D) 1955ء

51. پرشس پور یا پرش پور جس شہر کا قدیم نام ہے۔
(A) ایبٹ آباد (B) پشاور

(C) نوشہرہ (D) مردان

52. قدیم تہذیب جس کا مرکز پشاور تھا۔
(A) گندھارا (B) ٹیکسلا
(C) ہڑپہ (D) موہنجوداڑو

53. جہلم کے قریب قلعہ روہتاس بنوایا۔
(A) ظہیر الدین بابر (B) شیر شاہ سوری
(C) نصیر الدین ہمایوں (D) شہاب الدین غوری

54. ملک کے دیگر حصوں کو چترال سے ملانا والا درہ ہے۔
(A) خیبر (B) بولان
(C) تخجراب (D) لواری

55. دیر، چترال اور سوات کی ریاستیں ختم کر کے ڈویژن بنایا گیا۔
(A) دیر (B) چترال
(C) مالاکنڈ (D) سوات

56. ہیران کوٹ جس شہر کا پرانا نام ہے۔
(A) حیدرآباد (B) کوئٹہ
(C) ٹھٹھہ (D) سکھر

57. حیدرآباد کے نزدیک دریائے سندھ پر مشہور بیراج ہے۔
(A) چشمہ بیراج (B) سلیمانکی بیراج
(C) غلام محمد بیراج (D) لائیڈ بیراج

58. میرپور خاص سے 46 میل دور جہاں اکبر بادشاہ پیدا ہوا۔
(A) ٹنڈو جام (B) نواب شاہ
(C) ٹنڈو آدم (D) عمر کوٹ

59. راولپنڈی کے نزدیک دریا جہاں سونے کے ذرات پائے جاتے ہیں۔
(A) دریائے کورنگ (B) دریائے سون
(C) دریائے جہلم (D) دریائے اٹک

60. صحت افزا مقام مری سے راولپنڈی دور ہے۔
(A) 40 میل (B) 50 میل
(C) 60 میل (D) 70 میل

61. فیصل آباد کا سابقہ پرانا نام ہے۔
(A) لائل پور (B) کیمبل پور
(C) منٹگمری (D) پرنس پور

62. گھنٹہ گھر جس شہر کی خاص علامتی تعمیر ہے۔
(A) حافظ آباد (B) ایبٹ آباد
(C) فیصل آباد (D) اسلام آباد

63. فیصل آباد کے آٹھ مرکزی بازاروں کا نقشہ جس ملک کے جھنڈے سے ملتا ہے۔
(A) سویڈن (B) برطانیہ
(C) آسٹریلیا (D) نیوزی لینڈ

64. شہر جس کی گرد، گرما، گورستان علامت مشہور ہیں۔
(A) ڈیرہ غازی خان (B) سبی
(C) جیکب آباد (D) ملتان

65. ملتان جس دریا کے کنارے پر واقع ہے۔
(A) ستلج (B) سندھ
(C) چناب (D) جہلم

66. سیاح جو دور فاروقی میں 641ء میں ملتان آیا۔
(A) ہیون سانگ (B) مارکوپولو
(C) ابن خلدون (D) ابن بطوطہ

67. مشہور جرنیل محمد بن قاسم ملتان آیا۔
(A) 711ء (B) 712ء
(C) 713ء (D) 714ء

68. موہنجوداڑو جس شہر کے نزدیک ہے۔
(A) حیدرآباد (B) دادو
(C) نواب شاہ (D) لاڑکانہ

69. کوئٹہ کے لفظی معنی ہے۔
(A) پہاڑ (B) قلعہ
(C) بلندی (D) قروٹ

70. کوئٹہ کے قریب مشہور جھیل ہے۔
(A) حنا جھیل (B) منچھر جھیل
(C) سیف الملوک (D) آنسو جھیل

71. کوئٹہ کس درّے سے ملحق ہے۔
(A) لواری (B) خنجراب
(C) بولان (D) خیبر

72. کوئٹہ میں سب سے زیادہ پائی جانے والی معدنیات ہے۔
(A) باکسائیٹ (B) خوردنی نمک
(C) چونے کا پتھر (D) کرومائیٹ

جوابات

1. (C)	2. (B)	3. (D)	4. (A)	5. (C)	6. (B)	7. (D)	8. (A)
9. (C)	10. (B)	11. (D)	12. (A)	13. (A)	14. (C)	15. (B)	16. (D)
17. (A)	18. (B)	19. (D)	20. (C)	21. (A)	22. (D)	23. (B)	24. (C)
25. (C)	26. (D)	27. (B)	28. (A)	29. (C)	30. (B)	31. (D)	32. (A)
33. (C)	34. (B)	35. (D)	36. (A)	37. (B)	38. (D)	39. (C)	40. (A)
41. (B)	42. (C)	43. (D)	44. (B)	45. (A)	46. (C)	47. (D)	48. (A)
49. (C)	50. (D)	51. (B)	52. (A)	53. (B)	54. (D)	55. (C)	56. (A)
57. (C)	58. (D)	59. (B)	60. (A)	61. (A)	62. (C)	63. (B)	64. (D)
65. (C)	66. (A)	67. (B)	68. (D)	69. (B)	70. (A)	71. (C)	72. (D)

مسلم دنیا کی تنظیمیں

1. عرب ریاستوں کے اتحاد کا رسمی نام کیا ہے؟
(A) عرب انجمن (B) عرب لیگ
(C) عرب اتحاد (D) اخوت عرب

2. عرب لیگ ان آزاد ملکوں کی ایک رضاکارانہ انجمن ہے جن کے زیادہ تر لوگ عربی بولنے والے ہیں اس کا بنیادی مقصد ______
(A) رکن ریاستوں میں تعلقات کو مضبوط کرنا ہے
(B) اپنی حکمت عملی کو منظم اور مربوط کرنا ہے
(C) اپنے مفادات کو مشترک کرتے ہوئے آگے بڑھانا ہے
(D) B،A اور C تینوں

3. کب مصر، عراق، لبنان، سعودی عرب، شام، اردن اور یمن نے عرب لیگ کی بنیاد رکھی؟
(A) 1940ء (B) 1945ء
(C) 1950ء (D) 1955ء

4. عرب لیگ کی بنیاد مصر کے کس شہر میں رکھی گئی؟
(A) قاہرہ (B)
(C) (D)

5. الجزائر نے کب عرب لیگ میں شمولیت اختیار کی؟
(A) 1960 (B) 1962
(C) 1971 (D) 1970

6. بحرین نے عرب لیگ میں شمولیت اختیار کی۔
(A) 1970 میں (B) 1971 میں
(C) 1972 میں (D) 1973 میں

7. درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟
(A) کویت عرب لیگ میں 1961 میں شامل ہوا
(B) لیبیا عرب لیگ میں 1953 میں شامل ہوا
(C) سیلائیہ عرب لیگ میں 1973 میں شامل ہوا
(D) تمام A،B،C

8. یمن عرب لیگ میں شامل ہوا۔
(A) 1967 میں (B) 1968 میں
(C) 1969 میں (D) 1970 میں

9. سوڈان عرب لیگ میں شامل ہوا۔
(A) 1950 میں (B) 1953 میں
(C) 1956 میں (D) 1958 میں

10. عرب امارات عرب لیگ میں شامل ہوا۔
(A) 1971 میں (B) 1972 میں
(C) 1973 میں (D) 1974 میں

11. تنظیم آزادی فلسطین کو کب عرب لیگ کی نمائندگی دی گئی؟
(A) 1970ء (B) 1972ء
(C) 1974ء (D) 1976ء

12. عرب لیگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟
(A) مکہ (B) بغداد
(C) قاہرہ (D) دمشق

13. کب احمد عصمت بیگو سید کو بلا مقابلہ عرب لیگ کی کونسل کا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا؟
(A) 1989ء (B) 1990ء
(C) 1991ء (D) 1992ء

14. عرب تعاون کونسل کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟
(A) اومان (B) قاہرہ

(C) مکہ (D) بغداد

15. عرب مونیٹری فنڈ (AMF) کو کب قائم کیا گیا؟
(A) 1970ء (B) 1976ء
(C) 1980ء (D) 1985ء

16. عرب مونیٹری فنڈ (AMF) کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟
(A) عرب امارات کے شہر ابوظہبی میں
(B) مصر کے شہر قاہرہ میں
(C) سعودی عرب کے شہر مکہ میں
(D) عراق کے شہر بغداد میں

17. درج ذیل میں سے کون سا اسلامی ملک آسیان (Association of South East Asian Nations) کا نمائندہ ہے؟
(A) انڈونیشیا (B) برونائی
(C) ملائیشیا (D) B,A اور C تینوں

18. آسیان کی بینکاک میں کب بنیاد رکھی گئی تھی؟
(A) اگست 1967ء (B) ستمبر 1968ء
(C) اکتوبر 1969ء (D) نومبر 1970ء

19. آسیان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟
(A) بینکاک (B) ملائیشیا
(C) جکارتہ (D) قاہرہ

20. آسیان میں جنوبی ایشیاء کے کتنے ممالک شامل ہیں؟
(A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 9

21. آسیان کے رکن ممالک کا 1993ء سے آگے آنے والے 15 سالوں کیلئے ایک آزادانہ تجارتی علاقہ کے قیام اور غیر زرعی سازوسامان پر شرح محاصل کو ختم کرنے پر اتفاق رائے کب ہوا؟
(A) 1990ء (B) 1991ء
(C) 1992 (D) 1993ء

22. کس تنظیم کا قیام اس کے رکن ممالک کے مفادات کے تحفظ اور پٹرولیم کی صنعت میں تعاون کو بڑھانے کیلئے عمل میں آیا؟
(A) اوپیک (Arab Petrolium Exporting Countries)
(B) اوپیک (Petrolium Exporting Countries)
(C) (Petrolium Leage)
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

23. اوپیک کا قیام کب عمل میں آیا؟
(A) 1960 (B) 1963
(C) 1965 (D) 1968

24. اوپیک میں درج ذیل ممالک شامل ہیں: بحرین، مصر، عراق، کویت، لیبیا، قطر، سعودی عرب، شام، الجزائر اور......
(A) اومان (B) سوڈان
(C) موریطانیہ (D) عرب امارات

25. کتنے اسلامی ممالک اوپیک (OPEC) کی رکنیت رکھتے ہیں؟
(A) 5 (B) 6
(C) 8 (D) 10

26. اوپیک (OPEC) کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟
(A) ویانا (B) قاہرہ
(C) کویت (D) لیبیا

27. کن اسلامی ممالک کے درمیان علاقائی تعاون برائے ترقی (R.C.D) کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی؟
(A) پاکستان، ایران، ترکی
(B) سعودی عرب، پاکستان، ایران
(C) ترکی، ایران، عراق
(D) عرب امارات، ایران، ترکی

28. علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کی بنیاد کب رکھی گئی؟
(A) 1960ء (B) 1964ء
(C) 1962ء (D) 1968ء

29. علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟
(A) بغداد (B) تہران
(C) اسلام آباد (D) قاہرہ

30. علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کے رکن ممالک نے کب اس تنظیم کا نام تبدیل کر کے معاشی تعاون کی تنظیم (Economic Cooperation Organization) (ECO) رکھا؟
(A) 1980ء (B) 1985ء
(C) 1990ء (D) 1995ء

31. کب معاشی تعاون کی تنظیم نے افغانستان کے علاوہ چھ نئے ممالک کو اس میں شامل کیا؟
(A) 1992 (B) 1993
(C) 1994 (D) 1995

32. 1992ء میں معاشی تعاون کی تنظیم نے جن چھ ممالک کو رکنیت دی، وہ ہیں، قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان اور ......
(A) UAE (B) ازبکستان
(C) یمن (D) ہندوستان

33. اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی (Orignization of islamic Countries) کا قیام کب عمل میں آیا؟
(A) 1960ء (B) 1969ء
(C) 1972ء (D) 1975ء

34. او آئی سی کا قیام کہاں عمل میں لایا گیا؟
(A) رباط (B) قاہرہ
(C) مکہ (D) جدہ

35. او آئی سی کے وزراء کا پہلا اجلاس کب ہوا؟
(A) 1969 (B) 1970
(C) 1971 (D) 1972

36. او آئی سی کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟
(A) قاہرہ (B) القدس
(C) بغداد (D) تہران

37. او آئی سی کا پہلا اجلاس کس واقعہ کا پیش خیمہ تھا؟
(A) فلسطینیوں کا یہودیوں کے ہاتھوں استحصال
(B) اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ
(C) یہودیوں کی طرف سے مسجد اقصیٰ کو جلانے کی کوشش
(D) کوئی نہیں

38. مسجد الاقصیٰ کو یہودیوں کی طرف سے جلانے کی سازش کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا؟
(A) 21 اگست 1969 (B) 21 ستمبر 1968
(C) 21 اکتوبر 1967 (D) 21 نومبر 1966

39. او آئی سی کا ہیڈ کوارٹرز کہاں واقع ہے؟
(A) مکہ (B) مدینہ
(C) کوفہ (D) جدہ

40. او آئی سی کے حوالے سے عبدالواحد کون ہیں؟
(A) او آئی سی کے پہلے سیکرٹری جنرل
(B) او آئی سی کے بانی
(C) او آئی سی کے موجودہ سیکرٹری جنرل
(D) ان میں سے کوئی بھی نہیں

41. کس اسلامی ملک کے سربراہ کو 1987ء میں او آئی سی کے سیکرٹری جنرل ہونے کا اعزاز ملا تھا؟
(A) ایران (B) عراق
(C) کویت (D) پاکستان

42. او آئی سی کا دوسرا اجلاس کس ملک میں منعقد ہوا؟
(A) ایران (B) عراق
(C) سعودی عرب (D) پاکستان

43. او آئی سی کے دوسرے اجلاس میں اس کا کون سا ادارہ وجود میں لایا گیا؟
(A) اسلامی ترقیاتی بنک (B) اسلامی فنڈ
(C) اسلامی معاشی ڈھانچہ (D) کوئی نہیں

44. او آئی سی کا دوسرا اجلاس پاکستان میں کب منعقد ہوا؟
(A) 1970ء (B) 1974ء
(C) 1978ء (D) 1982ء

45. درج ذیل میں سے کون سا بیان او آئی سی کے ہونے والے تیسرے اجلاس سے متعلق درست ہے؟
(A) اس میں اسلامی عدالت کے قیام کی تجویز منظور کی گئی
(B) دفاع کے میدان میں تعاون کو بڑھانے کیلئے اس اجلاس میں ایک فوجی دفتر کے قیام کی منظوری دی گئی
(C) A اور B دونوں
(D) A اور B میں سے کوئی بھی نہیں

46. 1984ء میں کاسابلانکا میں او آئی سی کے وزراء کا کون سا اجلاس منعقد ہوا؟
(A) تیسرا (B) چوتھا
(C) پانچواں (D) چھٹا

47. او آئی سی کا چھٹا اجلاس کب منعقد ہوا؟
(A) 1990 (B) 1991
(C) 1992 (D) 1993

48. او آئی سی کے وزراء کے چھٹے اجلاس میں پاکستان کے کس وزیراعظم نے مسلم دنیا کے مسائل کو حل کرنے کیلئے چار نکاتی فارمولا پیش کیا؟
(A) نواز شریف (B) بینظیر بھٹو
(C) معراج خالد (D) معین قریشی

49. او آئی سی کے آٹھویں اجلاس میں کون سا اہم فیصلہ کیا گیا؟
(A) او آئی سی میں ECO کو نمائندگی دی جائے
(B) او آئی سی میں سکیورٹی کونسل کو نمائندگی دی جائے
(C) او آئی سی میں اوپیک کو نمائندگی دی جائے
(D) ECO کو عالمی بینک میں نمائندگی دی جائے

50. کس ملک کے شہر دوحہ میں او آئی سی کا نواں اجلاس منعقد ہوا؟
(A) قطر (B) کویت
(C) عرب امارات (D) سعودی عرب

51. او آئی سی کا نواں اجلاس کس سال منعقد ہوا؟
(A) 1998ء (B) 2000ء
(C) 2001ء (D) 2003ء

52. کس ملک میں او آئی سی کا نواں اجلاس منعقد ہوا؟
(A) قطر، دوحا (B) کویت، کویت سٹی
(C) عرب امارات، دبئی (D) سعودی عرب، جدہ

53. تا حال او آئی سی کے نمائندہ ممالک کی تعداد کتنی ہے؟
(A) 56 (B) 57
(C) 58 (D) 59

54. 1980ء میں او آئی سی کے وزراء داخلہ کا پہلا غیر معمولی اجلاس کہاں منعقد ہوا؟
(A) مصر کے شہر قاہرہ میں
(B) سعودی عرب کے شہر مکہ میں
(C) قطر کے شہر دوحہ میں
(D) پاکستان کے شہر اسلام آباد میں

55. کس اجلاس میں مسلمانوں پر یہ زور دیا گیا کہ وہ اپنے مسائل کو بھائی چارے اور انصاف کے اصولوں کے مطابق حل کریں اور تجارت، معاشیات، صنعت اور ثقافت کے میدان میں تعاون کو بڑھائیں؟ (P.C.S. 1999)
(A) رباط کانفرنس 1969ء
(B) طائف کانفرنس 1981ء
(C) جکارتہ کانفرنس 1992ء (D) بغداد کانفرنس 1990ء

56. ڈیزرٹ سٹارم (Desert Storm) سے کیا مراد ہے؟ (P.C.S. Ex. 199).
(A) 1990ء میں عراق کا کویت پر حملہ
(B) کسی صحرا میں ایک فوجی مشق
(C) 16 جنوری 1991ء کو اتحادی فوجوں کا عراق پر حملہ
(D) برطانیہ اور امریکہ کا 1992ء میں عراق پر حملہ

57. 1981ء میں او آئی سی کا تیسرا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ہونے والے اہم فیصلے کی نشاندہی کریں؟ (P.C.S. Ex.1999)
(A) یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر بنانے کا فیصلہ

(B) القدس کی آزادی کے اعلان کا فیصلہ

(C) تحریک آزادی کشمیر کی تائید کا فیصلہ

(D) ایک مشترک معاشی منڈی کے قیام کا اعلان و فیصلہ

58. کاسابلانکا میں ہونے والے او آئی سی کے اجلاس میں مصر کے صدر حسنی مبارک نے کون سا اہم نکتہ اٹھایا تھا؟

(A) فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیے

(B) غریب مسلم ملکوں کی ترقی کیلئے تین بلین ڈالرز کے ایک فنڈ کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔

(C) ایران و عراق کے مابین جاری جنگ کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے

(D) مسلم ممالک کے تعلیمی ڈھانچے کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کیلئے اقدام کرنے چاہئیں

59. 1994ء میں تہران میں ہونے والے او آئی سی کے اجلاس میں کس اہم فیصلے کی طرف توجہ دی گئی؟ (P.C.S. Executive 1999)

(A) یورپی ممالک کی سازشوں سے نمٹنے کیلئے ذرائع ابلاغ کو مربوط کیا جائے

(B) افغانستان میں امن کا قیام

(C) چیچنیا میں امن کا قیام

(D) دہشت گردی کا خاتمہ

60. درج ذیل میں او آئی سی کی تنظیم کی سرکاری زبان کون سی ہے؟

(A) فرانسیسی (B) عربی

(C) انگریزی (D) B,A اور C تینوں

61. اردن کے بادشاہ شاہ حسین I 1999ء میں انتقال کر گئے، وہ کس اہم پالیسی کے پیروکار تھے؟

(A) اسرائیل کے ساتھ لبرل پالیسی۔

(B) اسرائیل کے ساتھ مخالفت کی پالیسی۔

(C) مغرب کے ساتھ مخالفت کی پالیسی

(D) قوم پرستی

62. Archaeological نقطۂ نظر سے مصر کا اہم ترین مقام ____

(A) دریائے نیل پر سوان ڈیم (لمبائی 4000 میل)

(B) الازہر یونیورسٹی (C) اہرام مصر

(D) سویز کنال

63. کس اسلامی ملک میں بادشاہت ہے؟

(A) الجیریا (B) مراکش

(C) لیبیا (D) تنزانیہ

64. اخوان المسلمون کا تعلق کس ملک سے ہے؟

(A) فلسطین (B) • مصر

(C) عراق (D) ایران

65. نوری تحریک کے بانی کون تھے؟

(A) • بدیع الزمان (B) احمد پاشا

(C) حسن البناء (D) محمد احمد

66. اخوان المسلمون کا تعلق کس ملک سے ہے؟

(A) ایران (B) ترکی

(C) • مصر (D) سوڈان

67. علامہ شبلی نعمانی نے کس نام سے ادارہ قائم کیا؟

(A) خدمۃ العلماء (B) سیرۃ العلماء

(C) آئمۃ العلماء (D) ندوۃ العلماء•

جوابات

1. (B)	2. (D)	3. (B)	4. (A)	5. (B)	6. (B)	7. (D)	8. (A)
9. (C)	10. (A)	11. (D)	12. (C)	13. (C)	14. (A)	15. (B)	16. (A)
17. (D)	18. (A)	19. (C)	20. (C)	21. (C)	22. (A)	23. (D)	24. (D)
25. (D)	26. (A)	27. (A)	28. (B)	29. (B)	30. (B)	31. (A)	32. (B)
33. (B)	34. (A)	35. (A)	36. (B)	37. (C)	38. (A)	39. (D)	40. (C)
41. (D)	42. (D)	43. (A)	44. (B)	45. (C)	46. (B)	47. (B)	48. (A)
49. (B)	50. (A)	51. (B)	52. (A)	53. (B)	54. (D)	55. (B)	56. (C)
57. (D)	58. (C)	59. (B)	60. (D)	61. (A)	62. (D)	63. (B)	64. (B)
65. (C)	66. (C)	67. (D)					

سابقہ پیپروں میں پوچھے گئے سوالات

1. قرآن پاک میں اسم مبارک محمد ﷺ کتنی دفعہ آیا ہے۔
(A) دو بار (B) چار بار
(C) چھ بار (D) سات بار
(E) کوئی نہیں

2. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا نگران مقرر کیا۔
(A) عبداللہ بن ارقم کو (B) عبداللہ بن عمر کو
(C) عبداللہ بن عباس کو (D) عبداللہ بن زبیر کو
(e) کوئی نہیں

3. زکوٰۃ کے مؤثر نظام سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔
(A) غربت کا (B) سود کا
(C) طبقاتی نظام کا (D) جہالت کا
(E) کوئی نہیں

4. قرآنی آیت میں نام آیا ہے۔
(A) حضرت معاذ کا (B) حضرت بلال کا
(C) حضرت سعد کا (D) حضرت زید کا
(E) کوئی نہیں

5. مسجد ذو قبلتین واقع ہے۔
(A) مدینہ میں (B) مکہ میں
(C) طائف میں (d) جبل نور میں
(E) کوئی نہیں

6. مورخ، فقیہ، فلسفی اور سیاستدان ہے۔
(A) شمس الدین بن خلکان
(B) عبدالرحمان بن خلدون
(C) ابوبکر محمد مکی (D) محمد بن عیسیٰ
(E) کوئی نہیں

7. قرآن پاک کی ایک سورت میں بسم اللہ کا دوبارہ ذکر آیا ہے۔
(A) سورۃ النحل (B) سورۃ النمل
(C) سورۃ الاحزاب (D) سورۃ النور
(E) کوئی نہیں

8. حد قذف ہے۔
(A) ۵۰ کوڑے (B) ۷۰ کوڑے
(C) ۸۰ کوڑے (D) ۹۰ کوڑے
(E) کوئی نہیں

9. عدی بن حاتم طائی نے اسلام قبول کیا۔
(A) ۳_ہجری میں (B) ۶_ہجری میں
(C) ۹_ہجری (D) ۱۱_ہجری
(e) کوئی نہیں

10. کان سے نکلنے والی دولت پر وصولی کی جاتی ہے۔
(A) زکوٰۃ (B) خمس
(C) ثلث (D) ربع
(E) کوئی نہیں

11. امام دار الہجرت لقب ہے۔
(A) حضرت امام احمد بن حنبل کا
(B) امام مالک کا

(C) امام شافعی کا (D) امام محمد کا

(E) کوئی نہیں

12. حضور ﷺ کی اہم مراسلات پر لگائی جانے والی مہر پاس ہوتی تھی۔

(A) حضرت علیؓ (B) حضرت قیسؓ

(C) حضرت حذیفہؓ (D) حضرت بلالؓ

(E) کوئی نہیں

13. امین الامت لقب ہے۔

(A) عمار بن یاسر کا (B) سلمان فارسیؓ کا

(C) ابوعبیدہ بن الجراح کا (D) ابوسعید خدری کا

(E) کوئی نہیں

14. دریائے نیل کو سیدالانہار کہا تھا۔

(A) حضرت ابوبکرؓ نے (B) حضرت عمرؓ نے

(C) حضرت عثمانؓ نے (D) حضرت علیؓ نے

(D) کوئی نہیں

15. ازواج النبی میں ام المساکین لقب تھا۔

(A) حضرت سودہؓ کا

(B) حضرت زینبؓ بنت جحش کا

(C) حضرت زینبؓ بنت خزیمہ کا

(D) حضرت صفیہؓ کا

(E) کوئی نہیں

16. حضور ﷺ نے بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے عطا فرمائی۔

(A) عمار بن عتبہ کو (B) حنظلہؓ بن ابی عامر کو

(C) عثمانؓ بن طلحہ کو (D) عبداللہ بن عامر کو

(E) کوئی نہیں

17. دوران حج عرفات میں اجتماع ہوتا ہے۔

(A) ۸۔ذی الحج کو

(B) ۹۔ذی الحج کو

(C) ۱۰۔ذی الحج کو (d) ۱۲۔ذی الحج کو

(E) کوئی نہیں

18. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔

(A) حضرت سعد بن عبید (B) حضرت سعد بن عبادہ

(C) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ

(D) حضرت حمزہؓ (E) کوئی نہیں

19. شق القمر کا واقعہ پیش آیا۔

(A) مزدلفہ میں (B) حرم میں

(C) منیٰ میں (D) کوئی نہیں

20. کہاں پر بنی اسرائیل کو من وسلویٰ عطا کیا گیا؟

(A) وادی سینا [redacted] مکہ

(C) قسطنطنیہ (D) مدینہ

21. اصحاب ال۔ کھف (Ashab-al-Aikah) قوم تھے۔

(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت شیثؑ

(C) حضرت نوحؑ (D) حضرت شعیبؑ

22. عبدتم (Abadatum) کا مطلب ہے۔

(A) تمہارا گھر تمہارے لیے

(B) تمہارا دین تمہارے لیے

(C) تمہارا کاروبار تمہارے لیے

(D) کوئی نہیں

23. آرآیت کا مطلب ہے۔

(A) کیا تم نے دیکھا (B) کیا تم نے سوچا

(C) کیا تم نے کھایا (D) کیا تم نے عطا کیا

24. تذلیل (Tazleel) کا مطلب ہے۔

(A) شکست دینا misguide (B)

(C) دونوں A،B (D) کوئی نہیں

25. قرآن میں کس معروف گاؤں کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔

(A) مکہ (B) مدینہ

(C) دونوں B،A (D) کوئی نہیں

26. قرآن کی سورۃ جس میں مسجد قبا کا ذکر ہے؟

(A) رحمٰن (B) توبہ

(C) بقرہ (D) العمران

27. Ya Sabahaho کا مطلب ہے۔

(A) صبح کا خطرہ (B) شام کا خطرہ

(C) رات کا خطرہ (D) کوئی نہیں

28. قرآن کی سورۃ جس میں واقعہ افک (Ifk) بیان ہوا ہے۔

(A) مجادلہ (B) الناس

(C) نور (D) مریم

29. اصحاب سبت سے مراد ہے۔

(A) ہندو (B) مسلمان

(C) عیسائی (D) یہودی

30. باغ فدک نبی پاکؐ کو بطور ________ عطا ہوا۔

(A) فے (B) مال غنیمت

(C) جزیہ (D) عشر

31. فتویٰ قاضی خان ایک مستند فتویٰ ہے۔

(A) جعفریہ کا (B) فقہ مالکی کا

(C) فقہ حنفی کا (D) کوئی نہیں

32. حضرت بلالؓ کا مالک تھا۔

(A) امیہ بن خلف (B) امیہ بن زبیر

(C) امیہ بن حاتم (D) امیہ بن عوف

33. معراج کے واقعہ کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

34. کس قبیلے کے پاس کعبہ کی چابی ہے؟

(A) عبدالدار (B) عدی

(C) عاف (D) کسریٰ

35. صدقہ الفطر کب لاگو ہوا؟

(A) ایک ہجری (B) دو ہجری

(C) تین ہجری (D) چار ہجری

جوابات

1. (B)	2. (A)	3. (C)	4. (D)	5. (A)	6. (B)	7. (B)	8. (C)
9. (C)	10. (B)	11. (B)	12. (E)	13. (C)	14. (B)	15. (B)	16. (C)
17. (B)	18. (C)	19. (C)	20. (A)	21. (D)	22. (B)	23. (A)	24. (C)
25. (C)	26. (B)	27. (A)	28. (C)	29. (D)	30. (A)	31. (C)	32. (A)
33. (B)	34. (A)	35. (B)					

PPSCWRITTEN TEST FOR RECRUITMENT TO THE POST OF LECTURER ISLAMIAT (BS-17) IN THE PUNJAB EDUCATION DEPARTMENT - 2011

1. قرآن کی کس سورۃ میں کافروں سے برأت کا اعلان کیا گیا ہے؟
(A) النساء (B) بنی اسرائیل
(C) التوبہ (D) الکافرون

2. امام شافعیؒ نے قرآن پاک کی کس سورۃ کو انسانی ہدایت کے لیے کافی قرار دیا ہے؟
(A) البقرہ (B) الحجرات
(C) النور (D) العصر

3. قرآن کی کس سورۃ کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے؟
(A) التحریم (B) النمل
(C) الفرقان (D) النحل

4. کون سی سورۃ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی؟
(A) الانفال (B) التوبہ
(C) الشرح (D) التغابن

5. مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق احکام کس سورۃ میں ہیں؟
(A) التغابن (B) الزمر
(C) الانفال (D) الکہف

6. "الاتقان فی علوم القرآن" کے مصنف کا کیا نام ہے؟
(A) ابن حجر عسقلانی (B) امام احمد بن حنبلؒ
(C) جلال الدین سیوطیؒ (D) امین احسن اصلاحیؒ

7. "الحاد مغرب اور ہم" کے مصنف کا کیا نام ہے؟
(A) ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک (B) ڈاکٹر خالد علوی
(C) غلام جیلانی برق (D) ڈاکٹر محمد حمید اللہ

8. "تفہیمات" کے مصنف کا کیا نام ہے؟
(A) سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ (B) امین احسن اصلاحی
(C) ابوالحسن علی ندویؒ (D) منظور نعمانی

9. "اسلامی ریاست" کے مصنف کا نام کیا ہے؟
(A) گوہر الرحمن (B) امام ابن تیمیہؒ
(C) مناظر احسن گیلانی (D) سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

10. "تفسیر فی ظلال القرآن" کے مصنف کون ہیں؟
(A) محمد علی صابونی (B) سید قطب شہیدؒ
(C) سر سید احمد خانؒ (D) مفتی محمد شفیعؒ

11. غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟
(A) عتبہ (B) شیبہ
(C) ابوجہل (D) ولید

12. کس غزوہ میں نبی کریم ﷺ نے "شاہت الوجوہ" کہہ کر مٹھی بھر مٹی لشکر کفار کی طرف پھینکی؟
(A) الاحزاب (B) حنین
(C) بدر (D) احد

13. سفر ہجرت میں نبی کریم ﷺ نے کس شخص کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جانے کی خوشخبری سنائی؟
(A) سراقہ بن جعشم (B) سراقہ بن مالک
(C) حضرت ابوبکر صدیقؓ (D) حضرت عمرؓ

14. رسول اکرم ﷺ کی قیادت میں آخری غزوہ کون سا تھا؟
(A) غزوہ حنین (B) غزوہ تبوک
(C) غزوہ خیبر (D) غزوہ فتح مکہ

15. کس یہودی قبیلے نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے بدعہدی کی؟
(A) بنو قریظہ (B) بنو قینقاع
(C) بنو نضیر (D) بنو ہوازن

16. بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد کتنی تھی؟
(A) 15 (B) 10
(C) 12 (D) 14

17. جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟
(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام
(B) حضرت سلیمان علیہ السلام
(C) حضرت داؤد علیہ السلام
(D) حضرت یوسف علیہ السلام

18. قرآن پاک پر اعراب کس نے لگوائے؟
(A) حجاج بن یوسف (B) حضرت عثمان غنی
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت عمر بن عبدالعزیز

19. واقعہ افک کس سورۃ میں بیان کیا گیا؟
(A) الحدید (B) بنی اسرائیل
(C) النور (D) النساء

20. جنگ موتہ میں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کس کو بنایا گیا؟
(A) حضرت خالد بن ولیدؓ (B) حضرت زید بن حارثہؓ
(C) حضرت جعفر طیار
(D) حضرت سعد بن ابی وقاص

21. نبی کریم ﷺ نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟
(A) حضرت زید بن حارثہؓ (B) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ
(C) حضرت اسامہ بن زیدؓ (D) حضرت خالد بن ولیدؓ

22. حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے حضور ﷺ کے نکاح میں آئیں؟
(A) حضرت عائشہؓ (B) حضرت سودہؓ
(C) حضرت زینبؓ (D) حضرت صفیہؓ

23. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ حضور ﷺ کے وصال کے بعد زندہ رہیں۔
(A) 45 برس (B) 50 برس
(C) 65 برس (D) 20 برس

24. محمد بن قاسم مشہور مسلمان سپہ سالار کا تعلق کس عرب قبیلے سے تھا؟
(A) بنوہوازن (B) بنوثقیف
(C) بنوسعد (D) بنوہاشم

25. کس مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے؟
(A) مسجد الحرام (B) مسجد نبوی
(C) مسجد قبا (D) مسجد قبلتین

26. خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟
(A) مسجد نمرہ (B) مسجد الحرام
(C) مسجد قرطبہ (D) مسجد قبا

27. حج کے دن کس میدان میں حاضری ضروری ہے؟
(A) میدان عرفات (B) میدان منیٰ
(C) میدان مزدلفہ (D) میدان بدر

28. کس نبی کی امت سے مسلط شدہ عذاب ان کی توبہ کے باعث ٹل گیا؟
(A) قوم موسیٰ (B) قوم لوط
(C) قوم یونس (D) قوم ثمود

29. قرآن پاک کی کس سورۃ میں قصہ ذوالقرنین بیان کیا گیا ہے؟
(A) حم السجدہ (B) الکہف
(C) المجادلہ (D) طٰہٰ

30. ابوجہل کا اصل نام کیا تھا؟
(A) عمرو بن احمد (B) عمرو بن ہشام
(C) حارث بن ہشام (D) ہاشم بن عمرو

31. حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟
(A) کنعان (B) یروشلم
(C) مدین (D) عراق

32. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟
(A) حضرت صالح علیہ السلام (B) حضرت یحییٰ علیہ السلام
(C) حضرت شعیب علیہ السلام (D) حضرت ابراہیم علیہ السلام

33. قرآن نے کس کے گھروندے کو سب سے کمزور کہا ہے؟
(A) العنکبوت (B) النحل
(C) النمل (D) الذباب

34. حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کو ہجرت کرتے وقت نیزے سے کس نے زخمی کیا؟

(A) ابوسفیان (B) وحشی
(C) ابوجہل (D) ہبار بن الاسود

35. اسلام کی خاطر پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام ہے۔
(A) حضرت زینبؓ (B) حضرت سمیہؓ
(C) حضرت ام کلثومؓ (D) حضرت صفیہؓ

36. جنگ صفین کن دو گروہوں کے درمیان ہوئی؟
(A) حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ (B) حضرت علیؓ اور خوارج
(C) حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسنؓ
(D) حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ

37. حجۃ اللہ بالغہ کے مصنف کون ہیں؟
(A) شاہ ولی اللہ (B) مجدد الف ثانی
(C) حسین احمد مدنی (D) شاہ اسمٰعیل شہیدؒ

38. کس صحابی رسول ﷺ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟
(A) حضرت زید (B) حضرت ابوبکر صدیق
(C) حضرت علیؓ (D) حضرت حمزہؓ

39. غزوہ بدر میں کتنے فرشتوں سے مسلمانوں کی نصرت کی گئی؟
(A) ایک ہزار (B) پانچ سو
(C) دو ہزار (D) پانچ ہزار

40. غزوہ بدر میں شیطان کس کے روپ میں ظاہر ہو کر مشرکین کے حوصلے بڑھاتا رہا؟
(A) سراقہ بن مالک (B) سراقہ بن ہشم
(C) ابوجہل (D) امیہ بن خلف

41. گاتھا کس مذہب کی کتاب ہے؟
(A) یہودیت (B) ہندومت
(C) مجوسیت (D) مسیحیت

42. عقیدہ زروان کس کا عقیدہ ہے؟
(A) حضرت موسیٰ علیہ السلام (B) حضرت یحییٰ علیہ السلام
(C) گوتم بدھ (D) رام

43. انجیل کی روایت کے مطابق حضرت مریم کے منگیتر کا نام تھا؟
(A) یوحنا (B) یوسف علیہ السلام
(C) مرقس (D) یوسف نجار

44. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا گیا اس کا نام تھا۔
(A) نائسلن (B) پیلاطس
(C) فریڈرک (D) ٹامسن

45. 325ء میں نیقیاوی کونسل میں جس انجیل پر پابندی لگی اس کا نام تھا۔
(A) متی (B) توما
(C) بارناباس (D) لوقا

46. یہودی عبادت گاہ کو کونام دیا جاتا ہے۔
(A) مندر (B) پگوڈا
(C) سنیاگاگ (ساینا گاگ) (D) سیاہ

47. بدھ مت میں مدفن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔
(A) قبر (B) مڑھی
(C) اسٹوپا (D) یادگار

48. پروٹسٹنٹ فرقے کے بانی کا نام تھا۔
(A) ہیگل (B) مالتھس
(C) مارٹن لوتھر (D) ٹالسٹائی

49. زرتشت کا تعلق تھا۔
(A) شام (B) اردن
(C) ایران (D) مصر

50. پولوس نے نئے مذہبی عقائد کی بنیاد رکھی تھی؟
(A) مجوسیت میں (B) کنفیوشش ازم میں
(C) مسیحیت میں (D) بدھ مت میں

51. "جہاد و قتال" کے الفاظ کا تعلق کس باب سے ہے؟
(A) افعال (B) تفعیل
(C) مفاعلہ (D) انفعال

52. حجۃ اللہ البالغہ کا موضوع کیا ہے؟
(A) تفسیر (B) تاریخ
(C) فلسفۂ اخلاق وعلم الکلام (D) فقہ

53. حدیث نبوی ﷺ میں کس عمل کو چوٹی کا عمل قرار دیا گیا ہے؟
(A) نماز (B) روزہ
(C) جہاد (D) حج

54. کون سا فرقہ عقیدہ خلق قرآن کا قائل تھا؟
(A) خوارج (B) مجسمہ
(C) معتزلہ (D) مرجئہ

55. قرآن مجید میں کس گروہ کو "مباہلہ" کی دعوت دی گئی تھی۔
(A) یہود (B) نصاریٰ
(C) مجوس (D) مشرکین مکہ

56. غزوہ تبوک میں مجاہدین نبی کریم ﷺ کی قیادت میں کس کے خلاف نکلے؟
(A) روم (B) شام
(C) حبشہ (D) ایران

57. بیوی کی محرمات سے تشبیہ دینے کو قرآنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟
(A) ایلاء (B) ظہار
(C) لعان (D) خلع

58. "ماسیق الکلام لا جلہ" نص کی کس قسم کی تعریف ہے؟
(A) عبارۃ النص (B) اشارۃ النص
(C) اقتضاء النص (D) دلالۃ النص

59. ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ میں ہے؟
(A) البقرہ (B) آل عمران
(C) الاحزاب (D) النحل

60. پاکستان کی جامعات میں سب سے قدیم جامعہ کون سی ہے؟
(A) جامعہ پشاور (B) جامعہ سندھ
(C) جامعہ پنجاب (D) جامعہ کراچی

61. پاکستان کے کس آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا؟
(A) 1956ء (B) 1971ء
(C) 1973ء (D) 1980ء

62. قرآن مجید میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا؟
(A) احتکار (B) ربا
(C) میسر (D) زنا

63. فاتح مصر کون تھے؟
(A) زید بن حارثؓ (B) ابوموسیٰ اشعری
(C) عمرو بن العاصؓ (D) عبداللہ ابن عباس

64. مشکوٰۃ المصابیح کس فن کی کتاب ہے؟
(A) اصول فقہ (B) متن حدیث
(C) اصول حدیث (D) سیرت النبی ﷺ

65. مسلم ملک بوسنیا کس براعظم میں واقع ہے؟
(A) افریقہ (B) ایشیا
(C) یورپ (D) امریکہ

66. سفر معراج میں رسول اکرم ﷺ ساتویں آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی؟
(A) سیدنا موسیٰ علیہ السلام (B) سیدنا آدم علیہ السلام
(C) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام (D) سیدنا ابراہیم علیہ السلام

67. قرآن مجید کس خلیفہ راشد کے دور میں جمع کیا گیا؟
(A) حضرت ابوبکرؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت عثمانؓ (D) حضرت علیؓ

68. "السیاسۃ الشرعیۃ" کے مصنف کون ہیں؟
(A) ابن قیم (B) ابن تیمیہ
(C) ابن نجیم (D) ابن رشد

69. "الفقہ علی المذاہب الاربعۃ" کس کی تصنیف ہے؟
(A) احمد مصطفیٰ المراغی (B) عبدالرحمٰن الجزیری
(C) وھبہ الزحیلی (D) یوسف القرضاوی

70. شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات کی تعداد ہے۔
(A) 5 (B) 10
(C) 15 (D) 20

71. مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟
(A) مہر معجل (B) مہر مسمّٰی
(C) مہر مثل (D) مہر موجل

72. "الرحیق المختوم" کا موضوع کیا ہے؟
(A) فقہ (B) تفسیر
(C) علم الکلام (D) سیرت

73. "صلاۃ الخوف" کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟
(A) پریشانی کے حالت (B) حالت جنگ
(C) زلزلہ اور سیلاب کے وقت (D) سورج گرہن کے وقت

74. امام غزالی نے فلاسفہ کے رد و ابطال میں کون سی کتاب لکھی؟
(A) تہافۃ التہافۃ (B) المقاصد الفلاسفہ
(C) تہافۃ الفلاسفہ (D) الرد علی المنطقیین

75. حتی تنکح زوجا غیرہ قرآنی حکم کا اطلاق کس نوعیت پر ہوتا ہے؟
(A) مغلظ (B) رجعی
(C) بائنہ (D) خلعہ

76. مامون عباسی کے زمانے کس سائنسدان کی نگرانی میں یونانی فلسفہ کے تراجم کروائے گئے؟
(A) فارابی (B) ابن رشد
(C) یعقوب الکندی (D) ابن طفیل

77. "حتی یعطوا الجزیۃ عن یدوھم صغرون" آیت میں مذکور فعل یعطوا کا اعراب کیا ہے؟
(A) مجزوم (B) منصوب
(C) مرفوع (D) مجرور

78. درج ذیل کتب میں اصول تفسیر کی کتاب کون سی ہے؟
(A) التفسیر والمفسرون (B) احکام القرآن
(C) الفوز الکبیر (D) تفسیر بیضاوی

79. "غلو فی الدین" سے کیا مراد ہے؟
(A) نیک اعمال کی تعداد و مقدار میں مبالغہ کرنا
(B) بے عملی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھنا
(C) اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنا
(D) دینی علم کے حصول میں مبالغہ

80. "سمٰعون للکذب" سے کون لوگ مراد ہیں؟
(A) یہودی (B) عیسائی
(C) منافقین (D) ہندو

81. امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟
(A) تفسیر القرآن (B) مفاتیح الغیب
(C) احکام القرآن (D) معالم التنزیل

82. یمین (قسم) کی کون سی قسم پر کفارہ لازم ہے؟
(A) یمین غموس (B) یمین لغو
(C) فضول قسم (D) یمین منعقدہ

83. کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟
(A) ہرن کا شکار (B) سمندر کا شکار
(C) خشکی کا شکار (D) جنگلی گائے کا شکار

84. رہبانیت کی ابتدا کس نے کی؟
(A) یہود (B) مجوسی
(C) سامی (D) عیسائی

85. کون سی تفسیر "تفسیر بالماثور" کا بہترین نمونہ ہے؟
(A) تفسیر القرآن العظیم (B) مفاتیح الغیب
(C) تفسیر الکشاف (D) تفسیر الخازن

86. شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا بنیادی نکتہ کیا ہے؟
(A) یونانی کے بجائے ایمانی فلسفہ
(B) ارسطو کے افکار کی عادلانہ تشریح
(C) افلاطون اور ارسطو کے افکار میں تطبیق
(D) عقلیت پر مبنی ایک نئے فلسفے کی ابتداء

87. "الاخلاق بالاحوال بالعلوم" کس مسلم فلسفی کا قول ہے؟
(A) علامہ اقبال (B) امام غزالی
(C) شاہ ولی اللہ (D) ابن رشد

88. علامہ اقبال کے خطبات پر مبنی کتاب کا اصل نام کیا ہے؟
(A) خطبات اقبال
(B) Lecturers of Iqbal
(C) تشکیل جدید کے اقبال کے خطبات
(D) Reconstruction of Religions thought in Islam

89. Knowledge is the highest good کس کا قول ہے؟
(A) سقراط (B) ارسطو

(C) افلاطون (D) علامہ اقبال

90. سقراط کی تمام تر شہرت کی بنیاد وہ اس کا ہونہار شاگرد بنا۔

(A) زینوفون (B) افلاطون

(C) ارسطو (D) پروٹاگوراس

91. "خلق افعال العباد" (آدمی اپنے اعمال کا خود خالق ہے) کس کا نظریہ ہے؟

(A) ماتریدیہ (B) معتزلہ

(C) اشاعرہ (D) مرجئہ

92. قائداعظم کا مزار کس شہر میں ہے؟

(A) کوئٹہ (B) پشاور

(C) کراچی (D) لاہور

93. قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟

(A) سیدنا ابراہیم علیہ السلام (B) سیدنا موسیٰ علیہ السلام

(C) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام (D) سیدنا نوح علیہ السلام

94. مندرجہ ذیل حروف میں سے جازم فعل مضارع کون سا حرف ہے؟

(A) ان (B) کی

(C) لم (D) فی

95. "انهم فتية آمنوا بربهم" ایمان اور استقامت کے حوالے سے نوجوانوں کے گروہ کا یہ تذکرہ کس سورۃ میں ہوا ہے؟

(A) البقرہ (B) النور

(C) الکہف (D) الاحزاب

96. بیسویں صدی کے آغاز تک خلافت اسلامیہ کا تعلق کس سے رہا؟

(A) مصر (B) ترکی

(C) انڈونیشیا (D) عراق

97. قرآن مجید میں "احسن القصص" کس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے؟

(A) الکہف (B) الاعراف

(C) یوسف (D) نوح

98. آخری مغل حکمران کا نام

(A) اکبر (B) بہادر شاہ ظفر

(C) اورنگ زیب عالمگیر (D) جہانگیر

99. الم ذلك الكتب لا ريب فيه آیت میں مذکور ذلك الكتب کون سا مرکب ہے؟

(A) مرکب اضافی (B) مرکب اشاری

(C) مرکب عددی (D) مرکب توصیفی

100. "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" آیت میں مذکور لفظ قاتلوا کون سا فعل ہے؟

(A) ماضی (B) مضارع

(C) امر (D) نہی

جوابات

1. (C)	2. (C)	3. (B)	4. (B)	5. (C)	6. (C)	7. (A)	8. (A)
9. (D)	10. (B)	11. (A)	12. (C)	13. (A)	14.(B)	15. (A)	16. (C)
17. (C)	18. (A)	19. (C)	20. (B)	21. (C)	22.(B)	23. (A)	24. (B)
25. (C)	26. (A)	27. (A)	28. (C)	29. (B)	30.(B)	31. (C)	32. (C)
33. (A)	34. (D)	35. (B)	36. (A)	37. (A)	38.(A)	39. (D)	40. (A)
41. (C)	42. (C)	43. (D)	44. (B)	45. (C)	46.(C)	47. (C)	48. (C)
49. (C)	50. (C)	51. (C)	52. (C)	53. (C)	54.(C)	55. (B)	56. (A)
57. (B)	58. (A)	59. (C)	60. (C)	61. (C)	62.(B)	63. (C)	64. (B)
65. (C)	66. (D)	67. (A)	68. (B)	69. (B)	70.(A)	71. (C)	72. (D)
73. (B)	74. (C)	75. (C)	76. (C)	77. (B)	78.(C)	79. (B)	80. (A)
81. (B)	82. (D)	83. (B)	84. (D)	85. (A)	86.(A)	87. (C)	88. (D)
89. (C)	90. (B)	91. (B)	92. (C)	93. (B)	94.(C)	95. (C)	96. (B)
97. (C)	98. (B)	99. (B)	100. (C)				

PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION

WRITTEN TEST FOR RECRUITMENT TO THE POST OF LECTURER ISLAMIAT BS-17

(Male/Female)

IN THE HIGHER EDUCATION DEPARTMENT - 2015

1. شاہ ولی اللہ کی تصنیف الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟
(A) تفسیر (B) حدیث
(C) اصول تفسیر (D) اصول حدیث

2. قرآن مجید کی کس سورت میں بسم اللہ دو مرتبہ آئی ہے؟
(A) النحل (B) النمل
(C) العنکبوت (D) الملک

3. حد قذف کب نازل ہوئی؟
(A) 3 ہجری (B) 4 ہجری
(C) 5 ہجری (D) 6 ہجری

4. جامع البیان فی تفسیر القرآن العظیم کے مفسر کون ہیں؟
(A) جلال الدین سیوطیؒ (B) حافظ ابن کثیرؒ
(C) ابن جریر طبریؒ (D) ان میں سے کوئی نہیں

5. وحی غیر متلو سے کیا مراد ہے؟
(A) حدیث قولی (B) حدیث فعلی
(C) حدیث تقریری (D) حدیث قدسی

6. شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟
(A) 5 آیات (B) 10 آیات
(C) 20 آیات (D) 50 آیات

7. برصغیر میں قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟
(A) شاہ ولی اللہ (B) شاہ عبدالقادر
(C) شاہ رفیع الدین (D) شاہ اسماعیل

8. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورۃ جو مکمل نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟
(A) الفاتحہ (B) المزمل
(C) المدثر (D) الکوثر

9. قرآن مجید کی چوتھی منزل کس سورہ سے شروع ہوتی ہے؟
(A) النحل (B) بنی اسرائیل
(C) الکھف (D) مریم

10. قرآن مجید کا مکی حصہ کون سا ہے؟
(A) جو مکہ میں نازل ہوا
(B) جو طائف میں نازل ہوا
(C) جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا
(D) جو ہجرت کے بعد نازل ہوا

11. حدیث جبریل کے راوی کون ہیں؟
(A) حضرت ابوہریرہؓ (B) حضرت عمرؓ
(C) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ (D) حضرت عبداللہ بن عمرؓ

12. حضرت عائشہؓ سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟
(A) 1000 (B) 1525
(C) 1225 (D) 2210

13. صحیحین سے کیا مراد ہے؟
(A) قرآن وسنت (B) بخاری ومسلم
(C) مسلم ونسائی (D) بخاری وسنن ابن داؤد

14. اللؤلؤ والمرجان کے مؤلف کون ہیں؟
(A) محمد عبدہؒ (B) فواد عبدالباقی
(C) ابن حجر عسقلانی (D) امام مالکؒ

15. حضرت ابوہریرہؓ کا اصل نام کیا ہے؟

(A) عبداللہ (B) عبدالرحمٰن بن صخر

(C) زید (D) حامد

16. مصطلح الحدیث کے مؤلف کون ہیں؟

(A) امام ابوعبدالرحمٰن (B) امام ابوداؤد

(C) ڈاکٹر محمود الطحان (D) عبدالغفار حسن

17. جو تغیر نفس حدیث میں کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟

(A) مدرج الاسناد (B) مدرج المتن

(C) معجم (D) مسند

18. صحیفہ صادقہ کے مؤلف کون ہیں؟

(A) عمرو بن العاصؓ (B) ابوہریرہؓ

(C) عبداللہ بن عمرؓ (D) عبداللہ بن مسعودؓ

19. امام بخاریؒ نے صحیح بخاری میں کتنی احادیث کے حاشیہ پر ثلاثیات تحریر کیا ہے؟

(A) 22 (B) 30

(C) 33 (D) 333

20. سنت کی آئینی حیثیت کے مؤلف کون ہیں؟

(A) سید مودودیؒ (B) ڈاکٹر خالد علویؒ

(C) عجاج الخطیب (D) ڈاکٹر محمد حماد لکھوی

21. کتاب الملل والنحل کے مصنف کا کیا نام ہے؟

(A) عبدالکریم شہرستانی (B) البیرونی

(C) ڈاکٹر احمد شبلی (D) ثناءاللہ امرتسری

22. عیسائیوں کی بڑی عید کیا کہلاتی ہے؟

(A) کرسمس (B) ایسٹر

(C) اسٹوپا (D) بپتسمہ

23. کنفیوشس کے بیان کردہ رابطوں کی تعداد کتنی ہے؟

(A) 2 (B) 5

(C) 10 (D) 20

24. قرآن مجید میں کل کتنی مساجد کا نام آیا ہے؟

(A) 2 (B) 4

(C) 6 (D) 8

25. حضرت زید بن حارثؓ کا نام کس سورہ میں آیا ہے؟

(A) النور (B) الاحزاب

(C) التحریم (D) الواقعہ

26. قرآن مجید میں انبیاء کے نام پر کتنی سورتیں ہیں؟

(A) 4 (B) 6

(C) 8 (D) 10

27. اپنشد کے مطابق کائنات میں کس کو برتر حیثیت حاصل ہے؟

(A) کرشن (B) رام

(C) برہما (D) وشنو

28. بھکشو کے لیے کس رنگ کے کپڑے پہننا لازم ہیں؟

(A) سفید (B) سرخ

(C) زرد (D) سیاہ

29. لفظ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟

(A) کاھن (B) یہودی

(C) عیسائی (D) عبداللہ

30. جد الانبیاء کس کا لقب ہے؟

(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت نوحؑ

(C) حضرت ابراہیمؑ (D) حضرت یعقوبؑ

31. رسول اکرم ﷺ کے سب سے پہلے رضاعی بھائی کا نام کیا ہے؟

(A) خالد (B) حمزہ

(C) مسروح (D) عبداللہ

32. حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک کتنی تھی؟

(A) 15 برس (B) 16 برس

(C) 18 برس (D) 20 برس

33. حضرت خدیجہؓ نے کتنی عمر میں وفات پائی؟

(A) 53 برس (B) 63 برس

(C) 65 برس (D) 66 برس

34. حج کا لفظی مطلب کیا ہے؟

(A) سعی کرنا

(B) میدان عرفات میں جانا

(C) ارادہ کرنا

(D) کنکریاں مارنا

35. حرم شریف میں کرین حادثہ کب ہوا؟

(A) ذی الحج 1435ھ (B) ذی قعد 1435ھ

(C) ذی قعد 1436ھ (D) ذی الحج 1437ھ

36. شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیارؓ نے کس سورت کی تلاوت کی؟

(A) آل عمران (B) النساء

(C) مریم (D) یٰسین

37. شب معراج چوتھے آسمان پر آپ ﷺ کی کس نبی سے ملاقات ہوئی؟

(A) حضرت عیسیٰ (B) حضرت یوسف

(C) حضرت ادریس (D) حضرت ہارونؑ

38. بیعت عقبہ اولیٰ میں کل کتنے افراد شریک ہوئے؟

(A) 6 (B) 8

(C) 12 (D) 15

39. یثرب میں پہلے پہل تبلیغ اسلام کے لیے کس صحابی کو بھیجا گیا؟

(A) حضرت عمرو بن العاصؓ

(B) حضرت اسعد بن زرارہؓ

(C) حضرت مصعب بن عمیرؓ

(D) ان میں سے کوئی نہیں

40. بدر کا لفظی مطلب کیا ہے؟

(A) کنواں (B) رونق

(C) راستہ (D) چودھویں کا چاند

41. حضرت علیؓ کے خطبات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟

(A) کشف المحجوب (B) صحیفہ صادقہ

(C) حجۃ اللہ البالغہ (D) نہج البلاغہ

42. حضرت علیؓ کے قاتل ابن ملجم کو کس نے قتل کیا؟

(A) وحشی (B) حضرت امیر معاویہؓ

(C) حضرت حسنؓ (D) حضرت حسینؓ

43. جزا و سزا حاکم وقت مقرر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟

(A) تعزیر (B) حد

(C) قصاص (D) دیت

44. تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر کون ہیں؟

(A) امام قرطبیؒ (B) سید قطب شہیدؒ

(C) امام حسن البناءؒ (D) احمد امین مصری

45. قوم نوحؑ کتنے بتوں کی پرستش کرتی تھی؟

(A) 3 (B) 5

(C) 7 (D) 9

46. قریش کے سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟

(A) لات (B) منات

(C) ھبل (D) یعوق

47. دی سپرٹ آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟

(A) داؤد غزنویؒ (B) سید امیر علی

(C) پیر کرم شاہ (D) ایس ایم اکرام

48. واقعہ کربلا کب پیش آیا؟

(A) 59ھ (B) 61ھ

(C) 62ھ (D) 63ھ

49. خلافت عباسیہ کے آخری حکمران کا نام کیا ہے؟

(A) سفاح (B) معتصم باللہ

(C) ہارون الرشید (D) مہدی

50. جنگ جمل کب ہوئی؟

(A) 34ھ (B) 35ھ

(C) 36ھ (D) 37ھ

51. تاریخ الرسل والملوک کے مصنف کون ہیں؟

(A) طبری (B) قرطبی

(C) شاطبی (D) شبلی

52. فاتح مصر کن کو کہا جاتا ہے؟
(A) عبداللہ بن عمرؓ (B) خالد بن ولیدؓ
(C) عمرو بن العاصؓ (D) سعد بن ابی وقاصؓ

53. تاریخ ابن اثیر کا اصل نام کیا ہے؟
(A) الکامل فی التاریخ (B) تاریخ ہند
(C) طبقات ابن سعد (D) کتاب الشفاء

54. امین الامت کس صحابی کا لقب ہے؟
(A) ابوعبیدہ بن الجراحؓ (B) عبدالرحمن بن عوفؓ
(C) حضرت طلحہؓ (D) حضرت زبیرؓ

55. آپ ﷺ نے کس صحابی کو کہا کہ ہمارے اہل بیت میں ہے؟
(A) سعید بن مسیبؓ (B) سلمان فارسیؓ
(C) ابوایوب انصاریؓ (D) ثابت بن قیسؓ

56. حضور ﷺ کی رضاعی بہن شیما کس غزوہ میں قیدی بن کر آئیں؟
(A) غزوہ تبوک (B) غزوہ حنین
(C) غزوہ احزاب (D) غزوہ بدر

57. اسلام کی پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام کیا ہے؟
(A) لبینہؓ (B) سمیہؓ
(C) رقیہؓ (D) ام کلثومؓ

58. اسلام میں پہلی عید الفطر کب منائی گئی؟
(A) 2ھ (B) 3ھ
(C) 4ھ (D) 5ھ

59. بدایۃ المجتہد کے مصنف کا کیا نام ہے؟
(A) ابن قدامہ (B) امام ابن حزم
(C) ابن رشد (D) ابن خلدون

60. اسلامی تاریخ کا پہلا مشرک مقتول کون تھا؟
(A) ابوجہل (B) عمرو بن حضرمی
(C) شیبہ (D) عتبہ

61. اسلام کی راہ میں تیر چلانے والے پہلے صحابی کا نام کیا ہے؟
(A) حضرت عمرؓ (B) حضرت علیؓ
(C) حضرت ابوسلمہؓ (D) سعد بن ابی وقاصؓ

62. مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کی کس آیت میں بیان ہوئے ہیں؟
(A) آیت نمبر 30 میں (B) آیت نمبر 50 میں
(C) آیت نمبر 60 میں (D) آیت نمبر 100 میں

63. شاعر رسول ﷺ کس صحابی کا لقب ہے؟
(A) لبید (B) حسان بن ثابتؓ
(C) عبداللہ بن جحشؓ (D) عثمان بن مظعونؓ

64. کس غزوہ میں پہلی دفعہ خمس نکالا گیا؟
(A) غزوہ اُحد (B) غزوہ احزاب
(C) غزوہ خیبر (D) غزوہ بنو قریظہ

65. بنو عباس کے خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟
(A) 25 (B) 30
(C) 36 (D) 40

66. جھوٹی نبوت کا سب سے پہلا دعویدار کون تھا؟
(A) اسود عنسی (B) مسیلمہ کذاب
(C) طلیحہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

67. حضرت خالد بن ولیدؓ کو کس جنگ میں سیف اللہ کا لقب ملا؟
(A) غزوہ حنین (B) سریہ موتہ
(C) غزوہ تبوک (D) جنگ صفین

68. قرآن مجید کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت کتنی ہے؟
(A) ایک سال (B) ڈیڑھ سال
(C) دو سال (D) اڑھائی سال

69. ظہیر الدین بابر نے کس ہندوستانی حکمران کو شکست دے کر سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی؟
(A) راجہ اشوک (B) ابراہیم لودھی
(C) قطب الدین ایبک (D) محمد غوری

70. محرمات نسب کی کل تعداد کتنی ہے؟
(A) تین (B) پانچ

(C) سات (D) نو

71. ازدواجی تعلقات قائم کیے بغیر کوئی شخص طلاق دے تو مطلقہ کی عدت کتنی ہے؟
(A) 2ماہ (B) 3ماہ
(C) 4ماہ (D) کوئی عدت نہیں

72. میقات سے کیا مراد ہے؟
(A) احرام باندھنے کی جگہ (B) اوقات الصلوٰۃ
(C) چاند کا بڑھنا (D) ایام حج

73. مضاربت کے لیے دوسری اصطلاح کیا ہے؟
(A) شراکت (B) مساقاۃ
(C) قراض (D) اجارہ

74. یاجوج ماجوج کو پس دیوار کس نے بند کیا؟
(A) سلیمان (B) ذوالقرنین
(C) سکندر (D) ان میں سے کوئی نہیں

75. بیٹا اگر اپنے باپ کا قاتل ہو تو اسے کتنی وراثت ملے گی؟
(A) آدھا حصہ (B) پورا حصہ
(C) 1/8 حصہ (D) نہیں ملے گی

76. شرح الصغیر کس فقہ کی معتبر کتاب ہے؟
(A) حنفی (B) مالکی
(C) حنبلی (D) شافعی

77. امام ابوحنیفہ کب پیدا ہوئے؟
(A) 50ہجری (B) 60ہجری
(C) 70ہجری (D) 80ہجری

78. امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس مسلمان سائنسدان نے پیش کیا؟
(A) الکندی (B) الفارابی
(C) ابن النفیس (D) ابن سینا

79. کتاب الخیل کے مصنف کا نام کیا ہے؟
(A) الزہراوی (B) علامہ اصمعی
(C) ابن جاحظ (D) البیرونی

80. صفر کس کے ذہن رسا کی تخلیق ہے؟
(A) ابن الہیثم (B) الخوارزمی
(C) عمر خیام (D) ابن بیطار

81. ابوالفداء کی جغرافیہ پر مشہور تصنیف کا نام کیا ہے؟
(A) کتاب العادات (B) التصریف
(C) تقویم البلدان (D) مقالات شمس

82. ماء الملوک کس کی ایجاد ہے؟
(A) جابر بن حیان (B) ابن ماجہ
(C) شیخ غورث (D) القزوینی

83. کون سا مسلم ریاضی دان معروف شاعر بھی تھا؟
(A) المسعودی (B) عمر خیام
(C) ابن واقد (D) الدمیری

84. گلیلیو کی اہم ایجاد کیا تھی؟
(A) منجنیق (B) دوربین
(C) اصطرلاب (D) ان میں سے کوئی نہیں

85. پنڈولم والی گھڑی کس نے ایجاد کیا؟
(A) ارسطو (B) کوپرنیکس
(C) علی ابن یونس (D) اقلیدس

86. نظریہ اضافت کس نے پیش کیا؟
(A) نیوٹن (B) آئن سٹائن
(C) طالیس (D) اسطاخوس

87. اسلام اور جدید دور کے مسائل کے مصنف کون ہیں؟
(A) علامہ اقبال (B) امین اصلاحی
(C) محمد تقی امینی (D) ڈاکٹر سعد صدیقی

88. ہندوستان کے کون سے معروف عالم دین ماہر معاشیات بھی تھے؟
(A) مجدد الف ثانی (B) شاہ ولی اللہ
(C) حفظ الرحمٰن سیوہاروی (D) قاسم نانوتوی

89. دور جدید کے اقتصادی مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے؟

(A) اشتراکیت (B) سرمایہ داری نظام
(C) سود (D) آزاد معیشت

90. کتاب الآثار کے مصنف کا نام کیا ہے؟
(A) امام ابوحنیفہؒ (B) امام محمدؒ
(C) امام ابویوسفؒ (D) امام مالکؒ

91. ابن خلدون کہاں پیدا ہوئے؟
(A) قرطبہ (B) بغداد
(C) تیونس (D) شام

92. اخوان المسلمون کا تعلق کس ملک سے ہے؟
(A) فلسطین (B) مصر
(C) عراق (D) ایران

93. احتکار سے کیا مراد ہے؟
(A) تازہ پھل (B) ذخیرہ اندوزی
(C) منافع (D) دفینہ

94. عروس القرآن کس سورہ کو کہتے ہیں؟
(A) المائدہ (B) الانعام
(C) الرحمٰن (D) التکویر

95. حروف جارہ کی کل تعداد کتنی ہے؟
(A) چودہ (B) سترہ
(C) بیس (D) پچیس

96. فعل امر کے کل صیغے کتنے ہوتے ہیں؟
(A) پانچ (B) چھے
(C) نو (D) چودہ

97. لسان العرب کا موضوع کیا ہے؟
(A) ایمانیات (B) لغت
(C) حدیث (D) تقابل ادیان

98. ذمی کسے کہتے ہیں؟
(A) مزدور (B) نومسلم
(C) اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری
(D) ذمہ داران

99. زیادہ سے زیادہ حق مہر کی مقدار کتنی ہے؟
(A) سو درہم (B) پانچ سو درہم
(C) ہزار دینار (D) کوئی حد نہیں

100. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟
(A) 89 (B) 99
(C) 999 (D) 1000

جوابات

1. (C)	2. (B)	3. (C)	4. (C)	5. (D)	6. (A)	7. (B)	8. (A)
9. (B)	10. (C)	11. (B)	12. (D)	13. (B)	14. (B)	15. (B)	16. (C)
17. (B)	18. (A)	19. (A)	20. (A)	21. (A)	22. (A)	23. (B)	24. (B)
25. (B)	26. (B)	27. (C)	28. (C)	29. (D)	30. (C)	31. (B)	32. (A)
33. (B)	34. (C)	35. (D)	36. (C)	37. (C)	38. (C)	39. (C)	40. (A)
41. (D)	42. (C)	43. (A)	44. (B)	45. (B)	46. (C)	47. (B)	48. (B)
49. (B)	50. (C)	51. (A)	52. (C)	53. (A)	54. (A)	55. (B)	56. (B)
57. (B)	58. (A)	59. (C)	60. (B)	61. (D)	62. (C)	63. (B)	64. (C)
65. (C)	66. (A)	67. (B)	68. (C)	69. (B)	70. (C)	71. (D)	72. (A)
73. (A)	74. (B)	75. (D)	76. (A)	77. (D)	78. (D)	79. (B)	80. (B)
81. (C)	82. (A)	83. (B)	84. (B)	85. (C)	86. (B)	87. (C)	88. (B)
89. (C)	90. (A)	91. (C)	92. (B)	93. (B)	94. (C)	95. (B)	96. (B)
97. (B)	98. (C)	99. (D)	100. (B)				

PPSC WRITTEN TEST FOR RECRUITMENT TO THE POST OF LECTURER ISLAMIAT (BS-17) IN THE PUNJAB EDUCATION DEPARTMENT - 2015

1. شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا ہے؟
(A) سلمان احمد (B) قطب الدین
(C) نصیر الدین (D) احمد شاہ سوال

2. شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟
(A) 20 (B) 5
(C) 12 (D) 7

3. لفظ مخاصمہ کا لغوی معنی کیا ہے؟
(A) خاص (B) حماقت
(C) راضی (D) دشمنی

4. تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر کا نام کیا ہے؟
(A) امام فخر الدین رازی (B) ابن جریر
(C) سید قطب شہید (D) حسن البناء

5. قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟
(A) ترتیب اصولی (B) ترتیب حجازی
(C) ترتیب نزولی (D) ترتیب توقیفی

6. کتمان سے کیا مراد ہے؟
(A) ناپاک (B) چھپانا
(C) ظاہر کرنا (D) ڈرنا

7. حضرت عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرنے سے پہلے کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟
(A) یہودی (B) عیسائی
(C) مجوسی (D) مشرک

8. حرمت والے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟
(A) دو (B) چار
(C) آٹھ (D) دس

9. قرآن مجید میں حضرت زید بن حارثہ کا نام کس سورہ میں آیا ہے؟
(A) سورہ حدید (B) سورہ نحل
(C) سورہ احزاب (D) سورہ بقرہ

10. سورہ حدید کا مرکزی مضمون کیا ہے؟
(A) تخلیق کائنات (B) انفاق فی سبیل اللہ
(C) انسانیت (D) جہاد

11. شریعت اسلامی کا دوسرا بنیادی ماخذ کون سا ہے؟
(A) فقہ (B) الفوز الکبیر
(C) حدیث (D) قیاس

12. مشہور حدیث کے راویوں کی ہر طبقہ میں تعداد کتنی ہونی چاہیے؟
(A) ایک (B) تین
(C) پانچ (D) سات

13. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے مؤلف کون ہیں؟
(A) امام ابن حجر عسقلانی
(B) امام ابن تیمیہ
(C) امام راغب اصفہانی
(D) علامہ غلام رسول رضوی

14. خبر مقبول کی کتنی اقسام ہیں؟
(A) تین (B) چار
(C) پانچ (D) چھ

15. حدیث جبریل کا موضوع کیا ہے؟
(A) معراج (B) ایمانیات
(C) وحی (D) سنت

16. بارانی زمین کی فصل پر کتنی زکوٰۃ ادا ہوگی؟
(A) پانچواں حصہ (B) دسواں حصہ
(C) بیسواں حصہ (D) چالیسواں حصہ

17. غارمین سے کیا مراد ہے؟
(A) مقروض (B) غار میں رہنے والا
(C) ناپسندیدہ (D) فاتحین

18. حضرت عائشہؓ سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟
(A) دو ہزار دو سو دس (B) پندرہ سو چھبیس
(C) ایک ہزار بیس (D) پانچ سو پچاس

19. چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟
(A) صلوٰۃ الحاجت (B) صلوٰۃ الخسوف
(C) صلوٰۃ الکسوف (D) صلوٰۃ الوتر

20. صحیحین سے کیا مراد ہے؟
(A) کتاب الخراج (B) بخاری و ترمذی
(C) مسلم و نسائی (D) بخاری و مسلم

21. الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے مصنف کا نام کیا ہے؟
(A) ابن حزم ظاہری (B) ابن تیمیہ
(C) عبدالکریم شہرستانی (D) ابن جریر

22. اپنشد کے مطابق کائنات میں برتر حیثیت کس کو حاصل ہے؟
(A) کرشن (B) وشنو
(C) براہمہ (D) شو

23. ہندوازم کے مشہور فلسفہ یوگ کا بانی کون تھا؟
(A) گوتم (B) مہامتی کپلا
(C) بے مُنی (D) پتانجلی

24. بھکشو کے لیے کس رنگ کے کپڑے پہننا لازم ہیں؟
(A) سیاہ (B) زرد
(C) سرخ (D) سفید

25. تالمود کس زبان کا لفظ ہے؟
(A) عبرانی (B) سریانی
(C) لاطینی (D) عربی

26. احکام عشرہ کے مماثل احکام کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟
(A) سورہ حدید (B) سورہ بنی اسرائیل
(C) سورہ انعام (D) سورہ مائدہ

27. عیسائیوں کا مذہبی رہنما پوپ کس جگہ رہتا ہے؟
(A) نیویارک (B) غرناطہ
(C) ایتھنز (D) ویٹی کن سٹی

28. قرآن مجید کی کس سورہ میں ختم نبوت کا تذکرہ آیا ہے؟
(A) سورہ محمد (B) سورہ کوثر
(C) سورہ احزاب (D) سورہ حجرات

29. انسان کامل کے مصنف کا نام کیا ہے؟
(A) عبدالمالک کاندھلوی (B) ڈاکٹر خالد علوی
(C) نعیم صدیقی (D) صفی الرحمٰن مبارکپوری

30. پہلی وحی کل کتنی آیات پر مشتمل تھی؟
(A) تین آیات (B) پانچ آیات
(C) سات آیات (D) نو آیات

31. حضرت اسماعیلؑ کے بعد کعبہ کی تولیت کس کے حصے میں آئی؟
(A) قصی (B) ثابت
(C) بنی جرہم (D) فہر

32. مکہ میں بت پرستی کی ابتداء کس نے کی؟
(A) ابوجہل (B) عمرو بن لحی
(C) ابرھہ (D) کرز بن جابر

33. رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید کو کس موقع پر سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔
(A) غزوہ تبوک (B) غزوہ حنین
(C) سریہ موتہ (D) فتح مکہ

34. سیرت کے موضوع پر کتاب الرحیق المختوم کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟
(A) ابوالحسن ندوی
(B) سلیم منصور خالد
(C) صفی الرحمٰن مبارکپوری

(D) ڈاکٹر خالد علوی

35. حضرت ابوبکر صدیقؓ کا نام منصب خلافت کے لیے کہاں پیش کیا گیا؟

(A) مسجد حرام (B) مسجد نبوی

(C) طائف (D) سقیفہ بن ساعدہ

36. بنوامیہ کا کل دور خلافت کتنا ہے؟

(A) 90 سال (B) 100 سال

(C) 120 سال (D) 150 سال

37. محمد بن قاسم نے سندھ کو کب فتح کیا؟

(A) 650ء (B) 712ء

(C) 725ء (D) 730ء

38. مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟

(A) 300 (B) 400

(C) 500 (D) 1000

39. قبرص کب فتح کیا گیا؟

(A) 25 ہجری (B) 28 ہجری

(C) 30 ہجری (D) 35 ہجری

40. دمشق کی فتح کس مسلمان جرنیل کے ہاتھوں ہوئی؟

(A) سعد بن ابی وقاصؓ (B) نعمان بن مقرنؓ

(C) خالد بن ولیدؓ (D) عمرو بن العاصؓ

41. حد قذف قرآن مجید کی کس سورہ میں بیان ہوئی ہے؟

(A) سورہ تحریم (B) سورہ نور

(C) سورہ احزاب (D) سورہ بقرہ

42. قرآن مجید میں شادی شدہ زانی مرد کی سزا کیا بیان ہوئی ہے؟

(A) 80 کوڑے (B) 100 کوڑے

(C) رجم (D) سزا بیان نہیں ہوئی

43. کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی۔

(A) امام مالکؒ (B) امام شافعیؒ

(C) امام احمد بن حنبلؒ (D) امام ابوحنیفہؒ

44. امام مالک کہاں پیدا ہوئے؟

(A) قاہرہ (B) کوفہ

(C) مدینہ منورہ (D) دمشق

45. قانون اسلامی کا چوتھا ماخذ کیا ہے؟

(A) سنت (B) اجتہاد

(C) قیاس (D) اجماع

46. آیت محاربہ قرآن مجید کی کس سورہ میں بیان ہوئی ہے؟

(A) سورہ مائدہ (B) سورہ نور

(C) سورہ احزاب (D) سورہ یٰسین

47. قتل عمد سے کیا مراد ہے؟

(A) تیز آلے سے قتل کرنا (B) دھوکے سے قتل کرنا

(C) غلطی سے قتل کرنا (D) جان بوجھ کر قتل کرنا

48. وہ عبارت جو متکلم کے کلام کے مقصد کو ظاہر کرے جو بالکل واضح ہو اور صراحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے اسے فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟

(A) اقتضاء النص (B) دلالت النص

(C) عبارۃ النص (D) اشارۃ النص

49. مختلف جرائم کی جو سزائیں قرآن مجید میں بیان ہوئیں ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟

(A) مستحبات (B) عقوبات

(C) تعزیرات (D) حدود

50. کتاب الکافی کے مولف کون ہیں؟

(A) محمد بن حسن (B) شیخ محمد باقر

(C) محمد بن علی (D) محمد بن یعقوب

51. کتاب الفلاحۃ کے مصنف کون ہیں؟

(A) رضی الدین قریشی

(B) ابوالفداء

(C) ابن العوام

(D) محمد بن احمد الخرقی

52. زمین سورج کے گرد ایک چکر کتنے عرصے میں مکمل کرتی ہے؟

(A) ڈیڑھ سال میں (B) ایک سال میں

(C) چھ ماہ میں (D) ایک ماہ میں

53. علم باغبانی کے ماہر مسلمان سائنسدان کون تھے؟

(A) عمر خیام (B) ابن خلدون
(C) ابن طیار (D) ابن اسحاق الکندی

54. کس یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ ہر چیز کی اصل پانی ہے؟

(A) سقراط (B) طالیس
(C) ارسطو (D) بقراط

55. اصطرلاب سے کیا مراد ہے؟

(A) ایکسرے
(B) سورج کا مشاہدہ کرنے والا آلہ
(C) وقت ناپنے والا آلہ
(D) زمین کی پیمائش کرنے والا آلہ

56. ریاضی کس زبان کا لفظ ہے؟

(A) فارسی (B) لاطینی
(C) عربی (D) عبرانی

57. ارسطو کے نزدیک خدا کیا ہے؟

(A) خالق (B) علت اولیٰ
(C) آشکار حقیقت (D) نگہبان

58. قرآن کی کس سورہ میں ستاروں سے آسمان دنیا مزین کرنے کی بابت کہا گیا ہے؟

(A) سورۃ الواقعہ (B) سورۃ الناس
(C) سورۃ المائدہ (D) سورۃ الملک

59. world as i see it کا مصنف کون ہے؟

(A) روسو (B) آئن سٹائن
(C) آدم سمتھ (D) نیوٹن

60. علم حیاتیات کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں؟

(A) دو (B) پانچ
(C) سات (D) دس

61. تاریخ دعوت وعزیمت کے مصنف کا نام کیا ہے؟

(A) سید حسان ندوی (B) سید ابوالحسن ندوی
(C) سید احسن ندوی (D) سید سلیمان ندوی

62. حضرت نوحؑ کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟

(A) 45 مرتبہ (B) 45 مرتبہ
(C) 43 مرتبہ (D) 30 مرتبہ

63. حضرت ابوبکرؓ کی والدہ کا نام کیا تھا؟

(A) ام سلمیٰ (B) ساریہ
(C) حمنہ (D) فاطمہ

64. ابوالانبیاء کس کو کہا جاتا ہے؟

(A) حضرت آدمؑ
(B) حضرت موسیٰؑ
(C) حضرت ادریسؑ
(D) حضرت ابراہیمؑ

65. حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا دور خلافت کب سے کب تک تھا؟

(A) 103ھ تا 105ھ (B) 99ھ تا 101ھ
(C) 95ھ تا 97ھ (D) 90ھ تا 92ھ

66. حجۃ اللہ البالغہ کے مؤلف کون ہیں؟

(A) فخر الدین رازی (B) ابن تیمیہ
(C) شاہ ولی اللہ (D) امام غزالی

67. نورسی تحریک کے بانی کون تھے؟

(A) بدیع الزمان (B) احمد پاشا
(C) حسن البناء (D) محمد احمد

68. الجہاد فی الاسلام کی تصنیف کے وقت سید مودودیؒ کی عمر کتنی تھی؟

(A) 25 سال (B) 24 سال
(C) 20 سال (D) 17 سال

69. اخوان المسلمون کا تعلق کس ملک سے ہے؟

(A) ایران (B) ترکی
(C) مصر (D) سوڈان

70. ترتیب توفیقی کے اعتبار سے سورۃ الصف کا کون سا نمبر ہے؟

(A) 69 (B) 61
(C) 65 (D) 66

71. بنیادی طور پر ربا کی کتنی اقسام ہیں؟

(A) 8 (B) 6
(C) 4 (D) 2

72. ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ کس سورہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے؟
(A) سورہ ھود (B) سورہ نور
(C) سورہ فاطر (D) سورہ مومنون

73. لفظ مساقاۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟
(A) معاشیات (B) مساکین
(C) اوقات (D) آبپاشی

74. برصغیر کے اس معروف عالم دین کا نام بتایئے جو ماہر معیشت بھی تھے؟
(A) شاہ رفیع الدین
(B) مجدد الف ثانی
(C) شاہ ولی اللہ
(D) مولانا قاسم نانوتوی

75. سورہ توبہ کی کس آیت میں مصارف زکوۃ بیان کیے گئے ہیں؟
75 (A) 60 (B)
30 (C) 22 (D)

76. فسطائیت کا آغاز کس ملک سے ہوا؟
(A) امریکہ (B) انگلینڈ
(C) اٹلی (D) روس

77. بنیادی طور پر نظام اشتراکیت کا نظریہ کس نے پیش کیا؟
(A) ارسطو (B) افلاطون
(C) انجلز (D) کارل مارکس

78. قاضی ابو یوسف کی علم معیشت پر شہرہ آفاق کتاب کا نام کیا ہے؟
(A) مسائل (B) کتاب الجوارع
(C) کتاب الآثار (D) کتاب الخراج

79. کس خلیفہ نے اپنا روزینہ بیت المال میں واپس جمع کروا دیا تھا؟
(A) حضرت عمرؓ
(B) حضرت علیؓ
(C) حضرت عثمانؓ
(D) حضرت ابوبکر صدیقؓ

80. کتنے سونے پر زکوۃ فرض ہے؟
(A) آٹھ تولے (B) ساڑھے سات تولے
(C) سات تولے (D) پانچ تولے

81. کون سا مذہب انسان کو پیدائشی طور پر گناہگار ٹھہراتا ہے؟
(A) بدھ مت (B) عیسائیت
(C) ہندومت (D) یہودیت

82. یہ کس نے کہا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے؟
(A) آئن سٹائن (B) علامہ اقبال
(C) نطشے (D) گبن

83. جامعۃ الازہر کہاں واقع ہے؟
(A) فلسطین (B) شام
(C) اردن (D) مصر

84. انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟
(A) خوارج (B) معطل
(C) ملحد (D) موحد

85. تہافۃ الفلاسفہ کے مصنف کون ہیں؟
(A) الماوردی (B) ابن خلدون
(C) ابن رشد (D) امام غزالی

86. کس مغربی مفکر نے ہر انسانی عمل کا محرک جنسی جذبے کو قرار دیا؟
(A) فرائیڈ (B) لاک
(C) ہابز (D) روسو

87. کتاب اسلام میں حلال و حرام کے مصنف کون ہیں؟
(A) امام غزالی (B) یوسف القرضاوی
(C) غلام جیلانی برق (D) نجات اللہ صدیقی

88. تیسری صلیبی جنگ میں عیسائی فوجیوں کی سربراہی کون کر رہا تھا؟
(A) سٹیفن (B) آرنلڈ
(C) چرچل (D) رچرڈ

89. اہل کتاب کے ذبیحے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟
(A) حلال (B) اضطرار
(C) حرام (D) ان میں سے کوئی نہیں

2015

90. ہٹلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟

(A) اٹلی (B) جرمنی

(C) فرانس (D) جاپان

91. خلا کن حروف میں شامل ہے؟

(A) حروف کاملہ (B) حروف ناقصہ

(C) حروف مشبہ بالفعل (D) حروف جار

92. لفظ مشاعرہ کس باب سے ہے؟

(A) مفاعلہ (B) تفعیل

(C) افعال (D) ان میں سے کوئی نہیں

93. لفظ امت کی جمع کیا ہے؟

(A) امتیں (B) امام

(C) امم (D) آئمہ

94. ایک صحابی نے کون سورت سبع معلقات کے ساتھ آویزاں کی تھی؟

(A) سورۃ الفتح (B) سورۃ الماعون

(C) سورۃ الکوثر (D) سورۃ الاخلاص

95. کس سورہ کو سن کر حضرت ابوبکرؓ رو پڑے اور فرمایا اس میں رسول اللہ ﷺ کے وصال کی خبر ہے؟

(A) سورۃ الفجر (B) سورۃ النصر

(C) سورۃ محمد (D) سورۃ الناس

96. نواصب مضارع کتنے ہیں؟

(A) 8 (B) 6

(C) 4 (D) 2

98. عرب خطرے کا اعلان کیسے کرتے تھے؟

(A) آگ لگا کر (B) تالیاں پیٹ کر

(C) یاصباحاہ (D) ان میں سے کوئی نہیں

99. موسیٰ کا لفظی مطلب کیا ہے؟

(A) پانی سے نکلا ہوا (B) پاک

(C) کلام کرنے والا (D) معزز

100. نجران کے عیسائیوں کو حجاز سے کس نے نکالا تھا؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عثمانؓ

(C) حضرت عمر فاروقؓ (D) حضرت علیؓ

جوابات

1. (B)	2. (B)	3. (D)	4. (C)	5. (D)	6. (B)	7. (A)	8. (B)
9. (C)	10. (A)	11. (C)	12. (B)	13. (A)	14. (B)	15. (B)	16. (B)
17. (A)	18. (A)	19. (C)	20. (D)	21. (B)	22. (C)	23. (B)	24. (B)
25. (A)	26. (C)	27. (D)	28. (C)	29. (B)	30. (B)	31. (A)	32. (B)
33. (C)	34. (C)	35. (D)	36. (A)	37. (B)	38. (B)	39. (B)	40. (D)
41. (B)	42. (D)	43. (C)	44. (C)	45. (C)	46. (A)	47. (D)	48. (C)
49. (D)	50. (D)	51. (C)	52. (D)	53. (C)	54. ()	55. (D)	56. (C)
57. (C)	58. (D)	59. (A)	60. (A)	61. (B)	62. (C)	63. (A)	64. (D)
65. (B)	66. (C)	67. (A)	68. (B)	69. (C)	70. (B)	71. (D)	72. (B)
73. (D)	74. (C)	75. (B)	76. (C)	77. (B)	78. (D)	79. (D)	80. (B)
81. (B)	82. (C)	83. (D)	84. (B)	85. (D)	86. (A)	87. (B)	88. (D)
89. (A)	90. (B)	91. (D)	92. (A)	93. (C)	94. (C)	95. (B)	96. (C)
97. ()	98. (C)	99. (A)	100. (C)				

LECTURER ISLAMIAT BS-17(MALE/FEMALE)

IN THE HIGHER EDUCATION DEPARTMENT.2017

1۔ مومن عورتیں کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں؟

(A) سسر (B) خالو (C) بہنوئی (D) کوئی بھی نہیں ☆

2۔ واقعہ افک کس سورۃ میں بیان ہوا ہے۔

(A) سورۃ النسا (B) سورۃ النور ☆ (C) سورۃ الحجرات (D) سورۃ المومنون

3۔ تفسیر بالماثور کی اولین مستند اور جامع کتاب کون سی ہے؟

(A) تفسیر ابن جریر طبری ☆ (B) تفسیر ابن کثیر (C) تفسیر الکشاف (D) الدر المنثور فی تفسیر بالماثور

4۔ قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے۔

(A) والدین (B) زوجین ☆ (C) اولاد (D) کوئی بھی نہیں

5۔ نمرود نے کس پیغمبر سے محاربہ کیا؟

(A) حضرت یعقوبؑ (B) حضرت شعیبؑ (C) حضرت ابراہیمؑ ☆ (D) حضرت اسماعیلؑ

6۔ قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا گیا ہے۔

(A) محاربہ (B) زنا (C) طلاق (D) فتنہ و فساد ☆

7۔ حد قذف اور حد زنا کس سورۃ میں بیان ہوئی ہیں؟

(A) سورۃ العمران (B) سورۃ یٰسین (C) سورۃ النور ☆ (D) سورۃ التوبہ

8۔ ام الکتاب کس سورۃ کو کہا جاتا ہے؟

(A) سورۃ الفاتحہ ☆ (B) سورۃ یٰسین (C) سورۃ اخلاص (D) سورۃ الملک

9۔ قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟

(A) حضرت آدمؑ (B) حضرت شعیبؑ (C) حضرت ابراہیمؑ ☆ (D) حضرت نوحؑ

10۔ حضرت خدیجہؓ کے علاوہ کس زوجہ سے آپ ﷺ کی نرینہ اولاد ہوئی۔

(A) حضرت میمونہ (B) حضرت سودہ (C) حضرت ماریہ قبطیہ ☆ (D) حضرت صفیہ

11۔ نماز اور روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟

(A) 1 اور 2 ہجری میں (B) 2 ہجری میں ☆ (C) 2،3 ہجری میں (D) 3 ہجری میں

12۔ مشعر الحرام سے کیا مراد ہے؟

(A) منیٰ (B) عرفات (C) مزدلفہ ☆ (D) جمرات

13۔ باب مفاعلہ کا تعلق کس باب سے ہے۔

(A) ثلاثی مجرد (B) ثلاثی مزید فیہ ☆ (C) رباعی مجرد (D) رباعی مزید فیہ

14۔ عہد نبوی میں کن دو صحابہ کے ساتھ لعان کا مسئلہ درپیش ہوا۔

(A) عویمر عجلانی اور حمنہ بنت جحش (B) عویمر عجلانی اور حسان بن ثابت

(C) ہلال بن امیہ اور عویمر عجلانی ☆ (D) ہلال بن امیہ اور حسان بن ثابت

15۔ لفظ قل سے کتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں۔

(A) چار (B) پانچ ☆ (C) چھ (D) سات

16۔ آیت مبارکہ "ان شانئک ھو الابتر" کس کے بارے میں نازل ہوئی۔

(A) ابولہب (B) عاص بن وائل سہمی (C) عقبہ بن ابی معیط ☆ (D) ابوجہل

17۔ جنگ یمامہ کس کے ساتھ لڑی گئی۔

(A) سجاح (B) اسود عنسی (C) مسیلمہ کذاب ☆ (D) خوارج

18۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو جمع و تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا۔

(A) سیدنا عمر فاروقؓ ☆ (B) سیدنا عثمان غنیؓ (C) سیدنا علیؓ (D) سیدنا زید بن ثابت

19۔ سیدنا زید بن حارثہ کا نام کس سورۃ میں آیا ہے؟

(A) سورۃ النساء (B) سورۃ المائدہ (C) سورۃ الحجرات (D) سورۃ الاحزاب ☆

20۔ کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟

(A) لات (B) منات (C) عزیٰ (D) ہبل ☆

21۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے پہلا کون سا قلعہ فتح ہوا۔

(A) قلعہ ناعم (B) قلعہ النطاۃ (C) قلعہ الصعب (D) قلعہ قموص ☆

22۔ جنگ احد میں کس کی شہادت کے بعد سیدنا علیؓ نے مسلمانوں کا جھنڈا (علم) اٹھایا۔
(A) سیدنا مصعب بن عمیرؓ ☆ (B) سیدنا حمزہؓ (C) سیدنا طلحہؓ (D) سیدنا حارثہ بن زیدؓ

23۔ فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی؟
(A) امام زید بن علی ☆ (B) امام مالک (C) امام اوزاعی (D) امام ابو یوسف

24۔ سیدنا علیؓ کا تعلق سیدنا عمر فاروق سے کیا رشتہ تھا؟
(A) چچازاد (B) بیٹا (C) بھانجا (D) دوست ☆

25۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرونانک کہاں پیدا ہوئے؟
(A) کرتارپور (B) برصغیر پاک و ہند (C) ننکانہ صاحب (تلونڈی) ☆ (D) دہلی

26۔ قرآن میں کس جرم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا؟
(A) انکار (B) ربا ☆ (C) قتل (D) زنا

27۔ مقدار مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کونسا مہر ملے گا؟
(A) مہر مستعجل (B) مہر مسمیٰ (C) مہر مثل ☆ (D) مہر موجل

28۔ الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے؟
(A) فقہ (B) تفسیر (C) علم الکلام (D) سیرت ☆

29۔ حد قذف کب نازل ہوئی؟
(A) 3 ہجری (B) 4 ہجری (C) 5 ہجری ☆ (D) 6 ہجری

30۔ قرآن کی چوتھی منزل کس سورۃ سے شروع ہوتی ہے؟
(A) النحل (B) بنی اسرائیل ☆ (C) الکہف (D) مریم

31۔ امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟
(A) تفسیر القرآن (B) مفاتیح الغیب ☆ (C) احکام القرآن (D) عالم التنزیل

32۔ رہبانیت کی ابتداء کس نے کی؟
(A) یہود (B) مجوسی (C) صابی (D) عیسائی ☆

33۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟
(A) 5 آیات ☆ (B) 10 آیات (C) 20 آیات (D) 50 آیات

34۔ حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک کتنی تھی؟

(A) 15برس ☆ (B) 16برس (C) 18برس (D) 20برس

35۔ ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس سورۃ میں آئی ہے؟

(A) مریم (B) البقرۃ (C) آل عمران (D) الاحزاب ☆

36۔ برصغیر میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کس نے کیا؟

(A) شاہ ولی اللہ ☆ (B) شاہ عبدالقادر (C) شاہ رفیع الدین (D) اکبر شاہ

37۔ کس غزوہ میں پہلی باقاعدہ لڑائی ہوئی؟

(A) احد (B) تبوک (C) ابوا (D) بدر ☆

38۔ وحی غیر متلو سے کیا مراد ہے؟

(A) حدیث قولی (B) حدیث فعلی (C) حدیث تقریری (D) حدیث قدسی ☆

39۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟

(A) قرآن و سنت (B) بخاری و مسلم ☆ (C) مسلم و نسائی (D) بخاری و ابوداود

40۔ کس سورۃ میں بسم اللہ دوبار آئی ہے؟

(A) البقرہ (B) نمل ☆ (C) نحل (D) العنکبوت

41۔ زرتشت کا تعلق تھا۔

(A) شام (B) ایران ☆ (C) اردن (D) مصر

42۔ جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟

(A) موسیٰ (B) عیسیٰ (C) داؤد ☆ (D) حضرت یوسف

43۔ واقعہ افک کس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے؟

(A) الحدید (B) بنی اسرائیل (C) النور ☆ (D) النسا

44۔ خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟

(A) مسجد نمرہ ☆ (B) مسجد قرطبہ (C) مسجد قبا (D) مسجد الحرام

45۔ قرآن پاک کی کس سورۃ میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟

(A) حٰم السجدہ (B) الکہف ☆ (C) المجادلہ (D) طٰہٰ

46۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟

(A) عمان (B) یروشلم (C) مدین ☆ (D) عراق

47۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟

(A) حضرت صالح (B) حضرت یحییٰ (C) حضرت شعیب ☆ (D) حضرت ابراہیم

48۔ غزوہ بدر میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟

(A) عتبہ (B) شیبہ (C) ابوجہل ☆ (D) ربیعہ

49۔ مسلم ملک بوسنیا کس براعظم میں واقع ہے؟

(A) افریقہ (B) یورپ ☆ (C) ایشیا (D) امریکہ

50۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی پیغمبر ذکر آیا ہے؟

(A) عیسیٰ (B) موسیٰ ☆ (C) ابراہیم (D) نوح

51۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟

(A) اجتلام (B) تیمم (C) شوط (D) استلام ☆

52۔ حج کے لغوی معنی ہیں؟

(A) زیارت کا ارادہ کرنا ☆ (B) حج کے لیے جانا (C) پتھر کا چومنا (D) کوئی بھی نہیں

53۔ حضرت عائشہؓ سے مروی حدیث کتنی ہیں؟

(A)1000 (B)2210 ☆ (C)2300 (D)2215

54۔ ابوہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟

(A) عبداللہ (B) علی بن زید (C) عبدالرحمان بن صخر ☆ (D) طلال بن زید

55۔ قریش کے سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟

(A) لات (B) منات (C) ہبل ☆ (D) یعوق

56۔ دی سپرٹ آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟

(A) پیر کرم شاہ (B) ایس۔ ایم اکرم (C) سید امیر علی ☆ (D) علامہ مشرقی

57۔ واقعہ کربلا کب پیش آیا؟

(A)51ھ (B)61ھ ☆ (C)71ھ (D)81ھ

58۔ جنگ جمل کب ہوئی؟

(A) 34ھ (B) 35ھ (C) 36ھ ☆ (D) 37ھ

59۔ کتمان سے کیا مراد ہے؟

(A) ناپاک (B) چھپانا ☆ (C) ظاہر کرنا (D) کہنا

60۔ فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی۔

(A) امام زید بن علی ☆ (B) امام مالک (C) امام ابو یوسف (D) امام اوزاعی

61۔ معوذتین کیا ہے؟

(A) دو کتابیں (B) دو سورتیں ☆ (C) دو علاقے (D) دو کپڑے

62۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟

(A) سعد بن عبید (B) حضرت حمزہ (C) سعد بن ابی وقاص ☆ (D) کوئی نہیں

63۔ سیدنا حضرت حسین بن علیؓ نے اپنی صاحبزادی سکینہ بنت حسین کا نکاح کس خلیفہ کے پوتے سے کیا؟

(A) حضرت ابوبکر صدیقؓ (B) حضرت عمر فاروقؓ (C) حضرت عثمان غنیؓ ☆ (D) حضرت حسنؓ

64۔ اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی ہالہ کس کے بیٹے تھے؟

(A) حضرت خدیجہؓ ☆ (B) حضرت ام سلمہؓ (C) حضرت عطیہؓ (D) حضرت سعید

65۔ جمعہ کے دن جمع ہونے کا طریقہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟

(A) کعب بن لوی ☆ (B) کعب بن مالک (C) غالب بن فہر (D) نضر بن کنانہ

66۔ حضور ﷺ کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ کون تھی۔

(A) سلمیٰ بنت عمرو ☆ (B) ہالہ بن وہب (C) فاطمہ بنت قیس (D) کوئی نہیں

67۔ حضرت عمرؓ کی قائم کردہ مجلس شوریٰ کا اجلاس کس کے گھر پر ہوا۔

(A) ابوبکر (B) عثمان بن عفان (C) فاطمہ بنت قیس ☆ (D) زید بن ارقم

68۔ جنگ قادسیہ کا تیسرا معرکہ کس نام سے مشہور ہے۔

(A) معرکہ یوم الارمات (B) معرکہ یوم الاغواث (C) معرکہ یوم العماس ☆ (D) معرکہ یوم القیس

69۔ سکندریہ کس خلیفہ کے عہد میں فتح ہوا؟

(A) حضرت عمر فاروقؓ (B) عثمان غنیؓ (C) حضرت علیؓ (D) حضرت امیر معاویہؓ ☆

70۔ عہد فاروقی میں ہجری کیلنڈر کب مرتب کیا گیا۔

(A)16 ہجری☆ (B)18 ہجری (C)20 ہجری (D)14 ہجری

71۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

(A)صفوان بن امیہ (B)عبداللہ بن ربیعہ (C)شداد بن اوس☆ (D)عکرمہ بن ابی جہل

72۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ کس جنگ میں شہید ہوئے۔

(A)غزوہ حنین (B)سریہ موتہ☆ (C)غزوہ تبوک (D)غزوہ طائف

73۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کس کو اپنا جانشین نامزد کیا۔

(A)سلیمان بن عبدالملک (B)ہشام بن عبدالملک (C)ولید بن عبدالمالک (D)یزید بن عبدالملک☆

74۔ اسپین کس خلیفہ کے عہد میں فتح ہوا؟

(A)سلیمان بن عبدالملک (B)ہشام بن عبدالملک (C)ولید بن عبدالمالک☆ (D)عبدالمالک بن مروان

75۔ کس بادشاہ نے حضور ﷺ کا مکتوب گرامی پھاڑ دیا تھا؟

(A)قیصر روم ہرقل (B)شہنشاہ فارس خسرو پرویز☆ (C)مقوقس (D)منذر بن ساوی

76۔ ولید بن عتبہ غزوہ بدر میں کس کے ہاتھوں قتل ہوا۔

(A)حضرت علیؓ☆ (B)حضرت حمزہؓ (C)حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ (D)حضرت عبداللہ بن رواحہؓ

77۔ کتاب کا نام "الاتقان" کے مؤلف کون ہیں۔

(A)علامہ ذہبی (B)علامہ سیوطی☆ (C)ابن حجر عسقلانی (D)کوئی بھی نہیں

78. When was first ever email sent ?

(A) 1963 (B) 1969 (C) 1971☆ (D) 1974

79. In Ms-world 2013, Quick Access toolbar allows you to access common _

(A) Command☆ (B) Graphics (C) Documents (D) Files

80. There are 8 mango trees in a straight line. Distance between each tree is 3 meters. What is the distance between the first tree and eight tree?

(A) 24 (B) 27 (C) 30 (D) 21☆

81. Complete the series 13, 19, 25, ______

(A) 37☆ (B) 39 (C) 33 (D) 35

82. Complete the proverb. Early to bed & early to rise make you healthy , wealthy and

(A) Smart (B) Unwise (C) wise☆ (D) Devine

83. What is the antonym of "incongruous"?

(A) Contracting (B) Contradictory

(C) uneven (D) Harmonous☆

84. What is meant by Archipelago?

(A) Cluster of Islands☆ (B) Power of Under Sea

(C) cluster of states (D) cluster of stars

85. Who was Nicholas Sarcozy?

(A) Former French President ☆ (B) President of Italy

(C) Former Canadian President (D) None of all these

86. The famous Baltit Fort is located near

(A) Shigar (B) Skardu☆ (C) Jehlum (D) Chenab

87. Under Indus water treaty of 1960, which of the following river was not allocated for use in Pakistan?

(A) Indus (B) Sutlej☆ (C) Jehlum (D) Chenab

88. When was Iskhander Mirza appointed as Governor of East Pakistan?

(A) 1952 (B) 1953 (C) 1954☆ (D) 1955

89. After the membership of Egypt was suspended by the Arab league in 1979, the Arab league Headquarters shifted to:

(A) Saudi Arabia (B) Algeria (C) Tunisia☆ (D) Morocco

90. Joseph Broz Tito was one of the following member of non-aligned movement. He was

the president of:

(A) Serbia (B) Russia (C) Yuguslovia☆ (D) Czechoslovakia

91. Who is the current chairman of special comitee of the parliament of Kashmir?

(A) Mushahid Hussain Sayed (B) Mulana Fazl-ur-Rahman☆

(C) Syed Khursheed Shah (D) M. Birjers Tahir

92۔ شیخ وشباب کی ترکیب کا مفہوم ہے؟

ضعیف اور قوی (B) آقا اور غلام (C) پارسا اور رند (D) بوڑھے اور جوان☆

93۔ خاکوں پر مبنی معروف کتاب "شیش محل" کا مصنف کون ہے؟

(A) رشید احمد صدیقی (B) شوکت تھانوی☆ (C) الطاف حسین حالی (D) حفیظ جالندھری

94۔ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں۔

(A) 110 (B) 115 (C) 114☆ (D) 113

95۔ پہلی وحی کب نازل ہوئی؟

(A) 11 رمضان (B) 14 رمضان (C) 27 رمضان☆ (D) 21 رمضان

96۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟

(A) اللہ نے☆ (B) حضور ﷺ نے (C) صحابہؓ نے (D) ریاست نے

LECTURER ISLAMIAT BS-17(MALE/FEMALE)

IN THE HIGHER EDUCATION DEPARTMENT,2021

1۔ قرآن کی کس سورۃ میں کافروں سے برأت کا اعلان کیا گیا؟

(A) النسا (B) بنی اسرائیل (C) التوبہ ☆ (D) الکافرون

2۔ امام شافعی نے قرآن پاک کی کس سورۃ کو انسانی ہدایت کے لیے کافی قرار دیا ہے؟

(A) البقرہ (B) الحجرات (C) النور (D) العصر ☆

3۔ قرآن کریم کی کس سورۃ کے درمیان بسم اللہ آئی ہے؟

(A) التحریم (B) النمل ☆ (C) الفرقان (D) النحل

4۔ کون سی سورۃ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی؟

(A) الانفال (B) التوبہ ☆ (C) الشرح (D) التغابن

5۔ مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق احکام کس سورۃ میں ہیں؟

(A) التغابن (B) الزمر (C) الانفال ☆ (D) الصف

6۔ "الاتقان فی علوم القرآن" کے مصنف کا نام کیا ہے؟

(A) ابن حجر عسقلانی (B) امام احمد بن حنبل (C) جلال الدین سیوطی ☆ (D) امین احمد اصلاحی

7۔ "الحاد مغرب اور ہم" کے مصنف کا کیا نام ہے؟

(A) ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک (B) ڈاکٹر خالد علوی (C) غلام جیلانی برق ☆ (D) ڈاکٹر محمد حمید اللہ

8۔ "تنقیحات" کے مصنف کا نام کیا ہے؟

(A) سید ابوالاعلیٰ مودودی ☆ (B) امین احسن اصلاحی (C) ابوالحسن ندوی (D) منظور نعمانی

9۔ "اسلامی ریاست" کے مصنف کا نام کیا ہے؟

(A) گوہر الرحمان (B) امام ابن تیمیہ (C) مناظر احسن گیلانی (D) سید ابوالاعلیٰ مودودی ☆

10۔ "تفسیر فی ظلال القرآن" کے مصنف کا نام کیا ہے؟

(A) محمد علی صابونی (B) سید قطب شہید ☆ (C) سرسید احمد خان (D) مفتی محمد شفیع

11۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟

(A) عتبہ (B) شیبہ (C) ابوجہل ☆ (D) ولید

12۔ کس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے "شاہت الوجوہ" کہہ کر مٹھی بھر مٹی لشکر کفار کی طرف پھینکی؟
(A) الاحزاب (B) حنین (C) بدر ☆ (D) احد

13۔ سفر ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جانے کی خوشخبری سنائی؟
(A) سراقہ بن جعشم ☆ (B) عمر بن مالک (C) حضرت ابوبکر صدیق (D) حضرت عمر

14۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آخری غزوہ کون سا تھا؟
(A) غزوہ حنین (B) غزوہ تبوک ☆ (C) غزوہ خیبر (D) غزوہ فتح مکہ

15۔ کس یہودی قبیلے نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے بدعہدی کی؟
(A) بنو قریظہ ☆ (B) بنو قینقاع (C) بنو نضیر (D) بنو ہوازن

16۔ بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد کتنی تھی؟
(A) 15 (B) 10 (C) 12 ☆ (D) 14

17۔ جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟
(A) حضرت موسیٰ (B) حضرت سلیمان (C) حضرت داؤد ☆ (D) حضرت یوسف

18۔ قرآن پاک پر اعراب کس نے لگوائے؟
(A) حجاج بن یوسف ☆ (B) حضرت عثمان غنی (C) حضرت علی (D) حضرت عمر بن عبد العزیز

19۔ واقعہ افک کس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے؟
(A) الحدید (B) بنی اسرائیل (C) النور ☆ (D) النسا

20۔ جنگ موتہ میں اسلامی لشکر کا پہلا سپہ سالار کن کو بنایا گیا؟
(A) حضرت خالد بن ولید (B) حضرت زید بن حارث ☆ (C) حضرت جعفر طیار (D) حضرت سعد بن ابی وقاص

21۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟
(A) زید بن حارث (B) ابو موسیٰ الاشعری (C) اسامہ بن زید ☆ (D) خالد بن ولید

22۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں؟
(A) حضرت عائشہ (B) حضرت سودہ ☆ (C) حضرت زینب (D) حضرت صفیہ

23۔ ام المومنین حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زندہ رہیں؟
(A) 45 برس ☆ (B) 50 برس (C) 65 برس (D) 20 برس

24۔ محمد بن قاسم مشہور مسلمان سپہ سالار کا تعلق کس عرب قبیلے سے تھا؟

(A) بنو ہوازن (B) بنو ثقیف☆ (C) بنو سعد (D) بنو ہاشم

25۔ کس مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے؟

(A) مسجد الحرام (B) مسجد نبوی (C) مسجد قبا☆ (D) مسجد قبلتین

26۔ خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟

(A) مسجد نمرہ☆ (B) مسجد الحرام (C) مسجد قرطبہ (D) مسجد قبا

27۔ حج کے دن کس میدان میں حاضری ضروری ہے؟

(A) میدان عرفات☆ (B) میدان منیٰ (C) میدان مزدلفہ (D) میدان بدر

28۔ کس نبی کی امت سے مسلط شدہ عذاب ان کی توبہ کی وجہ سے ٹل گیا؟

(A) قوم موسیٰ (B) قوم لوطؑ (C) قوم یونسؑ☆ (D) قوم ثمودؑ

29۔ قرآن پاک کی کس سورۃ میں قصہ ذوالقرنین بیان کیا گیا ہے؟

(A) حم السجدہ (B) الکہف☆ (C) المجادلہ (D) طٰہٰ

30۔ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟

(A) عمرو بن احمد (B) عمرو بن ہشام☆ (C) حارث بن ہشام (D) ہاشم بن عمرو

31۔ حضرت شعیبؑ کا وطن کون سا تھا؟

(A) کنعان (B) یروشلم (C) مدین☆ (D) عراق

32۔ حضرت موسیٰؑ کی دینی تربیت کس نے کی؟

(A) حضرت صالحؑ (B) حضرت یحییٰؑ (C) حضرت شعیبؑ☆ (D) حضرت ابراہیمؑ

33۔ قرآن نے کس کے گھروندے کو سب سے کمزور کہا ہے؟

(A) العنکبوت☆ (B) النحل (C) النمل (D) الذباب

34۔ حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کو ہجرت کرتے وقت نیزے سے کس نے زخمی کیا؟

(A) ابو سفیان (B) وحشی (C) ابو جندل (D) ہبار بن الاسود☆

35۔ اسلام کی خاطر پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام کیا ہے؟

(A) حضرت زینبؓ (B) حضرت سمیہؓ☆ (C) حضرت ام کلثومؓ (D) حضرت صفیہؓ

36۔ جنگ صفین کن دو گروہوں کے درمیان ہوئی؟

(A) حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہ☆ (B) حضرت علیؓ اور خوارج

(C) حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت حسنؓ (D) حضرت علیؓ اور حضرت عائشہ

37۔ حجۃ اللہ البالغہ کے مصنف کون ہیں؟

(A) شاہ ولی اللہ (B) مجدد الف ثانیؒ (C) حسین احمد مدنیؒ (D) شاہ اسمٰعیل شہیدؒ

38۔ کس صحابی رسول ﷺ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟

(A) حضرت زید☆ (B) حضرت ابوبکر صدیقؓ (C) حضرت علیؓ (D) حضرت حمزہؓ

39۔ غزوہ بدر میں کتنے فرشتوں سے مسلمانوں کی نصرت کی گئی؟

(A) ایک ہزار☆ (B) پانچ سو (C) دو ہزار (D) پانچ ہزار

40۔ غزوہ بدر میں شیطان کس کے روپ میں ظاہر ہو کر مشرکین کے حوصلے بڑھاتا رہا؟

(A) سراقہ بن مالک☆ (B) سراقہ بن جعشم (C) ابوجہل (D) امیہ بن خلف

41۔ گاتھا کس مذہب کی کتاب ہے؟

(A) یہودیت (B) زرتشت☆ (C) مجوسیت (D) مسیحت

42۔ عقیدہ نروان کس کا عقیدہ ہے؟

(A) حضرت موسیٰؑ (B) حضرت یحییٰؑ (C) گوتم بدھ☆ (D) رام

43۔ انجیل کی روایت کے مطابق حضرت مریم کے منگیتر کا نام تھا؟

(A) یوحنا (B) یوسفؑ (C) مرقس (D) یوسف نجار☆

44۔ حضرت عیسیٰؑ کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا گیا تھا اس کا نام تھا۔

(A) ٹائٹس (B) پیلاطس☆ (C) فریڈرک (D) ٹامسن

45۔ 325ء میں نیقیاوی کونسل میں جس انجیل پر پابندی لگی اس کا نام تھا۔

(A) متی (B) توما (C) برناباس☆ (D) لوقا

46۔ یہودی عبادت گاہ کو نام دیا جاتا ہے۔

(A) مندر (B) پگوڈا (C) سینا گاگ☆ (D) میاہ

47۔ بدھ مت میں مدفن کے لئے لفظ بولا جاتا ہے۔

(A) قبر (B) مڑھی (C) اسٹوپا☆ (D) یادگار

48۔ پروٹسٹنٹ فرقہ کے بانی کا نام تھا۔

(A) ہیگل (B) مالتھس (C) مارٹن لوتھر☆ (D) ٹالسٹائی

49۔ زرتشت کا تعلق تھا۔

(A) شام (B) اردن (C) ایران☆ (D) مصر

50۔ پولوس نے نئے مذہبی عقائد کی بنیاد رکھی تھی؟

(A) مجوسیت میں (B) کنفیوشش ازم میں (C) مسیحت میں☆ (D) بدھ مت میں

51۔ "جہاد و قتال" کے الفاظ کا تعلق کس باب سے ہے؟

(A) افعال (B) تفعیل (C) مفاعلہ☆ (D) انفعال

52۔ حجۃ اللہ البالغہ کا موضوع کیا ہے؟

(A) تفسیر (B) تاریخ (C) فلسفہ اخلاق و علم والکلام☆ (D) فقہ

53۔ حدیث نبوی ﷺ میں کس عمل کو چوٹی کا عمل کہا گیا ہے؟

(A) نماز (B) روزہ (C) جہاد☆ (D) حج

54۔ کون سا فرقہ عقیدہ خلق القرآن کا قائل تھا؟

(A) خوارج (B) مجسمیہ (C) معتزلہ☆ (D) مرجئہ

55۔ قرآن مجید میں کس گروہ کو "مباہلہ" کی دعوت دی گئی تھی؟

(A) یہود (B) نصاریٰ☆ (C) مجوس (D) مشرکین مکہ

56۔ غزوہ تبوک میں مجاہدین نبی کریم ﷺ کی قیادت میں کس کے خلاف نکلے؟

(A) روم☆ (B) شام (C) حبشہ (D) ایران

57۔ بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینے کو قرآنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟

(A) ایلا (B) ظہار☆ (C) لعان (D) خلع

58۔ "ما سبق الکلام لاجلہ" نص کی کس قسم کی تعریف ہے؟

(A) عبارۃ النص☆ (B) اشارۃ النص (C) اقتضاء النص (D) دلالۃ النص

59۔ ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس سورۃ مبارکہ میں ہے؟

(A)البقرہ (B) آل عمران (C)الاحزاب ☆ (D)النحل

60۔پاکستان کی جامعات میں سب سے قدیم ترین جامع کون سی ہے؟

(A)جامعہ پشاور (B) جامعہ سندھ (C) جامع پنجاب ☆ (D)جامع کراچی

61۔پاکستان کے کس آئین میں قادنیوں کو کافر قرار دیا گیا؟

1956(A) 1971 (B) ☆1974(C) 1980(D)

62۔ قرآن مجید میں کس جرم کو اللہ اور رسول ﷺ کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا؟

(A)احتکار (B) ربا ☆ (C) میسر (D)زنا

63۔فاتح مصر کون تھے؟

(A)زید بن حارثہؓ (B) ابو موسیٰ اشعریؓ (C) عمرو بن العاص ☆ (D) عبد اللہ ابن عباس

64۔مشکوۃ المصابیح کس فن کی کتاب ہے؟

(A)اصول فقہ (B) متن احدیث ☆ (C) اصول حدیث (D) سیرت النبی ﷺ

65۔ مسلم ملک بوسینا کس براعظم میں واقع ہے؟

(A)افریقہ (B) ایشیا (C)یورپ ☆ (D)امریکہ

66۔سفر معراج میں رسول اکرم ﷺ ساتویں آسمان پر کس پیغمبر سے ملے؟

(A)سیدنا موسیٰؑ (B) سیدنا آدمؑ (C) سیدنا عیسیٰ (D)سیدنا ابراہیم ☆

67۔ قرآن مجید کس خلیفہ راشد کے دور میں جمع کیا گیا؟

(A) حضرت ابو بکرؓ ☆ (B) حضرت عمرؓ (C) حضرت عثمانؓ (D)حضرت علیؓ

68۔"السیاسۃ الشرعیۃ" کے مصنف کون ہیں؟

(A)ابن قیم (B) ابن تیمیہ ☆ (C)ابن قتیبہ (D)ابن رشد

69۔"الفقہ علی المذاہب الاربعۃ" کس کی تصنیف ہے؟

(A)احمد مصطفیٰ المراغی (B) عبد الرحمان الجزیری (C) وہبہ الزحیلی ☆ (D) یوسف القرضاوی

70۔شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟

(A) 5☆ (B) 10 (C) 15 (D) 20

71۔مقدار مہر مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟

(A) مہر معجل (B) مہر مسمیٰ (C) مہر مثل ☆ (D) مہر موجل

72۔ "الرحیق المختوم" کا موضوع کیا ہے؟

(A) لغت (B) تفسیر (C) علم الکلام (D) سیرت ☆

73۔ "صلاۃ الخوف" کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟

(A) پریشانی کی حالت (B) حالت جنگ ☆ (C) زلزلہ اور سیلاب کے وقت (D) سورج گرہن کے وقت

74۔ امام غزالی نے فلاسفہ کے رد و ابطال میں کون سی کتاب لکھی؟

(A) تہافۃ التہافۃ (B) المقاصد الفلاسفہ (C) تہافۃ الفلاسفہ ☆ (D) الرد علی المنطقیین

75۔ "حتیٰ تنکح زوجا غیرہ" قرآنی حکم کا اطلاق کس نوعیت پر ہوتا ہے؟

(A) مغلظہ (B) رجعی (C) بائنہ ☆ (D) خلع

76۔ مامون عباسی کے زمانے کس مسلم کی نگرانی میں یونانی فلسفہ کے تراجم کروائے گئے؟

(A) فارابی (B) ابن رشد (C) یعقوب الکندی ☆ (D) ابن طفیل

77۔ "حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وھم صٰغرون" آیت میں مذکور فعل یعطوا کا اعراب کیا ہے؟

(A) مجزوم (B) منصوب ☆ (C) مرفوع (D) مجرور

78۔ درج ذیل کتب میں اصول تفسیر کی کون سی کتاب ہے؟

(A) التفسیر والمفسرون (B) احکام القرآن (C) الفوز الکبیر ☆ (D) تفسیر بیضاوی

79۔ "غلو فی الدین" سے کیا مراد ہے؟

(A) نیک اعمال کی تعداد میں مبالغہ کرنا ☆ (B) بے عملی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھنا

(C) اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنا (D) دینی علم کے حصول میں مبالغہ

80۔ "سمّٰعون للکذب" سے کون لوگ مراد ہیں؟

(A) یہودی ☆ (B) عیسائی (C) منافقین (D) ہندو

81۔ امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟

(A) تفسیر القرآن (B) مفاتیح الغیب ☆ (C) احکام القرآن (D) معالم التنزیل

82۔ یمین (قسم) کی کون سی قسم پر کفارہ لازم ہے؟

(A) یمین غموس (B) یمین لغو (C) فضول قسم (D) یمین منعقدہ ☆

83۔ کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟

(A) ہرن کا شکار (B) سمندر کا شکار ☆ (C) خشکی کا شکار (D) جنگلی گائے کا شکار

84۔ رہبانیت کی ابتدا کس نے کی؟

(A) یہود (B) مجوسی (C) صابی (D) عیسائی ☆

85۔ کون سی تفسیر "تفسیر بالماثور" کا بہترین نمونہ ہے؟

(A) تفسیر القرآن العظیم ☆ (B) مفاتیح الغیب (C) تفسیر الکشاف (D) تفسیر الخازن

86۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا بنیادی نکتہ کیا ہے؟

(A) یونانی کے بجائے ایمانی فلسفہ ☆ (B) ارسطو کے افکار کی عادلانہ تشریح (C) افلاطون اور ارسطو کے افکار میں تطبیق (D) حقیقت پر مبنی ایک نئے فلسفے کی ابتدا

87۔ "الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم" کس مسلم فلسفی کا قول ہے؟

(A) علامہ اقبال (B) امام غزالی ☆ (C) شاہ ولی اللہ (D) ابن رشد

88۔ علامہ اقبال کے خطبات پر مبنی اصل کتاب کا نام کیا ہے؟

(A) خطبات اقبال (B) Lectures of Iqbal (C) تشکیل جدید کے اقبال کے خطبات

(D)Reconstruction of Religions thought in Islam☆

89۔ Knowledge is the highest good کس کا قول ہے؟

(A) سقراط ☆ (B) ارسطو (C) افلاطون (D) علامہ اقبال

90۔ سقراط کی تمام تر شہرت کی بنیاد اور اس کا ہونہار شاگرد دیتا۔

(A) زینو فون (B) افلاطون ☆ (C) ارسطو (D) پروٹاگوراس

91۔ "خلق افعال العباد" کس کا نظریہ ہے؟

(A) ماتریدیہ (B) معتزلہ ☆ (C) اشاعرہ (D) مرجئہ

92۔ قائداعظم کا مزار کس شہر میں واقع ہے؟

(A) کوئٹہ (B) پشاور (C) کراچی ☆ (D) لاہور

93۔ قرآن مجید سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا آیا ہے؟

(A) سیدنا ابراہیمؑ (B) سیدنا موسیٰؑ ☆ (C) سیدنا عیسیٰؑ (D) سیدنا نوحؑ

94۔ مندرجہ ذیل حروف میں سے جازم فعل مضارع کون سا حرف ہے؟

(A) ان (B) کی (C) لم ☆ (D) لن

95۔ "انهم فتية آمنوا بربهم" ایمان اور استقامت کے حوالے سے نوجوانوں کے گروہ کا یہ تذکرہ کس سورۃ میں ہوا ہے؟

(A) البقرہ (B) النور (C) الکہف ☆ (D) الاحزاب

96۔ انیسویں صدی کے آغاز تک خلافت اسلامیہ کا تعلق کس سے رہا؟

(A) مصر (B) ترکی ☆ (C) انڈونیشیا (D) عراق

97۔ قرآن مجید میں "احسن القصص" کس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے؟

(A) الکہف (B) الاعراف (C) یوسف ☆ (D) نوح

98۔ آخری مغل حکمران کا نام کیا تھا؟

(A) اکبر (B) بہادر شاہ ظفر ☆ (C) اورنگ زیب عالمگیر (D) جہانگیر

99۔ الم ذلک الکتاب لاریب فیہ آیت میں مذکور ذلک الکتاب کون سا مرکب ہے؟

(A) مرکب اضافی (B) مرکب اشاری ☆ (C) مرکب عددی (D) مرکب توصیفی

100۔ "وقاتلوھم حتی لا تکون فتنۃ" آیت میں مذکور لفظ قاتلوا کون سا فعل ہے؟

(A) ماضی (B) مضارع (C) امر ☆ (D) نہی


MCQs
Biology
AUDIT & ACCOUNTS
AUDIT
PAKISTAN
AFFAIRS / STUDIES
MCQs
پاکستان سٹڈیز
Sociology
For PMS
Zoology
General Ability Tests for CSS
اردو مضامین
اردو ادب
MCQs
اردو
FOREIGN POLICY
Academic Theories
History of Modern World
ISLAMIC STUDIES
Prof. Shafaat Yar Khan
English
SKILLS
PRECIS WRITING
& READING COMPREHENSION
Paragraph Writing
IDIOMS
Idiomatic Phrases & Phrasal Verbs
Prof. Shafaat Yar Khan
PAIRS OF WORDS
English Grammar
Rules & Sentence Correction / Completion
Mathematics
SOLVED PAPERS
MCQs
Advanced
Business Administration
For PMS
Education
For PMS
Economics
MCQs
Fundamentals of
GEOGRAPHY


Spectrum General Knowledge MCQs
General Knowledge
Computer Science MCQs Bank
Objective General Knowledge
All in One
General Ability Tests
FPSC & Other Federal Model Papers
Original Book
PPSC Model Papers
82nd
435000
238
1 Paper MCQs Guide
M. Imtiaz Shahid
Ultimate Aptitude Tests
The Ultimate IQ Test Book
NTS Companion
Business Administration
Physical Education
MCQs
Islamic Studies
Islamic Studies
for CSS
CSS Syllabus & Question Papers
MCQs Geography
General Science & Ability
Mass Communication MCQs
Current Affairs MCQs
Political Science MCQs
Psychology MCQs Bank
Sociology
Head Master Head Misteress Guide
MCQs
Education MCQs



POLITICAL SCIENCE
Political Science
Sociology
SOCIOLOGY
MCQs Book
PUBLIC Administration
PUBLIC Administration
Governance & Public Policies
Public Administration
Criminology
International Law
Mercantile Law
Constitutional Law
Muslim Law
Muslim Law and Jurisprudence
پنجابی
پنجابی
CSS
اسلامیات
Environmental Science
Science
پنجابی
PMS
پنجابی
PMS
اسلامیات
GENDER STUDIES
GENDER STUDIES


CONTEMPORARY AFFAIRS
English (Precis & Composition)
Best Updated Books for CSS, PCS, PMS, M.A., Lecturer, Assistant Professor, Subject Specialist, BS Honours, Entry Tests, NTS, General Study and all other allied examinations
ESSAYS For All
PAKISTAN AFFAIRS
English (Precis & Composition)
PROF ZAHID ASHRAF
CSS Solved Papers English
PRECIS & COMPOSITION
اسلامیات
COOPERATIVE MOVEMENT & COOPERATIVE LAWS GUIDE
PAKISTAN AFFAIRS
MCQs
History
AMERICAN HISTORY
CSS/PMS
History of U.S.A.
European History
JOURNALISM & MASS COMMUNICATION
MASS COMMUNICATION & JOURNALISM
Synonyms & Antonyms Bank
English Vocabulary Bank
BRITISH HISTORY
International Relations
MCQs
International Relations
International Relations
International Relations
(Paper 2)
ENGLISH Language & Literature MCQs BANK

For in-depth study



اسلامیات MCQs

For Sure Success

advancedpublisherpk.com
advancedpublisherpk@gmail.com
advancedpublishers
advancedPub
+92 322 4477 330

Advanced Books

ISBN 969588326-5